

قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ پر چٹ کی

مصدقہ رپورٹ

جلد دوم

۸،۷،۶،۵،۴

تفصیل و نتیجہ

حضرت مولانا اللہ وسایا ریظی
مبلغ

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ملتان

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

فہرست حصہ نمبر 4

606	یسوع اور مسیح دو شخصیتیں نہیں ایک ہے
608	محدث ناقص نبی ہوتا ہے
613	اس امت میں مرزا قادیانی کے علاوہ کوئی نبی نہیں
614	مسیح و یسوع ایک ہیں
615	مرزا قادیانی کا دعویٰ خدائی
623	غیر متعلقہ جوابات، چیئر مین کی رولنگ
629	گواہ گول مول جواب اور حیلہ بازی کرتا ہے، وزیر قانون
630	مرزا ناصر کی مشکل
631	سیدہ مریم علیہا السلام کی اہانت کے حوالہ جات، معاذ اللہ
633	پیر مرہ علی شاہ گولڑوی کی اہانت، معاذ اللہ
633	مولانا رشید احمد گنگوہی کی اہانت، معاذ اللہ
634	مولانا سعد اللہ کی اہانت، معاذ اللہ
636	مرزا ناصر کی گراؤنڈ
637	گالی محبت کا رنگ ہے؟
637	ہر بات کے دو معنی؟
639	حوالہ نہیں، ہاں مل گیا، مرزا ناصر کا فرمان
640	مرزا کے مخالف عیسائی، یہودی مشرک ہیں
641	مخالفوں کو گالیاں
642	ذریعہ البغایا میرے مخالف کجریوں کی اولاد
647	مرزا کا مخالف جہنمی ہے

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

657	مرزانا صر کا اعتراف شرمندگی
666	مرزا قادیانی کا کہنا کہ کچھ قادیانی تباہ ہوں گے، کچھ باقی رہیں گے
674	اس وقت کوئی کافر نہیں
681	غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے
686	مرزا کے نہ ماننے والے مسلمان نہیں
696	آنحضرت ﷺ کے بعد مرزا قادیانی تک اس دوران کسی اور کو نبوت ملی؟
697	مرزا قادیانی کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں بن سکتا
698	تیرہ چودہ سو سال میں کوئی نبی آیا؟
701	صرف مرزا قادیانی ہی نبی ہے
705	آنحضرت ﷺ کی بشارت کے مطابق صرف ایک امتی نبی
709	امکان اور ایمان میں فرق، مرزانا صر کا نیا فلسفہ
711	ہزاروں نبی آ سکتے ہیں
712	مرزا خاتم النبیین؟
714	مرزانا صر کی قلابازیاں
715	مرزانا صر کے خلاف چیئر مین صاحب کی رولنگ
717	مرزانا صر احمد صاحب کی نئی شاہکار تلخیص

فہرست حصہ نمبر 5

730	ایک پاری، دو قادیانی
734	ہماری عدالتی کارروائی نہیں ہے بلکہ ایک کمیٹی کی کارروائی ہے
736	بغیر تعصب کے، بالکل کھلے ذہن سے کارروائی چل رہی ہے
746	ہزاروں نبی ہوں گے، مرزا محمود!
748	مرزا قادیانی! امت محمدیہ میں پہلا امتی نبی ہے
748	مرزا قادیانی کے بعد اور آ سکتے، مگر شاید نہ آئیں، مرزانا صر

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

757	امت نے کبھی نہیں سمجھا کہ قادیان میں غلام احمد.....
758	انبیاء سے میں کم نہیں ہوں، مرزا قادیانی کا اعلان
759	حضور علیہ السلام کے بعد صرف ایک نبی ہونا لازم ہے
761	مسیح بن مریم علیہ السلام دمشق میں آئیں گے ناکہ.....
762	مرزا قادیانی کا کلام، دیگر انبیاء کے کلام کی طرح کلام الہی ہے
766	دین کو قائم کرنے کے لئے نبی کی ضرورت نہیں
767	قادیانیوں کا علیحدگی کا رجحان
768	دشمن کے مذہب کو ہم کھا جائیں گے، قادیانی خلیفہ کا اعلان
771	ہمارے دشمن کا حال ابوجہل جیسا ہوگا، قادیانی خلیفہ کا اعلان
771	۱۹۵۲ء گزرنے نہ پائے کہ دشمن احمدیت کی آغوش میں آگرے
773	عیسائیوں اور پارسیوں کی طرح، قادیانی حقوق بھی
774	انگریز کی اطاعت اسلام کا حصہ، مرزا قادیانی کا فرمان
775	غیر ملکی غاصبین سے آزادی کیا بغاوت ہوگی؟
787	انگریز خود قانون شکن تھا، مرزا ناصر کا اعلان
790	انگریزوں کو سمندر میں دھکیلا جاسکتا ہے، مرزا ناصر
792	میں مولانا نہیں، میاں عطاء اللہ
794	مرزا قادیانی کی گالیوں کی وضاحت
795	ایک دوسرے کے خلاف تین فتوؤں کا ذکر
796	مرزا کی بدزبانی اور فرقوں کے باہمی فتوؤں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں
796	ڈائریکٹ اس پوائنٹ پر آئیں کہ مرزا نے سخت کلامی کیوں کی؟
797	کیا دوسروں کی بدزبانی مرزا قادیانی کی بدزبانی کو جواز فراہم کرتی ہے؟
800	مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین کی تمام گالیوں کو جو اسے دی گئیں جمع کر دیا
809	مرزا ناصر کا علامہ اقبال کے متعلق جھوٹ پکڑا گیا

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

811	باہمی فتوؤں کی پوزیشن
815	مرزا ناصر کا نیا پینترا
816	مرزا ناصر کا اور پینترا
816	مرزا قادیانی کی نئی گالیاں
817	عام آدمی اور مدعی نبوت دونوں کی بدزبانی میں کیا فرق ہے؟
819	نبی کی سخت زبان، عام انسان کی طرح؟
824	مرزا قادیانی نے مخالفوں کو جنگوں کے خنزیر، ان کی عورتوں کو کتیا کہا
830	ذریعہ البغایا کی گالی کی تفصیل
832	قادیانیوں کی تعداد
836	جو مسلمان ہونے کے مدعی، نہ کہ مسلمان
842	ولد الحرام بننے کا شوق، مرزا قادیانی کی گالی
844	محمد پھر آئے ہم میں، پر پھر بحث

فہرست حصہ نمبر 6

863	برطانیہ کے ریزولوشن کے بارہ میں استفسار
867	مختصر سوانح بانی سلسلہ احمدیہ
868	مرزا ناصر کا اعتراف غلطی
870	مودودی صاحب نے مسیح علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا
870	قادیانیت کے مخالف ہماری آغوش میں
871	”بتادلہ خیال کرو“ کا کیا مطلب اور کس کی طرف سے ہے؟
871	مرزا ناصر کا انکار
872	خونی ملا کے متعلق سوال اور مرزا ناصر کی معذرت
873	الفضل رسالہ آپ کی پارٹی کا ہے؟
874	کیا تردید آپ کے علم میں آئی؟

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

875	دشمن محسوس کرتا ہے کہ ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے
877	میرا مخالف عیسائی، یہودی، مشرک اور جنہی ہے
878	مرزا ناصر کی بدحواسی
878	اکھنڈ ہندوستان
879	مرزا صاحب کی تحریر میں مسلمان سے کیا مطلب ہے؟
880	مدعی مسلمان، حقیقی مسلمان؟
884	حقیقی مسلمان کم ہیں، یا ہیں نہیں؟
885	سب قادیانی حقیقی مسلمان نہیں؟
887	آپ کے نقطہ نظر سے کوئی غیر احمدی، مسلمان نہیں؟
895	قادیانیوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں سے الگ شمار کیا جائے
895	احمدیوں کا بھی کوئی علیحدہ کیلنڈر ہے؟
897	”ماہ، وفا“ کون سے مہینے کو کہتے ہیں؟
897	افغانستان میں یہی مہینے ہیں؟
899	کس مہینے کا نام کس وجہ سے رکھا، تفصیل دے دیں
899	”ضیاء الاسلام پر لیس“ قادیان میں تھا؟
900	مرزا نیوں کا درود شریف
904	احمدیوں کو چھوڑ کر غیر احمدیوں میں کیوں قوم تلاش کرتے ہو؟
906	احمدی اپنے آپ کو علیحدہ امت کہتے ہیں
906	مسلمانوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو
911	مسلمانوں کا چھوٹا بچہ مر جائے تو قادیانی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے
914	مرزا غلام احمد کا کوئی بیٹا تھا جو قادیانی نہیں ہوا؟

فہرست حصہ نمبر 7

924	ہم فتح یاب ہوں گے، تم ابو جہل کی پیش ہو گے؟
-----	---

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

925	تمہیں دوسرے فرقوں کو بنگلی ترک کرنا پڑے گا
927	مرزا کی بیعت نہ کرنے والے جنہی
931	ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے
932	۱۹۳۹ء میں یہ بات کیوں؟
933	دشمن کون تھے؟
933	کون اسلام کے دشمن تھے؟
936	آپ دشمن کس کو سمجھتے ہیں؟
937	دشمنوں کو کھا جائیں گے؟
937	۱۸۵۷ء غدر کے متعلق
943	محمد پھر آئے ہیں ہم میں، معاذ اللہ
947	الفضل جماعت احمدیہ کا اخبار ہے؟
950	البدر آپ کا اخبار تھا؟
951	”الفضل“ آپ کی جماعت کے کس شعبے کا ہے؟
959	رسول کریم کے معجزات تین ہزار تھے اور میرے تیس لاکھ
961	چاند اور سورج کا گرہن
962	آنحضرت کے لئے پہلی کا گرہن میرے لئے چودھویں کا
962	آپ کے جھنڈے پر یہی نشان ہے
964	مرزا قادیانی کے وقت میں اسلام کا چاند مکمل ہو گیا؟
968	دوبدر سے مراد؟
970	آپ ﷺ کے وقت دین کی حالت پہلی کے چاند کی طرح تھی، معاذ اللہ
973	مرزا قادیانی نے نبی کریم ﷺ کو ہلال اور خود کو بدر کہا
978	چودھویں کا چاند، کیا مرزا صاحب کا زمانہ آخری زمانہ تھا؟
978	مرزا صاحب کے زمانہ میں کتنا اسلام پھیلا؟

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

979	مرزا قادیانی صرف مجدد نہیں
981	مرزا ناصر نے معافی مانگ لی
985	دین کے معاملہ میں باقی مسلمانوں سے مختلف ہیں
987	مرزا ناصر حوالہ دینے میں دیانت.....
992	آپ کی جماعت کے کسی راہنما نے اس نظم کی مذمت کی؟
994	ان کو جماعت سے کبھی خارج کیا؟
996	پچاس الماریاں صرف انگریزوں کی تعریف میں
997	پچاس الماریوں کا سائز؟
997	لاہوری محضر نامہ کے متعلق سوال
1000	مرزا صاحب نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا؟
1001	مرزا ناصر جی، جی سے ہوں، ہوں تک
1004	کیا مسیح ناصری نے اپنے پیروں کو یہودیوں سے الگ نہیں کیا؟
1010	مرزا قادیانی نے انگریز کی مدح کی
1015	قادیانی اپنے آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ شمار کرتے تھے؟
1017	درویش شریف کے متعلق سوال
1019	مرزا قادیانی نے اپنے مریدوں سے کہا اپنے کو احمدی مسلمان لکھو؟
1025	ملت اسلامیہ کا ایک عظیم عنصر
1027	میرا مخالف عیسائی، یہودی، مشرک اور جہنمی ہے
1027	کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا
1029	بغایا کا مطلب ”گمراہ“
1030	بغایا کا یہ ترجمہ کہاں پرنٹ ہے؟
1032	جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا.....
1032	مسلمانوں سے رشتہ ناپہ حرام اور ناجائز ہے

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

فہرست حصہ نمبر 8

1042	قادیانی گروہوں کے خطوط، ٹپس کی فراہمی اور جرح کے سوالات کا پیشگی نوٹس
1046	اقتباسات کی تصدیق کا طریقہ کار
1049	کارروائی کا خفیہ ہونا
1050	قادیانی وفد پر جرح
1050	حوالوں کو چھپانے کا حربہ
1053	غیر احمدیوں سے شادی؟
1054	ہمیں پارسیوں اور عیسائیوں کی طرح علیحدہ نمائندگی دی جائے
1056	مسلم لیگ پر احسان نہ دھریں، آپ کے اپنے مفادات تھے
1056	علیحدہ نہیں، جدا؟
1058	انفصل کی ذمہ داری سے انکار؟
1058	اگر پاکستان بن بھی گیا تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ تقسیم ختم ہو؟
1062	آپ کا مشن ہے کہ نہیں؟
1063	اسرائیل میں احمدیہ جماعت ہے؟
1068	اس نے آپ کو رپورٹ کیا کہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے یہ باتیں کیں
1068	آپ نے گورنمنٹ کو بتلایا کہ اسرائیلی کیا سوچتے ہیں؟
1069	اکھنڈ بھارت؟
1070	دیکھ لیجئے کہ آپ کی پبلی کیشن ہے؟
1073	احمدی اپنی لڑکیاں غیر احمدیوں کو نہ دیں
1076	جو میرا مخالف ہو گا وہ یہودی، مشرک، جہنمی ہے
1076	آپ کے مخالفین میں مسلمان بھی تھے؟
1077	دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

1084	دہلی میں ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ سب غصے میں تھے
1085	امرتر میں بھی مسلمان مخالفت کر رہے تھے
1086	کیا قرآن کریم اور مرزا کے الہامات دونوں کا درجہ برابر ہے؟
1086	مرزا کا الہام ایسے ہی ہے، جیسے قرآن؟
1087	دونوں کو ایک لیول میں رکھتے ہیں کہ دونوں صحیح کلام ہیں؟
1087	مرزا کا الہام احادیث سے بلند ہے؟
1088	الفضل کا حوالہ
1089	مرزا کا الہام حدیث پر مقدم ہے
1093	آرٹیکل نمبر ۲۰
1094	آپ ایک فرقہ ہیں یا آپ ہی اصلی اسلام ہیں؟
1096	حضرت مسیح علیہ السلام کو آپ تشریحی نبی سمجھتے ہیں یا امتی نبی؟
1098	حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریحی نبی نہیں تھے؟
1105	اس وقت جواب نہیں دے سکتا، مرزا ناصر
1110	مرزانے کیا علوم قرآنی دیئے، وہ نہیں بتا سکتے
1113	وہ مہر صرف ایک مرتبہ استعمال ہوئی
1114	مرزا قادیانی کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں؟ مرزا ناصر احمد کا جواب گریز
1115	ہزاروں نبی آئیں گے؟
1117	جہاد کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟
1120	انگریز کے دور میں جہاد ملتی
1134	آج سے دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا؟
1136	کیا شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ہندوستان کو دارالحرب نہیں قرار دیا تھا؟
1139	جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا؟

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

No. 04



THE
NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

PROCEEDINGS
OF
THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE

OFFICIAL REPORT

Thursday, the 8th August, 1974

(Contains Nos. 1—21)

CONTENTS

	<i>Pages</i>
1. Programme for sittings of the Special Committee	510-511
2. Message of Thanks from Senate and National Assembly of Turkey for support on Cyprus Issue	511

(Continued)

PRINTED BY THE MANAGER, PRINTING CORPORATION OF PAKISTAN PRESS, ISLAMABAD
PUBLISHED BY THE NATIONAL BOOK FOUNDATION, ISLAMABAD.

1

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

No. 04



THE
NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

PROCEEDINGS
OF
THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE

OFFICIAL REPORT

Thursday, the 8th August, 1974

(Contains Nos. 1-21)

۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

1	Steering Committee Meetings	511-512
4	Foundation Stone-laying Ceremony of the Parliament House	512-514
5	Adjournment of the Special Committee	514
6	Cross-examination of the Qadiani Group Delegation	514-546
7	Written Answers to Oral Questions in the Cross-examination	546
8	Irrelevant Answers to Questions in the Cross-examination	546-547
9	Supply of Quotations for asking Questions	548
10	Time for Answering Questions	548-549
11	Written Answers to Oral Questions in the Cross-examination	549
12	Questions Based on Documents not readily available	549-550
13	Admittance of visitors during sittings of the Special Committee	550
14	Method of Asking Questions during Cross-examination	551
15	Production of Books/Documents for Quotations cited in the Questions	551-552
16	Repetition of Arguments by the Witness	552-553
17	Cross-examination of the Qadiani Group Delegation	553-590
18	Quotations Unsupported by Original documents	590-597
19	Cross-examination of the Qadiani Group Delegation	593-626
20	Interruptions by the Witness while a Question is put	626-627
21	Cross-examination of the Qadiani Group Delegation — (Continued)	627-664
22	Procedure and Strategy for further Cross-examination	664-668

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

⁵⁰⁹ THE NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

PROCEEDINGS
OF
THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE.

OFFICIAL REPORT

(سرکاری رپورٹ)

Thursday, the 8th August, 1974.

(بروز جمعرات، ۸ اگست ۱۹۷۴ء)

The Special Committee of the Whole House of the National Assembly of Pakistan met in Camera in the Assembly Chamber, (State Bank Building), Islamabad, at ten of the clock, in the morning. Mr. Chairman (Sahibzada Farooq Ali) in the Chair.

پاکستان کی قومی اسمبلی کے مکمل ایوان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس اسمبلی کے چیئرمین (اسٹیٹ بینک بلڈنگ) اسلام آباد میں صبح دس بجے منعقد ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی (صاحبزادہ فاروق علی) نے صدارت کی

(Recitation from the Holy Quran)

(تلاوت قرآن شریف)

 ۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
 کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
 اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
 یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
 گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

⁵¹⁰**PROGRAMME FOR SITTINGS OF THE
SPECIAL COMMITTEE**

(خصوصی کمیٹی کے بیٹھنے کا پروگرام)

Mr. Chairman: Before the Delegation is called, I just want to tell the honourable members that we have finalised the programme to some extent. The Assembly will sit up to 13th because, on the 14th we are laying the foundation stone of National Assembly Building. So, it would have been very inconvenient for the members if, after the break on the 10th, the members would have gone; and if they had not come to attend the ceremony, which is mostly for the Members of the National Assembly, it would have placed us in an awkward position. So upto 13th the Assembly will continue. We will finish.....

(جناب چیئرمین: وفد کو بلانے سے قبل میں معزز اراکین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کسی حد تک پروگرام طے کر لیا ہے۔ اسمبلی کا اجلاس ۱۳ اگست تک ہوگا۔ وہ اس لئے کہ چودہ اگست کو نیشنل اسمبلی کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ ۱۰ اگست کو اجلاس کے التوا کی صورت میں اراکین کو زحمت ہوگی۔ اس صورت میں اراکین (اسلام آباد سے) چلے جاتے اور اگر وہ اس تقریب کے لئے جو صرف ان ہی کے لئے ہو رہی ہے واپس نہ آسکے تو یہ ہم سب کے لئے ایک نامناسب بات ہوگی۔ چنانچہ اسمبلی کا اجلاس ۱۳ اگست تک جاری رہے گا)

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqi: 14th?

The invitation will be issued by the Speaker of National Assembly?

(مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: کیا سپیکر صاحب کی طرف سے ۱۳ اگست کے

۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

لئے دعوت نامے جاری کئے جا چکے ہیں؟)

Mr. Chairman: No, it will be, the invitation will be by the Minister-in-Charge of C.D.A. because they are piloting it. That was my proposal. They are building it, so the invitation should go from them. Indirectly, it is our function....

(جناب چیئرمین: نہیں دعوت نامے وزیر انچارج سی ڈی اے نے جاری کر دیئے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ گوبالواسطہ یہ ہماری تقریب ہے۔ مگر دعوت نامے ان ہی کی طرف سے جائیں گے)

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui:

Indirectly, we are the hosts?

(مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: بالواسطہ ہم میزبان ہیں؟)

Mr. Chairman: and indirectly, we are the hosts. So, we will complete the examination of Mirza Nasir Ahmad and of Lahori Party. If we complete it by 10th, on the 11th is Sunday. On 12th or 13th, we can meet as National Assembly. So, we won't be missing those two days; we would utilize those two days and then the break of a week or ten days can be after 14th. Instead of 10th to 20th, it will be from 14th to 21st or 22nd or 23rd.

(جناب چیئرمین: اور بالواسطہ ہم میزبان ہیں۔ ہم مرزا ناصر احمد اور لاہوری پارٹی کا بیان ۱۰ اگست تک مکمل کر لیں گے۔ ۱۱ اگست کو اتوار کا دن ہے۔ ۱۲ اور ۱۳ اگست کو ہم بحیثیت قومی اسمبلی اجلاس کریں گے۔ اس طرح دو دن ضائع ہونے سے بچ جائیں گے اور ہم ان دنوں میں کام کر لیں گے۔ ۱۴ اگست کے بعد ہفتے/دس دن کا وقفہ ہوگا۔ جو کہ ۱۴ اگست ۲۱ یا ۲۲ یا ۲۳ اگست تک ہوگا)

۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Prof. Ghafoor Ahmad: The Assembly and Special Committee both?

(پروفیسر غفور احمد: قومی اسمبلی اور خصوصی کمیٹی دونوں؟)

Mr. Chairman: Yes. (جی ہاں!)

Prof. Ghafoor Ahmad: The Assembly and Special Committee both?

(پروفیسر غفور احمد: قومی اسمبلی اور خصوصی کمیٹی دونوں؟)

⁵¹¹*Mr. Chairman: The Special Committee and Assembly both, because both are running side by side. The preference is given to this work... the Special Committee. And we will know from the Attorney- General as to how long, after today's sitting, we need to sit. After every day's work we survey the work and this might we will again survey the work as to how long we will take. Then we will call the Lahori party. And I think we will be able to finish by the end of this week. I think so. I think this programme is agreed to everyone?*

(جناب چیئرمین: خصوصی کمیٹی اور اسمبلی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ خصوصی کمیٹی کے کام کو ترجیح دی جائے گی۔ آج کا اجلاس ختم ہونے کے بعد ہم اٹارنی جنرل سے معلوم کریں گے کہ اور کتنا وقت لگے گا۔ اس طرح ہم ہر روز کام کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہم لاہوری پارٹی کو بلائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک کام مکمل کر لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام سب حضرات کے لئے قابل قبول ہے)

Members: Yes. (اراکین: جی ہاں!)

Mr. Chairman: Thank you very much.

(جناب چیئرمین: آپ کا بہت بہت شکریہ)

۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

**MESSAGE OF THANKS FROM SENATE AND
NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY FOR
SUPPORT ON CYPRUS ISSUE**

Mr. Chairman: I have received messages of thanks from the Chairman, from the President of Senate and from the Speaker of National Assembly of Turkey, and thanks to all the members. They have desired that their thanks may be conveyed to all the Members of this National Assembly, for their support, for their good wishes and.....

(جناب چیئرمین: مجھے پیغامات مل چکے ہیں جو کہ ترکی کی سینٹ کے صدر اور قومی اسمبلی کے سپیکر کی طرف سے اراکین قومی اسمبلی (پاکستان) کے لئے ہیں۔ انہوں نے ترکی کی حمایت اور یکجہتی کے لئے اراکین قومی اسمبلی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے باہمی خیر سگالی کے جذبات.....)

Maulana Shah Ahmad Noorani: Point of information, Sir.

Mr. Chairman: and they have also reciprocated the same.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui:

Thanks for what?

(مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: کس بات کا شکریہ؟)

Mr. Chairman: For the resolution, for the message we sent on the Cyprus issue.

(جناب چیئرمین: یہ (اظہار تشکر) اس ریزولوشن اور پیغام کے سلسلہ میں ہے جو ہم نے قبرص کے مسئلہ پر بھجوائے ہیں)

STEERING COMMITTEE MEETINGS

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui:

What about the Steering Committee, Sir?

۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

(مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: سٹیئرنگ کمیٹی کے متعلق کیا خیال ہے؟)
جناب چیئرمین: جی؟⁵¹²

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui:

What about the steering Committee? Are you going to fix some date....

(مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: کیا آپ سٹیئرنگ کمیٹی کے لئے تاریخ مقرر کرنے والے ہیں؟)

Mr. Chairman: What? (کیا؟)

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui:

...for the Steering Committee?

(مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: سٹیئرنگ کمیٹی کے لئے؟)
چوہدری ظہور الہی: آپ نے کل فرمایا تھا کہ آج صبح ۹ بجے سٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی۔

جناب چیئرمین: نہیں، وہ کل پھر رات کو ۹ بجے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کل صبح ۹ بجے سٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوگی۔ کیونکہ رات کو ۹ بجے کے بعد *The entire House discussed all the matters.*

چوہدری ظہور الہی: اب سٹیئرنگ کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے یا نہیں؟
جناب چیئرمین: اب آج کر لیں گے نا جی! ڈیڑھ بجے کے بعد، جب دوپہر کا بریک ہوتا ہے۔ یا رات کو جب ایڈجرن ہوتی ہے۔

then we survey the entire situation. After that, if there is need, the Steering Committee can meet at any time. There is no restriction. If you like, after this break for lunch, you can meet in the evening at any time. That is up to the House.

Yes, Mian Mahmud Ali Kasuri.

(تب ہم اس پر غور کریں گے۔ اگر ضروری ہو تو سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کسی وقت بھی

۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ہوسکتا ہے۔ کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو دوپہر کے کھانے کے وقفہ کے بعد شام کو اجلاس ہوسکتا ہے۔ یہ سب ایوان پر منحصر ہے۔
جی میاں محمود علی قصوری صاحب!

**FOUNDATION STONE LAYING CEREMONY OF
THE PARLIAMENT HOUSE**

Mian Mahmud Ali Kasuri: Mr. Speaker, Sir,.... oh!.... Mr. Chairman, Sir, I wanted to know if the President has been invited for the National Assembly stone-laying foundation laying ceremony; and if he is going to be present, is he going to lay the foundation stone?

(میاں محمود علی قصوری: مسٹر سپیکر! جناب!..... اوہ!..... مسٹر چیئرمین! جناب والا! میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ صدر پاکستان کو قومی اسمبلی (کی عمارت) کی سنگ بنیاد رکھنے کے لئے مدعو کیا گیا ہے۔ کیا وہ اس مقصد کے لئے تشریف لانے والے ہیں)

(Interruption)

(مداخلت)

513 میاں محمود علی قصوری: بھئی! میں پوچھنا چاہتا ہوں۔

Has he been invited? And if he has been invited, is he going to lay the foundation stone?

(کیا انہیں دعوت دی جا چکی ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا صدر پاکستان سنگ بنیاد رکھنے کے لئے آئیں گے)

Mr. Chairman: I have already told that the invitation have been sent by the Minister-in-Charge.

(جناب چیئرمین: میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وزیر متعلقہ نے دعوت نامہ بھجو دیا ہے)

Mian Mahmud Ali Kasuri: No, no, Mr. Speaker, Sir. Sir, Mr. Chairman, Sir, that will have an important effect. If the Head of the State is in the town.... and I am told

۱۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

that he is issuing invitations for the reception.... then we would like to know: is he going to be present at this function? And if he is going to be insulted like this, then some of us may not come.

(میاں محمود علی قصوری: نہیں، نہیں۔ مسٹر سپیکر۔ جناب، جناب! مسٹر چیئرمین! جناب اس کا بہت اچھا تاثر ہوگا۔ اگر سربراہ مملکت اسلام آباد میں موجود ہیں اور اس تقریب کے لئے تشریف نہ لائیں۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے لئے بے توقیری کی بات ہوگی۔ تو ہم (اراکین اسمبلی) میں سے بھی کئی اس تقریب پر نہیں آئیں گے)

Mr. Chairman: No, no, these remarks should not be made. (جناب چیئرمین: نہیں، نہیں۔ ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہئیں)

Mian Mahmud Ali Kasuri: No, no, but I want to convey the sentiments of some of the members at least to you. And I am sure the whole House will like the....

(میاں محمود علی قصوری: نہیں، نہیں۔ میں کچھ اراکین کے جذبات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ پورا ایوان.....)

Mr. Chairman: No, I would....

Mian Mahmud Ali Kasuri:Head of the State to be respected to the utmost.

(میاں محمود علی قصوری: صدر پاکستان (سربراہ مملکت) کی انتہائی عزت کرنی چاہئے)

Mr. Chairman: No. Now we may call them.

(جناب چیئرمین: نہیں، اب ہم انہیں بلا لیں)

پروفیسر غفور احمد: جناب عالی میں ایک گزارش.....

جناب چیئرمین: نہیں، میاں صاحب دودن سے چپ بیٹھے ہوئے تھے یا انہوں

Yes.

نے کچھ نہ کچھ بات تو کرنی تھی نا جی!

میاں محمود علی قصوری: جناب! آپ سارا دن بولتے ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف

نہیں ہوتی۔

||

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب چیئرمین: یہاں تو میں آٹھ گھنٹے بول ہی نہیں سکتا۔

Here lies the difficulty.

514 جناب چیئرمین: اور ایک نہ ایک انہوں نے ٹارگٹ بنانا ہے۔
جی، پروفیسر غفور احمد!

**ADJOURNMENT OF THE SPECIAL
COMMITTEE**

پروفیسر غفور احمد: سر! یہ جو التواء ہوگا چودہ کے بعد، یہ دس دن کا ہوگا؟

Mr. Chairman: A week or ten days.

(جناب چیئرمین: ایک ہفتہ یا دس دن)

پروفیسر غفور احمد: جی؟

*Mr. Chairman: That we will see after this or we
will....* (جناب چیئرمین: اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے یا ہم.....)

پروفیسر غفور احمد: نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ چونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس لئے
التواء کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔

میاں محمود علی قصوری: دھاڑی لگے گی آپ کی۔

*Mr. Chairman: That we will discuss in Mirpur,
Mangla. That is all at the convenience of the
honourable members. If they like, we can discuss it in the
chamber.*

*Should we call them? Mr. Attorney- General are you
prepared?*

Yes, call them.

(جناب چیئرمین: اس پر میر پور منگلا میں بات کریں گے۔ یہ سب معزز اراکین کی
صوابدید اور سہولت پر ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اس پر چیئرمین میں بات ہو سکتی ہے۔
کیا انہیں بلا لیں۔ مسٹر انارنی جنرل کیا آپ تیار ہیں۔ جی ہاں! ان کو بلا لیں)

۱۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(The Delegation entered the Chamber)

(دند چیمبر میں داخل ہوا)

Mr. Chairman: Yes, Mr. Attorney- General.

(جناب چیمبرمین: جی، جناب اٹارنی جنرل!)

**CROSS- EXAMINATION OF THE QADIANI
GROUP DELEGATION**

جناب یحییٰ بختیار (اٹارنی جنرل پاکستان): مرزا صاحب.....
مرزا ناصر احمد (گواہ، سربراہ جماعت احمدیہ ربوہ): کچھ سوالات جو آپ نے
لکھوائے تھے، وہ رہ گئے ہوں گے۔

515 جناب یحییٰ بختیار: ہاں! وہ آپ پیشک پڑھ لیں۔
مرزا ناصر احمد: ہاں! وہ پڑھ دیتا ہوں۔

فارسی کی ”درئین“ چاہئے لائبریرین صاحب!

ایک سوال ایک کشف کے متعلق پوچھا گیا تھا جس کا تعلق حضرت فاطمہؑ سے ہے۔ اس
سلسلے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ میں تعبیر روایا کا ایک علم مدون ہوا بڑا زبردست، اور
اس کے اماموں میں امام جعفر صادقؑ اور ابن سیرینؒ مشہور امام ہیں۔ اس علم کے اور علم کی حیثیت
سے یہ مدون ہوا اور امت مسلمہ کی تاریخ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کشف و روایا کی تعبیر کی جاتی
ہے۔ کشف یہ اعتراض نہیں کیا جاتا۔ اس نکتہ کو سمجھانے کے لئے میں چند روایا جو پہلے آئی ہیں وہ
بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بغیر جس کے متعلق سوال کیا گیا ہے اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔

پہلی مثال ہے امام ابوحنیفہؒ کی ”تذکرہ الاولیاء“ فارسی میں ہے۔ جس کا ترجمہ بھی ہو چکا
ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ: ”حضرت امام ابوحنیفہؒ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ پیغمبرؐ کی
ہڈیاں لحد سے جھجکیں اور بعض کو چھوڑ کر بعض کو پسند کر لیا اور اس ہیبت سے آپ بیدار ہو گئے۔ ابن
سیرینؒ کے اصحاب میں سے ایک نے پوچھا تو اس نے کہا کہ تو پیغمبرؐ کے علم میں اور ان کی سنت کی
حفاظت میں ایسا درجہ پائے گا کہ اس میں متعارف ہو جائے گا۔ صحیح کو سقیم سے جدا کرے گا۔“

تو اتنا بھی ناک خواب کے اپنے خواب، روایا میں یہ دیکھتے ہیں کہ روضہ مطہرہ میں سے
آپ ﷺ کے جسم مطہر کی ہڈیاں لیں اور بعض کو پسند کیا۔ بعض کو ناپسند کیا۔ اس صالح انسان پر کچپی

۱۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

طاری ہوگئی۔ وہ کانپ اٹھے کہ یہ میں نے کیا دکھ لیا اور اصحاب ابن سیرین کے، جو ان کے شاگرد وغیرہ تھے۔ ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے۔ گھبرائے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں۔ آپ نے جو خواب دیکھی، جو روایا دیکھی، اس کی تعبیر ہے اور تعبیر یہ ہے کہ آپ سنت نبویؐ میں جو غلط باتیں شامل ہو چکی ہیں ان کو صحیح سے علیحدہ کر دیں گے اور خالص سنت نبویؐ کے قیام کا ذریعہ بنیں گے۔

دوسری روایا جو یہاں میں مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ”گلدستہ کرامات“ سے ہے اور سوانح حضرت سید عبدالقادر جیلانی ہے۔ ہمارے ایک مشہور بزرگ ہیں جن کا نام تعارف کا محتاج نہیں۔ سید شیخ عبدالقادر..... میں شروع سے..... کتاب ”جواہر القلائد“ میں لکھا ہے کہ: ”فرمایا جناب محبوب سبحانی، قطب ربانی، سید شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہ ایک روز ہم نے یہ عالم طفولیت (یعنی عمر تو بڑی تھی لیکن اپنے آپ کو ایک بچے کی شکل میں دیکھا) ایک ہم یہ عالم طفولیت خواب راحت میں تھے۔ کیا دیکھا کہ فرشتگان آسمان بحکم ربانی ہم کو اٹھا کر حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں لے گئے۔ انہوں نے ہم کو گود میں اٹھایا۔ چھاتی سے لگایا اور اتنا پیار کیا تھا کہ پستان مبارک میں دودھ بھرا آیا اور سر پستان ہمارے منہ میں رکھ کر (سر پستان ہمارے منہ میں رکھ کر) دودھ پلایا۔ اتنے میں جناب رسالت مآب ﷺ بھی وہاں رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ: یا عائشہ هذا ولدنا حق قرۃ عینا وجیہا والدنیا و الآخرة من المقربین۔“

اس کی بھی اس کشف، اس روایا کی بھی تعبیر کی گئی ہے۔ سید عبدالقادر جیلانی پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ تیسری مثال اس وقت جو میں دینا چاہتا ہوں، وہ حضرت مولانا سید احمد بریلوی کے ایک خواب کی ہے۔

”ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جناب سیدۃ النساء فاطمہ الزہراءؓ کو سید صاحب نے خواب میں دیکھا۔ اس رات کو حضرت علیؑ نے اپنے دست مبارک سے آپ کو نہلایا اور حضرت فاطمہؓ نے ایک لباس اپنے ہاتھ سے آپ کو پہنایا۔ بعد ان وقوعات کے کمالات طریقتہ نبوت کے نہایت آب و تاب کے ساتھ آپ پر جلوہ گر ہونے لگے۔ (یہ خواب کی تعبیر بتائی گئی ہے اس میں) اور وہ عنایات ازلی جو کمون اور محبوب تھیں۔ ظاہر ہو گئیں اور تربیت یزدانی، بلا واسطہ کسی کے، منتقل حال آپ کے ہو گئی۔“

اور ایک چھوٹی سی مثال اور ہے۔ حضرت مولوی اشرف علی صاحب تھانویؒ فرماتے ہیں:

”ہم نے خواب میں حضرت فاطمہؓ کو دیکھا۔ انہوں نے ہم کو اپنے سے چمٹالیا۔ ہم اچھے ہو گئے۔“

(افادات الیومیہ جلد ۶، بحوالہ ”دیوبندی مذہب“ ص ۱۵۶)

۱۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا اس دن
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا اس دن
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں اس قصہء پارینہ را.....

اور بانی سلسلہ احمدیہ نے ایک کشف دیکھا، روایا دیکھا، اسی طرح اور اس کی طرف ریفرنس کیا۔ اپنی کتاب ”نزول المسیح“ کے صفحہ ۴۲۶ کے حاشیہ میں۔ جس کی دو سطریں جو ہیں وہ سوال کے اندر لی گئی ہیں اور اس میں آپ نے یہ شروع میں لکھا ہے کہ یہ کشف جو ”براہین احمدیہ“ میں مندرج ہے۔ اس کی طرف ریفرنس ہے۔ اس واسطے ہم ”براہین احمدیہ“ لیتے ہیں کہ اس میں کشف کیا درج ہے۔ ”براہین احمدیہ“ کی یہ عبارت ہے: ”ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ آب زلال کی شکل پر نور کی مشکلیں اس عاجز کے مکان میں لئے آتے ہیں اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد ﷺ کی طرف بھیجی تھیں۔“

”اور ایسا ہی عجیب ایک اور قصہ یاد آیا ہے کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملاء اعلیٰ کے لوگ حضومت میں ہیں۔ یعنی ارادہ الہی احمیائے دین کے لئے جوش میں ہے۔ لیکن ہنوز ملاء اعلیٰ ہر شخص مجی کے تعین ظاہر نہیں ہوئی۔ اس لئے وہ اختلاف میں ہے۔ اسی اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک مجی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارہ سے اس نے کہا: ہذا رجل یحب رسول اللہ یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھتا ہے اور اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدہ کی محبت رسول ﷺ ہے۔ سو وہ اس شخص میں متحقق ہے اور ایسا ہی الہام متذکرہ بالا میں جو آل رسول ﷺ پر درود بھیجنے کا حکم ہے تو اس میں یہی سر ہے کہ افادہ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے اور جو شخص حضرت احدیت کے مقررین میں داخل ہوتا ہے۔ وہ (انہیں اہل بیت) وہ انہیں طہمین، طاہرین کی وراثت پاتا ہے اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے۔

اس جگہ ایک نہایت روشن کشف یاد آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی سی غیبت حس سے جو خفیف سے نشاء سے مشابہ تھی ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ پہلے ایک دفعہ چند آدمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آئی۔ جیسے سرعت چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور موزہ کی آواز آتی ہے۔ پھر اسی وقت پانچ آدمی نہایت وجہہ اور مقبول اور خوبصورت سامنے آ گئے۔ یعنی جناب پیغمبر خدا ﷺ اور حضرت علیؓ اور حسینؓ وفاطمہؓ الزہراءؓ (میں غلط پڑھ گیا ہوں) پیغمبر خدا ﷺ و حضرت علیؓ و حسینؓ وفاطمہؓ الزہراءؓ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ایک نے ان میں سے اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہؓ نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سراپنی ران پر رکھ لیا۔ پھر بعد اس کے ایک کتاب مجھ

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

کودی گئی۔ جس کی نسبت یہ بتلایا گیا کہ یہ تفسیر قرآن ہے۔“

(براہین احمدیہ ص ۵۰۳، ۵۰۴، خزائن ج ۱ ص ۵۹۸، ۵۹۹)

تو یہ وہ کشف ہے جس کی طرف ”نزل مسیح“ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کشف ہے۔ جس طرح دوسرے کشف میں اولیائے امت نے حضرت فاطمہ الزہراء کے متعلق کشف دیکھے یا جیسے حضرت امام ابوحنیفہؒ نے نہایت بظاہر بھیانک کشف دیکھا۔ لیکن اس کی تعبیر کی گئی تو جیسا کہ امت محمدیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کشف درویشی کی تعبیر کی جاتی ہے۔ ان پر اعتراض نہیں کیا جاتا۔ اس کشف کی بھی تعبیر ہونی چاہئے اور تعبیر اس کی اس کے اندر واضح ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے۔ اس کشف میں پانچ وجود آپ کے سامنے آئے اور ان کی موجودگی میں، جن میں نبی اکرم ﷺ اور سارے کھڑے ہوئے تھے۔ ”مادر مہربان کی طرح میرا سر اپنی ران کے ساتھ لگایا۔“ کا مطلب ہے کہ کشف میں خود کو بہت چھوٹے بچے کی طرح دیکھا کہ آپ کا سر صرف ران تک پہنچتا تھا۔

اور اس قسم کے اس سے زیادہ واضح حوالے اور بھی ہیں جن کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن جو میں نے بیان کئے وہ بھی بڑے واضح ہیں تو یہ ایک کشف ہے جس کی تعبیر ہونی چاہئے۔ جو پہلوؤں نے کی اور یہاں بھی واضح ہے۔ آگے اور بھی میں کچھ.....
520 جناب یحییٰ مختیار: آپ نے، مرزا صاحب، خواب اور کشف کا ذکر کیا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟

مرزا ناصر احمد: جو خواب ہے اس کے لئے حالت خواب ضروری ہے۔ یعنی نیند میں وہ نظارہ نظر آتا ہے اور کشف عام طور پر حالت بیداری یا حالت نیم بیداری میں نظر آتا ہے۔ مثلاً ہمارے شہنشاہ ایران کی بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ جوانی کی حالت میں وہ اپنے باغ میں ٹہل رہے تھے۔ اپنے اتالیق کے ساتھ۔ تو وہاں ان کو کشفی نظارہ دکھایا گیا اور مہدی ان کے سامنے آگئے تو یہ ان کی کتاب میں ہے۔ یعنی اس لئے خواب کی نہیں..... کشف میں عام طور پر

۱۔ قارئین! بالخصوص قادیانی حضرات توجہ کریں اور خوب غور سے ملاحظہ کریں۔
مرزا ناصر احمد کے دجل کو کہ اصل عبارت جو مرزا قادیانی کی پڑھی۔ اس میں ”اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا۔“ لیکن دو منٹ بعد مرزا ناصر نے اس عبارت کو بدل کر ”سر ران کے ساتھ لگایا“ کر دیا۔ یعنی ان کا سر ران تک آیا۔ گو یا مرزا قادیانی بچہ تھا۔ پورے ہاؤس کے سامنے بات کو اپنے دجل سے کہاں تک لے گیا؟

۱۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

حالت بیداری، حالت نیم بیداری.....

جناب یحییٰ بختیار: یہ جو وحی آتی ہے کسی نبی پر.....

مرزا ناصر احمد: یہ پھر نئے سوال شروع! ایک درخواست ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وحی کشف کی حالت

میں آسکتی ہے۔ خواب کی حالت میں آسکتی ہے یا بالکل بیداری کی حالت میں آتی ہے؟

مرزا ناصر احمد: جس حالت میں ہو وہ دیکھنے والا بیان کر دیتا ہے کہ میں نے یہ کس

طرح دیکھا۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی ہر حالت میں آسکتی ہے، وحی جو ہے؟

مرزا ناصر احمد: وحی کے متعلق میں.....

جناب یحییٰ بختیار: کیونکہ وحی تو صرف نبیوں کو آتی ہے ناں جی! یہ تو.....

مرزا ناصر احمد: نہیں وحی شہد کی مکھی کو بھی آتی ہے: اوحیٰ ربک الی النحل

جناب یحییٰ بختیار: اور جو وحی نبیوں کو آتی ہے.....

مرزا ناصر احمد:⁵²¹ یہ میں قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی! میں آپ سے اسی واسطے Clarification

(وضاحت) پوچھ رہا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: اوحیٰ الی ام موسیٰ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی نازل ہوئی۔ میرا مطلب ہے، میں نے ایک

مثال دی ہے۔ بس! مثالیں زیادہ دینے کی ضرورت نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: اور جو وحی نازل ہوتی ہے نبی پر، اس پر تو کسی تعبیر کی ضرورت

نہیں ہوتی؟ جیسے خواب کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔

مرزا ناصر احمد: جو وحی ہے، ہمارے اسلامی محاورہ میں، اسلامی اصطلاح میں، اس

کی تفسیر کی جاتی ہے۔ تعبیر نہیں کی جاتی۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں! میں یہی کہتا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں! یعنی وہ فرق آ گیا ناں، تفسیر کی جاتی ہے تعبیر نہیں کی جاتی۔

جناب یحییٰ بختیار: اور جو خواب ہوتا ہے کشف ہوتا ہے، اس کی تعبیر کی جاتی ہے؟

۱۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

مرزا ناصر احمد: اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: تفسیر کی ضرورت نہیں؟
 مرزا ناصر احمد: ہاں! اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: اور جو نبی ہوتے ہیں، ان کو کشف.....
 مرزا ناصر احمد: ان کو کشف بھی ہیں، بڑی کثرت سے، احادیث میں بیان ہوئے
 ہیں۔ کشف بھی ہیں۔ رؤیا بھی ہیں۔ وحی بھی ہے۔ وہ تو خزانہ رکھتے ہیں خدا کا۔
 جناب یحییٰ بختیار: اور جو نبی کا کشف ہوتا ہے، اس کی بھی.....
⁵²² مرزا ناصر احمد: اس کی بھی تعبیر ہوتی ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: تعبیر یا قیاس؟
 مرزا ناصر احمد: نہیں، تعبیر ہوتی ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: کشف اور خواب میں، جہاں تک تعبیر کا تعلق ہے، کوئی فرق نہیں؟
 مرزا ناصر احمد: ہاں! کوئی فرق نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: اب آپ جو دوسرے سوال ہیں، مرزا صاحب! ان کا جواب
 دیں۔ پھر میں ان کی طرف آتا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: ایک یہ سوال کیا گیا تھا کہ بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنے فارسی منظوم
 کلام میں یہ فرمایا: عیسیٰ کجاست تا بنهد پابمنبرم
 یہ دو باتیں پہلے تمہید کی ضروری ہیں تمہید میں ایک یہ کہ شعراء نے ایک محاورہ بنایا ہے۔
 ”قطعہ بند“ جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دو شعر مل کے صحیح مفہوم اور پورے مفہوم ادا کر رہے
 ہیں۔ قطعہ بند کے یہ (معنی) ہیں۔ یہ قطعہ بند ہے۔ اس میں دو شعر ”اینک منم“ اور ”آن را“ جو
 اگلا شعر ہے۔ یہ دونوں مل کے مفہوم کو پورا ادا کر رہے ہیں۔ اس میں تو نہیں، ایک دوسرے ایڈیشن
 میں یہ لکھا بھی ہوا ہے۔ ”قطعہ بند“ اور اس سے پہلے جو ہیں اشعار، وہ اس کا معنی ادا کر رہے ہیں،
 اور وہ یہ ہیں:

موعودم وبحلیہ مائور آمدم	حیف است گر بدیدہ نہ بینند منظرم
رنگم چون گندم است بر مفرق بین است	بر آسان کہ آمدست در اخبار سرورم ⁵²³
ایس مقدم نہ جائے شکوک است والتباس	سید جدا کنلذ مسیحائے احمرم

۱۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.comwww.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.compopalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

اور اس میں آپ نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مسیح ناصری کا اور حلیہ بیان کیا اور میرا حلیہ اور بیان کیا۔ آپ کو کشف میں دونوں شبیہ دکھائے گئے اور آپ کی بشارات ”اینک منم کہ حسب بشارات آدم“ (میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی بشارات نے جو مقام مجھے دیا، ان بشارات کے مطابق میں اس مقام کا دعویٰ کرتا ہوں اور جو آنحضرت ﷺ کی بشارات کے نتیجے میں میرا مقام ہے اس پر مسیح ناصری کا دعویٰ نہیں ہو سکتا) یہ جو ہے ناں، ”پابنمبر“ یہ پہلا یہ: ”اینک منم کہ حسب بشارات آدم“ (جس مقام کا میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ وہ مقام نبی اکرم ﷺ نے میرے لئے متعین کیا ہے) جب آنحضرت ﷺ نے وہ مقام مسیح ناصری کے لئے نہیں، بلکہ مسیح محمدی کے لئے مقرر کیا ہے تو مسیح ناصری اس پر دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔

اور آگے اس کی دوسری دلیل یہ دی: ”آں را کہ حق بہ جنت خلد مقام داد“ (وہ فرد، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے دی) ”چوں برخلاف وعد بیرون آرد از ارم“ (وہ جنت سے اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے برخلاف کیسے نکل کے باہر آ جائے گا)

⁵²⁴ تو یہ دعویٰ تھا کہ میرا مقام یہ ہے اور اس کے لئے دو دلیلیں دیں: ایک تو یہ کہ اس مقام کی تعین محمد ﷺ نے مسیح محمدی کے لئے کی ہے۔ مسیح موسوی کے لئے نہیں کی اور دوسرے یہ کہ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ جو شخص ایک دفعہ جنت میں چلا جائے وہ پھر واپس نہیں آیا کرتا۔ تو دوسری دلیل یہ دی کہ وہ تو جنت میں چلا گیا۔ وہ کیسے واپس آ کے اس مقام کا دعویٰ کریں گے تو یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ ایک اور تھا وہ تو صرف دینا ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! نہیں، اس پر تا کہ میں ایک دو اور سوال پوچھ سکوں.....
مرزا ناصر احمد: اچھا! ہاں، ہاں۔ ٹھیک ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: آپ نے جب یہاں یہ ذکر کیا کہ: ”عیسیٰ کجا است تابندہ پابنمبر“ یہ یسوع کی طرف اشارہ ہے؟ یا عیسیٰ کی طرف۔ جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے؟ دو شخصیتیں اس وقت ہیں ہمارے سامنے۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(یسوع اور مسیح دو شخصیتیں نہیں ایک ہے)

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، کوئی دو شخصیتیں نہیں۔ وہ تو کل ہو گیا تھا فیصلہ۔ اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ کل یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ مسیح ناصری کا علم ہمیں صرف قرآن کریم دیتا ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں! انہوں نے کچھ چیزیں یسوع کے بارے میں کہی ہیں.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، یسوع کا علم ہمیں انجیل دیتی ہے، بائبل دیتی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں! نہیں، یعنی انہوں نے، میں یہ پوچھتا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: ہاں! میں وہی بتا رہا ہوں ناں! میں سوال سمجھ گیا ہوں۔

اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جن کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس امت کو جس مسیح کی بشارت دی گئی تھی۔ وہ مسیح موسوی ہیں۔ ان کا آپ جواب دے رہے ہیں۔ امت محمدیہ کو مسیح موسوی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت نہیں دی گئی تھی۔ بلکہ امت میں سے ایک فرد کی بشارت دی گئی تھی اور اس کا نام، مسیح بھی رکھا گیا تھا اور ”مہدی“ بھی رکھا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا۔ لا مہدی الا عیسیٰ

یہ دونوں Designations یہ صفاتی ہیں۔ نام ”مسیح“ بھی اور ”مہدی“ بھی، یہ ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ وہ تو اس جھگڑے، اس بحث میں نہیں جانا چاہتے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ بعض لوگوں کے خیال میں مسیح علیہ السلام جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ وہ دوسرے انجیل والے نہیں۔ جن کا قرآن کریم میں ہے وہ آئیں گے دوبارہ، اس امت کے مسیح اور مہدی بن کر۔ تو بانی سلسلہ نے اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ جس کشف میں نبی اکرم ﷺ کو دکھایا گیا۔ مسیح علیہ السلام کا حلیہ، وہ آپ نے بیان کیا اور ہماری حدیث نے اس کو ریکارڈ کیا۔ وہ اس حلیہ سے مختلف ہے۔ جس حلیہ میں آنے والے مہدی کو آپ نے کشف میں دیکھا اور اس وجہ سے یہ آگے پیچھے دلیل دے کے اور آگے نتیجہ یہ نکالا کہ جس مقام کو مسیح محمدی کے لئے خاتم الانبیاء محمد ﷺ نے معین کر دیا ہے۔ اس مقام کا دعویٰ مسیح علیہ السلام، جو مسیح ناصری تھے، نہیں کر سکتے۔

۱۔ قادیانی کرم فرما! توجہ فرمائیں۔ مرزا ناصر احمد کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنے رنگ تو گرگٹ بھی نہیں بدلتا جتنے پینترے موصوف بدل رہے ہیں۔ کئی دنوں سے دھائی تھی کہ مسیح اور یسوع دو شخصیتیں ہیں۔ آج اس موقف سے بدل گئے؟

۲۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: یہ دعویٰ جو ہے مرزا صاحب! کہ مسیح علیہ السلام پھر آئیں گے اور.....
مرزا ناصر احمد: ہاں! یہ عقیدہ بعض لوگوں کا ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: اور مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ وہ مسیح موعود ہے.....
مرزا ناصر احمد: ⁵²⁶ وہ مسیح موعود ہے۔ وہ جو مسیح موسوی تھے۔ وہ فوت ہو گئے اور
داخل جنت ہو گئے۔ دوبارہ نہیں آئیں گے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ جو ہیں یہ مسیح موعود ہیں؟ آپکے ہیں؟ ان کے
Attributes ان میں ہیں؟

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں۔ بعض خوبوں میں، بعض خصوصیات اس مسیح کی بھی رکھتے
ہیں۔ لیکن چونکہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود ہے۔ اس لئے مہدویت بہر حال آپ پر غالب ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہاں میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جب یہ
کہتے ہیں کہ: ”عیسیٰ کجا است.....“ یہ وہی مسیح موعود کا ذکر آ جاتا ہے اس میں؟

مرزا ناصر احمد: نا، نا، نا، نا! ”عیسیٰ کجا است.....“
جناب یحییٰ بختیار: وہ جو فوت ہو گئے اس عیسیٰ کا ذکر ہے؟
مرزا ناصر احمد: ہاں! اس کا ذکر ہے۔ وہ مسیح موسوی جو فوت ہو گئے، وہ اس مقام کا
دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جو مقام محمد ﷺ نے مسیح محمدی، اپنے ایک روحانی بیٹے کے لئے مقرر کیا ہے؟
جناب یحییٰ بختیار: اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے اور آئیں گے تو
اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ وہ جب آئیں گے: ”عیسیٰ کجا است.....“

مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ تو..... میں اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے۔
حیات مسیح اور وفات مسیح کا۔ تو اس کے اوپر بھی اگر کوئی سوال ہوں تو ان کے جواب دے دیں گے۔
جناب یحییٰ بختیار: ⁵²⁷ میں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ جو مرزا صاحب کہہ
رہے ہیں کہ.....

مرزا ناصر احمد: مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں کہ مسیح، جن کا ذکر قرآن
کریم میں موسوی امت کے مسیح کی حیثیت سے ہے۔ وہ فوت ہو چکے ہیں اور اس امت میں آنے
والے مسیح ایک دوسرا شخص ہے اور اسی کے لئے بشارات نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ یعنی یہ آپ
کا عقیدہ ہے۔ تو جب بشارات نبوی ﷺ اس امت کے ایک فرد کے لئے ہیں۔ ان کے یعنی
عقیدے کے مطابق تو پھر وہ مسیح جس کا تعلق موسوی سے ہے اور جس کے لئے محمد ﷺ نے بشارات

نہیں دیں۔ اس کے دعویدار نہیں ہو سکتے۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔

(محدث ناقص نبی ہوتا ہے)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! مرزا غلام احمد کے بارے میں آپ نے کل یہ فرمایا تھا کہ وہ امتی نبی ہیں۔ پرسوں بھی یہ بات ہوئی ہے اور سوال یہ تھا کہ باقیوں سے افضل ہیں۔ باقی نبیوں سے کہ نہیں؟ آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں۔ یہی بات چل رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ نے یہ کہا کہ ان کی افضلیت ہے اور ان کی جو وجوہات آپ نے دیں، یہ جب ”حقیقت الوحی“ میں آتا ہے کہ: ”امتی نبی ناقص نبی ہوتا ہے۔“

اس کا کیا مطلب ہے؟

مرزانا صاحب: امتی نبی.....؟

جناب یحییٰ بختیار: ناقص۔

مرزانا صاحب: ناقص نبی؟ کون سا حوالہ ہے؟ ”یہ حقیقت الوحی“ ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی! ”ازالہ اوہام“ ہے۔ یہ حصہ دوم ہے جی! Page

407 ایڈیشن، میرا خیال ہے، یہی ہوگا۔

مرزانا صاحب: ⁵²⁸ پڑھ دیں۔ آپ پڑھ دیں یا میں پڑھ دیتا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: میں یہ ذرا آپ کو پڑھے دیتا ہوں.....

مرزانا صاحب: ہاں، ہاں! آپ پڑھ دیں۔ یہاں ٹلی نہیں کتاب۔

جناب یحییٰ بختیار: ”یعنی ہر ایک رسول مطاع اور امام بنانے کے لئے بھیجا جاتا

ہے۔ اس غرض سے نہیں بھیجا جاتا کہ کسی دوسرے کا مطیع اور تابع ہو۔ ہاں محدث جو مرسلین میں

سے ہے۔ امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی۔“ (ازالہ اوہام ص ۵۶۹، خزائن ج ۳ ص ۷۴۰)

مرزانا صاحب: یہاں امتی نبی کی بحث نہیں ہے۔ یہاں تو محدث کے متعلق

فرما رہے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، آگے کہتا ہے: ”وہ محدث جو ناقص قسم کا.....“

مرزانا صاحب: نہیں، ہر محدث نبی نہیں ہوتا۔ ہر نبی محدث ہوتا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: اور وہ یہ جو یہاں ہے.....

مرزانا صاحب: یہاں محدث کی بات ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی! محدث کی بات ہے: ”ہاں محدث جو مسلمین میں سے ہے.....“ غلام احمد صاحب بھی تو محدث تھے؟
 مرزا ناصر احمد: امتی نبی تھے۔
 جناب یحییٰ بختیار: امتی نبی تھے اور محدث بھی تھے؟
 مرزا ناصر احمد: ہاں! حضرت محمد ﷺ بھی محدث تھے۔
 جناب یحییٰ بختیار: 529 ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں ناں جی کہ آپ اس Sense (معنی) میں کہ.....

مرزا ناصر احمد: یعنی وہ دونوں دینے، جو عام ہے کہ ہر نبی محدث ہے لیکن ہر محدث نبی نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ یہاں جو پھر وہ کہتے ہیں: ”امتی بھی ہوتا ہے اور ناص طور پر نبی بھی امتی وہ اس وجہ سے کہ وہ ہلکی تابع شریعت، رسول اللہ اور مشکوٰۃ رسالت سے فیض پانے والا ہوتا ہے اور نبی اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نبیوں کا معاملہ اس سے کرتا ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۵۶۹، جزائن ج ۳ ص ۴۰۷)

مرزا ناصر احمد: کانیا بنی اسرائیل۔

جناب یحییٰ بختیار: یہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا: ”لیکن افسوس کہ مولوی صاحب مرحوم کو یہ سمجھ نہ آیا کہ صاحب نبوت تامہ ہرگز امتی نہیں ہو سکتا اور جو شخص کامل طور پر رسول اللہ کہلاتا ہے.....“ (ایضاً)

مرزا ناصر احمد: یہاں نکلی نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: میں بھیج دیتا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں۔ (اپنے وفد کے ایک رکن سے) جاؤ لے آؤ..... کتاب لی؟ (اثار نبی جنرل سے) یہ جو اگر اس صفحہ کو شروع سے پڑھا جائے تو (مسئلہ) حل ہو جاتا ہے۔ یہ خود ہی اپنے اندر حل ہو جاتا ہے۔ ”پھر صفحہ ۴۲۵ میں فرماتے ہیں.....“ (یہ اعتراض جو ہے، جس کتاب کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں یہ اس کا ہے صفحہ ۴۲۵) ”اس بات پر تمام سلف

۱۔ دجل اور سفلیہ پن کی حد ہوگئی۔ سوال مرزا قادیانی ملعون قادیان کے متعلق ہے۔ لیکن مرزا ناصر کمینگی پر اتر آیا۔ آنحضرت ﷺ کو اس میں لاکھڑا کیا۔ حالانکہ کروڑوں محدث خود آنحضرت ﷺ کے نقش پاء کا صدقہ ہیں۔

۲۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

وغلف کا اتفاق ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوگا تو امت محمدیہ میں داخل کیا جائے گا اور فرماتے ہیں کہ قسطلانی نے بھی تو مذاہب الدنیا میں یہی لکھا ہے اور عجیب تر یہ ہے کہ وہ امتی بھی ہوگا اور نبی بھی لیکن افسوس کہ مولوی صاحب مرحوم کو یہ سمجھ نہ آیا کہ صاحب نبوت تامہ ہرگز امتی نہیں ہو سکتا۔“

یہاں ”صاحب نبوت تامہ“ سے مراد مستقل نبی ہے: ”ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آحضرت ﷺ سے قبل شارع انبیاء کی امتوں میں جو غیر شارع انبیاء پیدا ہوئے جیسا کہ نبی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعد ہزاروں کی تعداد میں غیر شارع انبیاء پیدا ہوئے۔ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامل اتباع کے نتیجے میں ان کو مہر نبوت کی نہیں ملی بلکہ اللہ تعالیٰ نے، قطع نظر اس کے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ان کو اپنی حکمت کاملہ سے نوع انسانی (نہیں بلکہ یہاں یہ ہوگا کہ بنی اسرائیل) کی اصلاح کے لئے بطور رنجی کے بھجوا دیا۔“

اس میں ایک فرق ہے، وہ ہے باریک اور لمبا ہے، میں صرف اشارہ کروں گا۔ وہ یہ کہ ہر نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوا، بنی اسرائیل میں اس نے کسی نہ کسی چھوٹے یا بڑے معاملہ میں حضرت موسیٰ کی شریعت کی اصلاح کر دی اور یہ چیز نمایاں طور پر حضرت مسیح کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھے۔ اسرائیلی نبی تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے انتقام پر زور دیا، یہ ان کی شریعت کا حصہ ہے، انتقام لینا۔ کیونکہ اس وقت کے حالات، کمزوری کے اور ایک بزدلی جو اس وقت بنی اسرائیل میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو یہ حصہ ایک دیا جائے الہی تعلیم کا انتقام لینا ہے تمہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت مسیح علیہ السلام جو موسوی امت میں سے تھے۔ انہوں نے جب وہ انتقام والا جذبہ جو تھا وہ غلط ⁵³¹ Extreme تک پہنچ گیا۔ انہوں نے آکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف، ان کی ہدایات کے خلاف یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی تیری ایک گال پر تھپڑ لگا تا ہے تو دوسری بھی آگے کر دو۔ میں وہ موسوی شریعت کے تابع اور یہ بنی اسرائیل کے نبی اور ان کی کوئی شریعت نہیں ہے۔ کیونکہ شریعت کا ایک مکمل حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اس کو منسوخ نہیں کیا اور یہ جو باریک باریک فرق انہوں نے حالات کی تبدیلی سے اپنے وعدوں میں کئے وہ بتائے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامل اتباع کے نتیجے میں ان کو نبوت نہیں ملی۔ کیونکہ کامل اتباع ہی ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے بعد اور قرآن عظیم کے نزول کے بعد

۲۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ایک کامل اور مکمل ہدایت نامہ مل گیا۔ اب اس قسم کا مستقل نبی نہیں پیدا ہو سکتا امت محمدیہ میں جو ایک شوشہ بھی قرآن کریم کی ہدایات میں تبدیلی پیدا کرے۔ اس واسطے امت محمدیہ میں امتی نبی آ سکتا ہے، غیر شرعی، مستقل حیثیت کا نبی نہیں آ سکتا۔ روزی یہ بحث ہے جو مسیح علیہ السلام کو نبوت ملی بنی اسرائیل کی امت، وہ امتی نبی کی حیثیت نہیں تھی، بلکہ مستقل حیثیت نبی کی تھی۔ تو وہ اس امت میں نہیں آ سکتے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی نہیں تھے، کیونکہ ان کی شریعت آگئی تھی اپنی۔

مرزانا صراحت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی شریعت نہیں۔ کوئی بھی نہیں مانتا۔ کیونکہ وہ صاحب شریعت نبی نہیں تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔

جناب یحییٰ بختیار: اور ان کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور صاحب شریعت نبی ہیں؟

مرزانا صراحت: ہاں، ان سے پہلے۔

جناب یحییٰ بختیار: تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی ہیں؟

مرزانا صراحت: امتی نبی نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: شرعی بھی نہیں، تو امتی بھی نہیں ہیں؟

مرزانا صراحت: غیر شرعی، غیر امتی نبی ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: غیر شرعی غیر امتی نبی ہیں؟

مرزانا صراحت: غیر امتی نبی ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: ان کا Status (مقام) کیا ہوگا؟ امتی نبی سے بلند ہوگا؟

مرزانا صراحت: نہیں، ان کا Status امتی نبی سے.....

جناب یحییٰ بختیار: مختلف ہوگا؟

مرزانا صراحت: علیحدہ ہوگا، مختلف ہوگا۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک امتی نبی جو ہوتا ہے.....

مرزانا صراحت: یہاں یہ امتی نبی کی نہیں بحث.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ان کو.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، یہ جو ہیں ناں الفاظ.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ناقص کہا گیا۔
 مرزا ناصر احمد: کن کو؟
 جناب یحییٰ بختیار: امتی نبی جو ہے وہ ناقص ہوگا مقابلاً اس نبی کے جو اپنی شرع لائے؟
⁵³³ مرزا ناصر احمد: یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ناقص کا لفظ نہیں آیا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ان کے متعلق نہیں۔ کیونکہ جو امتی ہے اس کے متعلق پوچھا ہے آپ سے۔
 مرزا ناصر احمد: یہاں..... نہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں، مختصراً۔ امید کرتا ہوں کہ خدا مجھے توفیق دے گا آپ سمجھ جائیں گے۔
 یہاں امتی نبی کا نہیں ذکر، اس بحث میں جو یہاں ہے ہمارے سامنے۔ یہاں بانی سلسلہ احمدیہ ان محدثین کی بات کر رہے ہیں۔ جن کے متعلق نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”کانبیاء بنی اسرائیل“ کہ وہ نبی تو نہیں تھے لیکن ان کا مقام بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند تھا۔ ذرا انتظار کریں۔ میں یہاں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو: ”ہاں محدث جو مرسلین میں سے ہے امتی بھی ہوتا ہے (یہ امت محمدیہ کا ذکر آ گیا ناں) اور ناقص طور پر نبی بھی۔ امتی وہ اس وجہ سے کہ وہ پہلی تابع شریعت رسول اللہ اور مشکوٰۃ رسالت سے فیض پانے والا ہوتا ہے اور نبی اس وجہ سے کہ (یہ فقرہ بڑا اہم ہے اور نبی اس وجہ سے کہ) خدا تعالیٰ نبیوں کا معاملہ اس سے کرتا ہے۔“
 خدا اس کو نبی نہیں کہتا، نہ نبی بناتا ہے۔ لیکن نبیوں کا معاملہ اس سے کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: ”کانبیاء بنی اسرائیل“ یعنی وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن کانبیاء ہوں گے، نبیوں کی طرح ہوں گے۔ نبیوں کا معاملہ ان سے کیا جائے گا اور یہاں بھی یہی فقرہ ہے۔ تو اس میں ان محدثین کا ذکر ہے۔ جن کی طرف نبی اکرم ﷺ کی حدیث اشارہ کرتی ہے کہ میری امت میں ایسے مقربین میرے اور میرے متبعین پیدا ہوں گے جو علماء، امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا ایک گروہ ایسا ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوگا۔ نبی نہیں ہوگا۔
 جناب یحییٰ بختیار: ناقص نبی جو ہے.....
 مرزا ناصر احمد: ناں، ناں ”کانبیاء بنی اسرائیل“
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ جو ”ناقص نبی“ استعمال ہوا ہے۔ یہ ان کے بارے میں ہوا ہے۔ اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے وہ؟

۲۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: نہیں، یہ تو محدثین کی بات ہو رہی ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، یعنی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ناقص نبی ہوں گے؟
 مرزا ناصر احمد: کانپیا بنی اسرائیل ہوں گے۔ ان سے انبیاء کا معاملہ ہوگا۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کانپیا کا معاملہ کرے گا۔ لیکن انبیاء نہیں ہوں گے وہ۔
 جناب یحییٰ بختیار: مگر یہ جو ہے ناں ”ناقص نبی“ مجھے یہ *Confusion* (پریشانی) ہوئی کہ.....

مرزا ناصر احمد: نہیں وہ یہی نقص ہے ناں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میرا خیال تھا کہ شاید اسلام میں بھی اور نبی گزرے ہیں۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، نہیں، نہیں، کانپیا بنی اسرائیل۔
 جناب یحییٰ بختیار: یعنی اور کوئی نبی نہیں؟
 مرزا ناصر احمد: ہاں، اور کوئی نبی نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ناقص قسم کے یا کسی کیلگری کے؟
 مرزا ناصر احمد: ⁵³⁵ نہیں، نہیں، اس کو کانپیا بنی اسرائیل کو ”ناقص نبی“ کا فقرہ کہہ گے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ یعنی وہ لفظ ”ناقص“ استعمال ہوا ہے۔ اسی لئے میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے۔
 مرزا ناصر احمد: لیکن آگے جا کر اس کو واضح کر دیا ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ نبی نہیں ہیں؟
 (اس امت میں مرزا قادیانی کے علاوہ کوئی نبی نہیں)
 مرزا ناصر احمد: وہ نبی بالکل نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: جو ناقص نبی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ وہ نبیوں کی طرح *Treat* کیا جاتا ہے۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، نبی نہیں، ان سے معاملہ انبیاء کا معاملہ ہے۔

۱ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اب تسلیم کیا کہ حضور علیہ السلام کی امت میں اور کوئی کسی قسم کا نبی نہیں، صرف مرزا قادیانی ہی نبی ہے۔ مرزا ناصر نے اس کا اعتراف کیا۔

۲۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.comwww.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.compopalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: آپ مرزا صاحب! یہ جب آپ حضرت مریم کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ان کی بھی دو شخصیتیں ہیں یا ایک ہی شخصیت ہے؟

(مسیح و یسوع ایک ہیں)

مرزا ناصر احمد: میں سمجھتا تھا کہ دو شخصیتوں کا معاملہ کل صاف ہو گیا۔ تو میری غلط فہمی تھی۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، بات یہ ہے، مرزا صاحب! کہ آپ نے Clarification (وضاحت) کی ہے کہ جہاں جہاں مرزا صاحب نے یسوع کا ذکر کیا ہے یا عیسیٰ کا ذکر کیا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہے یا عیسیٰ میں یہ نقائص تھے۔ جھوٹ بولتے تھے، نعوذ باللہ.....
 مرزا ناصر احمد: نہ صرف نقائص کے متعلق.....
 جناب یحییٰ بختیار: تو وہ یسوع کی طرف اشارہ ہے جو انجیل میں یا عیسائیوں کی نظر میں ہے۔

مرزا ناصر احمد: جو..... جب آپ نے الٹا جواب دیتے ہوئے نصاریٰ کو یہ کہا کہ تم جس خداوند یسوع مسیح کو..... یہ فقرہ ہمیشہ ”خداوند یسوع مسیح“ کہنا چاہئے ورنہ پتہ نہیں لگتا انجیل کا ہے..... تم جس خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتے ہو، تمہاری اپنی کتب اس کے یہ حالات بتاتی ہیں اور وہ پاک نبی خدا کا، جو بنی اسرائیل میں آیا اور عیسیٰ بن مریم اس کا نام تھا۔ قرآن کریم نے تو اس کی بڑی تعریف کی وہ تو مقربین الہی میں تھا۔ انبیاء میں سے ایک نبی تھا اور جب آپ نے دادیوں، نانیوں کا ذکر چھیڑا تو میں نے کہا دادیوں، نانیوں کا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، ان کا تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ اللہ کی مائیں ہو گئیں ناں جو دادیاں نانیاں ہوئیں۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔ وہ تو قرآن میں نہیں آتا۔
 جناب یحییٰ بختیار: میں اسی لئے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ.....
 مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ تو ظاہر ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: یہ، مرزا صاحب ایک کتاب ”کتاب البریہ“ ص ۷۹، ۷۸ پر مرزا صاحب سے فرمایا کہ: ”وہ یسوع جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا“

۱۔ مرزا ناصر احمد صاحب کا اعتراف شکست!! مسیح اور یسوع دو شخصیتیں نہیں، ایک ہی ہے۔

یہ لوگوں نے انہیں کہا کہ وہ خدا ہیں یا انہوں نے خود کہا؟

مرزا ناصر احمد: عیسائیوں میں بعض فرقے 'Unitarian' (موحد) بھی ہیں خدائے واحد کو ماننے والے ہیں۔ لیکن عیسائیوں کی بڑی بھاری اکثریت خصوصاً Catholicism (کیتھولیزم) جو ایک زمانے میں سب پر حاوی تھی اور دوسرے فرقے سر اٹھانے کے قابل نہیں تھے کیونکہ Inquisition clergy کے Courts جو تھے ناں..... وہ اتنی سخت سزائیں دیتے تھے کہ وہ فرقہ کوئی بن نہیں سکتا تھا۔ بہر حال، تو Catholicism (کیتھولیزم) اور بعد جو مختلف فرقے بنے۔ اس وقت بھی اکثر عیسائی فرقے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن انہی میں ایسے فرقے بھی ہیں۔ تعداد میں تھوڑے ہیں۔ جو Unitarian (موحد) کہلاتے ہیں۔ یعنی ایک خدا کو ماننے والے۔ تثلیث کو نہیں ماننے والے۔ تو انہوں نے، یعنی اب آپ کے..... یہ تمہید تھی.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں۔

مرزا ناصر احمد:..... جب انہوں نے یہ کہا کہ ”ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں“ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ”مسیح نے تو اس سے انکار کیا مگر ہم ایمان لاتے ہیں“ انہوں نے غلط دلائل خود انجیل اور بائبل سے نکال کے دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا کہ تورات اور انجیل کے ان حوالوں کی رو سے، ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں یہ Clarification (وضاحت) چاہتا تھا.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، وہ آگیا ناں جواب۔

جناب یحییٰ بختیار:..... کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں کہا۔ یسوع نے خود نہیں کہا.....

مرزا ناصر احمد: جو ان کو خداوند یسوع مسیح مانتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مسیح نے خود کہا۔ ورنہ تو.....

جناب یحییٰ بختیار: ان کا دعویٰ ہے؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، ان کا یہی دعویٰ ہے کہ خود کہا ہے ورنہ تو وہ اعلان ہی نہ کر سکتے۔

(مرزا قادیانی کا دعویٰ خدائی)

جناب یحییٰ بختیار: یہ مرزا غلام احمد صاحب نے تو کبھی یہ نہیں سمجھا کہ وہ خدا ہیں؟

۲۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

کیونکہ یہاں ایک.....

مرزا ناصر احمد: ⁵³⁸ نہیں کبھی نہیں سمجھا۔ اس کا جواب تو میں دے دیتا ہوں
Categorical۔ بالکل غلط اور افتراء ہے کہ کبھی ایسا سمجھا۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ جوان کا ترجمہ ہے ”کتاب البریہ“ صفحہ ۷۸.....
مرزا ناصر احمد: ”کتاب البریہ“ کونسا صفحہ؟

Mr. Yahya Bakhtiar: Page No. 78.

Mirza Nasir Ahmad: 78.

جناب یحییٰ بختیار: ”میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں
خود خدا ہوں۔“ (کتاب البریہ ص ۷۸، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۳)
مرزا ناصر احمد: یہ بات سن لیں جی۔ یہیں سے جواب مل جائے گا۔ میں نے کہا ہے
کہ آپ نے کبھی نہیں دعویٰ کیا۔ نہ سمجھا اپنے کو خدا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ: ”میں خدا اپنے آپ کو
سمجھتا ہوں“ یہ کہا ہے: ”میں نے ایک کشف دیکھا“ اور جیسا کہ میں واضح کر چکا ہوں کہ کشف کی
تعبیر ہوتی ہے اور بہتوں نے بھی کشف دیکھے.....
جناب یحییٰ بختیار: ہاں نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں.....
مرزا ناصر احمد:خدا ہونے کے کشف امت مسلمہ میں اور بہتوں نے بھی دیکھے۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ: ”میں نے ایک کشف میں
دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں.....“ (ایضاً)
مرزا ناصر احمد: کشف میں۔
جناب یحییٰ بختیار: کشف میں ہی۔
مرزا ناصر احمد: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: ⁵³⁹ ”..... اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا
اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں۔ یا اس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنی
بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا ہو۔ یہاں تک کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ
رہ گیا ہو۔ اس اثناء میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ میں محیط ہو گئی اور میرے جسم پر
مستولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے نہا کر لیا۔ یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا اور میں نے
اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء اور میری آنکھ اس کی آنکھ اور میرے کان اس

۳۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

کے کان اور میری زبان اس کی زبان بن گئی تھی۔ میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا۔“ (کتاب البریہ ص ۷۸، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۲، ۱۰۳)

مرزانا صراحتاً: یہ ٹھیک ہے، یہ کشف ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: کشف جو انبیاء کا ہوتا ہے۔ وہ نبی کے برابر ہوتا ہے یا.....

مرزانا صراحتاً: یہ جو ہے، اگر آپ فرمائیں، اجازت دیں تو میں پڑھ دوں یہ بانی

سلسلہ احمدیہ کا؟

جناب یحییٰ بختیار: آپ مجھ سے اجازت کیوں چاہتے ہیں؟

(مرزانا صاحب! آپ.....) Mirza Sahib, you....

مرزانا صراحتاً: نہیں، یعنی اس سے زیادہ ہے جو آپ نے پڑھا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ جو میں نے پڑھا ہے۔ اس کا میں کہہ رہا ہوں وہ تو

آپ نے کہہ دیا۔ میں نے کہا کشف جو ہے ایک نبی کا جو کشف ہوتا ہے.....

مرزانا صراحتاً: نبی کا کشف جو ہے.....

540 جناب یحییٰ بختیار: وہ وحی کے برابر نہیں ہوتا؟

مرزانا صراحتاً: نبی کا کشف سچا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کشف ہے اس کی تعبیر کرنی پڑے گی۔

جناب یحییٰ بختیار: تو اگر کشف میں یہ دیکھیں کہ وہ خدا ہیں تو وہ سچے.....

مرزانا صراحتاً: اس کی تعبیر ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا آلہ کار بنے گا۔ یہ تعبیر ہے اس کی۔

جناب یحییٰ بختیار: انہوں نے کی ہے یہ؟

مرزانا صراحتاً: خود کی ہے۔ تو پڑھ دوں؟ اس واسطے میں نے کہا تھا کہ پڑھ دیتا

ہوں تو جواب آ جائے گا۔

جناب یحییٰ بختیار: اور اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ ”انہوں نے“ آپ پڑھ

لیجئے..... کہ: ”انہوں نے آسمان اور زمین پیدا کئے۔“ (کتاب البریہ ص ۷۹، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۵)

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، ہاں۔ بالکل کشف میں دیکھا۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ Explain (واضح) کر دیں اس کو۔

مرزانا صراحتاً: یہ ایک خواب ہے۔ رویا اور کشف کو ظاہر پر محمول نہیں کیا جاتا۔ یہ

میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے بانی سلسلہ احمدیہ نے ”آئینہ کمالات اسلام“ کے صفحہ ۵۴۲ پر یہ لکھا

ہے: ”لانحنی بہذہ الواقعة کما یؤنافی کتب اصحاب واحدة الوجود“

اس کا ترجمہ یہ ہے کہ: ”ہمارے اس کشف سے وہ مراد نہیں جو وحدت الوجود والے یا حلول کے قائل مراد لیا کرتے ہیں۔“ بلکہ یہ کشف تو بخاری کی ایک حدیث سے بالکل موافق ہے جس میں نفل پڑھنے والے بندوں کے قرب کا ذکر ہے۔ جس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے تو وہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے: ”لابزال عبدی یتقرب علی من نوافل حتی احبہ فاذا احبته، کنت سمع الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یتش بہا وزجرہ الذی یمشی بہا (۳۲۵)“ یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس کے معنی ہیں: نفل گزار بندہ میرے قرب میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔“

یہ خود آپ نے، بانی سلسلہ نے اپنے کشف کی آگے تعبیر کی ہے اور اپنی تعبیر کی بنیاد حدیث نبوی صلوٰۃ اللہ علیہ، اس کے اوپر کی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں: ”خدا نے کہا اب میں نیا آسمان اور نئی زمین بناؤں گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ زمین مرگئی۔ یعنی زمینی لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ گویا مر گئے۔ کیونکہ خدا کا چہرہ ان سے چھپ گیا اور گزشتہ آسمانی نشان سب بطور قصوں کے ہو گئے تو خدا نے ارادہ کیا کہ وہ نئی زمین اور نیا آسمان بنا دے۔ وہ کیا ہے نیا آسمان اور کیا ہے نئی زمین۔ نئی زمین وہ پاک دل ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے تیار کر رہا ہے اور جو خدا سے ظاہر ہوئے اور خدا ان سے ظاہر ہوگا اور نیا آسمان وہ نشان ہیں جو اس کے بندے کے ہاتھ سے اور اس کے اذن سے ظاہر ہو رہی ہے۔“

تو خود آپ نے اسی قابل تعبیر کشف قرار دیا۔ یعنی ایک ایسا کشف جس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ: ”میں نے عالم کشف میں اپنے رب کو ایک نوجوان کی شکل پر دیکھا اور اس کے لمبے بال اور اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے تھے۔“

اب ظاہر ہے کہ جس کا مادی وجود ہی نہیں اس کو اس شکل میں دیکھنے کا اس کے علاوہ کوئی مطلب ہی نہیں کہ اس کی تعبیر کی جائے گی۔

جناب یحییٰ مختیار: یہ مرزا صاحب! حدیث کا حوالہ چاہتے ہیں۔ جواب ذکر کیا آپ نے؟

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: جی؟

جناب یحییٰ بختیار: یہ جس حدیث کا آپ نے ذکر کیا اس کا حوالہ اگر آپ دیں۔
مرزا ناصر احمد: جس حدیث کا ذکر کیا اس کا حوالہ یہ ہے: ”الیواقیت والحواہر“ جلد
اول، ص ۷۱، بحوالہ طبرانی، نیز ”موضوعات کبیر“ صفحہ ۴۶-۴۷ تین کتابوں کا ذکر ان حوالوں میں آ گیا ہے۔
اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ دیکھا کہ کشف میں، رویاء میں خود کو خدا
دیکھا اور بھی بہت ساری ہیں۔ بہر حال، یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل کہ کشف کی تعبیر کی جاتی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں وہ آپ سے اسی قسم کی ایک اور.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔ اچھا ہے سارے مسئلے آج حل ہو جائیں۔

543 جناب یحییٰ بختیار: مسئلے تو کبھی نہیں حل ہوں گے مرزا صاحب! ہم تو صرف جو

ایٹو Issue سامنے ہے۔ اس کی کچھ وضاحت چاہتے ہیں۔

مرزا صاحب! کا یہ جی ایک حوالہ ہے ”سیرت المہدی ص ۸۲، (ج ۱، روایت نمبر ۱۰۰)“

”میں نے کچھ احکامات قضا و قدر کے متعلق لکھے اور ان پر دستخط کروانے کی غرض سے

اللہ کے پاس گیا۔ انہوں نے نہایت شفقت سے اپنے پاس پلنگ پر بٹھایا۔ اس وقت میری حالت

یہ ہوئی جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے سال ہا سال کے بعد ملتا ہے۔“ یعنی وہ خدا کے بیٹے.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، ایسے جیسے.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، یعنی خواب میں انہوں نے سمجھا کہ وہ.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، بالکل نہیں سمجھا۔ ”ایسے جیسے“ کا اردو زبان میں تو یہ

مطلب نہیں ہے کہ بیٹا بن گیا۔ اس کا مطلب ایک بالکل اجنبی کسی کے پاس جاتا ہے۔ آپ کے

پاس آتا ہے اور آپ شفقت سے اس سے ملتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اور وہ جا کر کہے گا کہ اٹارنی

جزل نے مجھ سے بالکل ایسا سلوک کیا جیسا باپ بیٹے سے کرتا ہے۔ بیٹا بن گیا آپ کا؟

۱۔ سرے سے یہ آنحضرت ﷺ کی حدیث ہی نہیں ہے۔ اس وقت الیواقیت ج

ص ۷۱ (طبع اول ۱۳۵۱ھ مصر) میرے سامنے ہے اس صفحہ پر اس کا نشان تک نہیں۔ موضوعات

کبیر، کتاب کا نام ہی اس روایت کے ابطال کے لئے کافی ہے۔ اگر روایت ہو بھی تو موضوع

ہے۔ وضع کردہ ہے۔ قطعاً حضور ﷺ کی یہ حدیث نہیں لیکن ابن، ابن، ابن دجال کو دیکھو۔ حق پداری

کے لئے دجال کے جرم کو لٹکا کرنے کے لئے۔ آنحضرت ﷺ کی ذات کو بھی نہ چھوڑا کہ

آپ ﷺ کی طرف ایک غیر صحیح قول کی نسبت کر کے آپ ﷺ پر افتراء کیا۔

۳۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: خیر وہ تو جیسا ہوا۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ.....
 مرزا ناصر احمد: ”ایسے جیسے“ نے مطلب بتا دیا۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ ایک جگہ اور..... یہ اخبار ”الفضل“ سے لیا گیا ہے۔ پتہ نہیں
 کونسا ان کا حوالہ ہے۔ وہ میں آپ کو بتا دوں گا.....
 مرزا ناصر احمد: جی، یہ کونسا؟
 جناب یحییٰ بختیار: 544..... اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ کہتے ہیں۔ ریفرنس ہے ایک
 کہ: ”وہ بہت خوبصورت عورت ہے.....“
 مرزا ناصر احمد: نہیں جی، ہمارے علم میں تو ایسا نہیں۔ لیکن بڑا افسوس ہے۔
 معذرت کرتا ہوں کہ.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں..... اسی واسطے *Explanation* (وضاحت)
 ضروری ہے نا۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، چیک کریں گے نا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر چیز ہے ہی نہیں تو میں آپ سے سوال
 ہی نہیں پوچھتا اس پر۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، ہمارے علم میں نہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ
 تصدیق کرنے کے قابل نہ تردید کرنے کے قابل۔ جب تک چیک نہ کر لوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ ٹھیک ہے نا، مرزا صاحب! میں تو آپ کی *Attention*
draw (توجہ مبذول) کروں گا۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، وہ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں۔ میں ویسے بات کر رہا
 ہوں کہ ہم چیک کر کے اس کو بتائیں گے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ میں نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، چھوڑ دیا؟
 جناب یحییٰ بختیار: میں نے پڑھا ہی نہیں ابھی تک۔ میں آپ کو پڑھ کر سننا رہا
 ہوں۔ پھر آپ چیک کریں گے۔
 مرزا ناصر احمد: آپ نے ”عورت“ کہا نا، بس اتنا اشارہ کافی ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ”وہ خوبصورت عورت ہے.....“

۳۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.comwww.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.compopalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، ”خوبصورت عورت ہے اللہ“ اور اس کو.....⁵⁴⁵
 جناب یحییٰ بختیار: تو ایسی کوئی چیز آپ کے علم میں ہے؟
 مرزا ناصر احمد: میرے علم میں کہیں نہیں۔ نہ ہمارے ان بزرگوں کے علم میں ہے
 کوئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس نے یہ حوالہ بنایا۔ اس عرصے میں ہمیں اگر وہ مجملہ مل جائے حضرت!

Mr. Yahya Bakhtiar: I have, Sir, to look up one or two references. So, they will come out after the break.
 (جناب یحییٰ بختیار: ایک یا دو حوالہ جات میں جناب دیکھ چکا ہوں وہ وقفہ کے بعد آجائیں گے)

Mr. Chairman: Yes, after the break.

(جناب چیئرمین: جی ہاں! وقفہ کے بعد)

The Delegation is permitted to withdraw; to report at 12:15.
 (وفد کو سوا بارہ بجے تک وقفہ کرنے کی اجازت ہے)

The honourable Members may kindly keep sitting.
 (معزز اراکین تشریف رکھیں)

(The Delegation left the Chamber)

Mr. Chairman: The Special Committee is adjourned to meet at 12:15.

(خصوصی کمیٹی کا اجلاس سوا بارہ بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے)

(The Special Committee adjourned for a short break to reassemble at 12:15 pm.)

(خصوصی کمیٹی کا اجلاس ملتوی ہوتا ہے۔ چھوٹے سے وقفہ کے بعد سوا بارہ بجے دوبارہ ہوگا)

(The Special Committee re-assembled after short break, Mr. Chairman (Sahibzada Farooq Ali) in the Chair.)

(خصوصی کمیٹی کا اجلاس چھوٹے سے وقفہ کے بعد ہوا چیئرمین (صاحبزادہ فاروق علی)

۳۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

کی صدارت میں)

جناب چیئر مین: ہاں، فرمائیے۔
 مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: وہ کل غالباً.....
 جناب چیئر مین: یہ دروازہ بند کر دیں۔⁵⁴⁶
 جی، مولانا شاہ احمد نورانی!

**WRITTEN ANSWER TO ORAL QUESTION IN
 THE CROSS- EXAMINATION**

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: جی، وہ کل غالباً آپ نے یہ طے فرمایا تھا کہ اس سے ابتداً Definite جواب لے لیا جائے اور اس کے بعد ان کو اگر تشریح وغیرہ کرنی ہے تو کر دیں۔ لیکن تحریری بیان کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آج تحریر پڑھ رہے تھے۔
 جناب چیئر مین: میں نے ابھی اٹارنی جنرل صاحب سے بات کی ہے اپنے چیئر میں۔ اب وہ سلسلہ وہ دوسرا شروع کریں گے۔ وہ اسی طریقے سے جیسے کہ کل رات کو Decide ہوا تھا ناں، بالکل اسی طریقے سے۔
 جی، مولانا مفتی محمود صاحب!

**IRRELEVANT ANSWERS TO QUESTIONS IN
 THE CROSS- EXAMINATION**

مولوی مفتی محمود: جی عرض یہ ہے کہ کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ وہ ایک جواب لکھ کر لاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سوال ہوتا ہے ایک بات کے متعلق۔ وہ جواب دیتے ہیں دوسری بات کا۔ اب سوال آج تھا کشف کے متعلق۔ انہوں نے کشف کے مقابلے میں جب کہ کشف میں اور خواب میں فرق ہے، وہ خود تسلیم کرتے ہیں..... خواب کی چار، پانچ، چھ مثالیں دیں کہ فلاں نے خواب دیکھا۔ فلاں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے بھی دیکھا۔ تو گویا ان کے جرم سے ہمارا جرم کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پانچ، چھ اور لوگوں کی مثالیں دی گئیں ان کے خوابوں کی کوئی مثال کشف کی نہیں تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو چیز پوچھی جائے۔ اسی کا جواب دے۔ ایک چیز پوچھی جاتی ہے، جواب اور باتوں کا آ جاتا ہے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں.....

۳۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
 کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
 اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
 یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
 گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

(غیر متعلقہ جوابات، چیئر مین کی رولنگ)

⁵⁴⁷ جناب چیئر مین: ہاں، ٹھیک ہے۔ میں نے کل بھی ریمارک کیا تھا۔ میں نے Observe کیا تھا۔ بہت سی Irrelevant (غیر متعلقہ) چیزیں آرہی ہیں۔
مولوی مفتی محمود: بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔
جناب چیئر مین: یہی بات میں نے کل کہی تھی، یہی بات کہی تھی۔ بہت سی Irrelevant (غیر متعلقہ) چیزیں آرہی ہیں۔ اس میں سوال ہو جائے۔ پھر اس کا جواب ہو جائے۔ پھر مختصر Explanation (وضاحت کریں) اگر ضرورت ہو۔
مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: Explanation (وضاحت) قرآن اور حدیث کی روشنی میں، مختصر Explanation (وضاحت)
جناب چیئر مین: ہاں، یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔
مولوی مفتی محمود: وہ اس طریقے سے جیسے آپ کہیں کسی کو کہ ”چور ہے وہ“ تو وہ کہتا ہے کہ ”فلاں بھی چور تھا، فلاں بھی چور تھا، فلاں بھی چور تھا۔“
جناب چیئر مین: نہیں، میں نے اٹارنی جنرل صاحب سے ابھی ڈسکس کیا ہے
چیئر میں۔ I think now the procedure will be all right (میرا خیال ہے کہ اب ضابطہ کی کارروائی درست ہے) (مداخلت)

جناب چیئر مین: ہاں جی۔ ایک سیکنڈ۔ (مداخلت)

جناب محمد حنیف خان: وہ Question (سوال) کرنا شروع کر دیتا ہے۔

جناب چیئر مین: نہیں، ان کا اپنا Method (انداز) ہے Put کرنے کا۔

ایک بات یہ ہے کہ ان کو، گواہ کو روکا جائے گا کہ جب Question put (سوال) کیا جا رہا ہو تو

پھر بیچ میں، جب تک Question complete (مکمل سوال) نہ ہو جائے، بیچ میں نہ بولیں۔

⁵⁴⁸ SUPPLY OF QUOTATIONS FOR ASKING

QUESTIONS

Mr. Yahya Bakhtiar: Sir, I will respectfully submit that explanations are different; you may or may not accept, but I request the honourable members not to supply

۳۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

me loose balls to score boundaries.

(جناب یحییٰ مختیار: جناب! میں گزارش کروں گا کہ توجیہات مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں۔ جنہیں قبول یار دیکھا جاسکتا ہے۔ تاہم میں معزز اراکین سے عرض کروں گا کہ مجھے انٹ ہدف قسم کی چیزیں نہ بھیجیں)

Mr. Chairman: Yes, that I have also felt.

(جناب چیئرمین: جی ہاں! یہ بات میں بھی محسوس کر چکا ہوں) یعنی حوالہ جات۔ یہ حوالہ جات جو کتابوں سے لکھے ہوئے ہیں یا پمفلٹ سے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کی بجائے ان کی اپنی کتاب ہو۔ حوالہ جات پیش کرنے کا Best (سب سے) طریقہ یہ ہے کہ یہ کتابیں پڑی ہیں ان کی، وہیں سے کتاب اٹھائی، وہیں سے مارک کیا کہ یہ آپ کا لکھا ہوا ہے وہ جو Questions (سوالات) ہمارے Approve ہوئے ہیں۔ ان میں کئی حوالہ جات نکلتے ہی نہیں ہیں۔

Yes, Haji Moula Bakhsh Soomro.

(جی! حاجی مولا بخش سومرو)

TIME FOR ANSWERING QUESTIONS

Sardar Moula Bakhsh Soomro: Sir, the explanation that he gives should not go beyond 5 or 10 minutes; and for the "Hawala", when the books are available, he should not be given time that. I will read my own book and come prepared tomorrow. "It should not be put off to the next day, think today. And explanation should not go beyond 5 or 10 minutes.

(سردار مولا بخش سومرو: جناب والا! جو وضاحتیں وہ دیتے ہیں پانچ یا دس منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہئیں۔ جب کتابیں اور حوالے موجود ہوتے ہیں تو پھر (گواہ) کو مزید وقت نہیں ملنا چاہئے کہ وہ کتابیں مطالعہ کر کے دوسرے روز تیار کر کے آئیں گے۔ جواب اور وضاحت کے لئے پانچ یا دس منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہونا چاہئے)

۳۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Mr. Chairman: Haji Sahib, it varies from question to question. There are certain questions which should be replied to there and then; certain explanation should be there and then. But there are certain things which have to be searched out.

(جناب چیئرمین: حاجی صاحب! یہ سوال کی نوعیت پر منحصر ہے۔ بعض سوالات کا جواب فوری ملنا چاہئے۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں۔ جن کے جوابات کے لئے مزید وقت اور تحقیق ضروری ہوتی ہے)

Sardar Moula Bakhsh Soomro: He reads it like a "Khutba" and takes half an hour; that should not be allowed.

(سردار مولانا بخش سومرو: وہ (گواہ) خطبہ کے انداز میں پڑھتا اور آدھ گھنٹہ لے لیتا ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہئے)

Mr. Chairman: No, no, that will not be. Should we call them?

(جناب چیئرمین: نہیں، نہیں! اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیا اب انہیں بلا لیں؟)

⁵⁴⁹ Yes, Mr. Aziz Bhatti. (جی ہاں! جناب عزیز بھٹی)

جناب عبدالعزیز بھٹی: عرض یہ ہے کہ جہاں ان کے Irrelevant (غیر متعلقہ) ہوں جی Answer (جواب) وہاں یہ پورا آپ خود استعمال کریں کہ انہیں پھر بند کر دیں۔
جناب چیئرمین: مولانا ظفر احمد انصاری!

WRITTEN ANSWERS TO ORAL QUESTIONS IN THE CROSS- EXAMINATION

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: بہر حال، اس میں تو جیسا کہ اٹارنی جنرل صاحب فرمائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں وہی صورت ٹھیک رہے گی۔ لیکن ایک چیز کل بھی میں نے عرض کی تھی

۳۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا اس دن
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا اس دن
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں اس قصہء پارینہ را.....

کہ انہیں لکھی ہوئی چیز زیادہ پڑھنے کا موقع نہ دیا جائے.....
جناب چیئر مین: ٹھیک ہے۔

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: اس کو، جب تک بہت ہی ناگزیر نہ ہو جائے، اس لئے
کہ پھر کراس ایگز امینیشن کا کوئی فائدہ نہیں رہتا کہ جب وہ آدمی کتاب اور رسالے لکھ کر کے لے آئے۔

QUESTIONS BASED ON DOCUMENTS NOT READILY AVAILABLE

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: دوسری چیز ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ
ہمارے ہاں بہت سے سوالات ”الفضل“ یا دوسرے اخبارات کے حوالے سے دیئے گئے ہیں۔
جہاں تک ممکن ہے لوگ چیک کر رہے ہیں۔ لیکن عام طور پر ”الفضل“ نہیں ہے۔ تو وہ سوالات کچھ
اسی طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ: ”آپ یہ بتائیں کہ یہ ”الفضل“ میں ہے یا نہیں ہے؟“ اگر وہ یہی کہہ
دیں کہ: ”ہم اس کے بارے میں نہ تصدیق کر سکتے ہیں، نہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں“ تو یہ ہمارے ریکارڈ
پر آ جائے۔ لیکن وہ سوال آ جائے۔ ممکن ہے کہ ہم دوسرے روز، تیسرے روز وہ پرچہ فراہم بھی کر
سکیں۔ نہیں بھی فراہم کر سکیں تو وہ سوال ریکارڈ پر ہوگا کہ یہ پوچھا گیا ”الفضل“ کے حوالے سے۔
”الفضل“ ہم نے شروع سے برابر کوشش کی کہ وہ بھیج دیں ہمیں۔ یہاں تک کہ جب
انہوں نے یہ کہا کہ معین کا بیانا بتائیے، کون کون سے نمبر، تو وہ بھی لکھ کے بھیجا۔ لیکن یہ انہوں نے
نہیں بھیجا۔ اب ظاہر ہے کہ ”الفضل“ کی اتنی دیر کی فائلیں تو کسی کے پاس نہیں ہوتیں۔ لہذا جو اس
پر مبنی سوالات ہیں، وہ ریکارڈ میں ضرور آ جائیں۔

جناب چیئر مین: ٹھیک ہے۔ (مدخلت)

جناب چیئر مین: ایک سیکنڈ جی۔

ADMITTANCE OF VISITORS DURING SITTINGS OF THE SPECIAL COMMITTEE

*Mr. Chairman: I would request only one thing to
the Members. While coming to attend this secret session,
they should not bring their friends, their relatives inside the*

۴۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

Assembly buildings. It has caused us a lot of inconvenience. And the responsibility is of all of us collectively. There have been certain cases- reported- where people have even quarrelled with the security people while coming inside the gate. I think it should be discouraged and it should be stopped altogether for two or three days. Then we can have it. Yes Maulana Ghulam Ghaus Hazarvi.

(جناب چیئر مین: میں اراکین سے صرف ایک گزارش کروں گا۔ جب وہ اس خفیہ اجلاس کے لئے آئیں تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اسمبلی کی عمارت کے اندر نہ لائیں۔ یہ ہمارے لئے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کئی بار نوٹس میں آیا ہے کہ لوگ سیکورٹی والوں سے جھگڑا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہونا چاہئے اور یہ سلسلہ دو تین دن کے لئے بند کیا جانا چاہئے۔ تب ہی ہم اطمینان سے کام کر سکتے ہیں۔ جی مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب!)

551 **METHOD OF ASKING QUESTIONS DURING
CROSS- EXAMINATION**

مولانا غلام غوث ہزاروی: سوالات کے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ جو سوال بڑا اہم ہو، جس کا ریکارڈ پر آنا ضروری ہے۔ اس میں اتنا ہی پوچھا جائے کہ ”یہ مرزا صاحب نے یا مرزا محمود نے کہا ہے یا نہیں؟“ اتنا ان کو تقریر کے لئے خواہ مخواہ موقع دینا اور تبلیغ کا، آدھ آدھ گھنٹے تک وہ سنائیں، ہم کو، ہم ان کی تقریر سننے یہاں نہیں بیٹھے رہتے۔ اس لئے سوال کی طرز یہ ہونی چاہئے کہ ”یہ لکھا ہے یا نہیں، اور یہ آپ مانتے ہیں، درست ہے کہ نہیں؟“ بس اس کی ضرورت ابھی نہیں.....
جناب چیئر مین: ٹھیک ہے جی۔

**PRODUCTION OF BOOKS/DOCUMENTS FOR
QUESTIONS CITED IN THE QUESTIONS**

مولانا غلام غوث ہزاروی: اور دوسری بات یہ ہے کہ جن حضرات نے سوالات

۴۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

دیئے ہیں۔ کوئی سوال نہ پوچھا جائے جب تک اس کا حوالہ پاس موجود نہ ہو۔ میں نے جتنے سوالات دیئے ہیں۔ میرے پاس کتابیں ہیں، ان کے حوالے اور مجھے پوری طرح معلوم ہے کہ انٹرنی جنرل صاحب نے جو سوال کل پوچھا تھا، قطعی میں نے خود لکھا ”البدر“ میں کہ:

محمد دیکھنے ہوں جس نے اکل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں
محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں
میں نے خود دیکھا ”البدر“ میں۔ میں، مرزا صاحب کے سامنے پیش ہوا۔ انہوں نے
”جزاک اللہ“ کہا تحسین کرتے ہوئے اندر لے گئے زنانہ میں۔ یہ میں نے خود دیکھا۔ میرے
پاس پرچہ نہیں⁵⁵² تھا اس لئے میں نے اس کے لئے نوٹس نہیں دیا۔ جب تک کہ موجود نہ ہو کوئی پرچہ یا
کوئی پمفلٹ یا کوئی کتاب.....

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے جی۔

مولانا غلام غوث ہزاروی: اس وقت تک اس کا نوٹس سوال کا نہیں دینا چاہئے۔

جناب چیئرمین: بالکل ٹھیک ہے جی۔ میں اب ان کو بلانے لگا ہوں۔

مسٹر احمد رضا خان قصوری!

REPETITION OF ARGUMENTS BY THE WITNESS

Sahibzada Ahmad Raza Khan Qasuri: Mr. Chairman, for the last two, three days, what I am noticing is that the witness is repeating his statement again and again, and not only repeating his oral statement, but sometimes he quotes same books again and again. We are not have to be taught what Ahmadi faction is; and he is not have to preach to us. So I think, being the Chairman of this Committee, you should see to it that the repetition does not take place.

(صاحبزادہ احمد رضا خان قصوری: جناب چیئرمین! گذشتہ دو تین دنوں سے میں

یہ مشاہدہ کر رہا ہوں کہ گواہ اپنے بیان کا تکرار بار بار کر رہا ہے۔ گواہ نہ صرف اپنے زبانی جوابات کو

۴۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

بار بار دہراتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات کتابوں کے حوالے لے بھی نکرار کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ہم یہاں کوئی سبق پڑھنے نہیں آئے اور نہ ہی گواہ کو یہاں کسی درس کے لئے بلایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت چیئر مین خصوصی کمیٹی آپ کو دیکھنا چاہئے کہ بار بار کی تکرار نہ ہو)

(گواہ گول مول جواب اور حیلہ بازی کرتا ہے، وزیر قانون)

Abdul Hafeez Pirzada: Sir, it has disadvantages; it has also got some advantages because, from the point of view of the prosecutor also, you have to repeat the question sometimes; and the more they repeat an answer, the more contradictions are established. So, now that we have displayed so much patience, for about a days and a half, I think we should bear with this, because you would appreciate that the witness is trying to be evasive and therefore the Attorney- General has had to ask a question time and again. So, let us bear with it for about a day or a day and a half. We are now coming to a close.

(عبدالحفیظ پیرزادہ: جناب والا! اس کے کچھ تو نقصانات ہیں۔ مگر چند ایک فوائد بھی ہیں۔ استغاثہ کے نقطہ نظر سے بعض اوقات سوال کو دہرایا جاتا ہے۔ اس طرح گواہ جس قدر اپنے جواب کو دہرائے گا۔ اس قدر تضادات سامنے آئیں گے۔ جہاں ہم نے اتنا بردباری سے کام لیا ہے۔ ایک آدھ دن اور سہی۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گواہ حیلہ بازی سے کام لیتا ہے۔ یا جواب کو گول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لئے انٹرنی جنرل کو سوال پھر سے سوال کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اب جب کہ کاروائی اختتام کے قریب ہے ہمیں ایک آدھ دن اور صبر سے کام لینا چاہئے)

⁵⁵³ *Mr. Chairman: Mr. Ahmad Raza Qasuri, as we usually do after everyday's proceedings, today after 1:30 and after 9:30, then again we will survey that day's position, and then we can have suggestions. I have discussed the matter*

۴۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

with the Attorney- General and he says that now, for this hour, he will adopt his own method of putting the questions.

Yes, they may be called.

(جناب چیئرمین: مسٹر احمد رضا قصوری! جیسا کہ ہمارا معمول ہے۔ آج کی کارروائی کے بعد ڈیڑھ بجے دن اور ساڑھے نو بجے رات کے بعد ہم تمام پوزیشن کا جائزہ لیں گے اور تجاویز پر غور کریں گے۔ میں نے اٹارنی جنرل سے بات کی ہے۔ وہ اپنے انداز اور طریقے کے مطابق سوالات کریں گے۔ ہاں! اب انہیں (یعنی وفد کو) بلا لیں)

(The Delegation entered the chamber)

(وفد ہال میں داخل ہوا)

Mr. Chairman: Yes, Mr. Attorney- General.

(جناب چیئرمین: جی ہاں! اٹارنی جنرل صاحب)

CROSS- EXAMINATION OF THE QADIANI GROUP DELEGATION

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا تھا کہ جب حضرت مریم کا ذکر کرتے ہیں مرزا صاحب، تو یہ ایک ہی شخصیت ہے یا دو شخصیتیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ شخصیتوں کا توکل فیصلہ ہو گیا تھا۔
مرزا ناصر احمد: ہاں، ہل ہو گیا تھا فیصلہ۔

(مرزا ناصر کی مشکل)

جناب یحییٰ بختیار: تو اس سلسلے میں میں Clarification (وضاحت) چاہتا ہوں کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ مریم ہیں۔ جن کا ذکر انجیلوں میں آیا ہے یا وہ مریم ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں؟
مرزا ناصر احمد: بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنی کتب اور تقریر و تحریر میں اس مقدس عورت کا بھی ذکر کیا جو قرآن کریم میں مریم کے نام سے یاد کی جاتی ہے اور بعض جگہ آپ نے اس مریم کا بھی ذکر کیا جس کو عیسائی لوگ خداوند یسوع سے نسبت دیتے ہیں۔

۴۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: یعنی دو شخصیتیں ہیں ان کی نظر میں پھر، جیسے.....
 مرزانا صراحمہ: میں نے تو اپنا جواب دے دیا ہے.....
 554 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں وہی جواب.....
 مرزانا صراحمہ:..... نتیجہ آپ نکال لیں۔
 جناب یحییٰ بختیار:..... جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا جواب ہے، وہ یہاں بھی وہی ہے؟
 مرزانا صراحمہ: ہاں! وہی یہاں ہے۔

(سیدہ مریم علیہا السلام کی اہانت کے حوالہ جات، معاذ اللہ)
 جناب یحییٰ بختیار: یہاں جو ایک جگہ ذکر آ جاتا ہے: ”اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل.....
 بوجہ حمل..... کے نکاح کر لیا۔“
 (کشتی نوح ص ۱۶، جزائن ج ۱۹ ص ۱۸)
 مرزانا صراحمہ: یہ کیا؟ کہاں ہے؟
 جناب یحییٰ بختیار: یہ ہے جی (کشتی نوح ص ۳۷) شروع کی تین چار لائینیں چھوڑ کر جی، میرے ایڈیشن میں۔

مرزانا صراحمہ: بانی سلسلہ احمدیہ نے یہاں یہ لکھا ہے: ”کیونکہ یہ سب بزرگ مریم بتول کے پیٹ سے ہیں اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ گو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیوں کر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا اور تعداد ازدواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی۔ یعنی، باوجود یوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آوے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریات تھیں جو پیش آ گئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ قابل اعتراض۔“
 555 جناب یحییٰ بختیار: تو یہ جو ہے.....
 مرزانا صراحمہ: یہ ”کشتی نوح“ کا حوالہ ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ اشارہ جو ہے۔ یہ اس حضرت مریم کی طرف ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے؟ یا ان کی طرف ہے جن کا عیسائی ذکر کرتے ہیں؟

مرزا ناصر احمد: اس کی یہ پہلی سطر ہے۔ اس کے صفحے کی پہلی سطر: ”وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا، بلکہ مسیح تو مسیح، میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔“

جناب یحییٰ بختیار: نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں ناں جی، یہ اشارہ جو ہے۔ یہ تحریر جو ہے.....

مرزا ناصر احمد: اس تحریر میں ذکر ہے ان حضرت مریم کا جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ لیکن حوالے بعض اعتراضات کے جواب میں قرآن کریم سے دیئے گئے۔ نہ قرآن کریم سے۔ نہیں بائبل سے دیئے گئے۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی یہ جو حضرت مریم کا ذکر ہے، یہ وہ حضرت مریم ہیں۔ جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اور ان کے متعلق جو کہا ہے.....

مرزا ناصر احمد: جو اعتراضات ہیں۔ ان کے جواب بائبل سے دیئے گئے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: صل سے مجبور ہو کے نکاح کیا بزرگوں کے کہنے پر؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ، یہ.....

مرزا ناصر احمد: بائبل سے لیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ انجیل سے لیا ہے اور اس کو Justify (جائز) کر رہے ہیں:

⁵⁶ ”مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں تھیں جو پیش آئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے۔“

مرزا ناصر احمد: ”وہ قابل رحم تھے نہ قابل اعتراض۔“

بائبل میں جو ہے ان کے بارے میں۔

Mr. Yahya Bakhtiar: He is justifying or explaining?

(جناب یحییٰ بختیار: وہ اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں یا وضاحت کر رہے ہیں)

Mirza Nasir Ahmad: Explaining the situation, justifying the act.

(مرزا ناصر احمد: صورتحال کی وضاحت کر رہے ہیں۔ معاملے کو جائز قرار دے

رہے ہیں)

۴۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(پیر مہر علی شاہ گولڑوی کی اہانت، معاذ اللہ)

جناب یحییٰ بختیار: اب مرزا صاحب میں کچھ اور سبکیٹ کی طرف آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لئے۔ کچھ حوالے نہیں مل رہے۔ مرزا صاحب کے زمانے میں کچھ اور علماء اور بزرگ تھے۔ خدا جانے ان سے بھی *Controversy* رہی یا مخالفت رہی یا کیا بات تھی۔ یہ تو *Context* آپ بتائیں گے۔ مگر یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑہ شریف مرحوم کو ملعون کہا؟

مرزا ناصر احمد: کہاں؟ حوالہ کیا ہے اس کا؟

جناب یحییٰ بختیار: اس میں شعر ہے عربی میں: ”میرے پاس ایک خط آیا۔ ایک جھوٹے آدمی کی طرف سے جو تزییر کر رہا تھا۔ تلبیس کر رہا تھا۔ وہ کتاب خبیث کی تھی اور جیسے پتھو ڈنگ مارتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تیرے لئے ہلاکتیں ہوں اے گولڑے کی زمین! تو ملعون ہوگئی ہے ایک ملعون کے سبب سے، اس لئے تو ہلاکت میں پڑے گی۔“

(اعجاز احمدی، ضمیر زول اسح، ص ۷۵، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۸)

⁵⁵⁷ *Mr. Chairman: The librarian may hand over the book to the witness.* (جناب چیئر مین: لائبریرین کتاب گواہ کو دیں)

جناب یحییٰ بختیار: میں دو چار اور بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ اکٹھے دیکھ لیں۔
مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے۔

(مولانا رشید احمد گنگوہی کی اہانت، معاذ اللہ)

جناب یحییٰ بختیار: کیا مرزا صاحب نے مولانا رشید احمد گنگوہی کو ”اندھا شیطان، لعین، دیو، گمراہ، شقی، ملعون، من المفسدین“ لکھا ہے؟ یہ ہے (انجام آقظم ص ۲۵۲، خزائن ج ۱۱ ص ۲۵۲)
مرزا ناصر احمد: ہاں چیک کریں گے۔
جناب یحییٰ بختیار: آپ یہ چیک کر لیں۔

Mr. Chairman: I think, Mr. Attorney- General let it be put to the witness one by one. The books.....

(جناب چیئر مین: میرا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل ایک ایک کر کے گواہ سے سوال

پوچھیں.....)

۴۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Mr. Yahya Bakhtiar: Sir, these three quotations are alike. (جناب یحییٰ بختیار: جناب تینوں سوال ایک جیسے ہیں) مولانا غلام غوث ہزاروی: وہ یہ جواب دیں کہ ہے یا نہیں۔ جناب چیئر مین: مولانا صاحب! تشریف رکھیں۔ جناب یحییٰ بختیار: میں تینوں پر آ رہا ہوں۔ یہ تینوں پڑھ کے پھر میں ان سے پوچھتا ہوں۔

Mr. Chairman: The books, all the three books may be handed over to the witness and he should say it is there or it is not there. (جناب چیئر مین: مہربانی کر کے تینوں کتابیں گواہوں کے سامنے پیش کر دیں اور وہ یہ کہیں کہ یہ یہاں ہے اور یہ یہاں نہیں ہے)

(مولانا سعد اللہ کی اہانت، معاذ اللہ) جناب یحییٰ بختیار: کیا مرزا صاحب نے مولوی سعد اللہ کا نام لے کر ”بدکار عورت کا بیٹا“ اور ”بدگو، خمیٹ، منحوس، لعین، شیطان، نطفہ سفیہان“ لکھا ہے؟ یہ ہے جی (انجام آتم ص ۲۸۱، ۲۸۲) تو یہ تین آپ چیک کر لیں اور.....

⁵⁵⁸ **Mr. Chairman:** The librarian may please hand over the books to the witness.

(جناب چیئر مین: لائبریرین، مہربانی کر کے کتابیں گواہ کو پیش کریں) ایک کتاب ابھی مفتی صاحب پڑھ رہے تھے وہ تو دے دیں نا۔ نہیں دی؟ اب یہ پڑھ لیں۔ And rest of the books may also be given. (اور مہربانی کر کے باقی کتابیں بھی دے دیں) مرزا ناصر احمد: یہ جو ضمیمہ ”نزول اسح“ از قصیدہ ضمیمہ ”نزول اسح“ کا ایک حوالہ تین میں سے ہے۔ یہ یہاں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جواب جو ہے بعد میں دیں گے۔ اور دوسرے ”انجام آتم“ (اپنے وفد کے ایک رکن سے) کونسا صفحہ ہے؟ یہ جو ہے ”صفحہ ۲۵۲“ انجام آتم“ کا حوالہ ہے، ہاں، یہ بھی درست ہے۔ حوالہ ہے۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب چیئرمین: تھرڈ کا Page بتائیں۔
 مرزاناصر احمد: جی، ۲۸۲، ۲۸۱ ہاں جی، ۲۸۱، ۲۸۲ کا حوالہ بھی موجود ہے۔ لیکن
 کتابیں دیکھیں تو اس کا جواب دیا جاسکتا ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: یہ یہاں موجود ہیں کتابیں۔
 مرزاناصر احمد: ہاں، یہ ہیں۔

Mr. Chairman: Next question.

(جناب چیئرمین: اگلا سوال)
 جناب یحییٰ بختیار: آپ اس کی کچھ وضاحت دینا چاہتے ہیں جی۔
 مرزاناصر احمد: ہاں جی، میں اس کی وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ ان کتابوں کا حوالہ
 دیکھ کے۔ اس وقت نہیں!۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں آپ Briefly بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی؟ پھر تو آپ
 Detail (تفصیل) میں بتادیں نا۔
 مرزاناصر احمد: اکٹھا دے دوں گا۔ وقت ضائع ہوگا خواہ مخواہ۔
 جناب یحییٰ بختیار: ⁵⁵⁹ نہیں، یعنی کیا انہوں نے ان کے خلاف کچھ کہا اس واسطے
 یا.....؟

مرزاناصر احمد: اس کے دو طرح کے جواب ہیں۔ دونوں دوں گا، انشاء اللہ۔ ایک
 یہ کہ ان کے جواب میں یا کن حالات میں ان کو کہا گیا اور دوسرے یہ ان کو اس سے زیادہ کسی اور
 نے تو نہیں کہا۔ کیونکہ اگلے آدمی کی پوزیشن بھی تو پتہ لگنی چاہئے نا۔
 جناب یحییٰ بختیار: کہ انہوں نے ان کی شان میں کچھ کہا اور انہوں نے ان کے
 جواب میں کہا؟

مرزاناصر احمد: یا ان کا مقام دوسرے فرقوں کے نزدیک کیا تھا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، جیسے بھی Explanation (وضاحت) ہے، یہی ہے نا؟
 مرزاناصر احمد: ہاں! یہی Explanation (وضاحت) ہے۔

Mr. Yahya Bakhtiar: In reply or in retaliation?

(جناب یحییٰ بختیار: جواب میں یا رد عمل میں؟)

! اس وقت مرزا کی کتابیں دیکھ کر گویا سانپ سونگھ گیا۔

۴۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحتاً: نہیں، بغیر اس کے کہ میں کوئی جواب دوں، میں نتیجہ نہیں نکال سکتا۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ان کے متعلق کچھ کہا
اور اس کے جواب میں یہ آیا ہے؟

مرزانا صراحتاً: میں دیکھ کے..... یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ چیزیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں۔
Philosophically (فلسفیانہ طور پر) Theoretically (نظری طور پر) لیکن جب تک
کتابیں چیک نہ کی جائیں۔ دیکھا نہ جائے۔ اس وقت تک انسان کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔
جناب یحییٰ بختیار: جو ریفرنس آپ کے سامنے ہے۔ جو کتاب آپ کے سامنے
ہے۔ جس سے یہ میں نے Quote کیا ہے۔ اس میں تو کوئی اس کی Explanation
(وضاحت) نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہیں اور آپ دیکھیں گے؟

560 مرزانا صراحتاً: نہیں، اس میں بھی ساری کتاب اگر میں پڑھوں تو بڑی دیر لگ جائے گی۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے جیسے آپ.....
مرزانا صراحتاً: کتنے صفحات ہیں اس کے؟ ”انجام آقلم“ جو ہے اس کو دو دن لگ
جائیں گے پڑھتے ہوئے مجھے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اسی Passage (پیراگراف) میں آگے یا پیچھے.....
مرزانا صراحتاً: نہیں، آگے پیچھے کہیں اور ذکر آیا ہوا نہ کا، جب تک پوری تسلی نہ کی
جائے، جواب میں کیسے دے سکتا ہوں؟

جناب یحییٰ بختیار: تو فی الحال آپ جواب نہیں دے سکتے اس کا؟
مرزانا صراحتاً: میں اس کا جواب بعد میں دے سکتا ہوں۔

(مرزانا صراحتاً کی گراؤنڈ)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یعنی مختصراً کہ کوئی گراؤنڈ ہوگی آپ کی؟
مرزانا صراحتاً: جی؟
جناب یحییٰ بختیار: کہ کس گراؤنڈ.....

۱ تصنیف، مرزا کی آگے پیچھے سے مکمل معائنہ و چیکنگ و تسلی کے بعد جواب دیں
گے۔ تف برتورے چرخ گردوں، تف! خلیفہ اپنے نبی کی تصنیف پر تحفظات کا شکار ہے۔ گویا نہ
الگ بنے نہ لگے بنے۔

۵۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: یعنی جب تک میں اس کو سٹڈی نہ کروں، کتب کو، جواب کی گراؤنڈ کیسے بنا سکتا ہوں!۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ میں نے کہا کہ انہوں نے ان کی شان میں کچھ کہا تو جواب دے رہے ہیں یہ؟ یا انہوں نے اپنی طرف سے..... وہ خاموش تھے۔ انہوں نے ان کے بارے میں کہا؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔

مرزا ناصر احمد: کتابیں دیکھ کے پتہ لگے گا ناں کہ کونسی چیز ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ کو ان کا پہلے علم نہیں تھا؟

مرزا ناصر احمد:⁵⁶¹ میں نے تو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ مجھے پہلے علم تھا لیکن اس

نقطہ نگاہ سے.....

جناب یحییٰ بختیار: میں نے تو کوئی نقطہ نگاہ نہیں کہا۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، کہ اعتراض کے رنگ میں جو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ہمارے جماعت کے جو مناظر ہیں، مناظرہ کرنے والے، ان کو تو سارے دلائل کا پتہ ہوگا۔ لیکن میں اپنی جماعت کا مناظرہ کرنے والا نہیں۔

(گالی محبت کا رنگ ہے؟)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! کیا گالیوں پر بھی کبھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا؟ آپ کہتے ہیں کہ ”اعتراض کے رنگ میں“ یہ کوئی محبت کا رنگ تو نہیں ہے۔

مرزا ناصر احمد: یہ بھی دیکھنا ہے۔ نہیں یہ دیکھنا ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: آپ کہتے ہیں کہ ”ہم ہمیشہ پیار سے باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو Convince (قائل) کرتے ہیں پیار سے“ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اس لئے میں نے یہ سوال کیا۔ مرزا ناصر احمد: پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ یہ بھی پتہ لگنا چاہئے کہ گالیاں ہیں بھی یا نہیں۔

(ہر بات کے دو معنی؟)

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ ”بدکار عورت

۱۔ کہاں وہ کروڑ کہاں یہ رسوائی۔ اس کو کہتے ہیں ہائے وہ بلندی، ہائے یہ پستی۔

۲۔ جناب اٹارنی جنرل بس کریں۔ اس سے زیادہ اس مسکین کی اور کیا رسوائی ہوگی؟۔

کا بیٹا“ کے دو معنی ہیں ”بدگو“ کے دو معنی ہیں ”خلیث“ کے دو معنی ہیں ”منحوس“ کے دو معنی ہیں۔ ایک اچھے ہیں، ایک برے ہیں۔ تو وہ تو اور بات ہو جاتی ہے؟
مرزا ناصر احمد: نہیں یہاں تو عربی ہے نا۔ یہ عربی کا ترجمہ ہے نا۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، عربی کا ترجمہ ہے۔
مرزا ناصر احمد: تو عربی کے لفظ کے پتہ نہیں کتنے معنی ہیں۔ دو نہیں، پتہ نہیں دس معنی ہوں۔

562 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ”بدکار عورت کا بیٹا“ عربی میں کچھ اور معنی رکھتا ہے؟

مرزا ناصر احمد: عربی میں ”بدکار عورت کا بیٹا“ نہیں کہا گیا۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ ترجمہ ہمیں سے لیا گیا ہے کہ نہیں؟
مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں ترجمہ جو ہے، وہ ایک ترجمہ ہوتا ہے لفظی، وہ کر دیا یہاں۔ لیکن ہم نے جس وقت اپنی تحقیق کرنی ہے تو ہمیں اس لفظ کے وہ معنی جو عربی محاورہ میں مختلف استعمال ہوتے ہیں۔ ان ساروں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس Context میں کون سے معنی میں عربی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: جیسے ”شیطان“ کا ہے۔ اس کا عربی میں، اردو میں، فارسی میں کچھ فرق ہوگا آپ کے خیال میں؟

مرزا ناصر احمد: جو ”شیطان“ کا لفظ ہے نا، اس کے پانچ دس معنی تو ضرور ہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: مگر دونوں زبانوں میں کوئی فرق نہیں اس میں۔
مرزا ناصر احمد: نہیں، بالکل فرق ہے۔ عربی زبان میں اس کو اس معنی میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے کہ اس خاص معنی میں اس کو کسی اور زبان میں استعمال نہ کیا گیا ہو۔
جناب یحییٰ بختیار: جس میں تعریف کی شکل بھی ہوگی یا کہ.....
مرزا ناصر احمد: تعریف اور اس کے میں نام نہیں لے رہا۔ وہ تو جب ہوگی۔ آپ بحث سے پہلے..... اس بحث کے اوپر..... کیسے بحث کی جاسکتی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے، آپ اس کو Explain (واضح) کر دیجئے۔
ایک حوالہ ہے جی مرزا صاحب کا۔ ”جو شخص میرا مخالف ہے وہ عیسائی، یہودی، مشرک اور جہنمی ہے۔“ آپ کے علم میں کوئی ایسا.....

مرزانا صراحتاً: نہیں، اگر میں دیکھوں تو بتا دیتا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: آپ کے علم میں نہیں فی الحال ایسا کوئی.....
 مرزانا صراحتاً: نہیں، اس کے الفاظ صحیح تو دیکھنے سے ہی پتہ چل سکتے ہیں۔ حوالہ
 بتائیں، یہاں پر شاید کتاب ہو۔
 جناب یحییٰ بختیار: حوالہ جی ”نزول المسیح“ ص ۴ اور وہ ”تذکرہ“ بھی آگے لکھا ہوا
 ہے ”تذکرہ“ میں صفحہ ۲۲۷۔
 مرزانا صراحتاً: ہاں، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ شاید یہاں نکل آئے۔ ”نزول المسیح“ صفحہ ۴
 پر تو ایسی کوئی عبارت نہیں۔

*Mr. Chairman: Mr. Attorney- General, the witness
 says it is not there on page 4.*

(مسٹر چیئر مین: گواہ کہہ رہا ہے کہ یہ صفحہ ۴ پر نہیں ہے)
 مرزانا صراحتاً: صفحہ ۴ کے اوپر جو میرے پاس.....
 جناب چیئر مین: نہیں، وہ ریفرنس ہے ”تذکرہ“ کا؟
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، یہ ”نزول المسیح“.....
 مرزانا صراحتاً: یہ ”نزول المسیح“ صفحہ ۴ آپ نے فرمایا ہے نا؟
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، اور ”تذکرہ“ صفحہ ۲۲۷۔

(حوالہ نہیں، ہاں مل گیا، مرزانا صراحتاً فرمان)
 مرزانا صراحتاً: میرے پاس ”نزول المسیح“ ہے۔ اس کے صفحہ ۴ پر تو ایسی عبارت کوئی
 نہیں۔ عبارت کا ایک آدھ فقرہ پڑھ دیں تو میں.....
 جناب یحییٰ بختیار: ”جو میرا مخالف ہے.....“
 مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، یہ مل گیا۔
 جناب چیئر مین: مل گیا ٹھہر جائیں جی۔
 جناب یحییٰ بختیار: ⁵⁶⁴ مل گیا جی؟
 مرزانا صراحتاً: یہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو الفاظ پڑھ دیں تو مقابلہ ہو جائے گا۔
 جناب یحییٰ بختیار: آپ Compare کر لیں جی۔

۵۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحتاً: ”جو میرا مخالف ہے.....“

(مرزا کے مخالف عیسائی، یہودی مشرک ہیں)

جناب یحییٰ بختیار: ”اور جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی، یہودی اور مشرک رکھا گیا۔“
(نزدول اسح حاشیہ ص ۴، خزائن ج ۱۸ ص ۳۸۲)

مرزانا صراحتاً: یہ عبارت تو یہ نہیں کہہ رہی کہ ”میں نے ان کا نام رکھا“.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی،.....

مرزانا صراحتاً: کسی اور طرف اشارہ ہے۔ یہ عبارت ہے یہاں۔ یہ بتاتی ہے کہ کسی جگہ آپ کے خیال میں ان کا نام عیسائی اور مشرک رکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں ہے تو، لیکن اس کا وہ جواب دیں گے بعد میں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں یہاں صرف یہ وضاحت چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کا جو کہنا ہے کہ: ”جو میرا مخالف ہے.....“

مرزانا صراحتاً: ”اور جو میرا مخالف ہے اس کا نام.....“

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو ٹھیک ہے جی.....

مرزانا صراحتاً: ہاں، کس جگہ یہ رکھ.....

جناب یحییٰ بختیار: ”مخالف“ سے ان کی مراد صرف عیسائی، یہودی، نصاریٰ کی طرف ہے؟ کہ وہ مخالف جو ان پر ایمان نہیں لاتے، جو ان کو نبی نہیں مانتے وہ بھی آجاتے ہیں؟
مرزانا صراحتاً: ⁵⁶⁵ یہی میں نے کہا نا کہ یہ فقرہ یہاں موجود ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، نہیں، میں اس کے علاوہ پوچھتا ہوں کہ اور.....

مرزانا صراحتاً: ہاں جی، میں وہی بات کہہ رہا ہوں اس پر جو اس کا جواب ہے۔ وہ میں دیکھ کے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ بھی پھر آپ اپنے جواب میں جو میرا یہ سوال ہے کہ جو ”مخالف“.....

مرزانا صراحتاً: ہاں، میں سمجھ گیا۔

جناب یحییٰ بختیار: ”مخالف“ سے آپ کا مطلب کیا ہے؟

مرزانا صراحتاً: ”مخالف“ سے مراد صرف غیر مسلم ہیں یا مسلمان بھی ہیں۔

۵۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: غیر احمدی۔
 مرزا ناصر احمد: صرف غیر مسلم ہیں یا مسلمان بھی شامل ہیں اس میں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں مسلمانوں میں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہیں، ہم نہیں ہیں،
 اس قسم کے ہیں اور اس قسم کے ہیں۔ کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔
 مرزا ناصر احمد: میں بالکل نہیں کہتا جی۔ میں تو جو فقرہ اس وقت کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈ
 پر آنا چاہئے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ریکارڈ پڑو تو.....
 مرزا ناصر احمد: آیا اس میں غیر مسلم ہیں یا مسلم بھی شامل ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔ اور یہ بھی کہ جو مرزا صاحب کا مخالف ہے وہ ویسے ہی
 ہو جاتا ہے جیسے عیسائی، یہودی، مشرک۔
 مرزا ناصر احمد: آپ یعنی اس کا جواب چاہتے ہیں؟
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، میں اس پر ⁵⁶⁶ Clarification (وضاحت)
 چاہتا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں۔ اس کا جواب چاہتے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: جواب چاہتا ہوں کیونکہ وہ ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔
 مرزا ناصر احمد: ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ جواب اس کا.....

(مخالفوں کو گالیاں)

جناب یحییٰ بختیار: پھر اس طرح جی، جو مخالف ہیں ان کے بارے میں مرزا
 صاحب نے کہا ہے کہ: ”دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ
 گئی ہیں۔“ (مجم الہدیٰ ص ۵۳، خزائن ج ۱۴ ص ۱۷۱) یہاں بھی آپ یہ نوٹ کر لیجئے۔
 مرزا ناصر احمد: حوالہ کیا ہے اس کا؟
 جناب یحییٰ بختیار: ”مجم الہدیٰ“ صفحہ ۵۳۔
 مرزا ناصر احمد: اس کا تو میں مختصر جواب بھی دے سکتا ہوں۔ لیکن تفصیلی بعد میں دوں گا۔
 جناب یحییٰ بختیار: تو اگر آپ دے دیں مرزا صاحب! تو بہت سارے سوال
 ہیں۔ وقت بچ جائے گا۔ جس پر آپ دے سکتے ہیں ابھی۔

۵۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحتاً: اس کے مخالف مسلمان نہیں۔ بلکہ وہ عیسائی ہیں جو اسلام پر حملہ آور ہو رہے تھے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ انہوں نے کس زمانے میں.....
مرزانا صراحتاً: اس میں آگے پیچھے نصاریٰ کا ذکر ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں کیا یہ آپ کو یاد ہے کہ کس زمانے میں انہوں نے کہا تھا؟
..... نبوت کے دعویٰ سے پہلے یا بعد میں؟
مرزانا صراحتاً: یہ جو ہے ناں کتاب.....⁵⁶⁷

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، کئی کتابیں آپ نے کل آپ نے Citation دی
۱۸۷۲ء کی کہ مرزا صاحب نے خود اس زمانے میں ۱۸۷۲ء میں لکھا تھا عیسائیوں کے خلاف.....
مرزانا صراحتاً: اس ساری کتاب کا مضمون جو ہے وہ عیسائیوں کے خلاف ہے اور
بڑا کھول کے ان کا ذکر آیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں.....
مرزانا صراحتاً: پہلے بھی اور آخر میں بھی قطع نظر اس کے کہ لکھی کب گئی۔ جب
وہ مضمون بتاتا ہے کہ وہ نصاریٰ کے متعلق ہے تو تاریخ اس مضمون کے خلاف کیسے بتا دے گی؟

(ذریعہ البغایا میرے مخالف کنجریوں کی اولاد)

مولوی مفتی محمود: جناب والا! عربی کا حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں ہے: ”تلك
کتب ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من معارفها يقبلني و يصدق
دعوتي الا ذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون“
جناب چیئر مین: اس کا ترجمہ بھی کر دیں اور حوالہ بھی دیں۔
مولوی مفتی محمود: ترجمہ یہ ہے: ”یہ وہ کتابیں ہیں جن کی طرف دیکھتا ہے ہر مسلمان
محبت اور مودت کی آنکھ سے، اور اس کے علوم سے نفع اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میری
دعوت کی تصدیق کرتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو کنجریوں کی اولاد ہیں، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی،
وہ قبول مجھے نہیں کرتے۔“

جناب چیئر مین: حوالہ؟ حوالہ بھی دیں۔

⁵⁶⁸ مولوی مفتی محمود: یہ ”آئینہ کمالات“ صفحہ ۵۴۷، (خزائن ج ۵ ص ۱۵۵ ایضاً)

۵۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Mr. Chairman: This book may also be given to the witness. (جناب چیئر مین: یہ کتاب بھی گواہ کو دی جائے)

Mr. Yahya Bakhtiar: This is.... Sir, this is a question because Mirza Sahib said whatever was referred to in the previous question was with reference to Christians; he will give a detailed reply later. Now I ask about the Muslims; what Mirza Sahib said.

(جناب یحییٰ بختیار: یہ سوال اس لئے ہے کہ مرزا صاحب کی کیا ہے کہ پچھلے سوال کا تعلق عیسائیوں سے تھا اور حوالہ بھی عیسائیوں کے بارے میں تھا اور یہ کہ وہ (گواہ) تفصیلی جواب بعد میں دے گا۔ اب میرا سوال مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ جن کے متعلق مرزا صاحب نے کہا: ”کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا اور میری دعوت کی تصدیق کی۔ مگر کبھیوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔“

مرزا ناصر احمد: یہ کہاں کا حوالہ ہے؟ ہاں، ابھی جو صفحہ ۵۴۷.....

جناب یحییٰ بختیار: میں نے وہ ریفرنس کے لئے نکالا تھا۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، بس ٹھیک ہے۔ یہ جو جتنے ہیں ناں، یہ گالیاں دینے وغیرہ

کا الزام، یہ سب پڑھیں تو اکٹھا ہم جواب دے دیں گے اس کا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، مجھے جو ہے ناں، کچھ ریفرنسز مل رہی ہیں اس

وقت، کچھ جو نہیں مل رہیں وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، میرا مطلب ہے کہ ہم پر جتنے اعتراض ہے..... یہ تو فرسودہ

ہے سوال، آٹھ دس سال سے ہو رہا ہے..... تو اس کا جواب دے دیں گے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اگر ان کے جواب آپ ابھی دے سکتے ہیں، ابھی

دیکھیں ناں یہاں: ”کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا اور میری دعوت کی تصدیق کر لی.....“

مرزا ناصر احمد: یہ کتاب مجھے بھیجوا دیجئے۔

جناب چیئر مین: کتاب آگئی ہے۔ کتاب دیکھ کے آپ بتادیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔

مرزا ناصر احمد: اس میں ”ذریعۃ البغایا“ جو لفظ ہے۔ وہ جس معنی میں عربی میں

استعمال کرتے ہیں.....

۵۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Mr. Chairman: No. This is an explanation. Now, first, the witness has to say whether the writing exists in the book or not.

(جناب چیئرمین: نہیں۔ یہ وضاحت ہے۔ گواہ کو پہلے یہ بتانا ہوگا کہ تحریر کتاب میں موجود ہے یا نہیں)
مرزانا صراحتاً: ہاں، یہ الفاظ یہاں ہیں۔

Mr. Chairman: Now the explanation can come.

(جناب چیئرمین: اس کے بعد وضاحت آئے گی)
مرزانا صراحتاً: اور یہ *Explanation* (وضاحت) ہم دیں گے بعد میں۔
ٹھیک ہے، درست ہے۔ یہ ریکارڈ کر لیں۔

Mr. Chairman: The witness is....

جناب بیچی بختیار: ابھی نہیں دے سکتے آپ؟ اس میں مرزا صاحب! کوئی *Difficult* (مشکل) مسئلہ آپ کے لئے تو نہیں ہونا چاہئے۔
مرزانا صراحتاً: نہیں ”ذریعہ البغایا“ کی بحث کرنا ضروری، اس کے لئے عربی لغت کی کتب کا حوالہ ضروری ہے، محاورے کا بھی ضروری ہے۔
جناب بیچی بختیار: آپ کل سے فرما رہے ہیں کہ مسلمان کون ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ: ”کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا اور میری دعوت کی تصدیق کر لی مگر کئیوں اور بدکاروں کی اولاد نے.....“

مرزانا صراحتاً: ”..... ذریعہ البغایا نے..... مگر ذریعہ البغایا نے قبول نہیں کیا۔“
ذریعہ البغایا کا معنی کچھ نہیں ہیں۔ ”ذریعہ البغایا“ کا معنی کچھ نہیں کی اولاد نہیں ہے۔
جناب بیچی بختیار: ”بدکاروں کی اولاد اور کئیوں کی اولاد“ کے کیا معنی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں؟

مرزانا صراحتاً: ⁵⁷⁰ سارے حوالے دے کے میں آپ کو *Convince* (قائل) انشاء اللہ کروں گا کہ اس کے معنی غلط لئے جا رہے ہیں اور دوسرے جو اعتراض ہیں کہ گالیاں دیں سخت الفاظ استعمال کئے۔ وہ سارا ایک وقت میں حل ہو جائے گا۔ مسئلہ یہی حل ہونا چاہئے ناں کہ گالیاں دی ہیں یا نہیں۔ اگر دی ہیں تو کیوں دی ہیں۔ ان کا جواب کیا ہے۔ ایک وقت میں حل ہو جائے گا۔

۵۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا اس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا اس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں اس قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: پھر ایک اور ریفرنس ہے جی، وہ بھی میں دیکھ لوں گا۔ مگر یہاں جو میرے پاس نوٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں نوٹ کر لیتے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ”اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔“
 مرزا ناصر احمد: اس کا حوالہ کیا ہے؟
 جناب یحییٰ بختیار: ”انوار الاسلام ص ۳۰“
 مرزا ناصر احمد: یہ بھی دیکھ لیں گے۔

Mr. Yahya Bakhtiar: Page may be verified page 30.

(جناب یحییٰ بختیار: صفحہ کی تصدیق کر لیں)
 جناب چیئرمین: اگر کتاب ہے تو کتاب دے دیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: اور اس پر میں آپ سے یہ Request (درخواست) کروں گا کہ یہ جو ہے ”ہماری فتح“ سے کیا مراد تھی مرزا صاحب کی؟
 مرزا ناصر احمد: غلبہ اسلام۔
 جناب یحییٰ بختیار: یعنی ایک چیز جو Establish (ثابت) ہوگی یا ہوگی؟
 مرزا ناصر احمد: ہوگی۔
 جناب یحییٰ بختیار: تو قائل تو پھر Future (مستقبل) میں ہوگا۔ پہلے سے
 ”ولد الحرام بننے کا شوق“ اس کو کہہ دیا۔

مرزا ناصر احمد: جو مستقبل میں اسلام اتنا غالب آجائے گا.....
 آپ نے دوسری جگہ لکھا ہے: ”ساری دنیا میں اسلام غالب آجائے گا اور نوع انسانی محمد ﷺ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے گی اور یہ حالت ہوگی کہ جو لوگ نبی کریم ﷺ کو ماننے والے نہ ہوں گے ان کی حالت ہوگی چوڑھوں چماروں کی طرح۔“
 جناب یحییٰ بختیار: ”ولد الحرام بننے کا شوق“ دیکھئے، مرزا صاحب! میرے پاس شاید یہ عبارت غلط ہو۔ اس واسطے میں کہہ نہیں سکتا۔ مگر جو لکھا ہوا ہے اس کا میں یہ کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ: ”اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا.....“
 (انوار الاسلام ص ۳۰، خزائن ج ۹ ص ۳۱)

مرزانا صراحتاً: ابھی یہ تو اعلان ہی نہیں کیا گیا کہ ہماری فتح ہوگئی ہے۔ مستقبل کے متعلق.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، Clarification (وضاحت) چاہتا تھا۔

مرزانا صراحتاً: ہاں مستقبل کی بات ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، Clarification (وضاحت) چاہتا تھا۔

مرزانا صراحتاً: مستقبل کے متعلق بات ہے۔ آج کے.....

جناب یحییٰ بختیار: مستقبل کے متعلق بات۔ اور ساتھ یہ بھی ہے.....

مرزانا صراحتاً:..... اس نسل کے متعلق نہیں ہے۔

572 جناب یحییٰ بختیار: کہ: ”اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے“

مرزانا صراحتاً: یہ سارے اکٹھے آ جائیں گے جواب۔ بڑے کھل کر آئیں گے۔ سارے

لکھ دیں گے ہم کہ یہ کہا ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ یہ ساری فہرست اگر ہمیں دے دیں تو ہم.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، جب تک ہمارے پاس جو حوالے ہیں ہم خود

Verify (تصدیق) نہ کر لیں.....

۱۔ یہاں پہنچ کر قادیانی حضرات کے مقدر پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ دجال قادیان کا دجال خلیفہ کس طرح سادہ قادیانیوں کے سامنے صرف جھوٹ نہیں بولتے۔ بلکہ جھوٹ سے بھی زیادتی کرتے ہیں۔ حوالہ مذکور میں مرزا قادیانی نے یہ عبارت عبد اللہ آتھم سے مباحثہ سے متعلق لکھی۔ جب عبد اللہ آتھم مرزا کی پیشین گوئی کے مطابق نہ مرزا تو مرزا قادیانی نے اس کے نہ مرنے کے باوجود کہا کہ ہماری فتح ہوگئی۔ ”جو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔“ مجھ مسکین کی درخواست پر قادیانی کرم فرمایا یہ حوالہ اپنے طور پر گھر میں دیکھ لیں کہ جو بات مرزا نے اپنے متعلق کہی، مرزانا صراحتاً اسے آنحضرت ﷺ سے متعلق قرار دے کر دنیا کی آنکھوں میں اپنے دجل کی مٹی ڈالنی چاہی، اور جو بات ماضی کے متعلق ہے۔ اسے مستقبل سے متعلق کر دیا۔ قادیانی یہ حوالہ پڑھیں کہ ان کے خلیفہ کتنے بڑے کذاب ہیں۔ وہ پڑھیں اور فیصلہ کریں ورنہ یاد رکھیں کہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا تھا۔ مرزا کے حوالہ کی عبارت مرزانا صراحتاً کے استدلال کو قبول کرتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔

۶۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: نہیں، جو دینا چاہتے ہیں، وہ دے دیں۔ اس کا ایک جواب بڑا واضح اور بڑا روشن اور ٹھیک، وہ جو ہے وہ سارا آ جائے گا سامنے۔ جو لکھا گیا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ جس وجہ سے لکھا گیا وہ وجہ دنیا کے سامنے آنی چاہئے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، اسی وجہ سے تو ہم Clarification (وضاحت) چاہتے ہیں.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: ورنہ آپ کو تکلیف کیوں دیتے۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں وضاحت بڑی ضروری ہے۔

(مرزا کا مخالف جہنمی ہے)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں ”تبلیغ رسالت“ میں صفحہ ۲۷.....

مرزا ناصر احمد: کونسا؟ کتاب کون سی ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: ”تبلیغ رسالت“ جلد نمبر صفحہ ۲۷۔

”جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول ﷺ کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہوگا۔“

(تبلیغ رسالت ج ۹ ص ۲۷، تذکرہ ص ۳۶ طبع ۳، مجموعہ اشہارات ج ۳ ص ۲۷۵)

⁵⁷³ مرزا ناصر احمد: یہ کہاں کا حوالہ ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: ”تبلیغ رسالت“ کا ہے، جلد نمبر۔

مرزا ناصر احمد: جی، یہ دیکھ کے تصدیق یا تردید کریں گے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، یہ ابھی آپ دیکھ لیجئے۔

Mr. Chairman: The book may be handed over to the witness. Yes, this writing is admitted as already produced?

(جناب چیئر مین: کتاب گواہ کو دی جائے۔ ہاں یہ تحریر مانتے ہیں۔ یا پہلے سے پیش

شدہ تحریر کو تسلیم کرتے ہیں) جو Writing (تحریر) دی گئی ہے گواہ اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں؟

مرزانا صراحتاً: یہ جو..... ہاں جی، اس میں وہ فقرہ ہے۔ آگے پیچھے اور بھی ہیں۔ تو جواب دیں گے۔

جناب یحییٰ بختیار: اب کل، مرزا صاحب! جو آپ فرما رہے تھے۔ اس پر کچھ ممبران کو ابھی تک *Further clarification* (مزید وضاحت) کی ضرورت ہے۔ اس لئے میں اسے بہر حال دہراتا ہوں: ”کہ جو شخص خدا اور رسول ﷺ کو نہ مانے..... کیا کوئی شخص جو خدا اور رسول ﷺ کو نہ مانے، وہ ملت اسلامیہ میں رہ سکتا ہے؟

مرزانا صراحتاً: جو شخص.....؟

جناب یحییٰ بختیار: بڑا *Clear* (واضح) ہے جی۔

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، بالکل *Clear* (واضح) ہے۔ جو شخص اللہ اور محمد ﷺ پر ایمان لاتا ہے۔ وہ مسلمان ہے۔ جو شخص اللہ اور محمد ﷺ پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: اگر یہ کہیں کہ اللہ اور رسول ﷺ کو مانتا ہے تو مسلمان ہے، اگر نہیں مانتا تو مسلمان نہیں.....

مرزانا صراحتاً: میں نے یہ الفاظ..... تو کیا فرق پڑتا ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: ⁵⁷⁴..... تو یہ جو مسلمان نہیں رہتا، یہ دائرہ ملت سے خارج ہے..... جو آپ *Define* کر رہے ہیں..... نہ صرف ملت اسلام سے؟

مرزانا صراحتاً: تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں یہ..... بڑا واضح میرا فقرہ تھا، میرے خیال میں۔

جناب یحییٰ بختیار: اور جو مرزا غلام احمد صاحب کو نہیں مانتا؟

مرزانا صراحتاً: جو شخص بھی..... یعنی پہلے سے آگے چلوں گا میں..... جو شخص بھی اللہ اور محمد ﷺ کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ جو بعد میں..... اور جو احکام قرآن کریم میں ہیں، سات سو، نبی اکرم ﷺ کے ارشادات ہیں، یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا، ان کو نہیں مانتا، وہ گناہ گار ہے۔ جس کے لئے حدیث میں ”کفر“ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ آپ نے *Clarify* (واضح) کر دیا، اس پر *No confusion in there* (کوئی ابہام نہیں ہے) سوال صرف یہ تھا کہ جو اللہ اور رسول ﷺ کو نہیں مانتا.....

مرزانا صراحتاً: جو اللہ اور رسول ﷺ کو نہیں مانتا.....

۶۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔۔۔۔۔
 مرزا ناصر احمد: مسلمان نہیں ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر میں نے
 آپ سے سوال پوچھا تھا کہ جو مرزا غلام احمد صاحب کو نبی نہیں مانتا، وہ.....
 مرزا ناصر احمد: ”جو نبی نہیں مانتا“ اگر..... آپ نے صرف ایک فقرہ کہا نا۔.....
 اس کا تجزیہ کریں تو دو فقرے بنتے ہیں۔ جو مرزا غلام احمد صاحب کو نبی نہیں مانتا اور اس کے ساتھ
 ہی اللہ اور رسول ﷺ کو بھی نہیں مانتا، وہ اسلام سے خارج ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: اس کے ساتھ ہی.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، اس کے ساتھ ہی اللہ اور رسول ﷺ کو نہیں مانتا، وہ اسلام
 سے خارج ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مگر یہ تو نہیں ہے.....
 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، اگلا فقرہ۔ میں نے ”دو“ کہا ہے نا۔ اور دوسرے یہ
 کہ جو مرزا غلام احمد صاحب کو نبی نہیں مانتا، لیکن اللہ اور رسول ﷺ پر ایمان لاتا ہے۔ وہ اسلام
 سے خارج نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ اور رسول ﷺ پر ایمان لاتا ہے، ان کو
 مانتا ہے اور مرزا غلام احمد صاحب کو نبی نہیں مانتا۔ وہ پھر بھی مسلمان رہ سکتا ہے؟ گناہ گار ہوگا وہ؟
 مرزا ناصر احمد: ہاں، غیر مسلم نہیں ہے۔ گناہ گار ہوگا، ہوگا وہ۔
 جناب یحییٰ بختیار: لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ جو مرزا غلام احمد صاحب کو نبی نہیں
 مانتا، وہ اللہ اور رسول ﷺ کو بھی نبی نہیں مانتا۔ اللہ اور رسول ﷺ کو بھی نہیں مانتا؟

مرزا ناصر احمد: عام جب یہ ہم بولیں گے فقرہ، تو آپ درست کہہ رہے ہیں۔ عام
 طور پر یہی ہے۔ لیکن اس میں وہ آ گیا نا، اتمام حجت والا آ گیا نا۔ وہ آگے تفریق ہوگئی
 نا۔ جو مرزا غلام احمد صاحب کو نبی نہیں مانتا، باوجود اس کے کہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا اور رسول ﷺ کا

۱۔ مرزا قادیانی کہتا ہے ”خدا تعالیٰ نے میرے اوپر ظاہر کیا کہ ہر ایک شخص جس کو میری
 دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں (تذکرہ ص ۶۰ طبع سوم مطبوعہ چناب
 نگر) اب مرزا کہتا ہے جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، مرزا ناصر کہتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج
 نہیں، یعنی مسلمان ہے۔ اب ان دونوں میں سچا کون؟ یادوؤں جھوٹے۔ قادیانی غور فرمائیں۔

۶۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

حکم ہے کہ نبی مانے، اس کا مقام اور ہے اور جو نبی نہیں مانتا اور اس کے اوپر اتمام حجت نہیں ہوئی، اس کا مقام اور ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہاں جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں: ”علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول ﷺ کو بھی نہیں مانتا۔ کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول ﷺ کی پیش گوئی موجود ہے۔“

مرزانا صراحتاً: ⁵⁷⁶ وہ شخص جو یہ جانتے ہوئے کہ آپ کی نسبت خدا اور رسول ﷺ کی پیشگوئی موجود ہے، وہ نہیں مانتا، وہ خدا اور رسول ﷺ کو نہیں مانتا۔ یہی میں نے کہا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ دائرہ اسلام اور ملت اسلامیہ دونوں سے باہر ہے؟
مرزانا صراحتاً: ہاں۔ اتمام حجت کے بعد جو باغیانہ طریق اختیار کرے اور وہ تو یہ کہتا ہے ناں کہ ”میں جانتا ہوں، مجھ پر اتمام حجت ہوئی کہ خدا اور رسول ﷺ کا حکم تو یہی ہے کہ مانو۔ مگر میں نہیں مانتا“ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خدا اور رسول ﷺ کو نہیں مانتا۔

جناب یحییٰ بختیار: اور ”اتمام حجت“ کا تو ہم آپ سے کل بھی ذکر کر چکے ہیں۔
مرزانا صراحتاً: ہاں، وہ تو ہو گیا کہ جو خدا کے نزدیک اتمام حجت ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: اور اس کا فیصلہ جو ہے.....
مرزانا صراحتاً: وہ قیامت کے دن ہوگا۔

جناب یحییٰ بختیار: قیامت کے دن ہوگا۔ اگر اس دنیا میں کوئی آدمی مجھے کہے کہ ”بھئی! یہ اتمام حجت ہو گیا.....“

مرزانا صراحتاً: اور آپ کسی مواخذہ اور سزا کے اس دنیا میں حقدار نہیں بنتے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ایک منٹ کے لئے۔ اگر اتمام حجت ہو جائے، اس کے بعد.....

۱۔ مرزانا صراحتاً کہتے ہیں کہ مرزا کا منکر کون ہے؟ اس کا فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ لیکن مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میری بیعت نہ کرنے والا جہنمی ہے۔ آخرت کو فیصلہ ہونا تھا؟ تو مرزا نے جہنمی کا فیصلہ کیوں سنا دیا؟ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک مرزا کا نہ ماننے والا مسلمان نہیں۔ خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے اور جہنمی ہے۔ لیکن مرزانا صراحتاً کے لئے یہ کہنا گلے کا کاٹنا بن گیا۔ نہ گلے بنے نہ ننگے بنے۔ اس لئے ممبران کے سامنے اس کی درگت بن رہی ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ ”ولعذاب الاخرة اکبر لو كانوا يعملون (القرآن)“

۶۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: اس کے بعد بھی آپ اس دنیا میں نہیں بنتے۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ کافر اور ملت اسلامیہ سے باہر ہو جاتا ہے؟
 مرزا ناصر احمد: اتمام حجت کے بعد جو شخص باغیانہ ذریعہ اختیار کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ ”خدا اور رسول ﷺ کا حکم تو ہے لیکن میں نہیں مانتا“ تو اس نے خدا اور رسول ﷺ کے حکم کا انکار کیا۔

⁵⁷⁷ جناب یحییٰ بختیار: اگر کوئی یہ کہے کہ جی ”یہ خدا اور رسول ﷺ کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ آپ کا خیال ہے“.....

مرزا ناصر احمد: وہ تو میں نے ابھی بتایا جی، وہ دوسری قسم ہے۔ اسی واسطے میں نے کہا کہ پھر آگے دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک وہ جو کہتا ہے کہ ”خدا اور رسول ﷺ کا حکم ہے مگر میں نہیں مانتا“ وہ تو دائرہ اسلام، اسلام سے خارج ہو گیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ ”میں سمجھتا ہی نہیں کہ خدا اور رسول ﷺ کا حکم ہے“ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، وہ ملت اسلامیہ سے بالکل خارج نہیں ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: اب ”اتمام حجت“ پر بھی کچھ Clarification (وضاحت) کی مزید ضرورت ہے۔ کیونکہ آپ کو میں نے تکلیف دی، دو دفعہ کہ اس کی وضاحت کریں اور پوزیشن Clear (واضح) نہیں ہوئی۔

مرزا ناصر احمد: کونسا پہلو تشریح کیا اور اسے Clear (واضح) ہونا چاہئے؟
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ اسی لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ ”اتمام حجت کے باوجود اس کی دو قسمیں ہیں“ ایک تو وہ عبدالحکیم صاحب ہیں جو بیعت لے آئے، بعد میں وہ مرتد ہوئے۔ یہ آپ کا نقطہ نظر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ”میں نہیں مانتا۔“ ایک تو وہ کیٹیگری ہے کہ.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ کیٹیگری نہیں ہے..... نہیں، ان دو کیٹیگریز میں وہ نہیں ہے۔ کیٹیگریز جو دو نہیں ہماری اس بحث میں، ایک وہ شخص ہے جو اعلان کرتا ہے: ”واستیقنت انفسہم“ میں نے کل قرآن کریم کی آیت: ”واستیقنت ہا انفسہم“ کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل یقین کرتے ہیں، لیکن وہ انکار کرتے ہیں اس سے۔ یہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے.....
 جناب یحییٰ بختیار: یہ بالکل درست ہے۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا اس دم
 کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا اس دم
 اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
 یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
 گاہے گاہے باز خواں اس قصہء پارینہ را.....

مرزانا صراحتاً: تو جو ایسے لوگ ہیں، وہ اس اتمام حجت میں آتے ہیں۔ جس کے بعد پھر خدا اور رسول ﷺ کے منکر، بغاوت کی وجہ سے، اور وہ اسلام سے خارج۔ یہ ایک قسم ہے.....
جناب یحییٰ بختیار: نہیں،.....
مرزانا صراحتاً: دوسری قسم وہ ہے جو یہ نہیں کہتے کہ ”ہمیں سمجھ آگئی ہے“ اور کہتے ہیں کہ ”ہم نہیں سمجھ صحیح یا غلط“ قطع نظر اس کے یعنی سمجھ آئی ہے یا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ”ہمیں سمجھ نہیں آئی“ اور انکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں ہیں جن پر اتمام حجت ہو چکا.....
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں یہ چاہتا ہوں۔.....
مرزانا صراحتاً: اور اگر مخفی ہوا ہے تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرا اور آپ کا کام نہیں کہ اس پر حکم لگائیں۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، ”اتمام حجت“ کا جو مفہوم ہے۔ اسے میں واضح کرانا چاہتا ہوں کہ اگر اتمام حجت ہو جائے تو اس میں کیا ضروری ہے کہ Convince (قائل) بھی ہو جائے؟

مرزانا صراحتاً: ”اتمام حجت“ کے معنی ہی یہ ہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ دیکھیں جی، یہ میں نے جو ڈکشنری.....
مرزانا صراحتاً: ”وحدوا بہاواستیقنت ہا انفسہم“
جناب یحییٰ بختیار: ”اتمام حجت“.....
مرزانا صراحتاً: یہ ڈکشنری کون سی ہے؟
جناب یحییٰ بختیار: ”نور اللغات“ اور دوسری میں بھی ایسے ہی آجاتا ہے۔
مرزانا صراحتاً: نہیں، نہیں، یہ کونسی لغت ہے؟
جناب یحییٰ بختیار: ”نور اللغات“ جلد اول۔
مرزانا صراحتاً: یہ تو کوئی سٹینڈرڈ ڈکشنری نہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: کوئی سٹینڈرڈ ڈکشنری آپ لے آئیے۔ ہم اسی سے دیکھ لیتے ہیں۔
مرزانا صراحتاً: نہیں، یہاں ہونی چاہئے۔ سٹینڈرڈ ڈکشنری یا تو ”مفردات“
راغب“ ہے، قرآن کریم کے الفاظ کے بیان کے لئے، یا پھر ہماری بڑی بڑی ڈکشنریز۔
جناب یحییٰ بختیار: ”اتمام حجت“ جو ہے نا جی، میں آپ کو یہاں پڑھ کر سنا تا ہوں۔ ڈکشنری کی کوئی Value (قدر و قیمت) نہ ہی سہی، وہ آپ بیچ کر لیں: ”اتمام

۶۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

حجت: صحت کا پورا کرنا۔ کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانے اور معاملہ طے کرنے کی جگہ۔
 مرزا ناصر احمد: اس کی تو اردو بھی ٹھیک نہیں۔ ڈکشنری کہاں سے ٹھیک ہوگی؟
 جناب یحییٰ بختیار: ”حجت کا پورا کرنا“ اس میں کوئی غلطی ہے؟
 مرزا ناصر احمد: ہاں، یہ سارا فقرہ، اردو نہیں ٹھیک۔
 جناب یحییٰ بختیار: ”حجت کا پورا کرنا“.....
 مرزا ناصر احمد: ”حجت کا پورا کرنا“ کیا مطلب؟
 جناب یحییٰ بختیار: Argument (دلائل) کو Complete (مکمل) کرنا۔
⁵⁸⁰ مرزا ناصر احمد: پھر لفظی..... کوئی انگریزی کا فقرہ لے کر اس کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے۔ یہی میں نے کہا تھا کہ اس کی اردو درست نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی کا فقرہ لے کر اس کا ترجمہ کر دیا۔

جناب یحییٰ بختیار: ”کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانے اور معاملہ طے کرنے کی جگہ۔“
 مرزا ناصر احمد: جو، جو..... یہ فقرہ بتاتا ہے کہ یہ ڈکشنری معیاری نہیں۔ ”منجد“ ہے۔ ”اقرب“ ہے۔ اصل ”مفردات راغب“ ہے۔ ”لسان العرب“ ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: آپ کوئی ڈکشنری لے آئیں۔ جو مفہوم آپ دے رہے ہیں.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، میں ڈکشنری سے بتا دوں گا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: کہ ”اتمام حجت“ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ”صرف سمجھا دینا، اچھی طرح، آخر تک“ بلکہ یہ ہے کہ ”وہ Convince (قائل) ہو جائے۔“
 مرزا ناصر احمد: میں..... نہیں، نہیں، میں ذرا تجزیہ کروں اس فقرے کا۔ ”اتمام حجت“ کے معنی ہو ہی نہیں سکتے کہ ”سمجھانے والا مطمئن ہو گیا کہ میں نے سمجھا دیا۔“ This is ridiculous (یہ مضحکہ خیز ہے) ”اتمام حجت کے معنی یہ ہیں کہ ”جسے سمجھایا گیا ہے وہ مطمئن ہو گیا کہ یہ بات صحیح ہے“ یہ کہنا کہ ”اتمام حجت“ کے یہ معنی ہیں کہ ”سمجھانے والا سمجھ جائے کہ جی میں نے تو سمجھا دیا“ یہ مسخر اپن ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: میرا یہ مطلب ہے کہ جو Impression ہوتا ہے.....

Mirza Nasir Ahmad: This is ridiculous.

(مرزا ناصر احمد: یہ مضحکہ خیز ہے)

جناب یحییٰ بختیار: میں اس لئے، مرزا صاحب! آپ کی توجہ دلا رہا ہوں.....

581 مرزانا صراحمہ: جی ٹھیک ہے۔ بڑی مہربانی۔
 جناب یحییٰ بختیار: ڈکٹری سے مطلب یہ نکلتا ہے۔
 مرزانا صراحمہ: اصل صحیح ڈکٹری جو ہے یہ ڈکٹری غلط ہے
 جناب یحییٰ بختیار: یہ ڈکٹری غلط ہوگی یہ تین چار ڈکٹریاں ہیں
 مرزانا صراحمہ: لیکن جو صحیح ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔
 جناب یحییٰ بختیار: کہ وہ یہ ہے ان ڈکٹریوں کے مطابق کہ ”اتمام حجت“
 کا مطلب یہ ڈکٹری سے نکلتا ہے کہ ”اپنی طرف سے انہوں نے پورا سمجھانے کی کوشش کی“
 مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: Explain (واضح) کرنے کی کوشش کی“
 مرزانا صراحمہ: نہ، نہ، یہی میں نے کہا کہ ”اپنی طرف سے تو مطلب ہے کہ جو
 سمجھانے والا ہے اس کی تسلی ہوئی ”اتمام حجت“ یہ ہے کہ ”جس کو سمجھایا گیا ہے اس کی تسلی ہوئی۔“
 جناب یحییٰ بختیار: یعنی یہ کوشش جو ہے، سمجھانے والے کی ہوتی ہے یا سمجھنے والے کی؟
 مرزانا صراحمہ: سمجھنے والے کی۔ سمجھنے والے کی ”اتمام حجت“ سمجھنے والے کی ذہنی
 کیفیت ہے۔ یہ سمجھانے والے کی نہیں۔ یعنی ایک شخص ہوتا ہے وہ ایک دلیل دے کے کہتا ہے کہ
 ”میں نے تو اتما حجت کر دیا“

جناب یحییٰ بختیار: دیکھیں، مرزا صاحب! آپ مجھے سمجھاتے ہیں۔ تو اتما حجت
 میں آپ کی بھی Effort (کوشش) ہے، میری بھی Effort (کوشش) ہے
 582 مرزانا صراحمہ: اور نتیجہ آپ کی Effort (کوشش) پر منحصر ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، نتیجہ میری Effort (کوشش) پر ہے کہ میں سمجھا ہوں یا
 نہیں سمجھا۔ آپ جج نہیں ہیں اس بات کے کہ میں سمجھا ہوں یا نہیں سمجھا
 مرزانا صراحمہ: نہیں میں نہیں جج۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ نہیں کہہ سکتے کہ ”کافر ہے“
 مرزانا صراحمہ: یہی میں نے کہا پہلے، کہ وہ ایک شخص جو خود اعلان، انکار نہ کرے۔ بلکہ
 سمجھانے والا سمجھے میں نے سمجھا دیا، اتما حجت کر دیا۔ سمجھنے والا سمجھے کہ مجھ پر اتما حجت نہیں ہوا۔ تو
 کسی کا حق نہیں کہ وہ اس کے اوپر حکم نازل کرے۔ کیونکہ حدیث میں نبی کریم ﷺ نے یہی فرمایا:
 ”الشفقت قلبہ“ کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، اس کے حالات اور ذہن کو دیکھ کر، کہ وہ حقیقتاً نہیں سمجھا؟

۶۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: یعنی ”اتمام حجت“ کا دوسرا مطلب جو آپ لے رہے ہیں، وہ صرف Convince (قائل) نہیں ہوتا۔ بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ”ہاں Convince (قائل) ہو گیا ہوں؟“

مرزاناصر احمد: ہاں، ہاں، ”اتمام حجت“ جو ہے۔ میں نے پہلے کہا ہی یہ تھا۔ جناب یحییٰ بختیار: اس لئے تو میں Clarification (وضاحت) لے رہا ہوں۔ مرزاناصر احمد: ہاں، ہاں، میں نے یہی کہا تھا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ”مجھ پر اتمام حجت ہو گیا، میں جانتا ہوں کہ واقعہ یہی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتا۔“ کل آپ نے پوچھا تھا ”دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں؟“ میں نے عرض کی تھی کہ ”میں خود گواہ ہوں۔“ جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں نے کہا: Rare (خال خال) ہوتے ہوں گے۔⁵⁸³ مرزاناصر احمد: ہاں، Rare (خال خال)۔ اور پھر میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کر دی۔ قرآن کریم کہتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جناب یحییٰ بختیار: تو پھر اس Interpretation (توضیح) کے مطابق یہ جو الفاظ آئے ہوئے ہیں کیونکہ میں.....

مرزاناصر احمد: ہاں، اس Interpretation (توضیح) کے مطابق ”اتمام حجت“ جہاں آئے گا۔ ہمارے لٹریچر میں، اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ Convince (قائل) بھی ہو گیا ہے۔ اگر اس دنیا کا ہے۔ قائل بھی ہو گیا اور اعلان بھی کر دیا..... جناب یحییٰ بختیار: اعلان بھی کر دیا؟ مرزاناصر احمد: اور اگر وہ Convince (قائل) ہو گیا ہے اور اعلان نہیں کرتا، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہمارا یہ نہیں ہے کوئی کام۔ جناب یحییٰ بختیار: اور یہ جو ریفرنس آرہے ہیں کہ: ”جو.....“ مرزاناصر احمد: یہ سارے ریفرنس کا یہ مطلب ہے۔ جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اس کے علاوہ جو باقی ریفرنسز ہیں، ان میں جو کہتے ہیں کہ ”جی کافر ہے“ اور ”دائرہ اسلام سے خارج ہے“..... مرزاناصر احمد: سارے، اس کے سارے..... جناب یحییٰ بختیار: اس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ مرزاناصر احمد: اس کیٹیگری کے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: باتیوں پر نہیں Apply (لاگو) ہوتا؟
 مرزا ناصر احمد: ہاں۔ لیکن دوسروں کے متعلق ہمارے احادیث میں اور اسلام کے
 محاورے میں کثرت کے ساتھ ”گناہ“ کو ”کفر“ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ⁵⁸⁴ نہیں، میں یہ کہتا ہوں، جو آپ کی تحریرات ہیں۔ تقاریر
 ہیں۔ ان میں جو ایسا ذکر آتا ہے۔ میں ان کی طرف.....

Mr. Chairman: You want to continue, Mr. Attorney- General?

(مسٹر چیئر مین: مسٹر انارنی جنرل! کیا آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں؟)

Mr. Yahya Bakhtiar: Just five minutes more, Sir.

(جناب یحییٰ بختیار: جناب والا! صرف پانچ منٹ کے لئے)

Mr. Chairman: I see.

(مسٹر چیئر مین: ہاں ٹھیک ہے)

جناب یحییٰ بختیار: آپ یہ دیکھیں نا جی، کہ کل اسی پوائنٹ پر کل میں نے آپ کو
 پڑھ کر بھی سنایا تھا، پرسوں: ”ہر ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں
 مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد ﷺ کو نہیں مانتا، محمد ﷺ کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا،
 وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“

(کلمۃ الفصل ص ۱۱۰ مصنفہ مرزا بشیر احمد پسر مرزا قادیانی)

ان سے مراد صرف وہی ہیں جو تمام حجت کے بعد.....؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں تمام حجت کے بعد۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ میں Clarify (واضح) کرنا چاہتا تھا۔ پھر آگے ہے جی:
 ”ہم چونکہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اور غیر احمدی آپ کو نبی نہیں مانتے، اس لئے قرآن پاک
 کی تعلیم کے مطابق کسی نبی کا انکار بھی کفر ہے۔ غیر احمدی بھی کافر ہیں۔“ تو.....

مرزا ناصر احمد: یہ بھی یہی ہے ”نہیں مانتے“ کا مطلب.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ”غیر احمدی“ کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کے سارے.....؟
 مرزا ناصر احمد: ⁵⁸⁵ نہیں، سارے نہیں۔ وہ غیر احمدی جن پر تمام حجت اس معنی

میں ہو گیا ہے۔ وہ ہے۔

۷۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: اور یہ جو آگے انہوں نے فرمایا ہے کہ: ”حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے متعلق صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم ﷺ نے عیسائیوں کے ساتھ۔“ تو یہ بھی وہی کیسے ہے؟

مرزا ناصر احمد: نہیں، یہ تو چیک کرنے والا حوالہ ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں کل، پرسوں سنا چکا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: یہ سنا چکے ہیں؟

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔

مرزا ناصر احمد: اس کا کیا ہے ریفرنس؟

جناب یحییٰ بختیار: یہ ہے جی ”ریویو آف ریلیجن“ صفحہ ۱۲۹۔ یہ میں نے تفصیل سے

سنایا ہے۔ میں سارا پڑھ دیتا ہوں پھر آپ کو یاد آ جائے گا۔ یہ پہلی لائن میں نے پڑھی ہے۔ مرزا صاحب! میں تفصیل سے پڑھ دیتا ہوں.....

(مرزا ناصر احمد کا اعتراف شرمندگی)

مرزا ناصر احمد: میں بڑا شرمندہ ہوں۔ یہ لکھا ہوا تھا اور جا کے چیک نہیں کیا۔

جناب یحییٰ بختیار: میں یہ تفصیل سے سنا تا ہوں۔ پھر آپ کو یاد آ جائے گا۔ کل میں

نے سنایا تھا آپ کو کہ: ”حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا جو

نبی کریم ﷺ نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں.....“

مرزا ناصر احمد: ⁵⁸⁶ یہ مجھے یاد آ گیا۔ میں تو اس بات پر معذرت کر رہا ہوں کہ انہوں

نے نوٹ کیا لیکن چیک نہیں کیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں ابھی جا کے یہی کام کروں گا۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، چیک کر لیتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: چیک کر لیجئے۔ پھر آخری بات..... مرزا صاحب! آپ

معاف کریں، *I am repeating myself* (میں اپنی بات دہرا رہا ہوں)

Mirza Nasir Ahmad: I would have to repeat

myself.

(مرزا ناصر احمد: مجھے اپنی بات دہرائی پڑے گی)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, no, by all means, by all

(جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، بھد شوق) means.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہہ چکے ہیں۔ وہ اس میں کوئی
Confusion (ابہام) ہو گیا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ پوزیشن Clear (واضح) نہیں ہے میرے
لئے، میں نہیں سمجھا، اور اس لئے میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ: ”جب کہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے
کہ مسیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی.....“ اب دیکھیں ایک اور کیٹگری ہے جو کہ.....
مرزا ناصر احمد: نجات.....

جناب یحییٰ بختیار: ایک منٹ مجھے عرض کرنی ہے۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: اتمام حجت کے بعد ایک آدمی کافر ہو گیا اور کسی کیٹیگری میں چلا
گیا اور وہ ختم۔ مگر ایک آدمی جب اس کیٹیگری میں آیا ہی نہیں: ”جب کہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے
کہ مسیح موعود کو ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تو کیوں خواہ مخواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے
کی کوشش کی جاتی ہے۔“

مرزا ناصر احمد: اس میں تو جو بات پہلے ہو چکی.....

جناب یحییٰ بختیار: یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ ابھی ان کو غیر احمدی ثابت کرنے
کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ”ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔“ اس پر آپ Further
explanation (مزید وضاحت) دیں.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: آپ کہتے ہیں: ”اس کے باوجود غیر احمدی، جو ان کو نہیں
مانتے، وہ مسلمان کی کیٹیگری میں آتے ہیں“ وہ کہتے ہیں: ”نہیں آتے، آپ کوشش نہ کریں۔“

مرزا ناصر احمد: یہ مسلمان کی اس کیٹیگری میں.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ نہیں کہہ رہے۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: اس کو پورے ریفرنس سے دیکھیں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ریفرنس دیکھ لیتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: ریفرنس سے آپ دیکھیں کہ وہ بالکل صاف کہہ رہے ہیں کہ
”کوشش ہی نہ کریں۔ غیر احمدی، جو ان کو نہیں مانتے،.....“

۷۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا اس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا اس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں اس قصہء پارینہ را.....

مرزا ناصر احمد: یہاں سوال یہ ہے..... میں کچھ وضاحت کروں؟
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں یہ.....
 مرزا ناصر احمد: نہیں، ابھی ہو جائے گی۔ یہاں نجات یافتہ اور غیر نجات یافتہ
 مسلمان کی بحث ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: آپ نے کہا تھا کہ وہ بڑا مسئلہ ہے، اس دن آپ نے کہا۔ میں
 یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں.....
 مرزا ناصر احمد: تو میں اس کے متعلق، دس پندرہ منٹ اور نجات کے متعلق کہہ دوں گا۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ آپ کل فرما دیجئے یا ابھی شام کو۔ سوال صرف یہ ہے، جو میں
 آپ کے لئے Explain (واضح) کرنا چاہتا ہوں.....
 مرزا ناصر احمد: جی، میں سمجھ گیا۔ آپ کو Confusion (ابہام) یہ ہے کہ جو
 میں نے کہا اور جو مجھ سے پہلے حضرت خلیفہ ثانی نے فرمایا۔ ان میں جوڑ نہیں ملتا۔
 جناب یحییٰ بختیار: مجھے یہ Contradiction (خلاف بیانی) نظر آتا ہے۔
 اس سانس sense میں.....
 مرزا ناصر احمد: میں یہ سمجھ گیا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ یہ کہتے ہیں کہ.....
 مرزا ناصر احمد: ”تم کوشش کیوں کرتے ہو پھر ان کو.....“
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، کہ ”جو مرزا غلام احمد صاحب کو نبی نہیں مانتے.....“
 مرزا ناصر احمد: ”..... ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہو۔“
 جناب یحییٰ بختیار: ”..... وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ جو آئندہ
 بھی نہیں مانیں گے ان کی نجات نہیں ہو سکتی۔“ یہ اتمام حجت والی بات نہیں کہ ان پر اتمام حجت ہو
 گیا اور انکار کیا۔ نہیں۔ ”جو نہیں مانے گا In future (مستقبل) میں.....“
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔

Mr. Yahya Bakhtiar: "who would not accept him there is no hope for him. Do not try to make him a Muslim. He is not.

(جناب یحییٰ بختیار: وہ اسے مستقبل میں قبول نہیں کرے گا۔ اس کے لئے امید کی

۷۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

کوئی کرن نہیں۔ اسے مسلمان بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ نہیں ہے)
مرزا ناصر احمد: ”نجات“ کے معنی ”No hope for them“ (اس کے لئے
کوئی امید نہیں) نہیں ہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: ”ان کی نجات نہیں ہو سکتی.....“

⁵⁸⁹ *Mirza Nasir Ahmad: This must be corrected.*

(مرزا ناصر احمد: یہ درست کیا جائے)

*Mr. Yahya Bakhtiar: ".....Unless they accept
him"*

(جناب یحییٰ بختیار: تا وقتیکہ وہ اسے مان نہ لیں)
مرزا ناصر احمد: نہیں، ”نجات“ کا جب تک ہمیں مطلب نہ سمجھ آئے.....
جناب یحییٰ بختیار: خیر، وہ جو میں سمجھا ہوں.....
مرزا ناصر احمد: آپ اس کا ترجمہ نہ کریں۔
جناب یحییٰ بختیار: جو میں سمجھا ہوں اس کے مطابق میں نے.....
مرزا ناصر احمد: ٹھیک ہے۔

Mr. Chairman: That is all?

(جناب چیئرمین: بس یہ کافی ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: Yes.

(جناب یحییٰ بختیار: جی ہاں)

*Mr. Chairman: The delegation is permitted to leave
till 6:0'clock.*

(جناب چیئرمین: وفد کو ۶ بجے تک کیلئے جانے کی اجازت ہے)

(The delegation left the chamber)

(وفد چیئرمین سے چلا گیا)

*Mr. Chairman: Anything which the honourable
members may want to bring to the notice.*

(جناب چیئرمین: کوئی ایسی بات جو معزز اراکین نوٹس میں لانا چاہتے ہوں)

مولانا عبدالمصطفیٰ الازہری: جناب سپیکر صاحب!

۷۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب چیئرمین: ہاں جی، مولانا عبدالمصطفیٰ الازہری!

The rest of the members may please keep sitting.

(باقی ممبران تشریف رکھیں)

مولانا عبدالمصطفیٰ الازہری نے تقریر کرنی ہے۔

مولانا عبدالمصطفیٰ الازہری: نہیں، تقریر نہیں کرنی ہے، حضرت!

جناب چیئرمین: نہیں آپ..... (مداخلت) آپ تشریف رکھیں ناں جی۔

مولانا عبدالمصطفیٰ الازہری: یہ مولانا ہزاروی صاحب کے پاس.....

(مداخلت)

590 جناب چیئرمین: (اراکین سے) آپ تشریف رکھیں جی۔ تشریف رکھیں۔

QUOTATIONS UNSUPPORTED BY ORIGINAL DOCUMENTS

مولانا عبدالمصطفیٰ الازہری: مولانا ہزاروی صاحب کے پاس ایک حوالہ ہے۔ بہت اہم، اور انہوں نے پیش بھی کیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حوالہ ان سے منگوا یا جائے۔

۱۔ مولانا عبدالمصطفیٰ الازہری نے جس حوالہ کا ذکر کیا ہے اور سپیکر صاحب وہ پیش کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، وہ حوالہ قادیانی حواس باختگی اور شویدہ ذہنی کا شاہکار ہے۔ مرزا قادیانی کا مرید تھا جس کا نام سراج الحق تھا۔ اس نے جون ۱۹۱۵ء میں تذکرۃ المہدی نامی کتاب لکھی۔ اس کے ص ۱۵۷ پر سراج الحق قادیانی نے کسی شخص کا جو مرزا کا مخالف تھا اس کا واقعہ بدیں الفاظ نقل کیا۔ پڑھئے کہ قادیانی اخلاقیات کا مظہر ہے۔ ”اس بات پر وہ شخص سخت غضبناک ہو کر رہنے لگا۔ دیکھو جی! مرزوات کو لگائی (بیوی) سے بدکاری کرتا ہے اور صبح کو بے غسل..... بھرا ہوا ہوتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا اور وہ الہام ہوا۔ میں مہدی ہوں، مسیح ہوں۔“ (تذکرۃ المہدی ص ۱۵۷) خالی جگہ عبارت جو میں نے نقل کرتے ہوئے چھوڑ دی یہاں قادیانی مصنف نے مردکی شرم گاہ کا نام جلی حروف میں نمایاں کر کے پنجابی زبان میں لکھا ہے۔ یہ حوالہ قادیانی لٹریچر میں کمیونٹی کا شاہکار ہے۔ اب قادیانیوں نے اسی کتاب کا کمپیوٹر ایڈیشن شائع کیا یہ واقعہ کمپیوٹر ایڈیشن کے ص ۱۱۱ پر آیا ہے۔ لیکن عبارت منقولہ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اس لفظ کو بمع اصل کے قادیانی ڈکار گئے۔

۷۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب چیئر مین: یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کی.....
 مولانا غلام غوث ہزاروی: حوالہ یہ ہے کہ مرزا جی نے ایک گندی جگہ کا نام لیا
 ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا۔ لیکن حوالہ نہیں ہے ان کے پاس۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں.....
 جناب چیئر مین: کوئی ضرورت نہیں، میں نے رد کر دیا ہے۔ ان کا.....

(مداخلت)

جناب چیئر مین: نہیں، کوئی ضرورت نہیں جواب دینے کی۔ میں نے ان کا
 اعتراض اور سوال رد کر دیا ہے۔ بالکل Ruled out۔

مولانا غلام غوث ہزاروی: میں آج کے مباحثے کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ
 آج مرزا صاحب بری طرح پھنسنے ہیں۔ اس لئے کہ ”اتمام حجت“ جس کے معنی وہ کر رہے ہیں
 جس کو دنیا بالکل تسلیم نہیں کر سکتی۔ ”اتمام حجت“ یہی ہے کہ بولنے والا اتمام حجت پوری کر دے۔
 قرآن کریم میں.....

جناب چیئر مین: مولانا! یہ پھر بحث کی بات ہے۔ ضابطے کی بات ہوگی۔ یہ آپ
 کی جو تقریر ہوتی ہے نا اس میں وقت کا نا جا رہا ہے۔ (مداخلت)

جناب چیئر مین: نہ، نہ، یہ بات جو ہے، یہ اٹارنی جنرل.....⁵⁹¹
 مولانا غلام غوث ہزاروی: میں اپنے بھائیوں کی خاطر تھوڑا سا عرض کرتا ہوں.....
 جناب چیئر مین: نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بعد میں کریں گے۔ بعد میں ساری چیز
 کریں گے۔

مولانا غلام غوث ہزاروی: میرا مطلب یہ ہے کہ ”اتمام حجت“ قرآن میں ہے:
 ”و مبشرین و منذرین لئلا یكون للناس على الله حجة بعد رسل (النساء: ۱۶۵)“

Mr. Chairman: Sardar Moula Bakhsh soomro to

please resume his seat; and Mr. Qusuri also.

(مسٹر چیئر مین: سردار مولانا بخش سومر صاحب مہربانی کر کے اپنی نشست پر تشریف
 رکھیں اور مسٹر قسوری صاحب بھی)

مولانا غلام غوث ہزاروی: اتمام حجت ہوتا ہے، پیغمبر آتے ہی اتمام حجت کے
 لئے ہیں۔ اور ان کے نہ ماننے سے سارے لوگ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتے ہیں۔
 جناب چیئر مین: ہاں، اچھا ٹھیک ہے۔

۷۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مولانا غلام غوث ہزاروی: اور یہ جو ہے: ”واستیقنت انفسہم“ اس کا تعلق
اتمام حجت سے کوئی نہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا دل گواہی دیتا ہے۔ لیکن وہ نہیں مانتے۔
جیسا اہل کتاب کے بارے میں قرآن میں ہے: ”یعرفونہ کما یعرفون ابناء ہم“
جناب چیئر مین: ٹھیک ہے۔ یہ تقریر بعد میں کریں گے ناں جی۔

Any honourable member who would like to say something?

(کیا کوئی معزز رکن کوئی بات کہنا چاہتا ہے)

چوہدری ظہور الہی صاحب! آپ.....

مولانا غلام غوث ہزاروی: بہر حال، میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ انارنی جنرل
صاحب کی خاطر، کہ یہ اس وقت کے ستر کروڑ مسلمانوں کے لئے اتمام حجت نہیں کہ وہ مرزا کو مانیں۔
592 جناب چیئر مین: شہزادہ سعید الرشید عباسی! آپ کچھ.....

(مداخلت)

جناب چیئر مین: نہیں، نہیں، آپ تقریر کریں ناں، جس نے کرنی ہے۔ میاں محمود
علی قصوری! آپ کچھ کہیں گے؟

میاں محمود علی قصوری: نہیں، جناب! آپ خود فرما رہے ہیں.....

Mr. Chairman: The House is adjourned to meet

at 6:00 P.m. (مسٹر چیئر مین: ایوان شام ۶ بجے تک کیلئے ملتوی ہوتا ہے)

(The special committee adjourned for lunch break,

re-assemble at 6:00 pm.)

(خصوصی کمیٹی کا اجلاس کھانے کے وقفے کے لئے ملتوی ہوتا ہے۔ شام چھ بجے دوبارہ ہوگا)

(The special committee re-assembled after lunch

break, Mr. Chairman(Sahibzada Farooq Ali)in the Chair.)

(خصوصی کمیٹی کا اجلاس کھانے کے وقفے کے بعد دوبارہ ہوا۔ چیئر مین (صاحبزادہ

فاروق) کی صدارت میں)

Mr. Chairman: Are we ready? They may be called

(مسٹر چیئر مین: کیا ہم تیار ہیں؟ ان کو بلا یا جائے؟)

حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب! فرمائیں جی۔ وہ ابھی ان کو بلا یا ہے۔

۷۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

They may enter at any time. (وہ کسی وقت بھی آجائیں)

مولوی مفتی محمود: بلا لیا آپ نے؟

جناب چیئر مین: ہاں، بلا لیا۔ آپ سے پوچھ کے۔

Yes, now they are coming.

Yes, the Attorney- General.

(وہ اب آرہے ہیں، جی انارنی جنرل)

⁵⁹³ **CROSS- EXAMINATION OF THE QADIANI
GROUP DELEGATION**

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! کچھ جوابات دے رہے ہیں جو حوالے نوٹ کئے

آپ نے؟

مرزا ناصر احمد: جی کچھ تو تیار ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: جو بھی ہیں وہ پہلے آپ فرمادیں۔ پھر میں آگے پوچھتا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: ایک تو ”ظل“ اور ”بروز“ کی اصطلاحات کے متعلق تھاناں۔ تو یہ

کہیں تو پڑھ دوں؟

جناب یحییٰ بختیار: یہ اصولاً جو ہے، اگر آپ اچھی طرح کہہ بھی سکتے ہیں تو اگر آپ پڑھ

کے سنائیں گے تو *Objection* (اعتراض) ہو جاتا ہے کہ جواب آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔

مرزا ناصر احمد: اکثر ان میں سے اقتباسات ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: اقتباسات پیش پڑھ کر سنائیں آپ۔ باقی مضمون.....

مرزا ناصر احمد: جی، باقی تو ٹھیک ہے۔

جناب چیئر مین: اگر اقتباسات جو ہیں وہ ساتھ فائل ہو جائیں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ سنا دیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ حوالے ہم نوٹ کر لیں

گے۔ پھر وہ فائل کر دیں پیشک۔

Mr. Chaiman: It would save us a lot of time.

(مسٹر چیئر مین: اس سے ہمارا کافی وقت بچے گا) اگر جواب ہو کسی کا مختصر، تو پڑھ

کر سنا دیں۔

۷۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب جو اقتباس پڑھیں گے وہ *Explain* (واضح) ہوگا نا۔ اس لئے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ حوالہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔
 594 مرزا ناصر احمد: اور سب دوست بھی سن لیں گے۔
 یہ سوال تھا ”ظلم“ اور ”بروز“ کا جو آپ نے فرمایا تھا ”ظلمی“ اور ”بروزی“.....
 جناب یحییٰ بختیار: وہ تو آپ نے کل فائل کر دیا تھا۔
 جناب چیئر مین: نہیں ہوا تھا، واپس کر دیا تھا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو فائل کر دیں۔
 جناب چیئر مین: وہ فائل کر دیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ تو *Definition* (تعریف) ہے۔
 جناب چیئر مین: یہ *Definition* (تعریف) ہے۔

Defination may filed. And that will be read as part of the evidence. Part of the examination.

(تعریف کارروائی کے ساتھ لف کی جائے اور یہ شہادت (گواہی) کا حصہ تصور ہوگی)
 مرزا ناصر احمد: ایک پرانا تھا، مجلس انتخاب خلافت کے اراکین کا فائل۔ یہ تو فائل ہی

کرنا ہے؟

جناب چیئر مین: اس کو بھی فائل کر دیں۔

Mr. Yahya Bakhtiar: File as a document, Sir.

(جناب یحییٰ بختیار: جناب! بطور دستاویز شامل ہو؟)

Mr. Chairman: Yes, File as a Document.

(جناب چیئر مین: جی ہاں! بطور دستاویز شامل ہو)

اس کے ساتھ *Date* (تاریخ) لکھیں اور *Annexure* (کاغذات منسلک

کرنا) شروع کر دیں۔ نئے، *With date* (تاریخ کے ساتھ)

مرزا ناصر احمد: یہ ایک اور ہے.....

جناب چیئر مین: *Annexure* (کاغذات منسلک کریں) اس کی

Continuation (تسلسل) میں، اے، بی، سی، ڈی، اور ساتھ *Dated* (تاریخ) ہو۔

۷۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(مرزا قادیانی کا کہنا کہ کچھ قادیانی تباہ ہوں گے، کچھ باقی رہیں گے)

مرزا ناصر احمد: ⁵⁹⁵ یہ ۲۶ جنوری ۱۹۱۶ء کے متعلق ایک وہ تھا سوال، جسے نوٹ کر لیا تھا۔ جوکل شام کو رہ گیا تھا تو آج صبح بھی یہ سوال ہو چکا ہے کہ ۲۶ جنوری کے ”الفضل“ میں لکھا ہے ”امت“ کا لفظ احمدیوں کے متعلق۔ یہ اس کا جواب ہے۔ یہ حوالہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں ”الفضل“ ۲۶ جنوری ۱۹۱۶ء میں وہ پڑھا گیا یہاں ایک حوالہ۔ اس سلسلے میں جو حوالہ پورا ہے وہ یہ ہے، اور فرمایا: ”کہ پہلا مسیح صرف مسیح تھا اس لئے اس کی امت گمراہ ہوئی اور موسوی سلسلے کا خاتمہ ہوا۔ اگر میں بھی صرف مسیح ہوتا تو ایسا ہی ہوتا۔ لیکن میں مہدی اور محمد ﷺ کا بروز بھی ہوں..... اس لئے میری امت کے دو حصے ہوں گے۔ ایک وہ جو مسیحیت کا رنگ اختیار کریں گے اور تباہ ہو جائیں گے۔ دوسرے وہ جو مہدویت کا رنگ اختیار کریں گے اور یہ قیامت تک رہیں گے۔“

یہ تو حضرت خلیفہ اول کی زبانی بات ہے۔ یہ لکھنے والے جو ہیں، خلفاء میں سے نہیں ہیں، ایک اور صاحب ہیں لکھ رہے۔ اسی کے آگے، اسی پیرا گراف کے اگلے حصے میں لکھا ہے:

”ہماری جماعت کی دو پارٹیاں ہو جائیں گی.....“

”ہماری جماعت کی“ امت کی نہیں۔ تو وہ ایک لکھنے والا وہاں ”امت“ لکھ گیا۔ اس کے علاوہ ”امت“ کے معنی عربی میں جماعت کے بھی ہیں۔ چنانچہ (عربی)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امت مسلمہ کو کہ: ”تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہئے جو خیر کی طرف بلائے۔“

اس کا ترجمہ حضرت مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے یہ کیا ہے..... ”امت“ کے معنی: ”تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہئیں.....“

”لوگ“۔ ”امت“ کے معنی یہاں ”لوگ“ کیا گیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ترجمہ یہ ہے: ”باید کہ باشد از شاہ گروہے“ انہوں نے ”گروہ“ ترجمہ اس کا کیا ہے ”امت“ کا۔

مولانا واحد العاشقی کا ترجمہ ہے: ”ہر آئینہ باید کہ باشد از شاہ گروہے“ انہوں نے بھی ”گروہ“ ترجمہ کیا ہے۔ تو اس ”الفضل“ کے اس مضمون میں جو لفظ ”امت“ لکھا گیا۔ اس کے ساتھ اسی پیرے کے آخر میں جماعت لکھا گیا اور قرآن کریم نے ”امت“ کو بمعنی ”گروہ“ کے بھی استعمال کیا ہے۔ لوگوں کا، لوگ جب اکٹھے ہو جائیں، تو اس کا

۸۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس لئے وہ ”امت“ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا جس سے غلط فہمی کا کوئی امکان ہو سکے۔

یہ ”اتمام حجت“ کے متعلق صبح ڈکشنری بھی منگوائی گئی تھی۔ یہ ”اتمام حجت“ کے متعلق قرآن کریم اور لغت نے جو ”اتمام حجت“ کے معنی کئے ہیں:

لغت میں ”مفردات راغب“ میں، جو قرآن کریم کے عربی الفاظ کی ایک مستند لغت ہے۔ اس میں ”جحدوا بھا واستیقنتھا انفسھم“ کے معنی اب میں بتا رہا ہوں۔ ”جحدوا“ کے معنی ”نفی ما فی القلب اثبات واثبات ما فی القلب نفسہ“ کہ جودل میں ہو اس کا جودل میں ہو۔ یعنی آدمی سمجھتا ہو کہ بات یوں ہے، اس کا انکار کرنا اور جودل میں بات نہ ہو اس کا اقرار کر لینا۔ یہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ”مفردات راغب“ میں ہے۔

اسی طرح سورۃ ”انعام“ میں ہے: (عربی) ”تتک.....“

یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف حجت عطاء کی تھی۔ اس حجت کا دوسری جگہ یوں ذکر فرمایا کہ بتوں کے ٹوٹنے پر قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کے جب بحث کی تو آپ نے فرمایا کہ ان بتوں سے پوچھو۔ جن کو تم خدا سمجھتے ہو۔ انہی سے پوچھ لو۔ اور اس طرح وہ شرمسار ہو گئے اور انہوں نے ٹکست کو تسلیم کر لیا۔

سورہ ”انبیاء“ میں ہے: (عربی) ”قالوا.....“ یہ اسی کے ضمن میں ہے۔

بانی سلسلہ احمدیہ نے بھی، جس معنی کو میں نے Explain (واضح) کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ معنی آپ لکھتے ہیں: ”میں یہ کہتا ہوں..... میں یہ کہتا ہوں..... کہ چونکہ مسیح موعود میں ہوں اور خدا نے عام طور پر میرے لئے آسمان سے نشان ظاہر کئے ہیں پس جس شخص پر میرے مسیح موعود ہونے کے بارہ میں خدا کے نزدیک اتمام حجت ہو چکا ہے اور میرے دعوے پر وہ اطلاع پا چکا ہے، وہ قابل مواخذہ ہوگا“

اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں، یہی In continuation (تسلسل میں) بیچ میں دوسرا مضمون آ گیا۔ اس کو میں چھوڑ رہا ہوں: ”اور اتمام حجت کا علم محض اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہاں عقل اس بات کو چاہتی ہے کہ چونکہ لوگ مختلف استعداد اور مختلف فہم پر مجبول ہیں اس لئے اتمام حجت بھی صرف ایک ہی طرف سے نہیں ہوگا۔ پس جو لوگ بوجہ عملی استعداد کے خدا کی براہین اور نشانوں اور دین کی خوبیوں کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور شناخت کر سکتے ہیں وہ اگر خدا کے رسول سے انکار کریں تو وہ کفر کے اول درجہ پر ہوں گے اور جو لوگ اس قدر فہم اور علم نہیں

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

رکھتے، مگر خدا کے نزدیک ان پر بھی ان کے فہم کے مطابق حجت پوری ہو چکی ہے.....خدا کے نزدیک..... ان سے بھی رسول کے انکار کا مواخذہ ہوگا۔ مگر بہ نسبت پہلے منکرین کے کم۔ بہر حال کسی کے کفر اور اس پر اتمام حجت کے بارے میں فرد فرد کا حال دریافت کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ اس کا کام ہے جو عالم الغیب ہے۔ ہم اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے نزدیک جس پر اتمام حجت ہو چکا ہے اور خدا کے نزدیک جو منکر ٹھہر چکا ہے وہ مواخذہ کے لائق ہوگا۔ اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر.....“

یہ ہے ”حقیقت الوحی“ صفحہ ۱۸۵، ۱۸۴۔

”اتمام حجت“ از روئے لغت: ”دلالت“۔ یہ از روئے لغت..... ”مفردات“ میں ہے کہ: ”حجت ایسی واضح دلالت کو کہتے ہیں جو راہ حق کو بالکل واضح کر دے اور دو متضاد باتوں میں سے ایک کی صحت کی مقتضی ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (عربی) کل..... کہ ”کامل حجت اللہ ہی کے لئے ہے۔ نیز فرمایا کہ لوگوں کے لئے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو بجز ظالموں کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی حجت کو حجت شمار نہیں کیا۔“

⁵⁹⁹ ”حجت“ کے معنی ”لسان العرب“ میں..... جو ایک اور عربی کی بڑی لغت ہے..... یوں ہیں: ”حجت“ کے معنی ”برہان“ کے ہیں یہ بھی کہا گیا حجت وہ ہوتی ہے جس سے دشمن کو مغلوب کر لیا جائے۔ یعنی وہ مان لے کہ میں شکست کھا گیا ہوں۔ یعنی جو تم بات کر رہے ہو، وہ درست ہے۔

امام الازہری کہتے ہیں کہ: ”حجت وہ دلیل و طریق ہے جس سے خصومت کے وقت ظفر و غلبہ حاصل ہو جائے۔“

اور یہ ”محیط المحیط“ یہ ہے۔ ”لغات القرآن“ از پرویز: ”حجت: دلیل“ ”محیط“ میں ہے کہ: ”دلیل کو پتہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے بات واضح اور صاف ہو جاتی ہے اور حجت اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے فریق مقابل پر فتح حاصل ہو جاتی ہے۔“

وہی کہ وہ اعلان کر دیتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے اور وہ اپنی شکست کا اعلان کر دیتا ہے۔ اور ”اتمام حجت“..... ”اتمام حجت“ بولتے ہیں ناں ہم عام طور پر..... ”اتمام“ کا معنی ”مفردات“ میں ہے: (عربی)

⁶⁰⁰ ”اتمہ“ وہاں ہے ”اتمام حجت“ میں، ایک دوسرا مصدر استعمال کیا گیا ہے۔ جس کا فعل بنتا ہے ”اتمہ“ اور اس کے معنی ہیں کہ: ”دلیل کو اس انتہاء تک پہنچادینا، ”اتمام“ کے معنی حجت کو

اس انتہا تک پہنچا دینا کہ اس کے بعد اس چیز کی حقانیت کے لئے کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے۔“
 ہاں، ایک ہے ”کلمۃ الفصل“ وہ جو جس کی معذرت میں نے کی تھی۔ ایک بات تو یہ
 ہے کہ جو سوال تھا یہاں کیا گیا۔ اس میں مصنف کا نام غلط لکھا ہوا تھا۔ یہ حضرت مرزا بشیر الدین
 محمود احمد صاحب، جو ہماری جماعت کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کی کتاب نہیں ہے۔ جو سوال
 کیا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے لکھنے والے جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ ہیں.....
 جناب یحییٰ بختیار: ان کی *Compilation* ہے۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، ان کی *compilation* نہیں ہے۔ یہی میں بتا رہا
 ہوں۔ انہوں نے نہیں لکھی۔
 جناب یحییٰ بختیار: تقریباً ان کو اکٹھا کیا گیا ہے۔
 مرزا ناصر احمد: نہ، نہ، نہ، وہ بھی نہیں۔ اس کے لکھنے والے ہیں مرزا بشیر احمد۔ مرزا
 بشیر الدین محمود احمد، جو جماعت کا خلیفہ ثانی ہیں۔ وہ نہیں ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو میں نے علیحدہ کہا۔ وہ تو مرزا صاحب! میں نے کہا
 ”صاحبزادہ بشیر احمد“ وہ تو میں نے کہا ان کا قول ہے۔
 مرزا ناصر احمد: یہ ”کلمۃ الفصل“ کی.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ایک اور حوالہ جو میں نے دیا.....
 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، وہ اور حوالہ ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: مجھے کوئی *Confusion* (ابہام) نہیں ہے۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ تو میں صرف بتا رہا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، ممکن ہے وہ.....
 مرزا ناصر احمد: میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ خلیفہ المسیح الثانی کی کتاب نہیں۔
 حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب ہے۔ یہ وضاحت میں کر رہا ہوں، بس۔
 یہاں آپ یہ لکھتے ہیں، یہ سارا مضمون ہے اس کا۔ جہاں سے یہ پیرا شروع ہوا ہے۔
 جہاں سے حوالہ لیا گیا تھا۔ اس پیرا سے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے میں شروع
 کرتا ہوں: ”اس جگہ یہ یاد رہے کہ کفر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ظاہری کفر ایک باطنی کفر.....“ یہ
 دراصل فلسفیانہ بحث ہے ایک اور تصنیف پر۔
 جناب یحییٰ بختیار: ایک اور کیپیگری آگئی؟

۸۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.comwww.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.compopalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: ہاں، ایک اور کیٹیگری ہے جو ہماری پہلی بحث میں نہیں آتی: ”..... ایک ظاہری کفر اور ایک باطنی کفر۔ ظاہر کفر تو یہ ہے کہ انسان کسی نبی کا کھلے طور پر انکار کر دے.....“ یعنی کہہ دے کہ میں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، نبی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا۔ یہ کھلے طور پر انکار جیسے ہوتے ہیں دنیا میں، تو وہ ظاہری کفر ہے: ”..... اور اس کو مامور یہ ہدایت خلق اللہ نہ مانے، جس طرح پر کہ یہود نے مسیح ناصری کا انکار کیا۔“

اب یہاں بھی میں اپنی طرف سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ لکھتے ہوئے تو آدمی ان باریکیوں میں ہر جگہ نہیں جاتا..... ”جس طرح پر کہ یہود نے مسیح ناصری کا انکار کیا“ حالانکہ یہود نے مسیح ناصری کا انکار نہیں کیا تھا۔ یہود میں سے جو منکر تھے وہ ”یہود“ کے نام سے پکارے گئے اور جنہوں نے قبول کر لیا، یہود میں سے ایمان لے آئے، وہ کر سچین، انہوں نے ان کو مان لیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی باریکیوں پر جائیں تو کوئی ایک صفحہ بھی کسی کتاب کا اب ایسا نہیں رہتا جو قابل اعتراض نہ بن جائے: ”..... جس طرح پر کہ یہود نے مسیح ناصری کا انکار کیا یا جس طرح ناصری نے نبی کریم ﷺ کو خدا کی طرف سے نہ مانا.....“

حالانکہ ہزاروں اس وقت بھی ہو گئے اور بعد میں بھی ہوتے رہے: ”..... اور باطنی کفر یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو کسی نبی پر ایمان لانے کا اصرار کیا جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور سمجھا جائے۔ لیکن حقیقت میں انسان اس نبی کی تعلیم سے بہت دور.....“ اب وہ گناہ والا کفر آ گیا ہے کہ کوئی.....

جناب یحییٰ بختیار: یہ تو مناقق ہو گیا۔

مرزا ناصر احمد: نہیں گناہ..... مناقق بھی اور ہے۔ مناقق وہ ہے جو دل سے تسلیم کرتا ہے کہ یہ نبی جو ہے سچا نہیں اور اعلان کرتا ہے کہ ”میں ایمان لاتا ہوں“، لیکن یہ وہ گناہ گار ہے جو مثلاً نماز میں کوئی سستی کر جاتا ہے یا کوئی روزوں میں سستی کر جاتا ہے۔ تو عملاً اپنی عملی زندگی میں تعلیم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس بحث میں وہ حوالہ آیا ہے جو یہاں پیش کیا گیا تھا اور یہ جو پہلی اس کی ابتدائی اٹھان جو ہے، اس کا..... وہ بتاتا ہے کہ یہاں وہ مراد نہیں لی گئی جو غلطی سے، غلط فہمی کی بناء پر، جس کی وجہ سے یہاں اعتراض کر دیا گیا تھا۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! ایک تو جو آپ نے فرمایا کہ ”امت“ کا مطلب جو ہے، گروہ کے بھی ہیں۔ پارٹی کے بھی ہیں۔ گروپ کے بھی ہیں۔ کسی طبقے کے بھی ہو سکتے ہیں۔

مرزانا صراحتاً: لوگ۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں لوگ۔ تو اب ہماری جو مشکل ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہی ہو گیا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ”امت محمدیہ“ محمدیہ گروہ، گروپ، پارٹی۔ یہ تو وہی ہیں جو مسلمان ہیں۔
 مرزانا صراحتاً: ملت اسلامیہ۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، ملت اسلامیہ۔
 مرزانا صراحتاً: امت محمدیہ۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ بڑا سرکل جو آپ نے کہا ناں کہ جس میں.....
 مرزانا صراحتاً: جس میں گناہ گار بھی ہیں.....
 جناب یحییٰ بختیار: کافر بھی ہیں.....
 مرزانا صراحتاً: ہاں، اور درمیانے درجے کا بھی، سارے ہی ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ کافر جو ہیں وہ نکال کر باقی جو تھوڑا بہت کفر کرتے ہیں۔ وہ بھی اور..... مگر مسلمان ہر حالت میں ہیں وہ؟
 مرزانا صراحتاً: ہاں، مسلمان ہر حالت میں ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: مسلمان ہیں۔ تو اب یہ جو ”دائرہ اسلام“ ہے۔ یہ بھی ایک گروپ ہوگا؟
 مرزانا صراحتاً: میں نے اسی واسطے دوسرے دن ایک اور تمثیل لی تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ شاید.....
 جناب یحییٰ بختیار: اب مجھے ”دائرہ اسلام“ بڑا گروپ معلوم ہوتا ہے اور ”ملت اسلامیہ“.....
 مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، وہ ”دائرہ اسلام“ چھوٹا گروپ ہے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ یہ جب ہم نے..... یہ میں نے..... معاف کریں۔ جب میں نے یہ عرض کی تو بنیاد رکھی اس قول پر..... ”مفرداتِ راغب“ جو قرآن کریم کی لغت ہے۔ انہوں نے ”اسلام“ کے معنی کرتے ہوئے کہا کہ اسلام دو قسم کا ہے۔ ایک اسلام ہے ایمان..... بالا، فوق الایمان۔ اور ایک اسلام ہے ایمان سے نیچے یا دونوں اسلام۔ دو قسم کا اسلام ہے۔ تو دائرہ اسلام جو ہماری..... جو یہاں آپ کے سوالات اور میرے جوابات ہیں آیا کیونکہ ہماری بحث تو..... میری طرف سے بہت زیادتی ہوگی کیونکہ میں تو یہاں بطور Witness (گواہ) کے ہوں.....

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں جی، یہ تو مسئلہ ایسا ہے.....
مرزا ناصر احمد: بہر حال، سوال و جواب میں جو چیز آئی، وہ ”ما فوق الایمان“ کے متعلق ہم نے کہا، میں نے کہا کہ ”دائرہ اسلام“ ہے..... جو ایمان سے بالا چیز ہے..... تو وہ درجہ اندر کا ہے۔ چھوٹا سرکل دائرہ اسلام کا، وہ بڑا نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: اس سے خارج ہو کے بھی مسلمان رہ سکتے ہیں؟
مرزا ناصر احمد: ہاں، بڑا درجہ جو ہے وہ ”ملت اسلامیہ“ کا سرکل ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، وہ میں سمجھ گیا، وہ میں سمجھ گیا۔ اب میں ”اتمام حجت“ پر کچھ مزید وضاحت کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو دل سے تعلق رکھتی ہے۔ دل میں ایک چیز ہو، مگر انسان انکار کرے.....

مرزا ناصر احمد: ⁶⁰⁵ نہیں، اتمام حجت ہو یا نہیں ہوا۔ اس شخص کے متعلق جو خود تسلیم نہیں کرتا کہ مجھ پر اتمام حجت ہو گیا۔ یہ دل سے تعلق رکھتا ہے اور انسان کا کام نہیں کہ اس کے اوپر حکم لگائے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! میں ایک اور چیز کی طرف آ رہا تھا.....
مرزا ناصر احمد: اچھا! معاف کیجئے۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، آپ نے کل بھی فرمایا تھا اور آج صبح بھی فرمایا کہ ”اتمام حجت“ کا یہ مطلب ہے کہ اس کو ایک چیز سمجھ آ جائے، پوری دلیل اس کے سامنے ہو جائے اور وہ انکار کرے۔ سمجھ جائے، *Convinced* (قائل) ہو اور انکار کرے۔

مرزا ناصر احمد: ایک، ایک کیٹیگری.....
جناب یحییٰ بختیار: ایک *Accept* (قبول کرنا) ہاں، ہاں۔
مرزا ناصر احمد: ہاں، ایک قسم یہ ہے کہ سمجھ گیا ہے اور کہتا ہے ”میں سمجھ تو گیا ہوں“ اعلان کرتا ہے: ”میں سمجھ گیا ہوں، مگر مانوں گا نہیں“

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں، ”میں انکار کرتا ہوں“
مرزا ناصر احمد: ”سمعنا وعصینا“ قرآن کریم کہتا ہے.....
جناب یحییٰ بختیار: یہ جو ہے، یہ اس کیٹیگری میں ہے جو مسلمان نہیں ہو سکتا؟
مرزا ناصر احمد: ہاں جی رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ ہی انکار کر دیا۔

۸۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.comwww.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.compopalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اعلان کا ہونا ضروری ہے۔

مرزا ناصر احمد: اس کی طرف سے۔

⁶⁰⁶ جناب یحییٰ بختیار: ہاں اس کی طرف سے۔ ابھی یہ اعلان مزید Definition (تعریف) ہوگی کہ فرض کرو کہ کسی عالم نے مرزا غلام احمد صاحب کی باتیں سنیں اور وہ Convince (قائل) ہو گیا..... میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ وہ Convince (قائل) ہو گیا ہے۔ مرزا صاحب کے نقطہ نظر سے، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ ”نہیں، مرزا صاحب سچے نبی نہیں“ تو یہ اعلان.....

مرزا ناصر احمد: نہ نہیں، پھر وہ رہ گیا ایک حصہ، ایک حصہ رہ گیا۔ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ”میں یہ تو سمجھ گیا ہوں کہ یہ سچے ہیں، مگر میں ایمان نہیں لاتا“

جناب یحییٰ بختیار: ہاں ایسے ہی، ایسے ہی۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، وہ ایک حصہ رہ گیا تھا ناں۔

جناب یحییٰ بختیار: پھر تو Simple (سادہ) ہے جی۔

Then there is no complication. پھر میں یہ پوچھوں گا کہ جو یہ کیٹگری ہے کہ

اتمام حجت کے بعد جو مرزا صاحب کو نہ مانے اور خدا کا رسول نہ مانے، وہ خدا اور رسول ﷺ کو نہ

ماننے کے برابر کافر ہے۔ اتمام حجت کے بعد۔ اس طرح آپ نے Define (تعریف) کیا؟

مرزا ناصر احمد: جس نے خود کہا کہ ”مجھ پر اتمام حجت ہو بھی گیا اور میں نہیں مانتا؟“

جناب یحییٰ بختیار: ”میں نہیں مانتا“ یہ اس کیٹگری میں ہے، جو کہتا ہے، وہ بالکل

ہی کافر، سو فیصدی کافر ہے؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ تو.....؟

مرزا ناصر احمد: نہیں، یعنی وہ تو اسلام ہی سے خارج ہے۔ غیر مسلم ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا جی؟

⁶⁰⁷ مرزا ناصر احمد: ہاں، غیر مسلم ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: میں اس کا کہتا ہوں کہ وہ سو فیصدی کافر؟

مرزا ناصر احمد: غیر مسلم کہہ لیں۔

۸۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: مسلمان نہیں رہا وہ؟
 مرزا ناصر احمد: ہاں، غیر مسلم۔
 جناب یحییٰ بختیار: اب، آپ کے اندازے کے مطابق، کتنے لوگوں نے ایسا اعلان کیا؟
 مرزا ناصر احمد: اس میں اندازے کا تو سوال ہی نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: یعنی علم کیا ہوگا؟
 مرزا ناصر احمد: ان کے اپنے علم کے مطابق کہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں! میں علم کا کہہ رہا ہوں۔ علم کے مطابق۔
 مرزا ناصر احمد: میرے علم میں یہ تو ہے۔ نہیں، میرے علم میں یہ تو ہے، میں نے خود
 سنا ہے کہ ”اگر اللہ بھی آجائے اور کہے کہ بانی سلسلہ سچے ہیں۔ تب بھی ہم نہیں مانیں گے۔“
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو ایک اور چیز ہے۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، ہاں، وہ ”اگر“ کے ساتھ۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ ”اگر“ کے ساتھ ہے اور ساتھ ہی وہ یہ نہیں کہتے کہ میں
 Convince (قائل) ہو گیا ہوں۔
 مرزا ناصر احمد: میرے علم میں اس وقت..... میرے علم اور میرے حافظہ میں.....
 Combine (اکٹھا) بریکٹ کر دیں، علم اور حافظہ..... کوئی آدمی نہیں۔

(اس وقت کوئی کافر نہیں)

جناب یحییٰ بختیار: کوئی آدمی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال جس نتیجے
 پر ہم پہنچے ہیں۔ اس کے مطابق کوئی بھی کافر اس وقت نہیں ہے؟
 مرزا ناصر احمد: اس سانس Sense میں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، اس لحاظ سے؟
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: اس لحاظ سے ملت اسلامیہ سے باہر؟
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، بالکل۔
 جناب یحییٰ بختیار: دیگر الفاظ میں، ایسا کوئی شخص نہیں جو مسلمان نہ ہو؟
 مرزا ناصر احمد: ایسا کوئی شخص نہیں جو اسلام کا دعویٰ کرے اور مسلمان نہ ہو۔

جناب یحییٰ بختیار: ہم یہ تو *Concede* کرتے ہیں ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ اور رسول ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں عیسائیوں، یہودیوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔
 مرزاناصر احمد: ہاں، ایمان رکھتے ہیں..... ہاں، نہیں، ٹھیک ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہماری بحث یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سوال آتا ہے مرزا غلام احمد صاحب پر کہ ان کو ہم نبی مانتے ہیں یا نہیں۔ سوال ان کا ہے اس وقت۔ اس وقت آپ کی نظر میں ان مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو آپ کہیں کہ *Hundred percent* سو فیصدی کافر ہے؟
 مرزاناصر احمد: ہاں، جو غیر مسلم ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: جو کہ علم کی بات ہے۔ اعلان نہیں کرتا۔
 مرزاناصر احمد: ہاں، علم کی۔ غیر مسلم ہے۔ کوئی ایسا نہیں جسے میں غیر مسلم کہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہے ہی نہیں یا علم میں نہیں ہے؟
 مرزاناصر احمد: میرے علم اور حافظے میں نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: اب دوسری کمیٹری یہ آ جاتی ہے جو اتمام حجت کے بغیر مرزا صاحب کو نہ مانے۔

مرزاناصر احمد: نہیں، تین قسمیں ہیں یہ۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں آ رہا ہوں اس پر۔ جو ہماری بحث ہوئی ہے.....
 مرزاناصر احمد: ہاں، ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: اس سے جو میں نتیجے پر پہنچ رہا ہوں.....
 مرزاناصر احمد: ہاں جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: پھر جو..... جہاں آپ درست سمجھتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے۔ وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے۔
 مرزاناصر احمد: ٹھیک ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: جو اتمام حجت کے بغیر مرزا صاحب کو نہ مانے، مگر خدا اور رسول ﷺ کو مانے، وہ کافر کسی حد تک ہے مگر دائرہ اسلام سے خارج نہیں.....
 مرزاناصر احمد: ہاں، وہ.....
 جناب یحییٰ بختیار:..... اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، ملت اسلامیہ سے نہیں؟

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحتاً: ہاں، ملت اسلامیہ سے خارج بالکل نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: مگر دائرہ اسلام سے خارج ہے؟
 مرزانا صراحتاً: وہ ”دائرہ اسلام“ کو چھوڑ دیں۔ اگر اس سے *Confusion* (ابہام) پیدا ہوتا ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں.....
⁶¹⁰ مرزانا صراحتاً: یہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ کافر گناہ گار ہے۔ اگر یہ فقرہ بنا لیں تو زیادہ واضح ہو جائے گا۔ وہ کافر و گناہ گار ہے۔ لیکن.....
 جناب یحییٰ بختیار: میں ایسے کہے دیتا ہوں.....
 مرزانا صراحتاً: لیکن ملت اسلامیہ سے خارج نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: میں ایسے کہے دیتا ہوں: پہلے وہ کمیٹی گری جو کہ خدا اور رسول ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں، مگر اتمام حجت کے باوجود..... جس *Sense* (معنی) میں آپ نے *Interpret* (تصریح) کیا ہے اس کو.....
 مرزانا صراحتاً: نہیں، پھر اگر لکھ لیں کہ ”اتمام حجت“ کے باوجود یہ اعلان کرے کہ.....“
 جناب یحییٰ بختیار: میں نے کہا ہے ”جسے آپ نے *Interpret* (تصریح) کیا ہے۔“
 مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ ”جیسے *Interpret* (تصریح) کیا۔“
 اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ وہ اعلان کرے تو وہ تو بالکل ہی کافر ہے، مسلمان نہیں، جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ مرزا صاحب کو اتمام حجت کے بغیر، یعنی ان پر نہیں ہوا.....
 مرزانا صراحتاً: یعنی وہ کہتے ہیں کہ ”ہم پر نہیں ہوا“
 جناب یحییٰ بختیار: ”ہم پر نہیں ہوا۔“
 مرزانا صراحتاً: خواہ ہو چکا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں۔
⁶¹¹ جناب یحییٰ بختیار: اعلان نہیں کیا انہوں نے، یہی مطلب ہونا؟
 مرزانا صراحتاً: ظاہر ہے، ظاہر ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: اعلان نہیں کیا۔ تو وہ کافر ہیں.....

۹۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.comwww.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.compopalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: وہ کافر گناہ گار ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: مگر ملت اسلامیہ سے.....
 مرزا ناصر احمد: وہ کافر گناہ گار ہیں، مگر ملت اسلامیہ سے خارج نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: دائرہ اسلام سے خارج، ملت.....
 مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، یہ سمجھئے کہ سو فیصدی کافر نہیں، جسے میں نے پہلے کہا۔
 مرزا ناصر احمد: کافر گناہ گار ہیں۔ یعنی ”کفر“ بمعنی کافر کے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ایک اور کیٹیگری آتی ہے..... میں اس کا علیحدہ ذکر نہیں لانا
 چاہتا۔ میں اس پر آ رہا ہوں..... اب یہ جو ہے، تیسری کیٹیگری جو ہے..... یہ دو کیٹیگریز تو ہمارے
 سامنے آگئیں اس وقت۔ ایک وہ جو بالکل ہی کافر، جو کہ اتمام حجت کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔
 اعلانیہ انکار کر رہے ہیں۔ کوئی ان کی پوزیشن میں شک کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس میں بھی کوئی
 شک پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جو ہیں، ملت اسلامیہ میں ہیں، وہ مسلمان ہیں، گناہ گار کہیں ان کو.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ففٹی (Fifty) پرسنٹ (۵۰ فیصد) کہیں
 Twenty-five (۲۵ فیصد) کافر کہیں، مگر ہیں مسلمان.....
 مرزا ناصر احمد: ملت اسلامیہ میں ہیں، اور غیر مسلم ان کو نہیں کہا جاسکتا۔
⁶¹² جناب یحییٰ بختیار: تو یہ دونوں جو پوزیشنیں ہیں، واضح ہو گئیں۔
 مرزا ناصر احمد: جی۔
 جناب یحییٰ بختیار: اور ایک تیسری کیٹیگری وہ ہے جو اتمام حجت کے بعد یا اس کے بغیر
 خدا اور رسول ﷺ کو مانتے ہیں اور مرزا صاحب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سو فیصدی مسلمان اور سو
 فیصدی Non-kafir..... میں اس کیٹیگری میں رکھتا ہوں ان کو..... ان کو آپ احمدی سمجھیں یا.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: یعنی ایک کیٹیگری جو ہے ناں یہ..... یہ تین کیٹیگریز جو ہیں، ان
 میں سے ہمیں کسی پر بھی کوئی Doubt نہیں رہا۔ یہ بحث چل رہی ہے اور ایک کیٹیگری ہے گناہ
 گاروں کی، جو سب میں ہیں۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: وہ ہیں، ہر ایک کمیٹری میں ہوں گے۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، وہ ہر کمیٹری میں.....
 جناب یحییٰ بختیار: کافروں میں بھی ہیں۔
 مرزا ناصر احمد: احمدیوں میں بھی ہیں، دیوبندیوں میں بھی ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: جو اتمام حجت کے بغیر..... یہ تو سب میں موجود ہیں۔ اس لئے
 ان کو چھوڑ دیا جائے بیچ میں۔

اب مرزا صاحب! سوال یہ ہے کہ ہر ایک کی پوزیشن کلیئر (Clear) (واضح) ہے۔
 ایک وہ جو کہ کافر ہیں، سو فیصدی کافر ہیں اور ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اور رسول ﷺ کو
 بھی نہیں مانتے۔ مرزا صاحب کو بھی نہیں مانتے اتمام حجت کے باوجود۔ ایک وہ ہیں جو اتمام حجت⁶¹³
 کے بعد مرزا صاحب کو نہیں مانتے وہ بھی کافر۔ ان میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ پھر باقی جو ہیں وہ
 مسلمان ہیں۔ ان کی ہم نے کمیٹریز بنائی ہیں۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، کفر!

جناب یحییٰ بختیار: تو جب مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ:
 ”کیوں خواہ مخواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔“ (کلمہ
 الفصل ص ۱۲۹) یہ کون سی کمیٹری ہے؟

مرزا ناصر احمد: وہی جو آپ نے بنائی ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: پوزیشن تو بالکل کلیئر (واضح) ہے۔
 مرزا ناصر احمد: ہیں؟
 جناب یحییٰ بختیار: پوزیشن تو بالکل کلیئر (واضح) ہے۔
 مرزا ناصر احمد: یہ کفر و گناہ والی۔
 جناب یحییٰ بختیار: دیکھیں ناں، جی کہ.....
 مرزا ناصر احمد: ”کافر و گناہ گار“ کہا تھا نا آپ نے۔
 جناب یحییٰ بختیار: میں نے عرض کیا ناں..... میرا سوال سنیں..... ایک کمیٹری ہے
 وہ ہیں ہی کافر، کوئی شک ہی نہیں اس پر۔ دوسری کمیٹری ہیں ہی مسلمان کوئی شک نہیں اس میں۔
 گناہ کیا ہوگا اس نے تو وہ کہتے ہیں کہ ”کیوں ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔“
 مرزا ناصر احمد: ”جو گناہ گار ہیں، ان کو بے گناہ کیسے کہتے ہوتم۔“

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، گناہ گار پھر مسلمان ہیں، مسلمان تو نہیں ختم ہو جاتی۔ یہ تو ہم Concede کر چکے ہیں مسلمان، ملت محمدی میں شامل ہیں۔ گناہ گار احمدیوں میں بھی⁶¹⁴ ہیں..... گناہ گار کافروں میں بھی ہیں۔ ان کی بات میں نہیں کر رہا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ”ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔“

مرزاناصر احمد: نہیں، ”کافر و گناہ گار جو ہیں ان کو بے گناہ ثابت کرنے کی کیسے کوشش کرتے ہو۔“

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، یہ میں نہیں.....

مرزاناصر احمد: میں تو.....

جناب یحییٰ بختیار: میرا مطلب جو ہے میں وہ واضح نہیں کر سکا۔ اب میں نے عرض یہ کیا کہ جو کافر ہے۔ اس کے تو مسلمان ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نہ کوئی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

مرزاناصر احمد: اس کو چھوڑیں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ تو چھوڑ دیا۔

اب وہ جو کینگری ہے کافروں کی، جو کہ اتمام حجت کے باوجود مرزا صاحب پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ ایسے ہی ہیں جیسے خدا اور رسول ﷺ پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کا بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، ان کو کون مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب رہ گئی دو اور کینگریز جو ان کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے.....

مرزاناصر احمد: ہاں، ”ملت اسلامیہ سے باہر“ ان کو کہا ہی نہیں جاسکتا ایک سیکنڈ

کے لئے بھی۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، نہیں کیا جاسکتا۔ تو یہ جب کہتے ہیں کہ ”ان کو کیوں خواہ مخواہ مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں“ مطلب یہ کہ ”وہ نہیں ہیں اور ثابت کر رہے ہیں“ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟

مرزاناصر احمد:⁶¹⁵ میرے نزدیک تو اس میں کوئی تضاد نہیں..... میں اپنی رائے بتا رہا ہوں ناں..... میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کینگری جس کے متعلق ہم نے کہا کہ ”ملت اسلامیہ سے باہر نہیں“ ان کو غیر مسلم نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن کافر و گناہ گار ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ”جو گناہ گار ہے اس کو بے گناہ کیسے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔“

جناب یحییٰ بختیار: یعنی گناہ گار تھے وہ.....
 مرزانا صراحتاً: یہ، یہ جو ہے کون سا حوالہ ہے؟ ممکن ہے، Context اور ہو۔
 جناب یحییٰ بختیار: یہ ”کلمۃ الفصل“ صفحہ ۱۲۹۔ کل میں نے آپ کو: ”اب جبکہ یہ
 مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تو کیوں خواہ مخواہ
 غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔“
 میں یہ کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں.....
 مرزانا صراحتاً: جی، جی، یہ نکل آیا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں۔
 یہ صفحہ ۱۲۹ آپ نے فرمایا ”کلمۃ الفصل ص ۱۲۹“
 جناب یحییٰ بختیار: میرا خیال ہے، یہاں تو میں نے..... ۱۲۸ یا ۱۲۹ ہے۔ وہ پرنٹ
 ایسا ہے۔

مرزانا صراحتاً: صفحہ ۱۲۸ پر.....
 جناب یحییٰ بختیار: وہ کل آپ کو بتایا تھا جی یہ۔
 مرزانا صراحتاً: ہاں، یہ ۱۲۸ پر نہیں ناں نکلا۔
 جناب یحییٰ بختیار: کل آپ کو ایک ریفرنس دیا تھا۔ وہ کہا ہے بھٹی صاحب!
 616 مرزانا صراحتاً: دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: یہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آپ نے اس پر
 Comments (تبصرے) بھی کئے۔
 مرزانا صراحتاً: نہیں، میں نے Comments (تبصرے) نہیں کئے وہاں۔
 اس وقت تک تو ہمارے پاس یہ کتاب ہی نہیں تھی۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ممکن ہے کہ Verify (تصدیق) نہ کیا ہو آپ نے۔
 مرزانا صراحتاً: ہاں Verify (تصدیق) نہیں کیا۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، نہ کیا ہو۔
 مرزانا صراحتاً: یہ سارا صفحہ میں پڑھ دیتا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یعنی یہ چیز میں کہتا ہوں جو یہاں ہے.....
 مرزانا صراحتاً: وہ یہاں نہیں ہے۔ نظر نہیں آ رہی مجھے اور غور سے پڑھ لیتے ہیں۔

۹۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے)
 جناب یحییٰ بختیار: ”اب جبکہ مسئلہ صاف ہے کہ مسیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات
 نہیں ہو سکتی تو کیوں خواہ مخواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔“
 (کلمۃ الفضل ص ۱۲۹)
 مرزا ناصر احمد: ”..... کوشش کی جاتی ہے“ یہاں تو نہیں ہے یہ صفحہ ۱۲۸ پر یہ فقرے
 نہیں ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ نکال لیں جی ہم۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، اگر پتہ لگ جائے ابھی۔

Mr. Yahya Bakhtiar: I am sorry, Sir, it was page

128, 129.

(جناب یحییٰ بختیار: مجھے افسوس ہے، یہ صفحہ ۱۲۹، ۱۲۸ تھا) وہ جو ہے ناجی، پرنٹ
 ایسا ہے۔ یہ ۱۲۹ پر آئے گا۔ ۱۲۸ سے شاید شروع ہوا ہے۔
⁶¹⁷ کلمۃ الفضل..... ریویو آف ریلیجن..... اس میں جی: اب جبکہ یہ مسئلہ بالکل
 صاف ہے کہ مسیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات.....
 (کلمۃ الفضل ص ۱۲۹)
 مرزا ناصر احمد: ہاں جی، یہ یہاں ہے، ۱۲۹
 جناب یحییٰ بختیار: ”..... نہیں ہو سکتی تو کیوں خواہ مخواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت
 کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔“
 (کلمۃ الفضل ص ۱۲۹)

میرا اب

مرزا ناصر احمد: یہ، یہ، یہ ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ یہاں مسئلہ نجات کا، اور نجات کا
 تعلق گناہ سے بھی ہے۔ تو یہاں یہ سوال ہے ”جو گناہ گار ہے اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش
 کیوں کی جاتی ہے۔“

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب!.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں اس کے معنی کر رہا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، میں آپ کو سوال پورا Explain (واضح) نہیں
 کر سکا۔ معاف کیجئے، گناہ گار جو ہیں۔ احمدیوں میں بھی ہیں۔ یہاں غیر احمدیوں کی بات ہو رہی

۹۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ہے۔ ”کیوں غیر احمدیوں کو مسلمان بنانے، ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔“ تو اس Context میں آپ ذرا ان کو Explain (واضح) کریں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں جی، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں.....
جناب یحییٰ مختیار: کیونکہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ احمدیوں میں گناہ گار نہیں ہیں۔ اس لئے گناہ گار کا یہاں تعلق نہیں ہے۔

مرزا ناصر احمد: میں بات سمجھ گیا۔ میں ابھی واضح کر دیتا ہوں۔
618 گناہ گار احمدیوں میں بھی ہیں اور وہابیوں میں بھی ہیں، ساروں میں ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ کوئی تھوڑا گناہ گار ہے، کوئی زیادہ گناہ گار۔ اسی واسطے ہم کو ہر وقت استغفار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لیکن گناہ گناہ میں فرق ہے۔ ایک گناہ ہے چغلی کرنے کا، ایک گناہ ہے غیبت کرنے کا، ایک گناہ ہے چوری کرنے کا۔ یہاں نہ ماننا جو ہے، وہ ایک گناہ ہے اور ہزار گناہوں میں احمدیت میں داخل ہونے والا جنتلا ہو سکتا ہے۔ مگر اس گناہ میں وہ جنتلا نہیں ہوا کہ اس نے انکار نہیں کیا۔ اس واسطے جو یہاں زیر بحث مضمون ہے، اس میں احمدی شامل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ گناہ..... جو شخص یہ گناہ کرتا ہے کہ اس نے جس کو ماننا چاہئے تھا، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس کو نہیں مانا اور اس طرح ایک حد تک گناہ گار ہو گیا۔ اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے۔

جناب یحییٰ مختیار: نہیں مرزا صاحب! میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ”مسلمان ثابت کرنے کی کوشش“ یعنی کہ گنجائش ہی نہیں۔ مسلمان تو وہ ہے، گناہ گار ہے۔ وہ جو میں نے اس دن عرض کیا کہ: ”آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں“ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، آپ ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں۔

مرزا ناصر احمد: یعنی اگر اس کی بجائے یہ ہوتا کہ ”اس کافر گناہ گار کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے“.....

جناب یحییٰ مختیار: ہاں، اگر وہ بات ہوتی تو پھر.....
مرزا ناصر احمد: اور زیادہ سخت ہوتی، موجودہ صورت سے زیادہ سخت ہوتی۔

619 جناب یحییٰ مختیار: نہیں، اب تو بالکل صاف یہ لکھا ہے کہ: ”غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش مت کرو کیونکہ ان کی نجات کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ یہ نبی جو ہیں.....“

مرزا ناصر احمد: پھر نجات کا مسئلہ آ گیا۔ اس کو چھوڑیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ہے، وہ بالکل صاف
 الفاظ میں آ جاتا ہے اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ کیٹگری صاف ہے۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ حصہ تو صاف ہو گیا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ مطلب میں اسی واسطے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس کے
 بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کچھ اس میں یہ ہے کہ ایک کیٹگری کافر، *Undoubted*،
undiluted

مرزا ناصر احمد: وہ ہو گیا، ہاں وہ ہو گیا۔
 جناب یحییٰ بختیار: *No doubt*، کیونکہ یہ کوشش، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں
 اور دوسری کیٹگری مسلمان، کوئی ان کی مسلمانی میں فرق نہیں.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: گناہ گار ضرور ہوں گے، پانچ فیصدی کا فرض ضرور ہوں گے.....
 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں.....
 جناب یحییٰ بختیار: پر ملت اسلامیہ میں وہ ہیں.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، وہ ہیں، بالکل۔
 جناب یحییٰ بختیار: اور مسلمان ہیں ان کے مسلمان ہونے میں کوئی *Doubt*
 (شک) نہیں ہے۔ تو پھر کون کوشش کر رہا تھا ان کو ثابت کرنے کی؟ کیوں ثابت کر رہا تھا؟
⁶²⁰ مرزا ناصر احمد: دیکھیں ناں، ملت اسلامیہ میں جو ہیں۔ ان میں سے گناہ گار
 کے لئے ”خارج از اسلام“ کا حدیث نے استعمال کیا ہے لفظ.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، پھر اس کو کہتے ہیں.....
 مرزا ناصر احمد: گناہ گار کے لئے، کہ جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے:
 (عربی) ”خرج من الاسلام.....“ تو چونکہ ایسے الفاظ ہمارے لٹریچر کی اصطلاح
 میں تھے۔ اس لئے وہ استعمال کئے۔ اب گھر والا جو ہے..... میں..... مجھ سے آپ مطلب پوچھتے
 ہیں، میں مطلب بتا دیتا ہوں آپ کو: (عربی) اور یہ ہے یعنی بانی سلسلہ کی ایک کتاب نہیں، کسی
 خلیفہ وقت کی ایک کتاب نہیں ہے۔ اور.....

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا قول نہیں ہے، تو پھر میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں.....
مرزا ناصر احمد: اس معنی میں.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ کہ یہ مسیح ثانی کا قول نہیں ہے؟
مرزا ناصر احمد: اس معنی میں جو آپ لے رہے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ معنی..... دیکھیں، مرزا صاحب! میری ایک Difficulty (مشکل) ہے۔ میں Explain (واضح) کر دیتا ہوں کہ جو ایڈووکیٹ ہوتے ہیں اور جو پاکستان یا برٹس سسٹم سے واقف ہیں..... اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی جو Jurisprudence ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو الفاظ کے Simple (سادہ) معنی ہوں، ظاہر معنی ہوں، اگر وہ صاف ہوں تو پھر آپ کو کسی اور تعبیر کی اور تشریح کی ضرورت نہیں۔

Words must be taken in their literal, simple sense, and that is the intention of the author. the speaker and the writer. This is the first rule.

(الفاظ کو لغوی اور سادہ معنی میں لینا چاہئے اور یہی مصنف مقرر اور لکھنے والے کا مقصد

ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے)

مرزا ناصر احمد: بشرطیکہ وہ اس پر اتھارٹی ہو۔⁶²¹

جناب یحییٰ بختیار: جو اس نے لکھا ہے۔ صاف ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ

یہ نہیں.....

Mirza Nasir Ahmad: If he is an authority.

(مرزا ناصر احمد: بشرطیکہ وہ مسلم حیثیت کا مالک ہو)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, question. Anybody

.This is the rule.

(جناب یحییٰ بختیار: اس کا قطعاً سوال نہیں۔ خواہ کوئی بھی ہو۔ یہی اصول ہے)

Mirza Nasir Ahmad: No, no. Then this would be

considered as his views, not the views of the Jamaat.

(مرزا ناصر احمد: یہ اس کا نقطہ نظر سمجھا جائے گا، نہ کہ جماعت کا)

Mr. Yahya Bakhtiar: This is diffrent.

(جناب یحییٰ بختیار: یہ الگ بات ہے)

مرزا ناصر احمد: ہاں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ Views (نقطہ نظر).....

میں یہی بتانے لگا تھا.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں کہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی کا View

(نقطہ نظر) ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ میں اس سے آگے پڑھتا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، یہ خلیفہ ثانی کی تو نہیں، یہ خلیفہ ثانی کی نہیں ہے

عبارت۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا بشیر احمد صاحب۔ I am sorry. (مجھے افسوس ہے)

مرزا ناصر احمد: ہاں، وہ خلیفہ ثانی نہیں ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں مگر وہ جماعت کے ایسے بڑے رہنماء ہیں.....

مرزا ناصر احمد: ایک جماعت کے بہت بزرگ ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار:..... بزرگ رہنماء ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ And he

is an authority who can interpret (اور ان کی حیثیت مسلمہ ہے جس کا حوالہ دیا

جاسکتا ہے) یہ میں نہیں کہتا کہ جو ان کی Interpretation (توضیح) ہوگی۔ That will

prevail over that of Khalifa.

⁶²² Mirza Nasir Ahmad: He is not an authority against Khulifa.

(مرزا ناصر احمد: وہ خلیفہ کے مقابلہ میں مسلمہ حیثیت نہیں رکھتا)

Mr. Yahya Bakhtiar: Not against Khulifa. If

there is a word of Khulifa, that will prevail, but if there is no

word of Khulifa, then this authority will prevail.

(جناب یحییٰ بختیار: خلیفہ کے مقابلے میں نہیں۔ اگر خلیفہ کا قول موجود ہو تو وہی

قول مانا جائے گا۔ لیکن اگر خلیفہ کا قول موجود نہ ہو تو پھر یہ بات تسلیم کرنا ہوگی)

مرزا ناصر احمد: ہاں، اگر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: کوئی اتھارٹی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں ان کا یہ جو قول ہے: ”اب جبکہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تو کیوں خواہ مخواہ غیر احمدیوں کو.....“

آپ ذرا غور فرمائیں کہ ”غیر احمدی“ is very important from my point of view (یہ نقطہ نظر بہت اہم ہے) اور اس کے بعد: ”.....مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔“ مطلب یہ ہے جنہوں نے مرزا غلام احمد صاحب کو نبی نہیں تسلیم کیا، نبی نہیں مانا، ان کو ”غیر احمدی“ کہا گیا اور صاف کہا گیا کہ ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ مسلمان نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں..... This is how i understand (میں اس کا مطلب سمجھتا ہوں) مطلب سب سمجھتا ہوں)

مرزانا صراحتاً: ہاں۔

Mr. Yahya Bakhtiar:Literal fact.

(جناب یحییٰ بختیار: لغوی معنی میں)

(مرزا کے نہ ماننے والے مسلمان نہیں)

Mirza Nasir Ahmad: And this is what I deny.

(مرزانا صراحتاً: اور میں اس سے انکار نہیں کرتا)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, that is for you.

(جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ آپ پر منحصر ہے)

ابھی وہ آگے فرماتے ہیں اس کتاب میں: ”.....جو تمام رسولوں کا ماننا جزو ایمان نہیں سمجھتے۔ پس اس آیت کے تحت ہر ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد ﷺ کو نہیں مانتا.....“ (کلمہ الفصل ص ۱۱۰)

623 مرزانا صراحتاً: یہ ہم پھر پیچھے چلے گئے۔ وہ جو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا ناں.....

جناب یحییٰ بختیار: یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں.....

مرزانا صراحتاً: ”تمام حجت“ والا فیصلہ، جو ایک دفعہ کر چکے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ: ”محمد ﷺ کو نہیں مانتا، اور محمد ﷺ کو تو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا پکارا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“ (کلمہ الفصل ص ۱۱۰)

میں عرض اس لئے کر رہا ہوں کہ کیوں Repeat کر رہا ہوں۔ ایک Writer speaker author (مصنف مقرر) کی Intention (مدعا) جو ہے۔ وہ اس کی بار بار جو چیز کہتے ہیں اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اور پھر غیر احمدی کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم نے جو کیلنگز متعین کی ہیں.....

مرزانا صراحتاً: ”جو ہم نے کی ہیں“..... اگر اس خاکسار کو بھی ”ہم“ میں شامل کر رہے ہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، آپ نے، جو آپ نے کی ہیں۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔

مرزانا صراحتاً: نہیں، نہیں، نہیں، نہیں، اوہو! میری بات سنئے۔ نہیں، نہیں، میں اعتراض نہیں کر رہا کوئی، میں بات کر رہا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خاکسار کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے تو بطور خلیفہ وقت۔ اس اتھارٹی کو میرے مقابلے میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو میں مانتا ہوں۔ اس پر..... اگر آپ کو reject (رد) کریں۔ تب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

⁶²⁴ مرزانا صراحتاً: میں اس کے اس مفہوم کو Reject (رد) کرتا ہوں اور میری ناقص رائے میں اس کا ایک ایسا مفہوم بھی ہے جو ہماری بنائی ہوئی کیلنگز کے اندر بالکل آ جاتا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: تو یہ جو کہہ رہے ہیں: ”آپ کیوں خواہ مخواہ ثابت کر رہے ہیں“ غلط بات ہے؟

مرزانا صراحتاً: یہ گناہ گار ہیں، یعنی میرے نزدیک۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی یہ غیر احمدی کے بارے میں جو کہا، وہ غلط بات ہے؟

مرزانا صراحتاً: جو آپ کی Interpretation (مفہوم) ہے، وہی لی جائے تو غلط بالکل۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی یہ Plain لفظ جو کہہ رہے ہیں.....

مرزانا صراحتاً: جو آپ کی Interpretation (مفہوم) ہے اس لحاظ سے یہ بات غلط ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! میری کوئی Interpretation (مفہوم) نہیں ہے۔ مرزا صاحب میری کوئی ڈکشنری نہیں۔ میں تو وہ Ordinary (عام) ڈکشنری جو

ہے اسی پر چلتا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں Interpretation (مفہوم).....

جناب یحییٰ بختیار: Interpretation (مفہوم) پر نہیں۔

مرزا ناصر احمد: میں نے ”ڈکشنری“ نہیں کہا.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ.....

مرزا ناصر احمد: میں نے Interpretation (مفہوم).....

جناب یحییٰ بختیار: اس میں کہتے ہیں ”غیر احمدی“ اب میرے نزدیک ”غیر

احمدی“ وہ ہیں جنہوں نے نبی مرزا صاحب کو نہیں مانا.....

مرزا ناصر احمد: ⁶²⁵ میں آپ کی بات سمجھ گیا۔

جناب یحییٰ بختیار: دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ”مسلمان“ میں مسلمان کی وہی

Definition (تعریف) جانتا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: وہی ہوگی ہم نے ایک..... Agree (اتفاق) کر گئے ہم.....

جناب یحییٰ بختیار: وہ کہتے ہیں کہ ”ان کو مسلمان.....“ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت

کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر Confusion (ابہام)

کوئی نہیں۔ ایک کیٹگری کافروں کی ہے، ان پر شک نہیں۔ دوسری کیٹگری ان کی ہے جو کہ کافر ہیں

مگر ہیں مسلمان، ان میں بھی کوئی شک نہیں.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، کافر و گناہ گار۔

جناب یحییٰ بختیار: کون ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اور کن کو ثابت کرنے

کی کوشش کر رہا تھا؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ میرا Question (سوال) تھا۔

مرزا ناصر احمد: وہ ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر اس کی اس

Interpretation (مفہوم) کے علاوہ، جو اس وقت آپ نے کی، اور کوئی

Interpretation (مفہوم) ممکن نہ ہو تو اس کو رد کرتا ہوں میں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، نہیں، وہ اور بات ہے کہ آپ اس کو Reject (رد)

کرتے ہیں۔

۱۰۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: ہاں، *Reject* (رد) کرتے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: اب اسی طرح ان کا یہ جو دوسرا حوالہ میں نے آپ کو سنایا: ”کافر
 اور پکا کافر ہے“..... (کلمہ الفصل ص ۱۱۰)
⁶²⁶مرزا ناصر احمد: سارے اسی کی روشنی میں چلے جائیں گے۔
 جناب یحییٰ بختیار: اسی کو *Explain* (واضح) کرتے ہیں؟
 چوہدری ظہور الہی: نماز کا وقت ہو گیا۔ بلکہ زیادہ دیر ہو رہی ہے۔
 جناب چیئر مین: اچھا، بہت اچھا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نماز کے بعد جی۔

Mr. Chairman: The delegation is permitted to withdraw, to report at 8:00 p.m.

(جناب چیئر مین: وفد کو باہر جانے کی اجازت ہے۔ وفد آٹھ بجے رات واپس

آئے گا)

(The deligation left the chamber.)

(وفد حال سے چلا گیا)

Mr. Chairman: The House is adjourned to meet at 8:00 p.m for Maghrab prayers.

(جناب چیئر مین: مغرب کی نماز کے لئے اجلاس آٹھ بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے)

[The speacial Committee adjourned for Maghrab prayers to meet at 8:00 p.m.]

(خصوصی کمیٹی کا اجلاس مغرب کی نماز کے لئے ملتوی کیا جاتا ہے۔ رات آٹھ بجے

دوبارہ ہوگا)

[Thr special Committee re-assembled after Maghrab prayers, Mr. Chairman(Sahibzada Farooq Ali)in the Chair.]

(خصوصی کمیٹی کا اجلاس مغرب کی نماز کے بعد دوبارہ ہوا۔ چیئر مین (صاحبزادہ

فاروق علی) کی صدارت میں)

۱۰۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

**INTERRUPTIONS BY THE WITNESS WHEN A
QUESTION IS PUT**

صاحبزادہ صفی اللہ: آپ نے کل فرمایا تھا کہ جب تک اٹارنی جنرل سوال کو ختم نہ کر لیں تو گواہ کو چاہئے کہ وہ مداخلت نہ کرے۔ لیکن کل سے اب تک اس نے اس پر بالکل عمل نہیں کیا اور اٹارنی جنرل کے سوال کے دوران وہ بحث شروع کرتا ہے یعنی اس سے قطع کلام کرتا ہے۔
جناب چیئر مین: ⁶²⁷ نہیں، میں بالکل روکوں گا بھی، ٹوکوں گا بھی، اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے۔
صاحبزادہ صفی اللہ: نہیں، وہ مداخلت کرتا ہے۔

جناب چیئر مین: وہ اٹارنی جنرل.....

جناب محمد حنیف خان: انہوں نے، اٹارنی جنرل صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ”میں سوال ہی نہ کروں اور وہ کہے کہ میں سمجھ گیا ہوں“ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو *Latitude* (مہلت) دی جائے کہ جو کچھ بھی وہ کہے۔ لیکن ان کا سوال مکمل ضرور ہونا چاہئے۔
صاحبزادہ صفی اللہ: چھوڑ دے اٹارنی جنرل صاحب کو سوال پورا کرنے کے لئے۔
جناب چیئر مین: ٹھیک ہے۔ میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔
جناب یحییٰ مختیار: (صاحبزادہ صفی اللہ سے) آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے دو دفعہ آج ان کو کہا بھی کہ میں نے ابھی سوال پورا ہی نہیں کیا اور آپ.....
صاحبزادہ صفی اللہ: لیکن وہ پھر بھی عمل نہیں کر رہے۔

Mr. Chairman: They may be called.

(مسٹر چیئر مین: ان کو بلا لیا جائے)

(The Deligation entered the Chamber)

(وفد چیئر میں داخل ہوا)

Mr. Chairman: Mr. Attorney General.

(مسٹر چیئر مین: مسٹر اٹارنی جنرل)

۱۰۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

CROSS- EXAMINATION OF THE QADIANI GROUP DELEGATION

مرزا ناصر احمد: ایک سوال اور رہ گیا۔ وہ پارسیوں کا کوئی حوالہ دیا تھا آپ نے کہ پارسیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملایا۔

628 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ کسی کو جو بھیجا تھا Messenger کو اپنے، کہ بڑے افسر کو..... جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میں ایک بڑے افسر.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔ تو وہ جو ہے اخبار، اگر کوئی شروع سے پڑھے تو ساری بات خود واضح ہو جاتی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! آپ وہ پڑھ دیجئے یا آپ Explain (واضح) کر دیں کہ یہ چیز تھی، اور وہ قائل کر دیں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اخبار ہی ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھنے والا ہے۔ یہ اخبار ۱۳ نومبر ۱۹۴۴ء کا ہے۔ اس میں حضرت خلیفہ ثانی کا خطبہ ہے۔ جو چھپا ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں: ”اس مسئلہ کے حل کو..... تب میں نے اس خیال سے کہ جب میرے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ہے۔ ایک جماعت کا امام ہونے کے لحاظ سے، خلیفہ ثانی ہونے کے لحاظ سے، تو مجھے سوچنا چاہئے کہ میں کس رنگ میں کام کر سکتا ہوں۔ اس مسئلہ پر غور کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ممکن ہے کہ برطانوی حکومت اس غلطی میں مبتلا ہو کہ اگر مسلم لیگ کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو مسلمان قوم بحیثیت مجموعی ہمارے خلاف یعنی انگریزی حکومت کے خلاف نہیں ہوگی۔ بلکہ ایسے مسلمان جو لیگ میں شامل نہیں اور ایسی جماعتیں جو لیگ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتیں، ان کو ملا کے وہ ایک منظم حکومت ہندوستان میں قائم کر سکے گی۔ (یہ انگریزوں کا خیال ہے) اس خیال کے آنے پر میں نے مزید سوچا اور فیصلہ کیا کہ ایسے لوگ جو لیگ میں شامل نہیں، ان کو اکٹھا کر کے اور گورنمنٹ کے اوپر زور دیا جائے کہ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو کہ ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں آپس میں مل جائیں۔ سارے دوسرے بھی، جو لیگ سے باہر ہیں، مل کر گورنمنٹ پر یہ واضح کر دیں کہ خواہ ہم لیگ میں نہیں، لیکن اگر لیگ کے ساتھ نکلے ہو تو ہم اس کو مسلمان قوم کے ساتھ نکلے اور سمجھیں گے اور جو جنگ ہوگی اس میں ہم بھی لیگ کے ساتھ شامل ہوں گے۔“

تو یہ بڑی واضح ہیں ساری عبارتیں۔ اس کے بعد وہ صرف آخری حصے کو لے کے اور اس کا غلط مطلب لے لینا، یہ درست نہیں۔ باقی رہا یہ سوال..... ابھی بات ختم نہیں ہوئی میری.....

۱۰۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: اس سوال کے بارے میں؟ یاد دوسرا سوال ہے؟
مرزا ناصر احمد: اسی، اسی کے متعلق۔

Mr. Chairman: This is the explanation. The writing....

(جناب چیئر مین: یہ وضاحت ہے۔ تحریر.....)

مرزا ناصر احمد: ایک اور ہے.....

Mr. Chairman: Just a minute, just a minute. That writing is admitted which was put to the witness that writing which was refused to by the Attorney- General that is appeared in "Al-Fazal"?

(جناب چیئر مین: گواہ کو جو تحریر دکھائی گئی تھی وہ اسے تسلیم کرتا ہے۔ وہ تحریر جس کا حوالہ اٹارنی جنرل نے دیا تھا۔ وہ کیا 'الفضل' میں شائع ہوئی تھی)

Mr. Yahya Bakhtiar: That has not been denied by Mirza Sahib; but he is explaining.

(جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب نے اس سے انکار نہیں کیا بلکہ اس نے وضاحت کی ہے)

Mr. Chairman: It is the explanation. But that is admitted?

(جناب چیئر مین: یہ وضاحت ہے۔ لیکن اس کو تسلیم کیا ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: That is admitted, Yes.

Mr. Chairman: Yes, the witness may explain.

(جناب چیئر مین: جی ہاں! گواہ وضاحت کر سکتا ہے)

مرزا ناصر احمد: وہ تو Admit (تسلیم) کر لیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ تو میں نے کہا کہ Admit (تسلیم) کر لیا ہے۔

مرزا ناصر احمد: لیکن میں نے بتایا ہے کہ اس خطبہ کے جو اقتباسات ہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، وہ میں سمجھ گیا۔⁶³⁰

مرزا ناصر احمد: وہ واضح ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کا ۱۹۴۰ء کا ایک

ریزیولوشن ہے۔ وہ تو ۱۹۴۶ء سے ۴۷ء سے کہیں پہلے کا ہے نا۔ وہ جو ریزیولوشن پاس ہوا تو ۲۵ یا

۱۰۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کا علیحدہ ریفرینڈم ہے۔ یہ ہمارے ایک دوست نے اطلاع دی ہے کہ میں نے آدی بھوجادیئے ہیں اخباروں کی تلاش میں ۲۵ اور ۲۶ کہ سب سے پہلے مبارکباد جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے دی مسلم لیگ کو، پاکستان بنانے کے متعلق اور یہ اس وقت مارچ کے اخباروں میں اس تاریخ کو چھپ گئی ہے اور وہ تو خیر لکھتے ہیں کہ ”اگر ضرورت ہو تو میں اس بات کی گواہی دینے پر تیار ہوں۔“ لیکن امید ہے کہ اخبار مل جائیں گے اور گواہی دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ اخبار لے آئیں۔ میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جب تک ۳ جون ۱۹۴۷ء کا اعلان نہیں ہوا، جماعت احمدیہ اکھنڈ بھارت کے حق میں تھی اور میں نے یہ سوال اس لئے پوچھا کہ ایک میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا ایک Fact کا، اور یہ ایک سوال تھا، اور اس کے علاوہ منیر انگوٹری کورٹ کی جو Findings ہیں۔ اس بارے میں، وہ میرے مد نظر ہیں
مرزا ناصر احمد: ہاں، لیکن اس سے پہلے.....

جناب یحییٰ بختیار: وہ کہتے ہیں، ان کی Writings (تحریر) سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ *They were not in favour of Pakistan till the time of independence, that is not material* (کہ وہ حصول آزادی تک پاکستان کے حق میں نہیں تھے۔) وہی جو میں نے کہا تھا ڈجون۔ باقی یہ کہ مسلم لیگ کے ساتھ یا ہم مسلم لیگ کے ساتھ لڑیں گے۔ سوال صرف پاکستان کے بننے کا ہے یا نہ بننے کا۔ تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کتاب ہے اور اخبار ہے۔

مرزا ناصر احمد: ⁶³¹ نہیں، نہیں۔ اسی اخبار میں یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نے پاکستان
جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ تو اب آپ اخبار لائیں گے ناں جی۔
مرزا ناصر احمد: نہیں پاکستان کے وہ تو اس اخبار میں ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: آپ نے کہا کہ
مرزا ناصر احمد: یہ جو ہے، یہ اخبار، جس میں سے حوالہ لے کر یہ سوال بنایا گیا ہے، اس اخبار میں یہ ہے کہ مسلم لیگ پاکستان بنانے کے لئے جو کوشش کر رہی ہے اس کی جنگ میں، ہم شامل ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ دیکھ لیں جی.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، وہ اسی اخبار میں ہے۔

۱۰۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، کیونکہ منیر نے ایک Finding (رائے) دی ہے، اس لئے میں.....

مرزاناصر احمد: نہیں، یہ اخبار ہے، یہ واضح ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ٹھیک ہے ناں جی۔ وہ تو Findings (آراء) سے.....
مرزاناصر احمد: اور جو دوسرے اخبار ہیں مبارکبادی اس کے لئے ہم نے آدمی بھجوا دیئے ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ آپ بھیج دیجئے۔

مرزاناصر احمد: اور یہ ۱۹۴۵ء میں ۱۹۴۵ء میں ایک اور معین ہے کہ..... یہ تراشا بھجی ہمارے پاس موجود ہے..... کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد اس جماعت کی پالیسی کے اعلان سے قبل ایک خط میں بھی مسلم لیگ کی تائید میں ہدایت فرما چکے تھے۔ اس خط کی نقل قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمت میں بھجوائی گئی تو آپ نے امام جماعت احمدیہ کے اس فیصلے پر خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔

632 جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے۔ نہیں جی، میرا جو جس.....

مرزاناصر احمد: نہیں، یہ وہی Struggle (کوشش) ہے پاکستان بننے کی۔

جناب یحییٰ بختیار: میں نے جو آپ کو عرض کی کہ ایک Impact ایک منیر صاحب کی انکوائری رپورٹ، ان میں Finding (آراء) دی ہیں۔ ایک Comment (تبصرہ) ہے۔ ایک میں Finding (رائے) ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ Explain (واضح) کر رہے ہیں اور باقی جہاں تک میرا..... جس Context میں میں نے سوال پوچھا تھا آپ سے، وہ یہ نہیں تھا کہ آپ پاکستان کے حق میں ہیں یا خلاف تھے یا ہیں۔ یہ نہیں تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ باقی مسلمانوں سے اپنے آپ کو Separate (الگ) تھلگ رکھیں، علیحدہ رکھیں، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ ”ایک پارسی کے مقابلے میں دو پارسی..... دو احمدی پیش کروں گا۔“

مرزاناصر احمد: ہیں جی؟

جناب یحییٰ بختیار: کہ ”اگر پارسی ایک پیش کیا جاتا ہے تو میں اس کے مقابلے میں دو احمدی پیش کروں گا“.....

مرزاناصر احمد: وہ، وہ..... یہ جو ہے ناں.....

جناب یحییٰ بختیار: وہ جو ہے Separatism (علحدگی).....
 مرزانا صراحمہ: میرا تصور ہے، میرا تصور ہے۔ جو آپ..... یہ جو آپ کر رہے
 ہیں ناں سوال، یہ اس اخبار کے اوپر Based ہے اور اسی اخبار میں اسی خطبے کے اندر خلیفہ ثانی
 نے یہ بیان کیا ہے کہ ”میں نے ان حالات میں مسلم لیگ سے مشورے کے بعد اور ان کی مرضی
 کے ساتھ یہ Stand (اقدام) لیا تاکہ مسلم لیگ کی جو کوشش پاکستان بننے کے لئے ہے، اس
 میں اور زیادہ استحکام پیدا ہو اور طاقت پیدا ہو۔“
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں نے Explain (واضح) کیا۔ جو میرا تھا ناں
 Separatism (علحدگی) کا.....
 مرزانا صراحمہ: جی، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اسی میں جواب ہے۔ اسی اخبار کے اندر
 جواب موجود ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: اس پر پھر میں بعد میں آ رہا ہوں جی، کیونکہ کچھ اور حوالے ہیں۔
 مرزانا صاحب! میں ابھی کوئی اور سوال پوچھ لوں آپ سے؟ May I proceed?
 (کیا میں آگے چلوں؟)

مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: خاتم النبیین کے بارے میں جو مولانا ابوالعطاء صاحب نے
 ایک کتاب لکھی ہے، مولانا مودودی صاحب کی کتاب کے جواب میں Annexure No.6
 ضمیمہ ۶، اس میں مولانا فرماتے ہیں، مولانا ابوالعطاء صاحب کہ: ”خاتمیت محمدیہ میں آنحضرت ﷺ
 کے خاتم النبیین ماننے والوں کے دو مختلف نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی
 خاتمیت نے دیگر انبیاء کے فیوض کو بند کر کے فیضان محمدی کا وسیع دروازہ کھول دیا.....“

(مسٹر چیئرمین: کیا صفحہ؟) Mr. Chairman: Page?

جناب یحییٰ بختیار: Page 8, Sir (صفحہ نمبر ۸)..... پہلا نظریہ یہ ہے کہ
 آنحضرت ﷺ کی خاتمیت نے دیگر انبیاء کے فیوض کو بند کر کے فیضان محمدی کا وسیع دروازہ کھول
 دیا۔ آپ کی امت کے لئے آپ کی پیروی کے طفیل وہ تمام انعامات ممکن الحصول ہیں جو پہلے
 ”منعم علیہم“ لوگوں کو ملتے رہے ہیں۔“

یہ تو ایک نظریہ ہے جو کہ آپ کا نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کے مولانا
 ابوالعطاء صاحب کے نقطہ نظر سے.....

مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں، عطاء صاحب کے نزدیک۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ یہ ہے ہاں جی، ہاں جی یہ ہے کہ:
 ”آنحضرت ﷺ کی خاتمیت فیضان محمدی کے بند ہونے کے مترادف ہے.....“
 مرزانا صراحمہ: کیا ہونے کے مترادف ہے؟
 جناب یحییٰ بختیار: ”..... خاتمیت فیضان محمدی کے بند ہونے کے مترادف ہے.....“
 مرزانا صراحمہ: ہاں جی۔

جناب یحییٰ بختیار: ”..... آپ کی امت ان تمام اعلیٰ انعامات سے محروم ہوگئی جو
 بنی اسرائیل یا پہلی امتوں کو ملتے رہے ہیں۔“ اب اس سے جو میں یہ سمجھا ہوں کہ آنحضرت ﷺ
 کے بعد، جیسے آپ کہتے ہیں، امتی نبی آئیں گے، اور یہ ایک فیض کا دروازہ ہے جو بند نہیں ہوا اور
 وہ دوسرے کہتے ہیں جی..... آپ کے نقطہ نظر سے..... یہ فیض کا دروازہ، رحمت کا دروازہ
 بند ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کل یہ دروازہ بند ہے یا کھلا ہے؟
 مرزانا صراحمہ: یہ سوال جو ہے یہ اس.....

(آنحضرت ﷺ کے بعد مرزا قادیانی تک اس دوران کسی اور کو نبوت ملی؟)
 جناب یحییٰ بختیار: یا..... میں ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں..... یہ چودہ سو سال
 میں، آنحضرت ﷺ کے بعد اور مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش سے پہلے کوئی اور نبی آیا یا اس
 دوران میں یہ دروازہ فیض کا کھلا کسی ایک منٹ کے لئے؟
⁶³⁵مرزانا صراحمہ: جس فیض محمدی کی طرف یہ اقتباس جو ابھی آپ نے سنایا ہے،
 اشارہ کرتا ہے، وہ صرف امتی نبی نہیں بلکہ ہر قسم کا فیض.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں.....
 مرزانا صراحمہ: مثلاً وحی کے نزول کا فیض۔ دوسرے یہ ایک خاص زمانے کے
 خیالات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں تو اس بات پر کچھ وضاحت چاہتا ہوں آپ
 سے..... یہ سوال ہے ”خاتم النبیین“ کا اور اس کی Further clarification (مزید
 وضاحت) بھی میرے خیال میں ہوگی کہ آیا اور نبی آسکتے ہیں..... امتی نبی میرا مطلب.....
 مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: یا نہیں آسکتے۔ تو آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آسکتے ہیں؟
 مرزا ناصر احمد: نہیں، میں نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، جہاں تک میں سمجھا ہوں، یہ مولانا لکھتے ہیں کہ: ”دیگر
 انبیاء کے فیوض کو بند کر کے فیضان محمدی ﷺ کا وسیع دروازہ کھول دیا ہے۔“
 مرزا ناصر احمد: اس میں نبوت کا کوئی ذکر نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: یعنی یہ ”خاتم النبیین“ پر بحث ہے اور نبوت کا کوئی ذکر نہیں؟
 مرزا ناصر احمد: جی نہیں، صرف نبوت کا ذکر نہیں ہے.....
 جناب یحییٰ بختیار: میں تو کہتا ہوں کہ صرف نبوت کا ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب
 ہے، یعنی اور نبی آسکتے ہیں یا نہیں آسکتے؟
 مرزا ناصر احمد: وہ تو ویسے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ مگر اس کو.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں نے اس واسطے، کیونکہ آپ.....

(مرزا قادیانی کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں بن سکتا)

636 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں بات یہ ہے کہ ایک ہے فلاسفی اور ایک ہے حقیقت۔ یہ
 فلسفیانہ سوال ہے کہ امکان ہے یا نہیں، اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ میں جتنے عظیم
 واقعات اصولی طور پر ہونے تھے، ان سب کا ذکر احادیث نبوی ﷺ ہیں جو تفسیر ہے قرآن عظیم
 کی..... آنحضرت ﷺ کے سارے ارشادات، ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآن عظیم کی تفسیر
 ہے..... تو قرآن کریم اور اس کے تفسیر کے اندر ہر اس اہم واقعہ کی خبر دی گئی ہے جو واقعہ امت
 محمدیہ سے تعلق رکھتا ہے، قیامت تک کے لئے اور ان..... یہ جو اطلاعات ہیں، یہ پیشین گوئیاں
 ہیں آئندہ کے متعلق۔ ان کے متعلق جو پیش خبریاں ہیں، ان کے مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ صرف ایک امتی نبی کی بشارت دی گئی ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے..... باقی امکانی جو ہے..... اور آ
 سکتے ہیں یا نہیں..... یہ بھی امت محمدیہ کے ہمارے بزرگوں نے اس پر بحث کی ہے اور جو ہم نے
 ساتھ صیغے بھجوائے تھے، اس کے اندر یہ بحث موجود ہے۔ مثلاً برصغیر پاک و ہند کے مایہ ناز محدث
 شارح، مشکوٰۃ شریف، مشہور امام اہل سنت حضرت ملا علی قاری، جن کی وفات ۱۶۰۶ھ میں ہوئی۔
 یعنی آج سے تقریباً چار پانچ سو سال پہلے، وہ ”موضوعات کبیر، کے ص ۶۹ پر..... ۱۶۰۶ عیسوی
 ہے ہجری نہیں، ۱۶۰۶ عیسوی..... وہ موضوعات کبیر“ میں لکھتے ہیں: (عربی)

۱۱۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

تو اس میں انہوں نے امکان کا اظہار کیا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتی نبی بن جاتے، یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر امتی نبی بن جاتے۔ اسی طرح سے یہاں بہت سارے اور دوسرے بھی ہیں۔ ایک ہے امکانی بات اور ایک ہے اس نقطہ نگاہ کے بعد کہ نبی اکرم ﷺ نے امت کے آئندہ انقلابات عظیمہ کے متعلق جو بشارتیں اور پیش خبریاں دی ہیں، ان میں کسی اور کا ذکر بھی ہے؟ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے سوائے نزول علی علیہ السلام کے اور مہدی اور اپنے وقت کے امتی نبی کے اور کوئی بشارت نہیں ملی، یعنی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اگر کسی اور دوست کے علم میں ہو، اگر وہ بتادیں!.....

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، مولانا ابوالعطاء صاحب نے ایک دلیل دی ہے اور مولانا مودودی صاحب کے اس یا باقی مسلمانوں کے نقطہ نظر سے کہ ان کے بقول دروازہ بند ہو گیا ہے فیض کا، اللہ کی رحمت کا۔ جیسے رحمت اللعالمین آئے تھے اس طرح اور بھی نبی آئیں گے؟ یہ کہتے ہیں یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ تیرہ سو سال میں یہ دروازہ تھوڑی دیر کے لئے بھی کھلا یا نہیں کھلا، فیض آیا یا نہیں آیا، رحمت آئی یا نہیں آئی؟ میں یہ پوچھ رہا تھا، نبی کے بارے میں، کہ کوئی اور نبی آیا یا نہیں آیا؟

مرزا ناصر احمد: دیکھیں نا، آپ کبھی ”رحمت“ کا لفظ استعمال کر کے مجھ سے سوال کرتے ہیں کبھی ”نبی“ کا۔ تو ”رحمت“ والا لفظ استعمال کرنا چاہئے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں اس Context (بارے) میں آپ سے.....

اگر آپ مجھے موقع دیں۔..... ”خاتم النبیین“ کی بحث ہے.....

مرزا ناصر احمد: جی وہ تو میں سمجھ گیا۔

(تیرہ چودہ سو سال میں کوئی نبی آیا؟)

جناب یحییٰ بختیار: ایک منٹ کے لئے..... ایک طرف تو یہ نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد ﷺ آخری نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی قسم کا، کسی قسم کی کمیگری کا، کسی Kind کا، کسی Sort کا نہیں، تو ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فیض کا

اگر ایک کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں۔ تو گویا مرزا کے بعد نبوت بند ہے۔ تو پھر ”خاتم النبیین“ مرزا قادیانی ہوئے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور ﷺ ”خاتم النبیین“ نہ ہوئے اس لئے کہ آپ ﷺ کے بعد مرزا نبی ہے۔ یہ ہے قادیانی کفر کی اندرونی کیفیت؟

دروازہ بند ہو گیا۔ یہ دروازہ کھلا رہے گا، یہ جو میں سمجھتا ہوں ان کی لاجک *logic, plain reading, simple reading* جو ان کی ہے کہ یہ دروازہ بند نہیں ہوا، اور نبی آئیں گے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ کیا مرزا صاحب کی پیدائش سے قبل یہ تیرہ چودہ سو سال میں کوئی نبی آیا؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، ان تیرہ چودہ سو سال میں امتی نبی تو کوئی نہیں آئے، مگر کانبیاء بنی اسرائیل سینکڑوں، ہزاروں آئے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہاں تو مرزا صاحب! سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ باقی جتنے بھی پیغمبر ہیں، باقی.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، جو آپ نے پڑھا ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: وہ دروازے تو آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ بند ہیں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، جو آپ نے کوئی سوال پڑھا ہے، اس میں تو وہ بات نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: میں پھر پڑھتا ہوں: ”پہلا نظریہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خاتمیت نے دیگر انبیاء کے فیوض کو بند کر کے.....“

تو جہاں تک باقی انبیاء کے فیوض ہیں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، وہ تو بند ہو چکے۔ اس میں تو کوئی *Dispute* نہیں ہے، نہ مولانا مودودی صاحب کا، نہ مولانا ابوالعطاء صاحب کا۔ اب سوال یہ ہے کہ امتی نبی کا جو دروازہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بند ہے، یہ کہتے ہیں کہ کھلا ہے، اور کئی آئیں گے۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، یہ مجھے تھوڑا سا اجازت دیں، میں اس کو واضح کروں، اپنے عقیدہ کے لحاظ سے۔

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کے فیوض کے نتیجے میں کوئی نبی بن ہی نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بحث جو ہے وہ نبوت کا دروازہ کھولنے والی نہیں ہے۔ بلکہ بحث یہ ہے کہ پہلے انبیاء کے فیوض کا دروازہ حضرت محمد ﷺ نے بند کر دیا اور آپ کی بعثت کے بعد اور قرآن کریم کے نزول کے بعد اب صرف ایک دروازہ خدا تعالیٰ کے فیوض کے حاصل کرنے کا ہے تو وہ اتباع محمد ﷺ کا ہے۔ لیکن جب مقابلہ ہو پہلے انبیاء سے جن کے فیوض کے طفیل نبوت ملتی نہیں تھی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں جو بحث ہے، کتاب کے اس حصہ میں، یا کہیں اور ہوگی۔ مجھے نہیں پتہ، لیکن

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

اس حصہ میں ”امتی نبی“ کی بحث کوئی نہیں، بلکہ فیوض محمدیہ ﷺ کے جاری رہنے کی بحث ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: میں، میں پھر غلطی پر ہوں جی۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ
 ساری کتاب جو ہے مودودی صاحب کے کتابچہ ”خاتم النبیین“ کا تفصیلی جواب ہے۔ پھر یہاں
 فرماتے ہیں: ”خاتمیت محمدیہ آنحضرت ﷺ کو ”خاتم النبیین“ ماننے والوں کے دو مختلف
 نظریے ہیں.....“ یعنی ”خاتم النبیین“ پر جو بحث ہے اس پر دو نظریے ہیں، دو School of
 thought ہیں۔ ایک..... ابھی کسی اور فیض کا ذکر نہیں ہے، میں جو سمجھتا ہوں.....
 مرزا ناصر احمد: جب پہلے انبیاء کا ذکر آ گیا تو وہ اس فیض کا ذکر ہی نہیں آ سکتا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، میں Explain (واضح) کروں آپ کو، پہلا
 نظریہ یہ ہے.....

مولانا عبدالمصطفیٰ الازہری: محترم چیئرمین صاحب! ذرا یہ گڑبڑ پڑ رہی ہے۔
 سوال مکمل ہو جائے پھر وہ جواب دیں تو ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کچھ سمجھ نہیں سکتے اس سلسلے سے۔
 جناب یحییٰ بختیار: میں نے یہ عرض کیا جی کہ ساری بحث اس بات کی ہے کہ
 ”خاتم النبیین“ کے کیا معنی ہیں۔ اس پر مولانا ابوالعطاء صاحب فرماتے ہیں کہ: ”خاتمیت محمدیہ یا
 آنحضرت ﷺ کو ”خاتم النبیین“ ماننے والوں کے دو مختلف نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ
 آنحضرت ﷺ کی خاتمیت نے دیگر انبیاء کے فیوض کو بند کر کے فیضان محمدی ﷺ کا وسیع دروازہ
 کھول دیا ہے۔ آپ کی امت کے لئے آپ ﷺ کی پیروی کے طفیل وہ تمام انعامات ممکن
 الحصول ہیں جو پہلے منعم علیہم لوگوں کو ملتے رہے ہیں۔“ یعنی جو باقی امتیں ہیں ان کو جو
 انعامات ملتے رہے وہ تو ختم، وہ دروازہ تو بند، جیسے میں سمجھتا ہوں، مگر اس امت میں، امت محمدیہ
 میں یہ فیض جاری رہے گا۔ اور یہ فیض..... جیسے آپ نے ”مخضر نامہ“ میں کہا کہ ”یہ کھڑکی کھلی ہے
 جس سے کہ نبی آ سکتا ہے“ جو میں سمجھ سکا، اس کا بھی میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ دروازہ کھلا ہے:
 ”آپ کی امت کے لئے آپ کی پیروی کے طفیل وہ تمام انعامات ممکن الحصول ہیں جو پہلے منعم
 علیہم لوگوں کو ملتے رہے ہیں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خاتمیت فیضان محمدی کی
 بند ہونے کے مترادف ہے۔ آپ ﷺ کی امت ان تمام اعلیٰ انعامات سے محروم ہوگی جو بنی
 اسرائیل یا پہلے امتوں کو ملتے رہے ہیں۔“
 اب میرا جی سوال یہ ہے کہ کیا اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اور نبی آئیں گے؟ اور یہ
 فیض اور نبی کے آنے کے متعلق ہے یا یہ کہ.....

۱۱۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحتاً: نہیں اس میں نہیں ذکر
 جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے۔ میں اس سے اور آگے نہیں چلتا۔
 اب میں مرزا صاحب! آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق
 آنحضرت ﷺ کے بعد اور نبی آسکتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کو آپ⁶⁴¹ امتی
 نبی سمجھتے ہیں۔ آسکتے ہیں؟ پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے..... تاکہ آپ تشریح کریں..... اس عرصہ
 میں صرف وہی نبی آئے ہیں یا اور بھی آئے ہیں؟ اس کی آپ تشریح کریں۔
 مرزانا صراحتاً: سوال ختم ہو گیا جی؟
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، ہو گیا۔

(صرف مرزا قادیانی ہی نبی ہے)

مرزانا صراحتاً: ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں صرف وہی امتی نبی آسکتے
 ہیں جن کی بشارت محمد ﷺ نے دی ہو۔
 جناب یحییٰ بختیار: ختم کر لیا آپ نے؟
 مرزانا صراحتاً: ہاں، ختم میرا بیان۔
 جناب یحییٰ بختیار: اور آپ کے نظریہ کے مطابق وہ بشارت صرف مرزا غلام احمد
 صاحب کے بارے میں ہے یا یہ مسیح موعود کے بارے میں ہے اور کسی نبی کے بارے میں نہیں؟
 مرزانا صراحتاً: ہاں، وہ بشارت ہمارے عقیدے کی رو سے صرف مہدی اور مسیح کے
 متعلق ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: اور یہ جو آپ نے کہا، یہ جو ہے، کسی حدیث کے حوالے سے
 کہتے ہیں.....

مرزانا صراحتاً: یہ جی میں بہت سی احادیث کے حوالے سے کہتا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: کہ صرف ایک آئیں گے، اس کے علاوہ اور نہیں آئیں
 گے، نہ ہی پہلے آئے ہیں؟
 مرزانا صراحتاً: نہیں، یہ دیکھیں ناں.....
 جناب یحییٰ بختیار: میں Explain (وضاحت) کر دوں گا جی، کہ حضرت⁶⁴²

غلام احمد صاحب سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا امتی۔ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک کے بارے میں ہے، آپ کا عقیدہ، اور وہ مسیح موعود ہے تو ظاہر ہے کہ ان سے پہلے نہیں آیا کوئی۔ کیونکہ انہی کا دعویٰ ہے۔ انہی کو مانتے ہیں کہ یہی تھے مسیح موعود۔ اور میرا خیال ہے کہ ان کے بعد بھی نہیں آئیں گے۔ یعنی بالکل دروازہ جو ہے فیض کا، بند ہے۔ صرف تھوڑی دیر کے لئے کھلا اور ایک نبی کے لئے کھلا اور اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ درست ہے جی؟

مرزانا صاحب: جب آپ کا سوال.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہو گیا۔

مرزانا صاحب: آپ اگر اس کتاب کا حوالہ دیں گے تو اس میں ایک فیض نہیں بلکہ وہ تمام فیوض.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، وہ میں نے چھوڑ دیا۔

مرزانا صاحب: وہ تو چھوڑ دیا، لیکن وہ قید آپ نے لگا دی ہے۔ اس لئے میں جواب دیتا ہوں۔ بہر حال، جو میں سمجھتا ہوں، جواب دوں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے طفیل ان تمام فیوض سے زیادہ فیوض حاصل کئے جاسکتے ہیں جو تعداد میں ہزاروں لاکھوں ہیں۔ جو پہلے تمام انبیاء کے ذریعے سے حاصل کئے جاسکتے تھے اور ان فیوض میں سے صلحاء کا پیدا ہونا، ان فیوض میں سے ان لوگوں کا پیدا ہونا جن کو ہم معنوی لحاظ سے شہید کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا پیدا ہونا جو صالح وہ جو صدیق کہلاتے ہیں اور امتی نبوت کا بھی دروازہ کھلا ہے اور اس کے نیچے بے شمار اور اس کے انگنت فیوض میں جو محمد ﷺ کے طفیل حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

643 جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، وہ تو اور بات ہے.....

مرزانا صاحب: منعم علیہم کا جو گروہ ہے، جس کی طرف ہمیں سورہ ”فاتحہ“ کا: ”اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم“ اس حدیث، اس آیت قرآنی سورہ فاتحہ کی جو ہے۔ اس سے ہم منعم علیہ گروہ کا محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام نازل ہوئے اور قرآن کریم میں اس Context میں سورہ ”فاتحہ“ میں جو منعم علیہ گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: صراط الذین انعمت علیہم اس میں: ”من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولیک رفیقاً“ تو یہ چوٹی کے چار درجوں کا

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

قرآن کریم کی دوسری آیت میں ایک دوسرے مقام پر ذکر آیا ہے اور امت محمدیہ میں ان چودہ سو سال میں یہ جو مجموعہ منعم علیہ گروہ کا، وہ ایک ایک وقت میں مختلف درجات ہزاروں ہزار بھی پیدا ہوئے اور ایک وقت میں منعم علیہ کا وہ گروہ جس کو ”امت نبی“ کہا جاتا ہے، وہ ایک پیدا ہوا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیوض محمدی کا دروازہ کھلا نہیں، یا صرف ایک اس نے جھلک دکھائی اور ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ تو ہر وقت ہمارے اوپر اپنے جلوے ظاہر کر رہا ہے۔

Mr. Chairman: The question of Attorney-General is un-answered.....

(جناب چیئر مین: اٹارنی جنرل کے سوال کا جواب نہیں ملا.....)

Mr. Yahya Bakhtiar: I will just, Sir, repeat the question in a different form if I am permitted.

(جناب یحییٰ بختیار: اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا سوال دوسرے طریقے میں دہراتا ہوں)

Mr. Chairman: Yes, the question is un-answered the Attorney General may repeat the question.

(جناب چیئر مین: اجازت ہے۔ سوال کا جواب نہیں آیا۔ اٹارنی جنرل سوال دوبارہ کریں)

⁶⁴⁴*Mr. Yahya Bakhtiar: I will repeat it in a different form.* (جناب یحییٰ بختیار: میں اپنا سوال دوسرے طریقے سے کرتا ہوں۔)

کیا مولانا مودودی صاحب نے یا کسی اور مسلمان علماء میں سے کسی نے بھی یہ کہا کہ فیض محمدی کا دروازہ بند ہوا..... اس سانس (Sense) میں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ کہ کوئی بزرگ اولیاء صادقین میں سے کوئی نہیں آئیں گے؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو اب بھی کہتے ہیں کہ نیک بندے آئیں گے جو اللہ کا پیغام لوگوں کو دیں گے۔ اس پر تو..... یہ فیض تو ہر وقت جاری رہے گا۔ اس پر تو کوئی Dispute ہی نہیں ہے۔

سوال یہ میں آپ سے Simple (سادہ) پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نظریے کے مطابق کوئی اور نبی مرزا غلام احمد صاحب کے علاوہ آسکتا ہے یا نہیں آسکتا؟

مرزانا صراحتاً: پہلے ”آ سکتا ہے“ کا جواب ہے: آ سکتا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: آ سکتا ہے؟

مرزانا صراحتاً: آ سکتا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔ مگر حقیقت میں صرف ایک ہی آیا ہے؟

مرزانا صراحتاً: لیکن عملاً صرف وہی آ سکتا ہے جس کی بشارت محمد ﷺ نے دی ہو۔

جناب یحییٰ بختیار: اور انہوں نے بغیر مرزا صاحب کے کسی کی بشارت نہیں دی؟

یعنی آپ کو احادیث کا علم ہے۔

مرزانا صراحتاً: میرے علم کے مطابق نہیں دی۔ لیکن اگر کوئی اور یہ ثابت کرے کہ

حضرت محمد ﷺ نے کسی اور کی بھی بشارت دی ہے تو میں Commit (پابند ہوں) یہ کہہ کے کہ

وہی نبی آ سکتا ہے جس کی بشارت محمد ﷺ نے دی۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اگر میں یہ کہوں، مرزا صاحب! کہ اگر یہ اصول مان لیا

جائے کہ اللہ کا فیض جاری رہے گا۔ اللہ کے خزانے بند نہیں ہوئے۔ نبی کی Sense (معنی)

میں⁶⁴⁵..... ”نبی کی سینس (Sense) میں“ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں..... اور اگر یہ اصول مان لیا

جائے تو پھر کیونکہ ابھی دنیا شروع ہی ہوئی ہے۔ تیرہ سو سال کچھ بات ہی نہیں، تیرہ ہزار سال

گزریں گے، ہزاروں نبی آ سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں: ”نہیں، صرف ایک ہی نبی آئے گا، امتی

ایک ہی آیا ہے۔“ چونکہ آپ کے مطابق بشارت آنحضرت محمد ﷺ کی یہی ہے کہ ایک ہی ہوگا،

اور نہیں آئیں گے۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں کیا؟

مرزانا صراحتاً: یہ پورا صاف نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: میں پھر عرض کر دیتا ہوں.....

مرزانا صراحتاً: نہیں میں نے یہ کہا کہ میرے علم میں صرف ایک کی بشارت ہے

اور میں، میں..... میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی..... اور میں، میں، میں یہ، اس اصول کو، پر عقیدہ

رکھتا ہوں کہ امت محمدیہ میں سوائے اس امتی نبی کے جس کی بشارت خود محمد ﷺ نے دی ہو، اور

کوئی نہیں آ سکتا۔

جناب یحییٰ بختیار: اور نہیں، بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔

مرزانا صراحتاً: یہ اصول ہے، میرے نزدیک۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں۔ نہ آیا ہے، نہ آئیں گے؟

مرزانا صراحمہ: نہیں، صرف وہ آسکتا ہے جس کی بشارت دی گئی ہو۔

(آنحضرت ﷺ کی بشارت کے مطابق صرف ایک امتی نبی)

جناب یحییٰ بختیار: تو انہوں نے بشارت صرف ایک کی دی ہے؟

مرزانا صراحمہ: ہمارے نزدیک؟

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں ناں جی۔

مرزانا صراحمہ: ہاں، ہمارے عقیدے کے مطابق امتی نبی صرف ایک کی بشارت

دی گئی ہے، مہدی اور مسیح کے نام سے اور..... لیکن نبی اکرم ﷺ کے بے شمار فیوض ہیں۔ وہ 646 فیوض ہیں جو کانیاہ بنی اسرائیل۔

جناب یحییٰ بختیار: میں انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں۔

مرزانا صراحمہ: کانیاہ بنی اسرائیل۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں انبیاء کا کہہ رہا ہوں کہ نبی جو ہیں وہ آپ کے عقیدے کے

مطابق سوائے ایک کے اور نہیں آسکتے اور نہ آئے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے؟

مرزانا صراحمہ: ہاں، ہمارے اس عقیدے کے مطابق کہ وہی امتی نبی آسکتا ہے

جس کی بشارت خود حضرت خاتم الانبیاء نے دی ہو۔

جناب یحییٰ بختیار: اس کے علاوہ نہیں آسکتا۔

مرزانا صراحمہ: اس کے علاوہ نہیں آسکتا۔ لیکن کانیاہ بنی اسرائیل ہزاروں آسکتے

ہیں۔ اس میں بھی ”نبی“ کا آ گیا ہے ناں: ”کانیاہ بنی اسرائیل۔“

جناب یحییٰ بختیار: یعنی ابھی..... غیر امتی نبی اور ہو سکتے ہیں؟

مرزانا صراحمہ: کانیاہ بنی اسرائیل ہو سکتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ، وہ فیض محمدی ہوگا کیا؟

مرزانا صراحمہ: بالکل فیض محمدی، اور تو کوئی فیض، ہی نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ نبی نہ ہوئے علماء ہو گئے۔

مرزانا صراحمہ: کانیاہ بنی اسرائیل۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی علماء ہو گئے۔ نبی کا تو Status (مقام) نہ ہوا جی ان کا۔

مرزانا صراحمہ: انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ ان سے سلوک کرے گا۔

647 جناب یحییٰ بختیار: انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ ان سے سلوک کرے گا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ”نبی“ جس کو ہم کہتے ہیں ناں، ایک تو یہ ہوا جو آپ نے صبح *Explain* (واضح کیا) کہ یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرح سلوک کریں گے.....

مرزانا صراحتاً: وہ میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں صرف کہتا ہوں ”نبی“ جو کہتے ہیں ناں.....

مرزانا صراحتاً: ہاں، وہی۔ میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: کوئی اور نہیں آسکتے؟

مرزانا صراحتاً: نہیں، میں نے عقیدہ یہ بتایا ہے کہ میرے نزدیک صرف وہی نبی، امتی نبی، امت محمدیہ میں آسکتا ہے جس کی بشارت حضرت خاتم الانبیاء ﷺ نے دے دی ہو۔

جناب یحییٰ بختیار: اور وہ انہوں نے صرف ایک کے متعلق دی ہے..... آپ کا یہ عقیدہ ہے..... اور وہ آچکا ہے؟

مرزانا صراحتاً: ہاں! اس شرط کے ساتھ بیان کریں تو ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ صرف ایک ہی آچکا ہے۔

مرزانا صراحتاً: اور دوسرے کا نبیاء بنی اسرائیل ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، اور نہیں، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب نہیں آسکتے ناں جی اور، کیونکہ ایک کی بشارت ہے اور وہ ختم ہو گیا۔

مرزانا صراحتاً: یہ میں نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ ایک ہے ”آنا“ ایک ہے ”آسکتا“، یعنی امکان۔ تو کئی دفعہ ہم.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں۔ وہ تو میں نے اسی واسطے آپ سے *Clarify* (واضح) کیا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کی بشارت ایک کے بارے میں ہے تو آ ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدے کی بات ہوگئی ناں جی۔

648 مرزانا صراحتاً: یہ عقیدے کی بات ہے کہ صرف وہی آسکتا ہے جس کی بشارت دی گئی ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: بشارت صرف ایک کی ہے؟

مرزانا صراحتاً: لیکن یہ امکان کہ اللہ تعالیٰ میں یہ طاقت ہے یا نہیں، اس قسم کی بھی بعض دفعہ باتیں چلتی ہیں۔

۱۲۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.comwww.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.compopalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، وہ میں نہیں کہہ رہا.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، یہی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ”خاتم النبیین“ کی جو بحث ہے،
 اس میں آپ کے عقیدے اور Interpretation (مفہوم) کی میں وضاحت چاہتا تھا۔
 مرزا ناصر احمد: جی وہ میں نے کر دی ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔ یہ آنحضرت ﷺ کے بعد صرف ایک نبی جن کی بشارت،
 مسیح موعود ہیں، آنحضرت ﷺ نے کی ہے؟
 مرزا ناصر احمد: ہمارے علم کے مطابق۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہی آئے ہیں، ان کے بعد اور کوئی نہیں آسکتے؟
 مرزا ناصر احمد: ہمارے علم کے مطابق۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں عقیدے کے مطابق۔

اب مرزا صاحب! ایک یہ حوالہ ہے ”انوار خلافت“ سے، میں پڑھ کے آپ کو
 سناتا ہوں: ”اور انہوں نے خداوند تعالیٰ کی قدر (عربی میں اس کے بعد آتا ہے جی) خدا تعالیٰ کی
 قدر کو نہیں سمجھا اور یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے ہیں۔ اس لئے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔
 اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ خواہ کتنا ہی زہد اور اتقاء بڑھ جائے پرہیزگاری اور تقویٰ میں کئی نبیوں سے
 آگے گزر جائے، معرفت الہی کتنی ہی حاصل کر لے۔ لیکن خدا اس کو کبھی نبی نہیں بنائے گا اور کبھی
 نہیں بنائے گا۔ ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدرت کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ ورنہ ایک نبی
 کیا، میں کہتا ہوں کہ ہزاروں نبی ہوں گے۔“ (انوار خلافت ص ۶۲ مرزا بشیر الدین محمود)
 ”ہوں گے“

مرزا ناصر احمد: یہ کون ہے؟
 جناب یحییٰ بختیار: مرزا بشیر الدین محمود صاحب..... (انوار خلافت).....
 مرزا ناصر احمد: یہ دیکھ سکتے ہیں؟
 جناب یحییٰ بختیار: ص ۶۲۔

*Mr. Chairman: The book may be handed over to
 the witness the librarian may hand over the book. The
 librarian may hand over the book to the witness.*

۱۲۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.comwww.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.compopalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(جناب چیئرمین: کتاب گواہ کو دی جائے۔ لائبریرین کتاب کو گواہ کو دے دیں)
 میاں مسعود احمد: جناب صدر! مجھے سوال Put کرنے کے طریق سے کچھ
 اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں.....

جناب چیئرمین: ایک سیکنڈ۔ تشریف رکھیں۔ بیٹھیں۔

This we discuss always afterwards.

(اس پر ہم بعد میں بات کریں گے)

میاں مسعود احمد: میں عرض کر رہا ہوں پروسیجر کے مطابق۔

جناب چیئرمین: یہ پروسیجر بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں *After this* (اس کے

بعد) ہمیشہ ہر روز *After wards discuss* کرتے ہیں۔

we have laid down certain rules of procedure.

(ہم نے کچھ قواعد اور اصول بنا رکھے ہیں)

650 جناب یحییٰ بختیار: اور اسی کے ساتھ اب صفحہ ۶۵ بھی میں پڑھ لیتا ہوں، پھر
 آپ دونوں.....: ”وہ تو مخالفت سے ڈراتے ہیں۔ لیکن اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی
 رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں
 اسے کہوں گا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، آپ ﷺ کے بعد نبی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں۔“
 (انوار خلافت ص ۶۵)

Mr. Chairman: The book may be handed over to the witness. (جناب چیئرمین: یہ کتاب گواہ کو دے دی جائے)

جناب یحییٰ بختیار: اب اس کے ساتھ جب، مرزا صاحب! میں سوال

Complete (مکمل) کروں.....

مرزا ناصر احمد: یہ ۶۵ صفحہ آپ نے پڑھا؟

جناب یحییٰ بختیار: ۶۲ اور ۶۵، دو۔

مرزا ناصر احمد: ۶۲ اور ۶۵؟

جناب یحییٰ بختیار: جی ہاں۔

Mr. Chairman: The book may be handed over to the witness. (جناب چیئرمین: یہ کتاب گواہ کو دے دی جائے)

۱۲۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: یہ آپ کو یہ دیتے ہیں۔ آپ اس سے دیکھ لیجئے۔

Mr. Chairman: Let the witness verify it let the witness verify. (جناب چیئرمین: تاکہ گواہ اس کی تصدیق کر سکیں)

(امکان اور ایمان میں فرق، مرزا ناصر کا نیا فلسفہ)

مرزا ناصر احمد: یہ..... اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے امکان ”آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا“ ایک یہ ہے ایمان کہ ”ایک آ گیا۔“ جہاں تک ”آ سکتے ہیں“ کا سوال ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو حوالے آپ نے پڑھے ہیں وہاں امکان کے متعلق ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ حوالے درست تو ہیں ناں جی؟
مرزا ناصر احمد: ⁶⁵¹ حوالے درست ہیں۔ لیکن اس میں امکان کا ذکر ہے۔ جیسا کہ

”تقویت الایمان“ میں.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں آپ سے یہ عرض کروں گا پھر جی کہ اس طرح آپ کہیں کہ کیا مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو رسول اللہ ﷺ کی بشارت کا علم تھا یا نہیں تھا؟ ان کو اس بات کا علم تھا کہ انہوں نے کیا بشارت کی ہے کہ ایک ہی مسیح موعود آئیں گے؟

مرزا ناصر احمد: ان کو..... انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا امکان خدا تعالیٰ کی.....

جناب یحییٰ بختیار: اس کا امکان ہی نہیں ہو سکتا جب وہ بشارت کا علم ہو، میں عرض کر رہا ہوں، آپ یہ Explain (واضح) کریں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، امکانی بحث میں ہے وہ۔ اچھا، اب سمجھ گیا۔ اب میں

سمجھ گیا۔ میرے نزدیک امکان کی بحث.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، وہ ”امکان“ نہیں کہہ رہے..... ”آئیں گے“

مرزا ناصر احمد: وہ بھی امکانی آنا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ نہیں کہتے ”آ سکتے ہیں“..... ”آئیں گے“..... آپ

ذرا غور سے دیکھ لیں اس پر ”آئیں گے۔“

مرزا ناصر احمد: آپ نے، آپ نے، آپ نے..... انکو آری کمیٹی، جو منیر کمیٹی

ہے۔ اس میں بھی یہ سوال کیا گیا تھا اور اس میں وہاں یہی کہا ہے کہ ”میری مراد امکان کی ہے“

ایک شخص خود.....

۱۲۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیاری: نہیں، وہ تو Interpretation (مفہوم) ہے۔ یہاں میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، Interpretation (مفہوم) خود Author کی، تو دو، دو Interpretation (مفہوم) ہو گئیں۔ ایک لکھنے والے کی Interpretation (مفہوم) کہ ”میں امکان کے متعلق بات کر رہا ہوں“ اور آج ایک میری Interpretation (وضاحت) کہ انہوں نے درست کہا تھا کہ ”امکان کے متعلق بات کر رہا ہوں“.....

جناب یحییٰ بختیاری: دیکھیں، مرزا صاحب!.....

مرزا ناصر احمد: اور ”امکان“ کے متعلق، اگر مجھے اجازت ہو؟.....

جناب یحییٰ بختیاری: ہاں، آپ پورا کر لیں پھر میں.....

مرزا ناصر احمد: اگر ”امکان“ کے متعلق جب بحث ہو تو یہ ”تقویت الایمان“ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید کی صفحہ ۳۷ کے اوپر لکھا ہے: ”اس شہنشاہ خدا تعالیٰ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم ”کن“ سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن اور فرشتہ جبرائیل اور محمد ﷺ کے برابر پیدا کر ڈالے۔“

اب یہ بالکل ان کا، یہ ایمان رکھنے کے باوجود کہ آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپ جیسا اور کوئی نہیں آسکتا۔ اس ایمان کے باوجود امکان کی بات کر رہے ہیں۔

Mr. Chairman: Yes, Attorney- General.

(جناب چیئرمین: جی ہاں! اٹارنی جنرل)

Mr. Yahya Bakhtiar: Shall I proceed?

Mr. Chairman: Yes. (جی ہاں!)

جناب یحییٰ بختیاری: مرزا صاحب! میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک سوال بالکل سادہ ہے۔ ”ختم نبوت“ کے معنی کیا ہیں؟ جو ہمارے سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے میں جو قرآن کی روشنی میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کا کوئی اور فرمان نہیں آیا کہ ”میں ابھی نیا آدمی بھیجتا ہوں“ میں نبی بھیجتا ہوں، میں نئی شرع بھیجتا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ امکان کی بات میں نہیں کرتا۔ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے ہے۔ ان کی کتاب ہمارے سامنے ہے۔ اس کی تفسیر کا سوال ہے۔ دو نقطہ

۱۲۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ہائے نظر پیش کئے گئے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اور نبی نہیں آسکتے۔ ”خاتم النبیین“ کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ نہیں اور نبی آسکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ میں نے پوچھا کہ اور نبی آسکتے ہیں تو کتنے آئیں گے؟ آپ نے کہا کہ بشارت آنحضرت ﷺ کی یہ ہے کہ مسیح موعود آئیں گے اور وہ آچکے ہیں۔ اس پر آپ کا عقیدہ یہ کہ اور نہیں آئیں گے اسی Context (ضمن) میں میں نے یہ عرض کیا کہ بشارت کا مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو بھی علم ہوگا۔ یہ یقیناً ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو علم ہو، ان کو نہ ہو۔ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ”اور نبی آئیں گے“ اور میں الفاظ پھر بڑھ کے دیتا ہوں آپ کو.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ تو واضح ہے، واضح ہے۔

(ہزاروں نبی آسکتے ہیں)

جناب بیگی بختیار: یہ قیاس کی بات نہیں، امکان کی بات نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں۔
He is saying: "certainly, definitely." (پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔) ذرا پھر غور فرمائیے۔

”..... اور یہ سمجھ لیا کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے۔ اس لئے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس طرح یہ کہتے ہیں کہ خواہ کتنا ہی زہد و تقویٰ میں بڑھ جائے پرہیزگاری اور تقویٰ میں کئی نبیوں سے آگے گزر جائے، معرفت الہی کتنی ہی حاصل کر لے۔ لیکن خدا اس کو کبھی نبی نہیں بنائے گا۔“ یعنی یہ قرآن شریف کی جو *Present interpretation* (موجودہ تفسیر) ہے۔ اللہ کا جو *present* (موجودہ) حکم ہے۔ اس کی *Interpretation* (وضاحت) ہو رہی ہے۔ ”نہیں بنائے گا اور کبھی نہیں بنائے گا۔“

”ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدرت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ ورنہ ایک نبی تو کیا، میں کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے۔“

⁶⁵⁴ ابھی اللہ تعالیٰ نے اور حکم نہیں دیا۔ جو حکم دیا ہے اسی کی *Interpretation* (وضاحت) پر کہہ رہے ہیں: ”اور میں کہتا ہوں کہ اور نبی ہوں گے“ امکان کی بات نہیں ہے اور پھر آگے یہاں فرماتے ہیں، مرزا صاحب: ”وہ تو مخالفت سے ڈراتے ہیں۔ لیکن اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں کہوں گا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، آپ ﷺ کے بعد نبی آسکتے ہیں اور ضرور

۱۲۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

آ سکتے ہیں۔“ دیکھیں، یہ یہاں امکان کی بات آگئی، وہاں نہیں ہے امکان کی بات۔
 مرزا ناصر احمد: جس وقت آپ کا سوال ختم ہو جائے گا اس وقت میں جواب دوں گا۔
 جناب یحییٰ بختیار: تو میرا سوال یہی ہے جی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ”اور نبی آئیں
 گے اور ضرور آئیں گے“ امکان کی بات نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرے کوئی اور وحی نازل
 کرے کسی اور نبی کو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آخری حکم آچکا ہے۔ آخری کتاب آچکی ہے۔
 یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے اور اس کی Interpretation (وضاحت) ہو رہی ہے
 کہ ”خاتم النبیین“ کے کیا معنی ہیں اور اسی پر میں نے عرض کیا اور آپ نے کہا کہ آپ کا عقیدہ یہ
 ہے کہ صرف ایک اور مسیح موعود آئیں گے، اور آچکے ہیں۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ”ہزاروں نبی
 آ سکتے ہیں“ اور ”آئیں گے“ تو اس پر آپ فرمائیے۔
 مرزا ناصر احمد: جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ نہیں فرمایا۔ بلکہ سوال کیا
 ہے جس کا جواب مجھے دینا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، میرا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے۔⁶⁵⁵

مرزا ناصر احمد: میری رائے میں سوائے امکان کے اور کوئی بات نہیں اور اس لئے
 کہ علم کے باوجود بھی بعض دفعہ امکان کی بحث کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت اسماعیل صاحب
 شہید، جن کا میں نے حوالہ بھی پڑھا۔ ان کا ایمان ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے بعد کوئی شرعی نبی نہیں
 آ سکتا۔ اس پختہ ایمان پر قائم ہوتے ہوئے، اور جہاں تک میں نے ان کو سمجھا ہے ایک سینڈ کے
 لئے بھی یہ خیال نہ رکھتے ہوئے کہ کوئی محمد ﷺ کے بعد صاحب شریعت نبی آ سکتا ہے، اس پختہ
 ایمان کے باوجود لکھتے یہ ہیں..... ایمان اپنی جگہ پختہ ہے۔ لکھتے یہ ہیں کہ: ”اللہ تعالیٰ کی شان یہ
 ہے کہ ایک آن میں ایک حکم ”کن“ سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ جبرائیل
 اور محمد ﷺ کے برابر پیدا کر ڈالے۔“

”کروڑوں محمد ﷺ کے برابر پیدا کر ڈالے“ اس یقین کے باوجود کہ ہو ہی نہیں سکتا
 عملاً تو یہ کہنا کہ چونکہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، اس لئے امکان کی بحث نہیں کسی جگہ ہو سکتی۔ خاکسار
 کے نزدیک وہ Interpretation (مفہوم) درست نہیں۔

(مرزا خاتم النبیین؟)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین

۱۲۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ہے اور اس عالم کو، جس میں ہم انسان رہتے ہیں، بالکل ہی ختم کر سکتا ہے۔ یہ سوال ہی ختم کر سکتا ہے۔ کہ نبی آئیں نہ آئیں۔ انسان کو ہی ختم کر سکتا۔ مگر میں اس میں نہیں جاتا۔ ان کی طاقت سے، ان کی قدرت سے کسی کو انکار نہیں۔ سوال صرف یہ تھا کہ ختم الرسل والقوت کا۔ ”خاتم النبیین“ کی جو تفسیر ہو رہی ہے۔ جو دو نقطہ ہائے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے مطابق میرا خیال ہے کہ انہوں نے Interpretation (وضاحت) کی ہے۔ یہ تفسیر دی ہے کہ اور نبی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہمیں بشارت یہ ہے کہ صرف ایک ہی نبی آئیں گے۔ بات وہی رہ جاتی ہے۔ میں اس میں مزید نہیں جاتا۔ مگر اب دوسرا سوال ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتے تو خاتم النبیین پھر مرزا غلام احمد ہو گئے۔ جس Sense (معنی) میں آخری نبی، آپ یہ نہ سمجھیں.....

مرزا ناصر احمد: بالکل نہیں ہو سکتے۔

جناب یحییٰ بختیار: آخری نبی وہی ہو گئے۔

مرزا ناصر احمد: وہ جس نے اپنے آپ کو ”غلام“ اور ”احقر الغلمان“ کہا ہے، وہ

آخری کیسے ہو گیا؟

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں یہ سمجھوں کہ امتی نبی ان کے بعد کوئی آ سکتا ہے؟

کوئی اور امتی نبی آ سکتا ہے مرزا غلام احمد صاحب کے بعد؟

مرزا ناصر احمد: اسماعیل صاحب شہید کہتے ہیں کہ ”کروڑوں محمد آ سکتے ہیں۔“

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مرزا صاحب! پلیز

(Please) میں..... قدرت کی بات نہیں ہے۔ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ

بشارت کی ہے کہ مسیح موعود آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کی یہ Interpretation

(وضاحت) تھی.....

مرزا ناصر احمد: میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے بعد، آپ کو چھوڑ کے، آپ

کے مقابل پر کھڑے ہو کر، آپ کی اتباع کا دعویٰ نہ کرتے ہوئے، اپنے نفس کو آپ ﷺ کی راہ

میں فدا کئے بغیر، کوئی امتی نبی بھی نہیں آ سکتا۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی یہ جی کہ امتی نبی آ گیا.....

مرزا ناصر احمد: وہ بھی اپنی صفات کا حامل ہے اور آپ کی جوتیوں میں بیٹھنے کے

قابل ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، اس طرح سے اور جوتیوں میں بیٹھنے والا کوئی اور آسکتا ہے؟
 657 مرزاناصر احمد: اگر آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے، اور اگر خدا تعالیٰ اپنی قدرت کا
 جلوہ دکھانا چاہے، تو وہ حضرت اسماعیل شہید کے بقول، کروڑوں محمد ﷺ پیدا کر سکتا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، فی الحال جو ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے..... جو محمد ﷺ نے
 کہا ہے، جو انہوں نے کہا ہے۔ ان کی بشارت ہے۔ اس کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے کہ اور کوئی نہیں
 آسکتا۔ آپ کا عقیدہ؟

مرزاناصر احمد: حضرت اسماعیل صاحب شہید کی مثال دی تھی میں نے کہ ”میں
 یقین رکھتا ہوں“..... ان کا عقیدہ تھا..... کہ نبی اکرم ﷺ کے بعد کوئی خاتم النبیین نہیں آسکتا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ بشارت صرف ایک کی ہے
 Factually (حقیقتاً)..... اس امکان کی بات میں نہیں کر رہا۔

مرزاناصر احمد: سب کا یہی ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار:..... اور کوئی نبی (نہیں) آسکتے تو پھر آخری نبی یہی ہو گئے ناں
 جی، خاتم الانبیاء کہیں، جو.....

مرزاناصر احمد: سب کا یہی ہے، ہر فرقے کا یہی عقیدہ ہے، امت کے ہر فرقے کا
 یہ ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہر فرقے کا تو آپ.....
 مرزاناصر احمد: یہی عقیدہ ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: آخری نبی.....
 مرزاناصر احمد: امت محمدیہ کے ہر فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ امت کو مسیح کی آمد کی
 بشارت دی گئی، اور اس نے بعد میں آنا ہے۔

658 جناب یحییٰ بختیار:..... نہیں، بعد میں آنا ہے۔ آخری نبی جو ہے وہ مسیح موعود ہیں؟

(مرزاناصر کی قلابازیاں)

مرزاناصر احمد: آخری نبی۔ موعود کو چھوڑیں۔ امت کے ہر فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ
 مسیح نازل ہوگا۔

۱۲۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: اور وہ ہو چکے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق؟
 مرزا ناصر احمد: ابھی یہ جو ہے ناں مسئلہ، یہ تو سلجھتا نہیں، اور باقی حصہ چھوڑیں۔ ہر
 فرقہ یہ کہتا ہے کہ مسیح نے نازل ہونا ہے۔ جب مسیح نازل ہوں گے تو وہ آخری بن جائیں گے؟
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں۔ میں پھر آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں۔ روز
 قیامت سارے انبیاء اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ آخری نبی کون شمار ہوگا؟ حضرت
 محمد ﷺ، یسوع مسیح یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟
 مرزا ناصر احمد: حضرت محمد ﷺ سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور سب سے آخری نبی
 بھی ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: آخری نبی وہی سمجھے جائیں گے؟
 مرزا ناصر احمد: بالکل۔
 جناب یحییٰ بختیار: تو اب آپ نے یہ فرمایا کہ امتی نبی جو ہے.....
 مرزا ناصر احمد: ”امتی نبی“ اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ہی نہ ہو۔
 جناب یحییٰ بختیار: جو بھی آپ اس کو سمجھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو حضرت غلام احمد
 صاحب کو نبی نہیں مانتا اور تمام حجت کے بعد نہیں مانتا، وہ کافر ہے، بالکل کافر ہے۔ تو ایک نبی
 ہیں..... کیونکہ اسلام میں یہ آیا ہے کہ جو کسی نبی کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے..... تو وہ نبی
 نبی، آپ کے نقطہ نظر سے، میں پوچھتا ہوں کہ یہی آخری نبی ہیں یا کوئی اور بھی آئیں گے؟
 مرزا ناصر احمد: اسلام میں یہ بھی آیا ہے کہ جو چار ارکان اسلام کا..... کلمہ کے
 باوجود..... انکار کرتا ہے، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ نبی اور کوئی آئیں گے؟ اور آخری
 نبی یہی ہیں کہ نہیں، آپ کے نقطہ نظر سے؟
 مرزا ناصر احمد: کسی بتانے والے سے پوچھیں۔ میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟
 محمد ﷺ.....

جناب یحییٰ بختیار: آپ کہتے ہیں ان کی بشارت یہ ہے.....

(مرزا ناصر کے خلاف چیئرمین صاحب کی رولنگ)

Mr. Chairman: The question of the Attorney-

۱۲۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

General is unanswered and the opinion of the witness is sought.

(جناب چیئر مین: اٹارنی جنرل کے سوال کا جواب نہیں ملا۔ گواہ اس بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرے)

جناب یحییٰ بختیار: حضرت محمد ﷺ کی جو بشارت ہے، ان کے جو احکام ہیں۔ میرے اپنے عقیدے کے مطابق، میں ان سے پوری طرح واقف ہوں کہ اور کوئی نبی نہیں آسکتا ان کے بعد۔ نہ کوئی غلام احمد صاحب نبی ہیں ان کے بعد۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی Interpretation (مفہوم) کیا ہے؟

Mr. Chairman: What is the interpretation of the witness: Because witness is in the witness box.

(جناب چیئر مین: گواہ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ کیونکہ گواہ گواہی کے کٹہرے میں ہے) مرزا ناصر احمد: جب آپ سوال ختم کریں گے تو میں بتا دوں گا۔ جناب یحییٰ بختیار: کہ کوئی اور آخری نبی، ان کے بعد امتی نبی کوئی اور آسکتا ہے؟

Is he the last of the Ummati Prophets, the first and the last, and the only one?

(کیا وہ آخری امتی نبی ہیں۔ پہلا اور آخری امتی نبی صرف وہی)

مرزا ناصر احمد: جب سوال ختم ہو جائے گا تو پھر میں.....
660 جناب یحییٰ بختیار: ختم ہو گیا۔ ختم ہو گیا ہے۔

مرزا ناصر احمد: ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس امتی نبی کی بشارت دی گئی تھی اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں، اور اپنے نفس پر کامل موت وارد کرنے کے بعد اور محمد ﷺ کے Cause (مشن) کے لئے، اس مقصد کے لئے پوری Dedication (کوشش) کے ساتھ جو شخص آیا ہے، اس کو نہ آخری کہا جاسکتا ہے نہ پہلا۔ اور امت محمدیہ میں وہ بزرگ ہمارے جن کی بزرگی پر شک نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے امکان اس بات کا ظاہر کر دیا کہ اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ محمد ﷺ جیسے کروڑوں نبی پیدا کر دے تو وہ جو چیز ان کے لئے آپ خاموشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے لئے بحث کا موضوع کیسے بن جائے گی؟

۱۳۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں آپ سے اپنے عقیدے کا پوچھتا ہوں، مرزا صاحب! آپ کے عقیدے کا میں پوچھ رہا تھا۔ *If you don't mind my repeating this* (اگر آپ میرے اس دہرانے کو محسوس نہ کریں۔) میں نے آپ کے عقیدے کا پوچھا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق..... امکان کی بات میں نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے..... فی الحال جو ہمارا عقیدہ ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے کہ جو ”ختم نبوت“ کا مطلب ہے۔ اس کے مطابق آخری نبی، جن کو آپ امتی نبی کہہ رہے ہیں.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، اس کے مطابق آخری نبی محمد ﷺ ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ تو شرعی نبی ہو گئے۔

مرزا ناصر احمد: آخری نبی محمد ﷺ ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ شرعی نبی ہو گئے، میں امتی نبی کا ذکر کر رہا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں امتی نبی کے بارے میں آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، مرزا صاحب!

مرزا ناصر احمد: جی، وہی میں بتا رہا ہوں۔⁶⁶¹

جناب یحییٰ بختیار: امتی نبی کے.....

(مرزا ناصر احمد صاحب کی نئی شاہکار تلیس)

مرزا ناصر احمد: آخری نبی محمد ﷺ ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: اور یہ جو مرزا غلام احمد.....

مرزا ناصر احمد:..... نہ آپ کے پہلے کوئی نبی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار:..... یہ مرزا غلام احمد جو تھے نبی نہیں تھے؟

مرزا ناصر احمد: بعد نہیں تھے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہیں جی؟

مرزا ناصر احمد: وہ محمد ﷺ کے بعد نبی نہیں تھے۔

جناب یحییٰ بختیار: پہلے تھے؟

۱۳۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحتاً: دیکھیں ناں: لائبی بعدی ”بعد“ جو عربی کا لفظ ہے۔ اس کے معنی پہلے سمجھنا چاہئیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہ، وہ تو آپ کہتے ہیں ناں کہ شرعی نبی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ امتی نبی جو آپ کہتے ہیں.....

مرزانا صراحتاً: نہیں، نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ شرعی نبی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ محمد ﷺ کے نہ بعد کوئی نبی ہے، نہ پہلے کوئی نبی ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے.....
مرزانا صراحتاً: اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں اور اگر حوالے چاہیں تو کل آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، بڑی Plain (صاف) بات ہے، حوالے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو حوالے کی کوئی ضرورت ہی نہیں نہ کوئی پہلے آیا، نہ کوئی بعد میں آ گیا.....
مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں۔⁶⁶²

جناب یحییٰ بختیار: مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ سارا جھگڑا ہی یہ ہے کہ ایک اور نبی آ گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ آئے ہی نہیں۔

مرزانا صراحتاً: ”انا اول والآخر“ نہیں، یہ جھگڑا ختم کر دیا خود محمد ﷺ نے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، یہ تو پھر ٹھیک ہے ناں جی۔

مرزانا صراحتاً: انا اول والآخر۔

جناب عبدالعزیز بھٹی: سر! اس سوال کا ویسے جواب نہیں آیا جی۔

This should be kept pending.

(اس کو مؤخر کر دیا جائے) یا یہ ہے کہ.....

Mr. Chairman: This is for the Attorney- General to ask the Chair whether the answer has come or not. If the Attorney- General feels satisfied....

(جناب چیئرمین: یہ اٹارنی جنرل کا کام ہے۔ چیئرمین کو بتائیں کہ سوال کا جواب

مل گیا ہے یا نہیں۔ کیا اٹارنی جنرل مطمئن ہیں.....)

۱۳۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب نے کل بھی کہا تھا کہ تھک گئے ہیں۔

I can continue, but if Mirza Sahib wants....

(میں تو کام کر سکتا ہوں لیکن اگر مرزا صاحب چاہیں)

مرزا ناصر احمد: میں تھک گیا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: تھک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے کل سہی۔

مرزا ناصر احمد: کل جمعہ ہے، اس کے متعلق کوئی نہیں.....

جناب چیئرمین: نہیں، کل میں آپ کو.....

جناب یحییٰ بختیار: کل میں نے وہاں ایک ڈیفنس کالج میں لیکچر دینا ہے۔ تو کل

مولانا.....

Mr. Chairman: Tomorrow, I will tell the programme. (جناب چیئرمین: میں کل پروگرام کا اعلان کروں گا)

⁶⁶³ مرزا ناصر احمد: نہیں کل جمعہ بھی ہے نا۔

جناب چیئرمین: کل جمعہ ہے جی *I will tell the programme*

(میں پروگرام کا اعلان کروں گا۔)

جناب یحییٰ بختیار: ہم تو کام کرتے ہیں، اگر آپ جمعہ کے دن کام نہیں کرتے.....

جناب چیئرمین: نہیں، میں آپ کو عرض کر دوں۔

Tomorrow, we will sit up to 12:30 because of Jumma, and not up to 1:30 or up to 2:00

(کل ہم ۱۲:۳۰ تک بیٹھیں گے کیونکہ جمعہ ہے۔ ۳:۰۰ یا ۲:۰۰ بجے تک نہیں بیٹھیں گے)

Mr. Yahya Bakhtiar: 12:30 sir.

(جناب یحییٰ بختیار: ساڑھے بارہ بجے سر!)

جناب چیئرمین: 12:30 تک Meet کریں گے۔

There will be only one sitting. There won't be any break. We will start at 10:30..... (Interruption) All right 9:30 to 12:30; and in the evening, we will meet at 6:00.

۱۳۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

(صرف ایک نشست ہوگی بغیر کسی وقفہ کے ساڑھے دس پر ہم اجلاس شروع کریں گے۔ (مداخلت) ٹھیک ہے۔ ساڑھے نو بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک اور شام کو چھ بجے اجلاس ہوگا)

Mr. Yahya Bakhtiar: At 6 'O' Clock in the evening?
(جناب یحییٰ بختیار: شام کو چھ بجے؟)

Mr. Chairman: At 6 'O' Clock in the evening.
(جناب چیئرمین: شام کو چھ بجے)

The Delegation is permitted to leave.
(وفد کو جانے کی اجازت ہے) وہ کر لیں گے۔ تاریخ کے متعلق۔

9:30 to 12:30, all right?
(ساڑھے نو سے ساڑھے بارہ تک، ٹھیک ہے؟)

Nine- thirty is all right.
(ساڑھے نو بجے۔ پھر آپ نہیں آئیں گے۔ (ساڑھے نو ٹھیک ہے)

The delegation is permitted to leave 9:30; tomorrow at 9:30 am.
(وفد کو صبح ساڑھے نو بجے تک جانے کی اجازت ہے)
ساڑھے نو بجے۔

The Honourable Members may keep sitting.
(معزز ممبران تشریف رکھیں)

(Delegation left the Chamber)
(وفد ہال سے چلا گیا)

Mr. Chairman: The honourable members may please keep sitting. (Interruption) Rao Mohammad Hashim Khan to return back to his seat, and Khawaja Mohammad Suleman also; Maulana Shah Ahmad Noorani also to be in his seat.

۱۳۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

(جناب چیئرمین: معزز اراکین تشریف رکھیں۔ راؤ محمد ہاشم خان اپنی نشست پر واپس جائیں اور خواجہ محمد سلیمان بھی۔ مولانا شاہ احمد نورانی بھی اپنی نشست پر جائیں)
⁶⁶⁴ Just a minute.

ذرا ایک منٹ تو ٹھہر جائیں جی! (صرف ایک منٹ)

Yes, Hazarat Maulana Attaullah Sahib Lyallpuri.

(جی! حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب لائل پوری)

PROCEDURE AND STRATEGY FOR FURTHER CROSS- EXAMINATION

Mian Mohammad Ataullah: Sir, I have my hat off for the Attorney- General today.

(میاں محمد عطاء اللہ: جناب والا! میں آج اٹارنی جنرل صاحب کو سلام کرتا ہوں)

جناب چیئرمین: اس کو چھوڑیں پلیز۔ (Please)

Mian Mohammad Ataullah: Just a minute, Sir.

In my humble opinion, Sir, tomorrow when we start the cross- examination again my request is

(میاں محمد عطاء اللہ: صرف ایک منٹ، جناب والا! میری ناقص رائے میں ہے

جب ہم دوبارہ کل اجلاس کریں تو جرح اسی مقام سے شروع کی جائے)

جناب چیئرمین: ان کی کتابیں ساری آپ نے الٹوا دی ہیں..... انصاری صاحب کی۔

Mian Mohammad Ataullah: The question which was being asked at this moment, I think we should start the cross- examination from this very question.

(میاں محمد عطاء اللہ: میرا خیال ہے جرح اسی مقام سے شروع کی جائے جہاں پر

آج کا سوال ختم ہوا تھا)

Mr. Chairman: Leave it to the Attorney- General; we have decided not to discuss the strategy, leave it, the

۱۳۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را.....

strategy also. A lawyer knows his strategy best; and also, it also leads out. You decided yesterday that everything is being leaked out and then you want to discuss the strategy in the House!

Tomorrow, (Interruption) Just a minute. آپ کی Tomorrow, I have told them to be here at 9:30; Attorney- General will not be here; Maulana Zafar Ahmad Ansari will start the cross- examination on the subject entrusted to him by the Steering Committee. But I will request the Law Minister also to be present tomorrow. In case that topic finishes and the Attorney- General does not return, it will be the duty of the Law Minister⁶⁶⁵ to resume cross- examination on behalf of the Steering Committee. Yes, this is the consensus of the House. I can't do anything; you have to.

(جناب چیئرمین: یہ آپ انارنی جنرل پر چھوڑ دیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حکمت عملی پر ہم بحث نہیں کریں گے۔ وکیل اپنی حکمت عملی کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس طرح حکمت عملی کا راز باہر جاسکتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر بات کا راز افشاں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود آپ حکمت عملی کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ کل اجلاس ساڑھے نو بجے شروع ہوگا۔ چونکہ انارنی جنرل موجود نہیں ہوں گے۔ اس لئے سٹریٹج کمیٹی نے جو کام مولانا ظفر احمد انصاری کے سپرد کیا ہے۔ اس کے مطابق وہ گواہ پر جرح کریں گے۔ ہاں میں وزیر قانون سے درخواست کروں گا کہ وہ کل اجلاس میں موجود رہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو وزیر قانون سٹریٹج کمیٹی کی جگہ گواہ پر جرح کریں گے۔ اس بات پر سارا ایوان متفق ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا)

Mr. Abdul Hafeez Pirzada: I will most certainly try to be here, because I was not needed during the cross-examination...

۱۳۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.comwww.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.compopalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(عبدالحفیظ پیرزادہ: میں یقیناً موجود رہنے کی کوشش کروں گا۔ جرح کے دوران میری ضرورت نہیں تھی)

Mr. Chairman: You are very much needed here.

(جناب چیئرمین: آپ کی یہاں بہت ضرورت تھی)

Mr. Abdul Hafeez Pirzada: it was in competent hands, and I had a number of problems to look after. So, I have....

(عبدالحفیظ پیرزادہ: اور بہت سے قابل لوگ موجود ہیں۔ مجھے اور بھی کئی امور کو دیکھنا ہوتا ہے.....)

Mr. Chairman: You will have looked after the Attorney- General if you had been here, yes.

Mr. Abdul Hafeez Pirzada: So, I have.

(Interruption)

جناب عبدالحفیظ پیرزادہ: تین سال جو نہیں آتے ہیں ہاؤس میں آ کے بیٹھے نہیں تو اب وہ کسر نکل گئی ہے۔

Mr. Chairman: Yes, Maulana Maula Bakhsh Soomro.
(جناب چیئرمین: جی! مولانا مولانا بخش سومرو)

Sardar Maula Bakhsh Soomro: Appreciation to the Attorney- General, Sir, our congratulations and appreciation to the Attorney- General for today's debate.

(سردار مولانا بخش سومرو: جناب والا! اٹارنی جنرل صاحب آج کی کاروائی کے لئے ہم سب سے شکریہ اور تعریف کے مستحق ہیں)

Mr. Chairman: Then, yesterday, what we decided was that the strategy should be left to him. For one point, he may have drive for four hours.

(جناب چیئرمین: کل ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ حکمت عملی اٹارنی جنرل پر چھوڑ دی

۱۳۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جائے۔ ایک نقطہ کے لئے ان کو چار گھنٹے محنت کرنا پڑی
جی مولانا برکت اللہ!

Yes Maulana Barkatullah.

چوہدری برکت اللہ: جناب والا! اس میں گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ جناب نے فرمایا ہے ابھی کہ کل اٹارنی جنرل صاحب نہیں ہوں گے..... یہ تو ٹھیک ہے کہ مولانا ظفر احمد انصاری صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں۔ بڑی Pains لے رہے ہیں، He is a competent man⁶⁶⁶..... لیکن، جناب اگر کل دوسرے آدمی یعنی انصاری صاحب آجائیں یا پیرزادہ صاحب، تو میرے خیال میں سر! جو ساری بات چل رہی ہے ناں شروع سے، جیسا کہ اٹارنی جنرل صاحب کر رہے ہیں، اس میں وہ بڑیک آجائے گا اور پوری طرح سے، سر! وہ نہیں ہو سکے گی۔

جناب چیئر مین: نہیں، نہیں، نہیں، انہوں نے تحریف قرآن، کلام پاک کے متعلق کہا ہے۔ عربی میں وہ سارا کراس ایگزامینیشن Cross-examination ہونا ہے اور کلام پاک کی آیتیں پڑھنی ہیں۔ اس واسطے وہ مولانا ظفر احمد انصاری کے ذمے سٹیئرنگ کمیٹی نے وہ کام لگایا تھا۔ باقی اٹارنی جنرل صاحب.....

جناب محمد افضل رندھاوا: چوہدری برکت اللہ صاحب اپنے الفاظ واپس لے لیتے ہیں۔ جناب چیئر مین:..... باقی اٹارنی جنرل صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ کہاں سے چھوڑا ہے کہاں سے Pick-up کرنا ہے۔

چوہدری برکت اللہ: تو سر! اٹارنی جنرل صاحب کل جا رہے ہیں کہیں؟
جناب چیئر مین: ہاں۔

Mr. Abdul Hafeez Pirzada: What the honourable member has said is correct. There is a considerable force in it. It is very difficult to break the trend of cross-examination. We all know the difficulty. Now there are a number of questions that the Attorney- General must have already formulated in his own mind....

(عبدالحفیظ پیرزادہ: معزز اراکین نے ٹھیک فرمایا ہے۔ ان کی بات میں بہت

۱۳۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

وزن ہے۔ جرح کا انداز بدلنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم اس مشکل کو جانتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کئی ایک سوالات اپنے ذہن میں تشکیل کئے ہوں گے)

(Interruption)

جناب چیئر مین: صاحبزادہ صفی اللہ صاحب! تشریف رکھیں۔

Mr. Abdul Hafeez Pirzada: Therefore, what we should do is that the Attorney- General has to address the Defence College at 8:00 'O' clock in the morning....

(Interruption)

⁶⁶⁷ *Now, we know that it lasts about forty- five minutes of speech, and forty- five minutes of questions answers....* (Interruption)

Yes, Attorney- General will be free by about.... between 9:30 and 10:00. Let us meet at 10:30---- from 10:30 to 12:30; that is much better. I think it is unfair because....

(جناب عبدالحفیظ پیرزادہ: اٹارنی جنرل صاحب نے ڈیفنس کالج میں صبح آٹھ بجے خطاب کرنا ہے جو کہ..... کا ہوگا۔ پھر سوال و جواب کے لئے پینتالیس منٹ درکار ہوں گے۔ اس طرح اٹارنی جنرل صاحب ساڑھے نو/دس بجے تک فارغ ہو جائیں گے۔ اجلاس ساڑھے بارہ بجے تک چل سکتا ہے۔ اس پر میرا خیال ہے.....)

Mr. Chairman: Then I announce... (Interruption)

Just a minute. Maulana I announce 10 'O' clock and 10:00 means 10:30, because you always--- this is the convention, established practice--- meet half an hour late.

(جناب چیئر مین: اس صورت میں دس بجے۔ کیونکہ یہ روایت ہے کہ کورم پورا ہوتے ہوتے آدھ گھنٹہ لگ جاتا ہے)

Mr. Abdul Hafeez Pirzada: So, Sir, in that case, let us try to meet here in time tomorrow and we will be here

۱۳۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

at 10:30.

(عبدالحفیظ پیرزادہ: ہمیں کل صبح دس بجے اجلاس کرنے کی کوشش کرنی چاہئے)

Mr. Chairman: Then they may be informed to come at 10:00, because we told them 9:30; they may be told that they are needed at 10:00; We will inform them.

(جناب چیئرمین: ان (وفا) کو مطلع کیا جائے کہ وہ دس بجے صبح آجائیں)

Mr. Abdul Hafeez Pirzada: I think that is much better because let us not....

(عبدالحفیظ پیرزادہ: میرا خیال یہ بہت مناسب ہے.....)

(Interruption)

Mr. Chairman: Sahibzada Safiullah has to say something about Maudoodi Sahib.

آپ کھڑے ہوئے تھے جی! ہاں فرمائیں جی! ہاں، ہاں، فرمائیں۔

صاحبزادہ صفی اللہ: کوئی بات نہیں۔

جناب چیئرمین: تشریف رکھیں۔ کریں ناں جی۔ تقریروں کا وقت تو اب آیا ہے۔

صاحبزادہ صفی اللہ: یہ قادیانیوں نے چھاپا ہے جو سب کا سب فراڈ ہے۔

جناب چیئرمین: نہیں، نہیں، کوئی نہیں۔ یہ گپ شپ ہے۔

اچھا، مولانا عبدالحق!

⁶⁶⁸ مولانا عبدالحق: بسلسلہ..... (مدخلت)

جناب چیئرمین: مسٹر عبدالمصطفی الازہری صاحب! تشریف رکھیں ناں

جی۔ ہاں، رپورٹر صاحب جائیں جی پیشک۔ *This is not to be recorded.*

[The special committee of the whole house subsequently adjourned to meet at ten of the clock, in the morning, on Friday the 9th August, 1974]

(پیشل کمیٹی کا اجلاس اس وقت ملتوی ہوا۔ کل ۹ اگست جمعہ کو صبح دس بجے دوبارہ ہوگا)

۱۴۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

No. 05



THE

NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

**PROCEEDINGS
OF
THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE**

OFFICIAL REPORT

Monday, the 9th August, 1974

(Contains Nos. 1—21)

CONTENTS

	Pages
1. Recitation from the Holy Qur'an	671
2. Production and verification of quotations	671-674
3. Deliberations of the special committee in the absence of the delegation	673-674
4. Supply of copies of record of cross-examination to members and Attorney General	674-675
5. Secrecy of the proceedings of the special committee	675-676
6. Continuity of the cross-examination	676-677
7. References for questions in the cross-examination	677
8. Cross-examination of the qadiani group delegation - continued	677-795
9. Production of original fatwas	795-797

PRINTED BY THE MANAGER, PRINTING CORPORATION OF PAKISTAN PRESS, ISLAMABAD
PUBLISHED BY THE NATIONAL BOOK FOUNDATION, ISLAMABAD

1

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

No. 05



THE
NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

PROCEEDINGS
OF
THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE

OFFICIAL REPORT

Friday, the 9th August, 1974

(Contains No. 1—21)

۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، نکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

⁶⁷¹ THE NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

PROCEEDINGS
OF
THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE.

OFFICIAL REPORT

(سرکاری رپورٹ)

 Friday, the 9th August, 1974.

(بروز جمعہ، ۹ اگست ۱۹۷۴ء)

The Special Committee of the Whole House of the National Assembly of Pakistan met in Camera in the Assembly Chamber, (State Bank Building), Islamabad, at ten of the clock, in the morning. Mr. Chairman (Sahibzada Farooq Ali) in the Chair as Chairman.

پاکستان کی قومی اسمبلی کے مکمل ایوان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس اسمبلی ہال (اسٹیٹ بینک بلڈنگ) اسلام آباد میں صبح دس بجے منعقد ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی (صاحبزادہ فاروق علی) نے بحیثیت چیئر مین صدارت کی

 (Recitation from the Holy Quran)

(تلاوت قرآن شریف)

 ۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم
 کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
 اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
 یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
 گاہے گاہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

Mr. Chairman: Maulana Zafar Ahmad Ansari, Attorney- General has come. He is in my Chamber; coming in two minutes one minute rather. Yes, Maulana Sahib.

(جناب چیئر مین: مولانا ظفر احمد انصاری صاحب، اٹارنی جنرل صاحب آگئے ہیں۔ وہ میرے کمرے میں موجود ہیں اور دو منٹ بلکہ ایک منٹ میں آ رہے ہیں۔ جی! مولانا صاحب)

PRODUCTION AND VERIFICATION OF QUOTATIONS

(ایک پارسی، دو قادیانی)

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہم نے ایک اخبار کا حوالہ ہم میں سے کسی صاحب نے دیا تھا۔ ۱۳ نومبر ۱۹۴۶ء کا، اور وہ اخبار ہمارے پاس نہیں تھا۔ ”الفضل“۔ لیکن وہ لے آئے اور انہوں نے پڑھا اس کو.....

⁶⁷² جناب چیئر مین: Admit (اقرار) کیا۔

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: وہ حصہ پڑھا جس سے ان کا کام چلتا تھا۔ وہ اب Evidence (شہادت) میں شامل ہو گیا ہے۔ اسے ان سے لے کر آپ اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں۔

جناب چیئر مین: وہ رکھ لیں گے۔ ویسے انہوں نے Portion (حصہ) جو تھا ناں جی کہ ”میں ایک پارسی کے مقابلے میں دو احمدی پیش کر سکتا ہوں“ وہ انہوں نے Admit (اقرار) کیا۔ انہوں نے کہا یہ ہے.....

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: وہ Evidence (شہادت) میں آ گیا ہے۔

جناب چیئر مین: انہوں نے کہا یہ Portion (حصہ) ہے، بعد میں ہے۔ پہلے اس میں یہ ہے۔ تو وہ جو "Impact" (اثرات) کا ریفرنس دیا تھا ناں اٹارنی جنرل صاحب نے.....

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: جی۔

جناب چیئر مین: جس میں وہ referred (حوالہ) تھا۔ وہ انہوں نے Admit (اقرار) کیا ہے۔

۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: ٹھیک ہے۔

جناب چیئرمین: وہ لے لیں گے ان سے.....

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: ہاں۔

دوسرے یہ کہ کل انہوں نے ایک ایسی بات چھیڑ دی پاکستان کے سلسلے میں اپنا مؤقف

اور یہ سب..... تو اب یا تو اس کو Explain (واضح) کرنے کا موقع ملے۔ کیا صورت ہو؟

جناب چیئرمین: آپ Question put (سوال) کر سکتے ہیں کہ پاکستان

کے متعلق ان کی کیا رہی، اور

Attorney- Generat has been putting question about the creation and about the

(انٹارنی جنرل تخلیق پاکستان کے متعلق مخصوص سوالات کرتے رہے ہیں)

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: جی ہاں۔

جناب چیئرمین: بلکہ ان کا ایک Definite question (واضح اور

مخصوص سوال) ہے جو کہ I don't want to express, because I shouldn't express my views, my comments.

(میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا نہ ہی مجھے ایسا کرنا چاہئے) انہوں نے ایک Pin

down کیا ہے..... It was only on the 3rd of March (یہ صرف ۳ مارچ

کی بات تھی۔

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔

⁶⁷³ Mr. Chairman:3rd of June 1947, before that you were pleading for Akhand Bharat."

(جناب چیئرمین: ۳ جون ۱۹۴۷ء سے پہلے آپ اکھنڈ بھارت کے حامی تھے)

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: جی ہاں!

Mr. Chairman: So, a definite question has come, not one but twice or thrice.

(جناب چیئرمین: اس طرح یہ خصوصی سوال دو مرتبہ یا تین مرتبہ کیا جا چکا ہے)

۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مولانا ظفر احمد انصاری: ہاں! میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بات پوری آجائے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف اس میں ہی ریکارڈ پر ہے۔
جناب چیئر مین: نہیں، نہیں۔ اس میں

The rest is for the House to know. As the Attorney-General remarked at the very outset that the answer can be evasive or you can't know, he may not answer. So, the House is perfectly justified in drawing any inference. Mr. Attorney-General, are you ready? Should we call them?

(باقی معلومات حاصل کرنا ایوان پر منحصر ہے۔ جیسا کہ اٹارنی جنرل صاحب شروع میں کہہ چکے ہیں۔ اگر جواب مبہم یا گول مول ہو یا (گواہ) جواب نہ دے تو ایوان از خود نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوگا۔ مسٹر اٹارنی جنرل کیا آپ تیار ہیں؟ کیا اب انہیں (دفعہ) کو بلا لیا جائے)

**DELIBERATIONS OF THE SPECIAL
COMMITTEE IN THE ABSENCE OF THE
DELEGATION**

(دفعہ کی عدم موجودگی میں خصوصی کمیٹی کی کارروائی)

Sahibzada Ahmad Raza Khan Qasuri: I think, Sir, these suggestions which come from the members.....

(صاحبزادہ احمد رضا قصوری: میرا خیال ہے جناب والا! جو تجاویز اراکین کی طرف سے پیش ہوں.....)

Mr. Chairman: Yes. (جناب چیئر مین: جی ہاں!)

Sahibzada Ahmad Raza Khan Qasuri: These should not stand part of the record, because if tomorrow this record was to go into the hands of somebody, they will say that they were also sitting as the judges and

۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

prosecutors, they were suggesting certain things. So, if suppose this record comes into the hands of any....

(صاحبزادہ احمد رضا قصوری: انہیں کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہئے۔ کیونکہ کل اگر یہ کارروائی کسی کے ہاتھ لگ گئی تو یہ کہا جائے گا کہ اراکین جو کہ بحیثیت استغاثہ اور منصف کارروائی کر رہے تھے۔ خود ہی تجاویز بھی دیتے تھے۔ فرض کریں اگر یہ کارروائی.....)

Mr. Chairman: Just....

ابھی نہ بلائیں ان کو، ابھی نہ بلائیں۔ جی!

Sahibzada Ahmad Raza Khan Qasuri: If this record was to come into the hands of any judicious party or any people who are not concerned with the issue, they will say that when the witnesses used to be outside, the Chairman and the members, who were sitting as the judges, they used to discuss that this gap has remained here; we should plug in this gap; we should plug in this gap.

(صاحبزادہ احمد رضا خان قصوری: کسی منصفانہ ادارے میں جاتی ہے یا کسی غیر متعلقہ عنصر کے ہاتھ لگتی ہے تو کہا جائے گا کہ جب گواہ (ایوان سے) باہر ہوتا تھا۔ اس وقت چیئرمین اور اراکین جو کہ بطور منصف کارروائی کر رہے تھے۔ آپس میں بحث مباحثہ کیا کرتے تھے۔ اس لئے جب آپس میں مشورہ کریں تو اسے کارروائی کا حصہ نہ بنائیں)

⁶⁷⁴*Mr. Chairman: Mr. Ahmad Raza Qasuri, I may*

just only

(جناب چیئرمین: جناب احمد رضا قصوری صاحب، میں صرف.....)

Sahibzada Ahmad Raza Khan Qasuri: This is my suggestion, Sir.

(صاحبزادہ احمد رضا خان قصوری: جناب والا! یہ میری تجویز ہے)

۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(ہماری عدالتی کارروائی نہیں ہے بلکہ ایک کمیٹی کی کارروائی ہے)

Mr. Chairman: No, no.... only tell you this that strictly we are not a court; we are not acting as a court; we are acting as a Committee and Committee members can express themselves.

(جناب چیئرمین: نہیں، نہیں۔ آپ کو صرف یہ بتانا ہوں کہ ہم بطور عدالت نہیں بلکہ بحیثیت خصوصی کمیٹی اجلاس کر رہے ہیں اور کمیٹی کے اراکین انہما رائے کر سکتے ہیں)

Sahibzada Ahmad Raza Khan Qasuri: I don't know; I would like to be educated on this point.

(صاحبزادہ احمد رضا قصوری: میں نہیں جانتا لیکن میں اس بات سے آگاہ ہونا چاہوں گا)

Mr. Chairman: اچھا So far as the procedure is concerned, every day we review, and that procedure is not part of the record.... is not part of the record. Record is their statement, their examination and cross- examination. That is the record.

(جناب چیئرمین: جہاں تک ضابطے کا تعلق ہے۔ اس کو ہم ہر روز جانچتے ہیں اور یہ (جانچ پڑتال) کارروائی کا حصہ نہیں ہوتی۔ کارروائی گواہوں کے بیانات، جرح اور مکرر جرح پر مشتمل ہوتی ہے)

صاحبزادہ احمد رضا خان قصوری: اچھا!

**SUPPLY OF COPIES OF RECORD OF CROSS-
EXAMINATION TO MEMBERS AND
ATTORNEY- GENERAL**

Sahibzada Ahmad Raza Khan Qasuri: And,

۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را.....

number two, Sir, we would like that, before the Committee goes for recess, we would like that all the members of the Committee should be provided with complete record....

(صاحبزادہ احمد رضا خان قسوری: جناب والا! دوسری میری تجویز یہ ہے کہ جب کمیٹی کے اجلاس میں تعطیل ہو۔ اس سے قبل تمام اراکین کو مکمل کارروائی کی نقل مہیا کی جائے)

Mr. Chairman: I am working on these lines.

(جناب چیئرمین: میں اسی کے مطابق کام کر رہا ہوں)

Sahibzada Ahmad Raza Khan Qasuri: So that when we go back home, we should have complete record with us.

(صاحبزادہ احمد رضا خان قسوری: تاکہ جب ہم گھروں کو جائیں۔ ہمارے پاس کارروائی کی نقول موجود ہوں)

Mr. Chairman: I am working on those lines. And the Attorney- General also, he needs this record more than anybody. And we will be having 200 copies of that record also, cyclostyled, so that, in the recess, you can prepare the case, so that you prepare your arguments.

(جناب چیئرمین: میں انہیں خطوط پر کام کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ ریکارڈ کی ضرورت اٹارنی جنرل صاحب کو ہے۔ ہم کارروائی کی دو سو نقول تیار کروائیں گے تاکہ تعطیل کے دوران آپ بحث کے لئے تیار کر سکیں)

⁶⁷⁵ *Sahibzada Ahmad Raza Khan Qasuri:*

That's right, Sir. (صاحبزادہ احمد رضا خان قسوری: جناب! یہ ٹھیک ہے)

Mr. Chairman: But the difficulty is, when we read in the newspapers, certain members say that there should be no recess. There lies the difficulty.

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگان، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را.....

(جناب چیئرمین: لیکن مشکل یہ ہے کہ اخبارات کے مطابق کچھ اراکین تعطیل کے حق میں نہیں۔ یہی بات مشکل پیدا کر رہی ہے)

Sahibzada Ahmad Raza Khan Qasuri: This is the difficulty. I am not for a recess. The choice is entirely that of the House and the Chairman.

(صاحبزادہ احمد رضا خان قسوری: یہ بات مشکل ہے میں بھی تعطیل کے حق میں نہیں۔ اس کا اٹھارہ چیئرمین اور ایوان پر ہے)

Mr. Chairman: No, no, the recess is needed for preparation of your case and arguments; and not only for Attorney- General but for the members also.

(جناب چیئرمین: نہیں، نہیں! بحث کی تیاری کے لئے تعطیل ضروری ہے۔ نہ صرف اتارنی جزل بلکہ اراکین کو بھی اس کی ضرورت ہے)

(بغیر تعصب کے، بالکل کھلے ذہن سے کارروائی چل رہی ہے)

Mr. Muhammad Hanif Khan: Mr. Chairman, I want to put it on the record, because the point has been raised by the honourable member from Qasur, that the Committee, so far has been proceeding with this issue without any prejudice to the delegation or to one side or to the other side. We have left our minds open. If we are convinced by the arguments of the witness, who is just giving a statement, or we may not be convinced, but we have not formed opinion. And I think, when I speak I speak on behalf of the whole of the Committee, and they will agree with me that our mind is open to be convinced by the witness here or any other witnesses who will come later on.

۱۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

(جناب محمد حنیف خان: جناب چیئرمین! میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ قصور سے معزز رکن نے یہ نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ اب تک کمیٹی بغیر کسی تعصب کے کام کر رہی ہے۔ ہمارے ذہن بالکل کھلے ہیں۔ گواہ (جس کا بیان جاری ہے) ہمیں اپنے دلائل سے قائل کر سکے یا نہ کر سکے۔ ہم نے ابھی کوئی رائے قائم نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں۔ یہ بات کرتے ہوئے میں تمام ایوان کی ترجمانی کر رہا ہوں اور سب کے سب مجھ سے متفق ہوں گے کہ اس گواہ کے بیان سے یا دوسرے گواہان جو بعد میں آئیں گے۔ ان (کے بیانات) سے قائل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ہمارے ذہن بالکل صاف ہیں)

Mr. Chairman: Yes, Thank you very much.

Chaudhry Jahangir Ali.

(جناب چیئرمین: جی ہاں! آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چوہدری جہانگیر علی!)
مولانا غلام غوث ہزاروی: میں یہ چاہتا ہوں کہ.....
جناب چیئرمین: جی! میں آپ کی..... پہلے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔

**SECURITY OF THE PROCEEDINGS OF THE
SPECIAL COMMITTEE**

چوہدری جہانگیر علی: جناب چیئرمین سر! میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ *Delegation* (وفد) کے ممبر بڑے بریف کیمرے لے کر اور بیگز لے کر اندر آتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، جناب والا! کہ وہ اسمبلی کی، ہاؤس کی کارروائی کو ٹیپ ریکارڈ کر رہے ہوں۔ اس سے متعلق ذرا تسلی کر لیجئے۔
676 جناب چیئرمین: میں اس سے متعلق عرض کر دوں..... ایک سیکنڈ..... اگر ٹیپ بھی کر رہے ہوں۔

This we have decided that we will hold these proceedings in camera and whenever we find it suitable, convenient, we will release it to the press. Whosever violates the secrecy is responsible for his own action. If the tape is

||

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

declared or played after we release all the proceedings, it makes no difference. If it is released earlier, then everybody is responsible for his own consequences. If there has been no tape, any of the members of the delegation may disclose it to anyone; he too violates the secrecy.

(ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کاروائی بند کرے میں (خفیہ) ہوگی اور جب ہم مناسب سمجھیں گے۔ پولیس کو جاری کریں گے جو بھی راز فاش کرے گا یا خلاف ورزی کرے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ ہماری طرف سے کاروائی پولیس کو دینے کے بعد کوئی ظاہر کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اس سے قبل ایسی بات ہوتی ہے تو جو بھی (خفیہ کاروائی کو) ظاہر کرے گا خود ذمہ دار ہوگا۔ اگر کاروائی ٹیپ نہ بھی ہو تو پھر بھی اگر وفد کا کوئی رکن کاروائی ظاہر کرے گا تو اخفاء راز کی خلاف ورزی کے نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا)

چوہدری جہانگیر علی: وہ تو ہے سرکلز میں Disclose کریں گے۔ جناب! وہاں سے Leak out ہونا بڑا مشکل ہے۔

جناب چیئر مین: مولانا غلام غوث ہزاروی!

مولانا غلام غوث ہزاروی: مجھے یہ عرض کرنا ہے، جناب! کہ.....

جناب چیئر مین: ضابطے کی بات۔

CONTINUITY OF THE CROSS- EXAMINATION

مولانا غلام غوث ہزاروی: سب سے پہلے ہمیں آج کی جو گفتگو ہے یا جو سوالات ہیں، ان پر تھوڑی سی بحث کر لینی چاہئے۔ جہاں تک میں نے سنا ہے، تحریف کا مسئلہ.....

جناب چیئر مین: نہیں، ابھی نہیں تحریف۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جہاں سے انٹارنی جنرل صاحب نے کل چھوڑا ہے.....

مولانا غلام غوث ہزاروی: اچھا۔

جناب چیئر مین:..... کل رات کو جب سوانو ہوئے تھے.....

مولانا غلام غوث ہزاروی: اچھا۔

۱۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب چیئرمین: تو وہیں سے شروع کریں گے۔ اسی واسطے آج بجائے ساڑھے نو کے پھر ساڑھے دس رکھا گیا تھا تا کہ اٹارنی جنرل واپس آجائیں اور وہیں سے شروع کریں گے۔ تحریف کلام پاک جو ہے ابھی نہیں شروع ہوگی۔

⁶⁷⁷ مولانا غلام غوث ہزاروی: میرا مطلب یہ ہے کہ تحریف کا سوال اگر آجائے تو ایسا سوال چچا ہلا ہو کہ وہ مضبوط ہو۔ میرے خیال سے لفظی تحریف کا سوال ہے کمزور۔

جناب چیئرمین: جی، وہ آپس میں فیصلہ کر لیں جی۔

مولانا غلام غوث ہزاروی: جی، وہ اسی لئے میں نے عرض کیا۔

جناب چیئرمین: آپس میں فیصلہ کر لیں۔ آپ اس کے لئے مولانا ظفر احمد.....

مولانا غلام غوث ہزاروی: مجھے یہ بات عرض کرنی ہے۔

جناب چیئرمین: ظفر احمد انصاری، آپ اور تمام حضرات جو اس چیز میں ماہر ہیں یا وہ زیادہ جانتے ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔

Now we are ready. They may be called.

(اب ہم تیار ہیں۔ انہیں (وفد کو) بلا لیں)

REFERENCES FOR QUESTION IN THE CROSS-EXAMINATION

چوہدری جاگیر علی: مسٹر چیئرمین! میرے سوالوں کے لئے ایک کتاب ”انوار خلافت“ کے کچھ حوالہ جات دستیاب نہیں تھے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اعتراض فرمایا تھا کہ وہ حوالہ جات دستیاب نہیں ہیں۔ وہ کتاب دستیاب ہوگئی ہے۔ میں نے وہ حوالہ جات فلینگ (نشان لگا) کر دیئے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب اگر چاہیں تو ان کے اوپر سوال کریں۔

۱۔ اس لئے کہ مرزا قادیانی کے زمانے میں جو لفظی تحریف ہوئی تھی۔ بعد کے ایڈیشنوں میں قادیانیوں نے درست کر دی۔ اب جب ہم قادیانیوں پر تحریف کا جرم عائد کرتے ہیں تو اس سے دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں۔ (۱) تحریف معنوی جس کے برابر وہ آج تک مرتکب ہو رہے ہیں مثلاً محمد رسول اللہ، کہ اس کے مفہوم میں مرزا بھی شامل ہے۔ (۲) آیات قرآنی کو اپنے اوپر نازل شدہ کہہ کر خود اس کا اپنے کو مصداق بنانا۔

۱۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Mr. Chairman: You can talk to the Attorney-General, you can talk to him. Yes, they may be called.

(جناب چیئرمین: آپ اٹارنی جنرل صاحب سے بات کر لیں۔ جی ہاں! انہیں بلا لیں)

(The Delegation entered the Chamber)

(وفد ہال میں داخل ہوا)

Mr. Chairman: Yes, Mr. Attorney-General.

(جناب چیئرمین: جی ہاں! جناب اٹارنی جنرل)

CROSS- EXAMINATION OF THE QADIANI GROUP DELEGATION

جناب یحییٰ بختیار (اٹارنی جنرل پاکستان): مرزا صاحب! جہاں تک سوالات اور ان کے جواب میں جو آپ فرماتے رہے ہیں.....

⁶⁷⁸ مرزا ناصر احمد (گواہ، سربراہ جماعت احمدیہ، ربوہ): جی!

جناب یحییٰ بختیار (اٹارنی جنرل پاکستان): اس سے جو میں سمجھ سکا ہوں۔ وہ میں مختصر اُ بیان کرتا ہوں تاکہ اس کے بعد..... جہاں تک سوالات میں پوچھتا رہا ہوں آپ سے اور جو جوابات آپ دیتے رہے ہیں۔ اس سے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ میں مختصر اُ عرض کروں گا۔ میں نے آپ سے ایک سٹیج پر پوچھا تھا کہ ”کیا مرزا غلام احمد صاحب آپ کے عقیدے کے مطابق نبی ہیں؟“ تو آپ نے فرمایا تھا ”ہاں“ امتی نبی ہیں۔“

مرزا ناصر احمد: ویسے جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اس وقت میں نے کہا تھا: ”نہیں۔ لیکن امتی نبی ہیں۔“

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔ یہ میں اس واسطے کہتا ہوں کہ میں Repeat (دہرا) رہا ہوں۔ آپ جہاں تک بھی Correction ہو: ”نہیں، مگر وہ امتی نبی ہیں، شرعی نبی نہیں ہیں۔“ اس کے بعد میں کل آپ سے یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ ختم نبوت کے بارے میں دو نظریے پیش کئے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد اور دوسرا کوئی نبی، کسی قسم کا شرعی، غیر شرعی، امتی یا غیر امتی نہیں آئے گا اور ایک نظریہ یہ ہے کہ ان کے بعد ان کی امت میں سے نبی آسکتے ہیں اور آئیں گے اور اس کی تائید میں یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا فیض ہے،

۱۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

یہ بند نہیں ہوگا، یہ جاری رہے گا۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ ایک نہیں ہزاروں نبی آئیں گے۔ اس کے لئے بھی کچھ حوالے میں نے پڑھ کے سنائے۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ ”کیا مرزا غلام احمد صاحب سے پہلے کوئی امتی نبی آیا؟“ پھر میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا کہ ”کیا مرزا غلام احمد صاحب کے بعد کوئی امتی نبی آئے گا؟ آسکتا ہے؟“ اس اسٹیج پر پھر کچھ سوالات جوابات ہوئے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان دو سوالات کا اپنے عقیدے کے مطابق جواب فرمائیں کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب سے پہلے کوئی امت محمدیہ میں نبی آیا؟ اور دوسرا..... تاکہ آپ اسے تفصیل سے کر سکیں.....

مرزا ناصر احمد: جی۔

679 جناب یحییٰ بختیار:..... دوسرا، کیا نبی کوئی آسکتا ہے..... عقیدے کے مطابق، امکانی بات میں نہیں کر رہا۔

مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ پھر آپ کی ہے آپ *Elaborate* (وضاحت) کرتے ہیں۔ وہ آپ کی مرضی۔ مگر میں جہاں تک ہوں، جو عقیدہ ہے، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، اس کے مطابق کیا نبی آیا ہے؟ آسکتا ہے؟ ان سے پہلے؟ ان کے بعد؟

مرزا ناصر احمد: جی، یہ آخری حصہ میں آپ نے عقیدے کو محدود ایک حصہ میں کر دیا۔ حالانکہ یہ بھی عقیدہ ہی ہے کہ امکان ہے یا نہیں ہے۔ اس کا بھی تعلق.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میرا مطلب ہے عقیدہ سے..... میں یہاں *Elaborate* (وضاحت) کر دیتا ہوں..... جب میں کہہ رہا ہوں ”عقیدہ“ تو میرا مطلب ہے قرآن شریف اور حدیث کی روشنی میں جو ہمارا عقیدہ ہے۔ جو آپ کا عقیدہ ہے۔ اس میں کیا اور نبی آسکتے ہیں؟ یہ امکانی بات کل آپ نے فرمائی تھی۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ تو میں نے *Concede* (مان لیا) کیا ہے۔ میں نے آپ کو.....

مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: میں نے کہا کہ یہ ہمارا *Planet* (سیارہ) ہے یا ستارہ ہے۔ یہ تو، جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے۔ کہتے ہیں ایک لاکھ سال اور تاریخ میں، *Scientists* (سائنس دانوں) کے مطابق بہت کم عرصہ ہے کہ اس دنیا پر انسان رہتا رہا ہے۔ اس سے تیرہ چودہ

سوسال گزرے ہیں کہ ہمارے نبیؐ نے یہ پیغام دیا ہے کہ *Perfect* (مکمل) ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبیؐ آئے ہیں۔ ان کے جو پیغامات تھے۔ جو ان کو اللہ نے قانون بھیجا تھا۔ جسے وہ لوگ وقتاً فوقتاً خراب کرتے رہے یا کرپٹ *Corrupt* (گندہ) کرتے رہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ *Perfect* (مکمل) ہو گیا ہے اور ہمارے نبیؐ *Perfect* (مکمل) ہے۔ عیب (ہیں)۔ یہ بات تو ہو چکی ہے۔ اب آئندہ بھی یہ زندگی جو ہے۔ ہزاروں سال تک، لاکھوں سال تک چل سکتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ *Planet* (سیارے) کو بالکل ہی ختم کر دے۔ تو یہ سوال ہی نہیں رہتا۔ وہ بات تو نہیں کہہ رہا کہ جب انسان ہی نہ رہیں تو پھر کیا نبیؐ کا آنا اور کیا رہنا۔ واقعات کی دنیا میں اور جو *Realities*⁶⁸⁰ (حقائق) اور جو ان *Realities* (حقائق) کے لئے اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے قرآن شریف میں، اور جو ہمارے نبیؐ کی حدیث ہے۔ اس کے مطابق کیا اور نبیؐ آسکتے ہیں؟ اور کیا اور نبیؐ مرزا غلام احمد صاحب سے پہلے، آپ کے عقیدے کے مطابق آئے یا آسکتے ہیں؟

مرزا ناصر احمد: نبی اکرم ﷺ نے مسیح کے آنے کی پیش گوئی فرمائی ہے اور مسلم کی حدیث میں چار دفعہ ”نبی اللہ“ کے لفظ سے ان کو یاد کیا ہے اور اسی طرح مہدی کے آنے کی پیش گوئی فرمائی ہے اور امت محمدیہ آج تک نبی مسیح اللہ کے آنے پر عقیدہ رکھتی رہی ہے اور مہدی کے آنے پر عقیدہ رکھتی رہی ہے اور اس عقیدہ کی روشنی میں ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں۔ ان کا ایک حوالہ میں نے پڑھایا تھا کہ مہدی جو ہے وہ تمام انبیاء کے برابر اپنے آپ کو کہے گا۔ اعلان کرے گا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں۔ شیعہ حضرات جب یہ کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں۔ تو مسیح کے آنے کا انتظار کرنے والے وہ نہیں جو ابھی پیدا ہی ہونے تھے۔ یعنی جماعت احمدیہ، بلکہ شروع سے سارے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یا وضاحت کے ساتھ اپنی کتب میں یا ان کتب کے خلاف کچھ نہ لکھ کر خاموشی کے ساتھ اس عقیدے کو تسلیم کرتے رہے ہیں کہ ایک نبیؐ آنے والا ہے۔ اور ہم بھی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تیرہ سو سال تک ہمارے سلف صالحین جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ درست ہے، اور ان کے اس عقیدے کے مطابق جس آنے والے کی خبر دی گئی تھی۔ سارے فرقے اس سے اتفاق رکھتے ہیں، وہ آگیا۔ تو یہ جماعت احمدیہ کا نیا عقیدہ نہیں۔ پہلے دن سے اس عقیدہ پر امت محمدیہ اور اس کے سارے فرقے جو ہیں، وہ متفق ہیں کہ اس امت میں ایک نبیؐ پیدا ہوگا۔

۱۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: آپ نے جو فرمایا، مرزا صاحب! اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ:
 الف..... مرزا غلام احمد صاحب وہ مسیح تھے اور آپ چکے ہیں؟
 مرزا ناصر احمد: ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس مہدی اور مسیح کا امت محمدیہ انتظار کرتی رہی
 ہے تیرہ سو سال، وہ آچکے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے وجود میں۔
⁶⁸¹ جناب یحییٰ بختیار: یہ تو جہاں تک مسیح کے آنے کی پیش گوئی کا تعلق ہے۔ آپ
 نے فرمایا کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب تھے اور وہ آچکے اور وہی مسیح موعود تھے۔ آپ نے ابھی فرمایا
 کہ اللہ کا فیض جو ہے..... آپ نے نہیں فرمایا، میرا مطلب ہے آپ کے لٹریچر میں ہے.....
 مرزا ناصر احمد: جی، میں کہہ دیتا ہوں.....
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، یہ پوائنٹ جو ہے نا.....
 مرزا ناصر احمد: نہیں، یعنی..... میں اس کا اعلان کر دیتا ہوں کہ ہمارے نزدیک
 اب خدا تعالیٰ کے انعامات کے سب دروازے اتباع محمد کے بغیر..... بند ہیں۔ تو اب میں نے
 چونکہ یہ اعلان کر دیا ہے اس واسطے براہ راست آپ مجھ سے سوال کر لیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: تو اس واسطے جو آپ کہتے ہیں کہ ”باقی دروازے بند ہیں
 سوائے.....“

مرزا ناصر احمد:..... سوائے اتباع محمد کے۔
 جناب یحییٰ بختیار: اسی کے Bases (بنیاد) پر، اسی کی بنیاد پر کیا اور نبی آ
 سکتے ہیں؟ یا اسی Bases (بنیاد) پر حضرت غلام احمد نبی تھے؟
 مرزا ناصر احمد: نبوت..... مرزا غلام احمد صاحب کے امتی نبی ہونے کے متعلق تو
 میں نے ابھی اپنا عقیدہ بیان کر دیا ہے۔ اگر اس میں کوئی اشتباہ ہو تو میں وضاحت کر دیتا ہوں۔
 آپ حکم فرمائیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں یہ..... چونکہ جو سوال یہ اٹھا تھا کل کہ ”کیا وہ نبی ہیں؟“
 آپ نے آخر میں کہا کہ ”وہ نبی ہیں نہیں اس Sense (معنی) میں جو آپ کہہ رہے ہیں۔“
 مرزا ناصر احمد: میں نے اس کی وضاحت کر دی نا آج صبح، آپ نے ارشاد فرمایا
 اور میں نے وضاحت کر دی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امت محمدیہ تیرہ سو سال تک مسیح نبی اللہ کا انتظار کر
 رہی تھی اور جس کا تیرہ سو سال امت محمدیہ نے انتظار کیا وہ مسیح ہمارے عقیدہ کے مطابق آچکے۔

۱۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: اور یہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے کہ ”امت نبی“..... میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ”ختم نبوت“ کی جو Interpretation (وضاحت) جو تفسیر کی جا رہی ہے۔ ایک خاتم الانبیاء کی.....

مرزا ناصر احمد: جہاں تک فیوض کا تعلق ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں؟

مرزا ناصر احمد:..... وہ میں نے اعلان کر دیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو Interpretation (تصریحات) ہیں۔ فیوض کی کہ اس کا مطلب ”خاتم الانبیاء“ کا یہ ہے کہ نبی، محمدؐ آخری نبی تھے۔ یہ تفسیر کی جاتی ہے کہ وہ آخری نبی تھے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ وہ آخری شرعی نبی تھے ان کی مہر، ان کی Perfection (کمال) کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ جو ان کی امت کا ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ کیا View (تاثر) ہے؟

مرزا ناصر احمد: ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرمؐ خاتم النبیین ہیں۔ اس معنی میں بھی کہ آپ سے قبل جس قدر انبیاء گزرے۔ ان کی ساری روحانی تجلیات مجموعی طور پر محمدؐ کی روحانی تجلیات سے حصہ لینے والی اور ان سے کم تھیں۔ پہلے بھی، آئندہ بھی، کوئی شخص بزرگی، روحانی بزرگی اور روحانی عزت کے چھوٹے سے چھوٹے مقام کو بھی حاصل نہیں کر سکتا سوائے نبی اکرمؐ کے فیض سے حصہ لینے کے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! میں نے کل آپ کی توجہ..... یہ تو جہاں تک مسیح کے آنے کی پیش گوئی ہے اور جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ وہ پیش گوئی سب مسلمانوں کا یا اوروں کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے۔ کس فارم (form) میں آئیں گے؟ اس پر کچھ اختلاف ہو سکتا ہے کہ آیا جسمانی طور پر آئیں گے یا نہیں۔ مگر یہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق آپ چکے.....

مرزا ناصر احمد: آپ چکے۔

جناب یحییٰ بختیار:..... وہ تو Clear (واضح) ہے۔ اب ایک اور جو پر اہم ہے، جس کے لئے میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں اور جس طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے

۱۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

”انوار خلافت“ صفحہ ۶۲ میں کل، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے ”(مسلمانوں نے)“
یہ Original (اصل) میں نہیں ہوگا۔

مرزانا صراحتاً: ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: ⁶⁸³ ”انہوں نے (مسلمانوں نے) یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے۔ ان کا یہ سمجھنا خدائے تعالیٰ کی قدرت کو ہی نہ سمجھنے کے باعث ہے۔ ورنہ ایک نبی تو کیا، میں کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے۔“

میں نے آپ کی توجہ دلائی اس طرف اور ساتھ ہی ایک اور حوالہ تھا، وہ بھی ”انوار خلافت“ صفحہ ۶۵ پر کہ: ”اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں ضرور کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ آپ کے بعد نبی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں۔“

مرزانا صراحتاً: اب سوال آسکتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: دو میں نے پڑھے جی! پہلے کہ ”ہزاروں نبی ہوں گے“ ایک یہ۔ دوسرے کہ ”آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں۔“ اب میں جو آپ سے Clarification (وضاحت) کی درخواست کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے: ”آسکتے ہیں یا آئیں گے۔“ ان میں اگر صرف مسیح کی طرف اشارہ ہوتا تو صاف کہہ دیتے کہ ”وہ نبی ایک ہی آسکتا ہے، آگئے ہیں۔“ مگر یہاں یہ کہا گیا ہے کہ: ”(مسلمانوں نے) یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا..... کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے۔ ان کا یہ سمجھنا خدائے تعالیٰ کی قدرت کو ہی نہ سمجھنے کے باعث ہے ورنہ ایک نبی تو کیا، میں کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے۔“

تو اس لئے مہربانی کر کے آپ اس کو ذرا Elaborate (تفصیل کے ساتھ) کر کے Clarify (واضح) کریں پوزیشن کو کہ ان کا مطلب کیا تھا۔

مرزانا صراحتاً: جی، میں اس کا یہ مطلب سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی امکان کے متعلق بات ہے، جیسا کہ کل میں نے یہ ایک حوالہ پہلا پڑھ کے بتایا تھا کہ ”تقویت الایمان“ میں حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید فرماتے ہیں: ”اس شہنشاہ، اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم ”کن“ سے چاہیں تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ، جبرائیل اور محمد ﷺ کے برابر پیدا کر ڈالیں۔“

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

684 تو ایک ہے امکانی۔ آپ نے مجھ سے تشریح مانگی۔ میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک ان دونوں حوالوں میں کوئی امکان کی بات ہے، حقیقت کی بحث نہیں ہے۔

(ہزاروں نبی ہوں گے، مرزا محمود!)

جناب یحییٰ بختیار: میں نے آپ کی جو توجہ دلائی، اسی لئے کہ ایک حوالے میں ”امکان“ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ ہے، ”آپ ﷺ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں۔“ دوسرے میں جو الفاظ استعمال کئے ہیں اور بڑے..... میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ مرزا اشیر الدین محمود احمد صاحب کوئی لفظ بدل دیں گے۔ اگر ان کا مطلب نہ ہو بدلنے کا، *Meaning* (مطلب) مختلف نہ ہوں، اور یہاں کہتے ہیں: ”میں کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے۔“

اور پھر.....

مرزا ناصر احمد: اور اگر انہوں نے ہی اس کے کوئی معنی کئے ہوں تو وہ ہمیں قبول کر لینے چاہئیں نا، خود لکھنے والے نے اگر معنی کئے ہوں کہ میری کیا مراد ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ آپ بتلا دیجئے۔ پھر *Depend* (انحصار) کرتا ہے کہ پہلے کون سی بات کہی۔ بعد میں کون سی بات کہی۔

مرزا ناصر احمد: بعد میں یہ بات کہی جو میں سنانے لگا ہوں۔ آپ نے..... سوال کیا گیا کہ: ”کیا مرزا غلام احمد صاحب کے روحانی درجہ کا کوئی اور شخص آ سکتا ہے؟“ جواب:۔ اس کا امکان ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آیا اللہ تعالیٰ آئندہ ایسے شخص مبعوث کرے گا یا نہیں۔ ایک شخص کے ایک حوالے، ایک کتاب کے ایک فقرے کو لے کے یہ زور دینا کہ ساری..... تعلیم میں چھوڑ کے ان کے متعلق کوئی غلط بات کہہ دوں، یہ تو نہیں میں کروں گا۔ جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اب دراصل وہ امکانی بات آپ فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ.....

مرزا ناصر احمد: جی، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ ایک امکانی بات ہے۔ میں تو اپنے نزدیک ہی بتا سکتا ہوں اور میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ 685 جناب یحییٰ بختیار: اچھا، مرزا صاحب! میں آپ کی توجہ آپ کے ایک بیان کی طرف دلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کی بھی وضاحت کر سکیں۔ یہ جولاہور میں کورٹ آف اکوٹری بیٹھی ہے، ان کے سامنے آپ کا بیان ہوا تھا؟

۲۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: جی، ہوا تھا۔

جناب یحییٰ بختیاری: اس میں آپ سے کچھ سوالات پوچھے گئے اور ان کے جوابات یہاں لکھے گئے ہیں۔ میں وہ Repeat (دوبارہ) کرتا ہوں۔ آپ جواب دیں کہ صحیح ہے یا نہیں۔
مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے۔

Mr. Yahya Bakhtiar: Do you believe Mirza Ghulam Ahmad to be a NABI? ---- Question.

(جناب یحییٰ بختیاری: کیا آپ مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں؟..... سوال)

Mirza Nasir Ahmad: No my answer.

(مرزا ناصر احمد: میرا جواب، نہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, I am repeating the answer.

(جناب یحییٰ بختیاری: نہیں میں جواب کو دہراتا ہوں)

آپ بعد میں پھر اگر کہیں غلط ہے.....

مرزا ناصر احمد: جی! ٹھیک ہے۔

Mirza Nasir Ahmad: You said: "Yes...."

(مرزا ناصر احمد: آپ نے کہا، جی!)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, no, I said: No.

(جناب یحییٰ بختیاری: نہیں، نہیں، میں نے کہا نہیں)

Mirza Nasir Ahmad: "... But I believe him to be an UMMATI NABI."

(مرزا ناصر احمد: لیکن میں اسے (مرزا غلام احمد) کو امتی نبی مانتا ہوں)

Then the question. (تب سوال ہوتا ہے)

How are you related to him?

(آپ کا اس (مرزا غلام احمد) سے کیا رشتہ ہے؟)

Answer: I am his grandson, son's son.

(جواب: میں اس کا پوتا ہوں، بیٹے کا بیٹا)

بیچ نے لکھا ہے یا Explain (واضح) کیا گیا ہے۔

(مرزا قادیانی! امت محمدیہ میں پہلا امتی نبی ہے)

Question: Was he the first UMMATI NABI after Hazrat Mohammad (Peace be upon him)?

(سوال: کیا وہ حضرت محمد ﷺ کے بعد پہلا امتی نبی ہے؟)

Answer: "To my belief, he was the first UMMATI NABI in Ummat -e- Mohammadih."

(جواب: میرے اعتقاد کے مطابق وہ امت محمدیہ میں پہلا امتی نبی تھا)

یہ آپ نے کہا:

مرزا ناصر احمد: جی کہا۔

Mr. Yahya Bakhtiar: Can any more such Nabi follow? Question.

(جناب یحییٰ بختیار: کیا اس طرح کے اور نبی بھی آسکتے ہیں؟ سوال)

(مرزا قادیانی کے بعد اور آسکتے، مگر شاید نہ آئیں، مرزا ناصر)

Answer: They can but they may not.

(جواب: آسکتے ہیں مگر شاید نہ آئیں) یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، ٹھیک ہے۔

Mr. Yahya Bakhtiar: It is properly reported?

(جناب یحییٰ بختیار: یہ بالکل صحیح لکھا گیا ہے؟)

Mirza Nasir Ahmad: It is properly reported.

(مرزا ناصر احمد: یہ بالکل صحیح لکھا گیا ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: "Why not?" --- This is the question and your answer to that is: "Because, according to my faith, the Holy Mohammad of Islam did not predict. The coming of more than one UMMATI NABI, or any other UMMATI NABI theoretically there can be more than one

۲۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را.....

UMMATI NABI in UMMAT of Holy Prophet of Islam. But, because of his prophecy, I believe that there will not by any more." Is it correctly recorded?

(جناب یحییٰ بختیار: سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں؟ اور آپ کا جواب یہ ہے کہ ”چونکہ میرے اعتقاد کے مطابق حضرت محمد ﷺ نے ایک سے زائد امتی نبی آنے کی پیش گوئی نہیں فرمائی یا کسی دوسرے امتی نبی کی پیش گوئی نہیں فرمائی۔ اس لئے میرا ایمان ہے کہ کوئی اور (امتی نبی) نہیں آئے گا۔ یہ صحیح طرح ریکارڈ ہے؟)

مرزا ناصر احمد: جی! یہ تو میں اب بھی یہی.....

جناب یحییٰ بختیار: کیونکہ ہم تو وہاں نہیں تھے نا۔

مرزا ناصر احمد: ہاں! ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔

⁶⁸⁷ *Mr. Yahya Bakhtiar: So, Mirza Sahib, then you are asked: "Can you cite the 'basharat' (بشارت) or prophesy, because you have referred to that?"*

And then you say: "I cannot give the reference of the relevent tradition (Hadith) of the Holy Prophet right now, but I will send it to the Tribunal later. One can find support for this belief even from the Qur'an. According to our faith, Mirza Ghulam Ahmad was also the promised Mashiah and promised Mehdi."

Now, Sir, I have read their statement, and you said:

"This is correctly recorded."

(جناب یحییٰ بختیار: تو مرزا صاحب تب آپ بتا سکتے ہیں۔ کیا آپ اس پیش گوئی یا بشارت کا حوالہ دے سکتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ پھر آپ نے کہا ہے کہ آپ اس وقت متعلقہ حدیث کا حوالہ دینے سے قاصر ہیں۔ تاہم بعد میں یہ حوالہ دے دیں گے۔ (آپ کے بیان کے مطابق) یہ عقیدہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ ہمارے (یعنی مرزائیوں کے) عقیدے مطابق آپ کا (یعنی مسلمانوں کا) مہدی بھی مہدی موعود ہے۔ تو جناب (مرزا صاحب) میں نے

۲۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

آپ کا بیان پڑھ کر سنایا ہے اور آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ درست لکھا گیا ہے)

مرزا ناصر احمد: جی ہاں! Yes.

Mr. Yahya Bakhtiar: Sir, here you say first that he was Ummati Nabi; you say, Sir, that he was the only Ummati Nabi; you say, Sir, that according to your faith, no other Ummati Nabi can come because of the prophecy of the Holy Prophet of Islam; And you say: "According to our faith, he was also---- I want to emphasise the word 'also'---- the promised Mashiah and the promised Mehdi."

So, there are two capacities which Mirza Ghulam Ahmad, according to you, had: One as an Ummati Nabi; the other as promised Mashiah and Mehdi: I was confirming myself yesterday, and again I respectfully repeat the question that: "Can there be another Ummati Prophet after him according to your faith?" You said: "No." So, does it not amount to saying that he is the last of the Prophets?

(جناب کی! بختیار: تو جناب! آپ یہاں کہتے کہ وہ امتی نبی تھا۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہی صرف امتی نبی تھا اور آپ کے عقیدے کے مطابق کوئی اور امتی، نبی نہیں آ سکتا۔ کیونکہ حضرت محمد ﷺ نے صرف ایک امتی نبی کی پیش گوئی فرمائی تھی اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق وہ (مرزا غلام احمد) مہدی موعود بھی تھا۔ میں لفظ "مسح موعود" بھی پر زور دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح مرزا غلام احمد دو حیثیتوں کا مالک تھا۔ یعنی ایک امتی نبی کی حیثیت اور دوسرے مسح موعود کی حیثیت۔ کل بھی میں نے اپنے (سوال کو) محدود رکھا تھا اور نہایت احترام کے ساتھ آج بھی میں اپنے سوال کو دہراتا ہوں۔ کیا کوئی اور بھی امتی نبی ہو سکتا ہے اور اگر نہیں ہو سکتا تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ (یعنی مرزا غلام احمد) آخری نبی ہے؟)

Mirza Nasir Ahmad: He is not.

(مرزا ناصر احمد: وہ (مرزا غلام احمد) آخری نبی نہیں)

۲۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگان، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را.....

Mr. Yahya Bakhtiar: Why not? if this your....

(جناب یحییٰ بختیار: کیوں نہیں؟)

Mirza Nasir Ahmad: Because Mohammad Salallah- ho- Alah- e- wa- Sallam is last of the Prophets in every sense of word. "Khatam- un- Nabbiyen (خاتم النبیین)." (مرزا ناصر احمد: وہ اس لئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ حقیقتاً آخری نبی ہیں۔ سبھی ان کو آخری نبی مانتے ہیں)

⁶⁸⁸*Mr. Yahya Bakhtiar: Then what is your controversy with others who say that he is the last of the Prophets? Only on the question of Mehdi? Or you say that other Ummati Nabi can come?*

مرزا ناصر احمد: میں نے ابھی عرض کی کہ امت محمدیہ شروع سے لے کر تیرہ سو سال تک حضرت نبی اکرم ﷺ کو خاتم النبیین مانتے ہوئے ایک ایسے مسیح کا انتظار کرتی رہی جسے مسلم کی حدیث میں خود آنحضرت ﷺ نے چار بار نبی اللہ کہا اور وہ ”خاتم النبیین“ پر بھی ایمان لاتے تھے۔ اس واسطے میرے نزدیک تو کوئی اس میں الجھن نہیں ہے۔ ساری امت تیرہ سو سال تک ”خاتم النبیین“ کے خلاف اس عقیدہ کو نہیں سمجھتی رہی کہ ایک مسیح آئے گا جو نبی اللہ ہوگا اور میں نے ابھی بتایا ہے کہ امت کے سلف صالحین کی سینکڑوں عبارتیں یہاں بتائی جاسکتی ہیں جو آنے والے کے مقام کو ظاہر کر رہی ہیں۔ ایک شیعہ حضرات، ہمارے بھائی جو ہیں۔ ان کا حوالہ میں نے کل پڑھا۔ ان کا ایک اور حوالہ ہے کہ وہ: ”تمام انبیاء سے مہدی افضل ہوگا کیونکہ نبی اکرم کا ظل کامل ہے۔“ اسی طرح سینکڑوں حوالے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں آٹھ دس دن میں وہ سینکڑوں حوالے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ امت محمدیہ..... یعنی اس وقت جو میں نے Clarification (وضاحت) کے لئے بات کی جو میرے ذہن میں پہلے تھی..... کہ تیرہ سو سال تک امت محمدیہ ایک نبی کا انتظار بھی کرتی رہی اور تمام سلف صالحین اس بات پر متفق تھے کہ اس نبی کا انتظار ختم نبوت کو توڑنے والا نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! آپ معاف کریں گے۔ اگر پھر میں اپنا وہ

۲۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

دہراؤں کہ آپ کے بیان کے مطابق مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود ہیں اور آپ کے بیان کے مطابق امتی نبی ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ:

"According to my belief, he is also Mashieh-e-Mauood or the promised Mashih, and Mehdi also, and he is Ummati..."

There are two capacities, and I want clarification on that point. And I would respectfully, again, before you give the answer, draw your attention to your document which you have filed in support of your contention. This is Annexure 6, which is a book written by Maulana abul Ata, from which I read yesterday and... I am sorry ⁶⁸⁹ here to repeat... which is written in reply to Maulana Maudoodi's book 'Khatma-e-Nabuwwat (ختم نبوت)'. This deals with that....

(”میرے اعتقاد کے مطابق وہ موعود نبی بھی ہے اور امتی نبی بھی۔“ یہ دو حیثیتیں ہیں۔ جن کی میں وضاحت چاہتا ہوں اور میں پورے احترام کے ساتھ آپ کی توجہ اس دستاویز کی جانب دلوانا چاہتا ہوں۔ جو آپ نے اپنے موقف کے بارے میں پیش کی ہے۔ یہ دستاویز نمبر چھ ہے۔ جو ایک کتاب ہے جسے مولانا ابوالعطاء نے مولانا مودودی کی کتاب ”ختم نبوت“ کے جواب میں لکھا ہے)

مرزا ناصر احمد: اس کا صفحہ کیا ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: صفحہ جی آٹھ۔ یہاں جی، یہ مولانا ابوالعطاء صاحب فرماتے ہیں.....

مرزا ناصر احمد: جی، یہ تو وہی جو کل والا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ

repeat. (میں اس کے دہرانے پر معذرت خواہ ہوں۔)

مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے۔

۲۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: ”خاتمیت محمدیہ آنحضرت ﷺ کو خاتم النبیین ماننے والوں کے مختلف دو نظریے ہیں.....“

Now, Sir, we are not discussing the Mashiah or the promised Mehdi. This is the interpretation.....Tafseer.

(تو جناب ہم مسیح کو بحیثیت مسیح موعود زیر بحث..... نہیں لارہے بلکہ یہ تو مفہوم کی بات ہو رہی ہے)

”.....کہ خاتم النبیین ماننے والوں کے دو مختلف نظریے ہیں“ کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے اور وہ مولانا ابوالعطاء صاحب فرماتے ہیں کہ: ”پہلا نظریہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خاتمیت نے دیگر انبیاء کے فیوض کو بند کر کے فیضان محمدی کا وسیع دروازہ کھول دیا ہے۔ آپ ﷺ کی امت کے لئے آپ کی پیروی کے طفیل وہ تمام انعامات ممکن الحصول ہیں جو پہلے منعم علیہم لوگوں کو ملتے رہے ہیں۔“ یہ ایک نظریہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں: ”دوسرا نظریہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خاتمیت فیضان محمدی کے بند ہونے کے مترادف ہے۔ آپ ﷺ کی امت ان تمام اعلیٰ انعامات سے محروم ہو گئی ہے جو بنی اسرائیل یا پہلی امتوں کو ملتے رہے ہیں۔“

تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں مولانا جو فرما رہے ہیں اور جو وہ تفسیر کر رہے ہیں۔ دو نظریے دے رہے ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک نقطہ نظر سے کوئی نبی نہیں آئیں گے..... امتی ہو، شرعی ہو؟ دوسرے نقطہ نظر سے محمد کی امت سے ایسے نبی آئیں گے جو بنی اسرائیل میں آتے رہے ہیں، یعنی غیر شرعی امتی ہیں؟ یہ نقطہ نظر کیا یہ نہیں لکھا: ”میں نہیں کہتا کہ ایسے لوگ آئیں گے جن سے نبیوں جیسا سلوک کیا جائے۔“

⁹⁰ ان کا نہیں ذکر۔ صاف یہ مطلب تھا اور یہ مطلب میں اخذ کرتا ہوں اس سے کہ ایک نقطہ نظر کے مطابق کوئی نبی نہیں آ سکتا کسی قسم کا۔ آپ خواہ اسے کہیں کہ ”دروازہ بند ہو گیا، فیض کی کھڑکی بند ہو گئی“ دوسرے میں کہتے ہیں ”نہیں، وہ فیض کی کھڑکی کھلی ہے یا فیض کا دروازہ کھلا ہے اور نبی آ سکتے ہیں۔“ کیا اس Passage (پیرے) کا یہ مطلب نہیں؟ یا کچھ اور مطلب ہے؟

مرزا ناصر احمد: یہ مطلب نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ پھر بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟

۲۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

مرزا ناصر احمد: یہ جو عبارت ہے، اس میں نبوت کا نام ہی نہیں ہے۔ عبارت یہ کہتی ہے:
 ”خاتمیت محمدیہ یا آنحضرت ﷺ کو خاتم النبیین ماننے والوں کے.....“
 جناب یحییٰ بختیار: ”ماننے والوں کے۔“

مرزا ناصر احمد: ”..... ماننے والوں کے دو نظریے ہیں، جو آنحضرت ﷺ کو خاتم النبیین یقین کرتے ہیں۔ آگے دو نظریے ہیں ان کے: ”ایک نظریہ یہ ہے..... پہلا نظریہ کہ آنحضرت ﷺ کی خاتمیت نے دیگر انبیاء کے فیوض کو بند کر کے فیضان محمدی کا وسیع دروازہ کھول دیا ہے۔ آپ کی امت کے لئے آپ کی پیروی کے طفیل وہ تمام انعامات.....“

ایک، دو، تین، چار نہیں، ”وہ تمام انعامات“ جس میں صالحیت کا انعام ہے، شہید بننے کا انعام ہے، صدیق بننے کا انعام ہے، قطب اور ابدال بننے کا انعام ہے، جس میں آئمہ بننے کا انعام ہے، جس میں نیک بندے بننے کا انعام ہے، جس میں یہ دی گئی ہے بشارت کہ تمہیں میری امت کے جو عام انسان ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ سچی خواہیں دکھائے گا، یہ انعام ہے، جس میں یہ انعام ہے کہ امت محمدیہ کے تمام افراد بحیثیت مجموعی ”انتم الاعلون ان کنتم مومنین“

اگر ایمان کی شرائط پر پورے اتر رہے ہوں گے تو غالب آئیں گے اور مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ ساری امت کے ہر قسم کے مسلمان کے لئے یہ انعامات ہیں۔ تو یہاں پر ایک وہ ہیں کہ وسیع دروازہ کھول دیا ہے آپ کی امت کے لئے، آپ کی پیروی کے طفیل، اور وہ تمام انعامات ممکن⁶⁹ الحصول ہیں۔ یہاں آ کے آگے کچھ قید لگائی ہے: ”جو پہلے منع علیہم لوگوں کو ملتے رہے ہیں“ اور منع علیہم گروہ جو ہے، مختلف گروہ، ایک نہیں چار ہیں وہ۔ ان کا ذکر قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ آیا ہے، جس کی طرف سورۃ فاتحہ میں یہ ارشاد ہے: صراط الذین انعمت علیہم

(ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا..... منع علیہ)

اور دوسری جگہ چار کیٹیگریز اس کی بنائی ہیں۔ تو یہاں نہ نبوت کا نام، نہ صرف نبوت کے مفہوم کے متعلق کچھ کہا گیا ہے: ”دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خاتمیت فیضان محمدی کے بند ہونے کے مترادف ہے۔ آپ کی امت ان تمام اعلیٰ انعامات سے محروم ہوگی جو بنی اسرائیل یا پہلی امتوں کو ملتے رہے ہیں۔“

یہ میں مثال دے کے اس کو واضح کرتا ہوں۔ انجیل میں ہے کہ بچے بھی نبوتیں کریں گے..... لغوی Sense (معنی) میں۔ تو یہ بھی ایک انعام تھا کہ ان کو سچی خواہیں آئیں گی۔ ان کو

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

بشارتیں ملیں گی۔ یہ ایک زبردست فرمان یعنی جو امت محمدیہ کو آج دوسرے مذہبوں سے علیحدہ کرتا ہے۔ یہ فرقان بھی ہے۔ تو یہاں تو یہ فیضان کے بند ہونے کا سوال ہے۔ نبوت کے بند ہونے کی بحث ہی نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے.....

مرزا ناصر احمد: جو میں سمجھتا تھا، میں نے بتا دیا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں یہ..... چونکہ میرے لئے جو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ تھی کہ میں نے یہ مولانا مودودی صاحب کا کتابچہ بھی پڑھا۔ انہوں نے کسی جگہ بھی اس بات کو نہیں کہا کہ اللہ کا فیض بند ہو گیا ہے..... جس Sense (معنی) میں آپ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ: ”اور نبی نہیں آ سکتا“ اور اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ”نہیں آ سکتا ہے۔“ کہ ”نہیں“ آ سکتا ہے۔“ یہ فیض اس سے متعلق ہے۔ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ اگر جواب ہے تو.....

مرزا ناصر احمد: جی، یہ ٹھیک ہے، میں نے تو جو مجھے سمجھ آئی بتا دیا۔

692 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، دیکھیں نا، آپ اس جواب کو پڑھیں گے، اس کتابچے کے ساتھ جس کے لئے اعتراض ہے، جس کے جواب میں لکھی گئی ہے یہ کتاب۔ وہاں صرف یہ ہی سوال اٹھایا گیا۔ آپ پھر اس کو Verify کریں۔

مرزا ناصر احمد: وہ تو کتاب اس وقت میرے سامنے نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں؟ آپ پھر Verify کر لیجئے.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں Verify کر لوں گا۔

جناب یحییٰ بختیار:..... کیونکہ اس میں تو کوئی Dispute ہی نہیں ہے.....

مرزا ناصر احمد: ٹھیک ہے، وہ Verify کر لیں گے۔

جناب یحییٰ بختیار:..... کہ اگر مولانا مودودی صاحب نے یہی کہا ہے کہ اللہ کا فیض اس شکل میں بند ہو گیا ہے جیسے آپ نے کہا، تب تو بات ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا..... میری سمجھ کے مطابق۔

مرزا ناصر احمد: جی، وہ ٹھیک ہے۔ وہ چیک کر کے پھر میں بتا دوں گا۔

جناب یحییٰ بختیار: انہوں نے یہی کہا ہے کہ جہاں تک نبی کا تعلق ہے..... (ایک

رکن سے) ہے کتاب وہ؟ (مرزا ناصر احمد سے) میرے پاس اس وقت نہیں ہے۔

مرزانا صراحمہ: نہیں، اگر مل گئی تو انشاء اللہ، شام کی *Sitting* میں اگر مل گئی تو میں بتا دوں گا۔

جناب یحییٰ بختیار: تو اب اس لئے آپ اسے دیکھ لیں۔ اس کے بعد یعنی مولانا مودودی نے یہ نہیں کہا کہ جس قسم کا فیض آپ کہہ رہے ہیں، بند ہو گیا۔ انہوں نے یہی کہا ہے.....
مرزانا صراحمہ: وہ بات میں سمجھ گیا ہوں۔ ہاں، وہ بات میں سمجھ گیا ہوں۔ لیکن بغیر اس ریفرنس کے، جو اس کا مطلب میں سمجھتا تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، وہ پھر آپ کو دیکھ لیں۔

مرزانا صراحمہ: جی، وہ دیکھ لوں گا۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، شام کی *Sitting* میں کر لیں گے۔

مرزانا صراحمہ: آج میں کوشش کروں گا کہ وہ مل جائے کتاب۔⁶⁹³

جناب یحییٰ بختیار: اب میں آپ کی توجہ مرزا صاحب! کچھ اور حوالے ہیں، ان کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ صحیح ہیں یا آپ *Admit* کرتے ہیں: ”دافع البلاء“ میں ص ۱۱ (خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱) میں لکھا ہے کہ: ”سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

مرزانا صراحمہ: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ آپ دیکھ لیں اور آپ فرمائیں کہ یہاں مطلب ان کا ایک نبی کو بھیجنا ہے، امتی نبی یا ایک رسول کو بھیجنا ہے کہ مہدی کی طرف اشارہ ہے یہ؟ جیسا بھی آپ سمجھتے ہیں وہ ریفرنس دیں آپ۔ یہ جی یہاں جو ہے نا۔ اس سے میں نے وہ لکھا یہاں جو Page 10-11 ہے اس کتاب میں۔ اچھا۔ ہاں، ٹھیک ہے۔

مرزانا صراحمہ: صفحہ کونسا ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: ۲۳۱ صفحہ خزائن کا ہے۔ اس کتاب کا جس میں ان سے حوالے دیئے ہیں ”دافع البلاء“ صفحہ ۱۰، ۱۱۔

مرزانا صراحمہ: جی، جی، ٹھیک ہے ص ۲۲۹؟

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، ۲۳۱۔

مرزانا صراحمہ: ۲۳۱

۳۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: اس میں جو Page گیارہ آجاتا ہے ناجی.....
مرزانا صراحتاً: جی، جی۔

جناب یحییٰ بختیار: اس میں جو پیرا ختم ہو رہا ہے۔ پہلا پیرا۔ اس میں لکھا ہے:
”اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ سچا خداوند ہی خدا جس نے قادیان میں
اپنا رسول بھیجا۔“

مرزانا صراحتاً: یہ..... سوال یہ ہے کہ یہاں ”رسول“ کا لفظ اپنے لئے استعمال کیا
ہے؟ جی؟ آپ نے یہ سوال کیا؟

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔ اب ایک دوسرا سوال میں عرض کروں گا۔ یہ
”حقیقت الوحی“ ص ۳۹۱، خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۷ پر مرزا صاحب فرماتے ہیں: ”نبی کا نام پانے
کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔“ یہ بھی آپ
Verify کر لیں۔

مرزانا صراحتاً: جی، یہ ہوگا، غالباً۔ ابھی میں نے یہی بتایا ہے کہ امت محمدیہ تیرہ سو
سال تک یہی سمجھتی رہی ہے۔

(امت نے کبھی نہیں سمجھا کہ قادیان میں غلام احمد.....)
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، امت محمدیہ کبھی یہ نہیں سمجھتی رہی کہ قادیان میں مرزا غلام
احمد.....

مرزانا صراحتاً: نہیں، امت محمدیہ یہ سمجھتی رہی ہے کہ ایک کی بشارت دی گئی ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ اور سوال ہے..... میں یہاں پوچھتا ہوں، یہاں اس
سے مطلب ہے.....

مرزانا صراحتاً: ہاں، یعنی بشارت کے جو مورد ہیں وہ.....
جناب یحییٰ بختیار: ”نبی کا نام پانے کے لئے“.....
مرزانا صراحتاً: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ نہیں کہہ رہا کہ ”مسح مجھے.....“
مرزانا صراحتاً: نہیں، نہیں۔ امتی نبی۔

جناب یحییٰ بختیار: امتی نبی ہاں: ”نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام اس نام کے مستحق نہیں۔“ یہ اپنی طرف انہوں نے، اپنے بارے میں کہا؟
مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، اپنے بارے میں۔

(انبیاء سے میں کم نہیں ہوں، مرزا قادیانی کا اعلان)

695 جناب یحییٰ بختیار: اب ایک اور حوالہ۔ ان کے ایک دو شعر ہیں، مرزا صاحب کے ”درشین“ میں Page 288 پر:

انبیاء گرچہ بودہ اند بے من بہ عرفان نہ کمترم زکے
آں چہ داد است ہر نبی راجام داد آں جام را مرا تمام
(نزدول آتخ ص 99، خزائن ج 18 ص 422)

مرزا ناصر احمد: یہ شیعہ حضرات کی.....

جناب یحییٰ بختیار: یہ مرزا صاحب کے شعر ہیں ناں جی؟

مرزا ناصر احمد: یہ مرزا صاحب کے شعر ہیں اور شیعہ حضرات کے اس اقتباس کا ترجمہ ہے قریباً، جو میں نے کل پڑھ کر سنایا تھا کہ: ”وہ کہیں گے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہو، وہ مجھے دیکھ لے۔“ وغیرہ وغیرہ۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہاں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو.....

مرزا ناصر احمد: ”جو روحانی جام انبیاء کو دیئے گئے تھے، وہ مجھے نبی اکرم کے طفیل بہتر رنگ میں دیئے گئے ہیں۔“

جناب یحییٰ بختیار: میں ترجمہ کرتا ہوں، اگر آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے.....

مرزا ناصر احمد: جی، بہت اچھا۔

جناب یحییٰ بختیار: ”اگرچہ اس دنیا میں بہت سے نبی ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی سے بھی، عرفان میں کسی سے بھی کم نہیں ہوں.....“

مرزا ناصر احمد: کسی چیز میں؟

جناب یحییٰ بختیار: ”ان میں سے کسی بھی عرفان میں میں کم نہیں ہوں.....“

مرزا ناصر احمد: جی۔

۳۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: ”جس نے ہر نبی کو جام دیا، اس نے مجھے بھی بھر کر جام دیا۔“
مرزانا صراحمہ: جی۔

(مرزا قادیانی، انبیاء میں کسی سے کم نہیں)
696 جناب یحییٰ بختیار: یعنی اپنے متعلق وہ نبی کا کہہ رہے ہیں کہ ”میں کسی سے کم نہیں ہوں۔“
مرزانا صراحمہ: ٹھیک ہے۔ اپنے متعلق کہا ہے۔

(حضور علیہ السلام کے بعد صرف ایک نبی ہونا لازم ہے)
جناب یحییٰ بختیار: اب ایک حوالہ ہے ”تہذیب الاذہان“ قادیان، اگست ۱۹۱۷ء.....
مرزانا صراحمہ: ہاں، یہ ایک رسالہ چھپا کرتا تھا۔
جناب یحییٰ بختیار: ہاں، اس رسالے کا ہے۔ وہ.....
مرزانا صراحمہ: اس کے مضمون لکھنے والے کون ہیں؟
جناب یحییٰ بختیار: یہ میں نہیں جانتا جی۔ اس واسطے میں آپ سے
Verification (تصدیق) چاہتا ہوں۔

مرزانا صراحمہ: جی۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ کوئی تھارٹی ہے نہیں۔ ان کا ایک مارچ ۱۹۱۴ء کا ہے اور حوالہ
اور ایک حوالہ ہے اگست ۱۹۱۷ء کا۔

۱ (تہذیب الاذہان قادیان ج ۱۲ ص ۸۱، بابت ماہ اگست ۱۹۱۷ء) پر مرزا کے حوالہ سے
مضمون نگار نے لکھا ہے: ”آنحضرت ﷺ کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے اور بہت
سارے انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں میں رخنہ واقع کرتا ہے۔“
۲ (تہذیب الاذہان قادیان ج ۹ ص ۳۰ تا ۳۲، بابت مارچ ۱۹۱۴ء) میں ہے: ”پس اس
لئے امت محمدیہ میں صرف ایک شخص نے نبوت کا درجہ پایا اور باقیوں کو یہ رتبہ نصیب نہیں ہوا۔
کیونکہ ہر ایک کا کام نہیں کہ اتنی ترقی کر سکے۔ بے شک اس امت میں بہت سارے ایسے لوگ
پیدا ہوئے جو علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل کے حکم کے ماتحت انبیائے بنی اسرائیل کے ہم پلہ تھے،
لیکن ان میں سوائے مسیح موعود کے کسی نے بھی نبی کریم ﷺ کی اتباع کا اتنا نمونہ نہیں دکھایا کہ نبی
کریم ﷺ کا کامل ظل کہلا سکے۔ اس لئے نبی کہلانے کے لئے صرف مسیح موعود مخصوص کیا گیا۔“

۳۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحتاً: دونوں ”تہذیب الاذہان؟“
جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔ تو اس میں لکھا ہے..... یہ وہ خود مرزا صاحب نہیں
کہہ رہے.....

مرزانا صراحتاً: نہیں جی۔

جناب یحییٰ بختیار:..... کیونکہ ۱۹۱۷ء اور ۱۹۱۴ء کی بات ہے: ”آحضرت کے بعد
صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے اور بہت انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں
میں رخنہ پیدا کرتا ہے۔“ یہ آپ Verify کر دیں۔

مرزانا صراحتاً: نہیں، یہ مضمون کے لحاظ سے میں تصدیق کرتا ہوں، الفاظ کے لحاظ
سے میں تصدیق نہیں کرتا۔ یہ مضمون جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں: ”آحضرت کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے
اور بہت انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی بہت سی مصلحتوں اور حکومت میں رخنہ پیدا کرتا ہے۔“

اب، مرزا صاحب! یہاں جو ہے آپ کے اور باقی مسلمانوں کے نقطہ نظر میں کیا یہ
فرق نہیں کہ وہ بھی اسی عقیدے کے ہیں، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آحضرت ﷺ کے بعد انبیاء کا آنا
خدا تعالیٰ کی بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں میں رخنہ پیدا کرتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ
آحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ نہ آئے اور اگر آئے تو
وہ حکومت میں رخنہ پیدا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اور نبی آسکتا ہے۔ ایک تک رخنہ
نہیں پیدا ہوتا۔ ایک سے زیادہ اگر آگئے تو رخنہ پیدا ہوگا۔

مرزانا صراحتاً: یہ اگر..... سوال ختم ہو گیا ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔

مرزانا صراحتاً: میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ امت محمدیہ تیرہ سو سال تک یہ عقیدہ
رکھتی رہی ہے کہ ایک نبی اس امت میں آئے گا اور اس کے بعد کا مضمون فلسفیانہ ہے کہ یہ کیوں
صرف ایک کی بشارت دی گئی، اور تیرہ سو سال تک امت محمدیہ صرف ایک مسیح ”نبی اللہ“ جس کو چار
دفعہ حدیث مسلم میں کہا گیا ہے۔ صرف اس کے آنے کی انتظار کیوں کی گئی۔ یہ کیوں کا جواب
فلسفیانہ ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: اب مرزا صاحب! سوال یہ ہے کہ ایک نبی آئے گا۔ آپ کہتے
ہیں کہ امتی نبی آئے گا، اور.....

۳۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: نہیں، ہمارا فرق جو ہے، اگر چاہیں تو میں بتاؤں۔ تیرہ سو سال تک جو عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ مسیح نبی اللہ آئے گا۔ یہ امت کا عقیدہ ہے۔ لیکن معین کوئی شخص انہوں نے اس واسطے نہیں بتائی کہ وہ آیا نہیں تھا۔ ہمارا اور باقی ہمارے بزرگوں کا صرف یہاں فرق نظر آتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا انتظار تیرہ سو سال سے کیا جا رہا تھا، وہ آ گیا اور وہ ہمارے سلف صالحین کہہ رہے تھے کہ جس کا انتظار تیرہ سو سال سے کیا جا رہا تھا، وہ آنے والا ہے۔ ”آ گیا“ اور ”آنے والا“ کا فرق اور ہونا چاہئے۔ عقلاً کیوں کہ وہ پہلی صدیاں تھیں اور ہم اس صدی میں داخل ہو گئے۔

698 جناب یحییٰ بختیار: دو باتیں ہیں، مرزا صاحب! ایک تو یہ کہ سب کا عقیدہ ہے کہ مسیح آئیں گے۔ اس پر تو Controversy نہیں تھی۔ ایک مہدی نے آنا، ان کو نبوت ملنی بھی نہیں، وہ (عیسیٰ علیہ السلام) تو پہلے سے نبی Appoint ہوئے تھے۔ پہلے سے نبی مقرر ہوئے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟

مرزا ناصر احمد: پہلے سے وہ نبی تھے جو شریعت موسویہ.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نبوت ان کو ملی تھی؟

مرزا ناصر احمد: نہیں۔ شریعت موسویہ کو جاری کرنے کے لئے حکم خداوندی کے ساتھ اس دنیا میں آئے تھے۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! ان کی اتھارٹی Change ہو گئی۔ ان کو کہا کہ امت میں رہو گے تم۔ مگر نبی وہ پہلے تھے۔ ان کی اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مرزا ناصر احمد: پھر اصل میں وہ ہی ٹھیک ہے۔ ایک نقطہ نگاہ سے ٹھیک ہے۔ بس صرف یہ اختلاف ہے ناں ہمارا۔

جناب یحییٰ بختیار: میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح کا سوال نہیں ہے۔ یہاں تو صاف کہہ رہے ہیں کہ: ”آ حضرت ﷺ کے بعد صرف ایک نبی کا ہونا لازم ہے.....“ مرزا ناصر احمد: وہی مراد ہے۔ دوسری جگہ اس کا Explanation ہے۔

(مسیح بن مریم علیہ السلام دمشق میں آئیں گے ناکہ.....)

جناب یحییٰ بختیار: بہت انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں میں رخنہ پیدا کرتا ہے۔“

بہت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال تو اگر مسیح کا ہوتا تب تو وہ یہاں پر آگئے تھے اور باقی وہ جو حدیث میں تھا۔ وہ تو اور بات ہے کہ مریم کا بیٹا ہوگا اور دمشق میں آئے گا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہاں آپ نے جو فرمایا کہ ”ایک امتی نبی آئے گا، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب وہ امتی نبی ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ مسیح.....“

مرزا ناصر احمد: مسیح، وہی مسیح جس کا انتظار کیا جاتا رہا تھا۔
جناب یحییٰ بختیار: پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ ”ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مسیح ہیں۔ امتی نبی بھی ہیں And also.....“

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں۔ اوہو! ایک آدمی جو ہے وہ امتی نبی بنا ہی مسیح ہونے کی حیثیت سے ہے۔ لیکن اگر خالی ”مسیح“ کہا جائے تو ہو سکتا تھا، یا سوال..... یہ سمجھا جاتا کہ ہم امتی نبوت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس واسطے یہ اعلان کیا۔ اسی شخص کو کہنے والے محمدؐ نے مسیح بھی کہا اور ”مہدی“ بھی کہا اور ”مسیح ناصر“ آنے والے کے متعلق کہا کہ وہ نازل ہوگا اور پھر وہ جو بحث ہے ناں کہ وہ کون ہے، پرانا ہے یا نیا ہے۔ دراصل اسی نکتہ کے فیصلے کے اوپر یہ سارا مسئلہ اٹکتا ہے۔ اختلافات.....

جناب یحییٰ بختیار: میں ایک حوالہ اور بھی، پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں آپ سے مزید Clarification (وضاحت) کے لئے درخواست کروں گا۔
مرزا ناصر احمد: جی۔

(مرزا قادیانی کا کلام، دیگر انبیاء کے کلام کی طرح کلام الہی ہے)

جناب یحییٰ بختیار: یہ ہے جی ”ایک غلطی کا ازالہ“ اس سے: ”اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔
(ایک غلطی کا ازالہ ص ۶، جزائن ج ۱۸ ص ۲۱۰)

مرزا ناصر احمد: ہاں، یہ ٹھیک ہے، غالباً۔
جناب یحییٰ بختیار: اب، مرزا صاحب! آپ اس پر ذرا کچھ روشنی ڈالیں کہ جب مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ: ”میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے.....“ ایک نبی کی حیثیت سے بول رہے ہیں: ”مجھ پر وحی جو نازل ہوتی ہے۔“

۳۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

”.....وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔“ یہ ان تینوں سے ایک علیحدہ نبی ہو کے اپنے کلام کا ذکر کر رہے ہیں۔

700 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ قسم یہ کھائی ہے..... مجھے جواب دینے کی اجازت ہے؟

جناب یحییٰ بختیاری:..... حضرت عیسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں.....

مرزا ناصر احمد: مجھے جواب دینے کی اجازت ہے؟

جناب یحییٰ بختیاری:..... یہی کہہ رہے ہیں کہ ”میں وہی مسیح ہوں“.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، آپ سوال پورا کر لیجئے۔

جناب یحییٰ بختیاری:..... اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ”وہ وحی جو محمدؐ پر آتی ہے۔ یہ میری

وحی ویسی ہی پاک ہے۔ یہ میری وحی ویسی ہی پاک ہے جو عیسیٰ پر آئی، جو موسیٰ پر آئی۔“

تو تین نبیوں کا ذکر کر کے ”میں چوتھا نبی ہوں“ میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ مطلب تھا ان کا۔ آپ مزید تفصیل سے اس کو اگر کرنا چاہیں تو.....

مرزا ناصر احمد: آپ نے یہاں صرف منج وحی کی بات کی ہے۔ کیفیت وحی کی بات نہیں کی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس چشمہ سے قرآن عظیم جیسی عظیم ہدایت نکلی، جاری ہوئی، وہی مجھ سے بات کرنے والا ہے۔ یہ نہیں بتاتے کہ ”قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق یہ اس کے برابر میری وحی ہے۔“ کہتے..... یہاں یہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ ”میں ہر قسم کی قسم کھانے کے لئے تیار ہوں کہ میری وحی شیطانی وحی نہیں، بلکہ الہی وحی ہے۔“ محمدؐ کی وحی کے مقابلے میں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو کس طرح رکھا جاسکتا ہے؟ اگر جو آپ استدلال کر رہے ہیں وہ کریں تو ہم تو کافروں سے بھی بڑھ کر کافر بن جاتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیاری: نہیں، نہیں، مرزا صاحب! میرا یہ مطلب نہیں.....

مرزا ناصر احمد: صرف چشمہ وحی.....

جناب یحییٰ بختیاری:..... میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ”میری وحی ان

سے بہتر وحی ہے۔“ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ ”یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے۔“ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔

مرزا ناصر احمد: ”وہی ہی سچی ہے۔“

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ”سچی وحی ہے اور ایسی پاک ہے جو اللہ نے محمد پر بھیجی۔“
701 مرزا ناصر احمد: جو وحی اللہ کی طرف.....

جناب یحییٰ بختیار: میرا ایک پوائنٹ تھا.....

مرزا ناصر احمد: اچھا جی!

جناب یحییٰ بختیار: وہ یہ تھا کہ یہ ایک مختلف وحی ہے۔ یہ *Emphasis*

کر رہے ہیں کہ یہ ایک مختلف وحی ہے جو ایک مختلف نبی پر آتی ہے۔ یہ مضمون ظاہر کر رہا ہے کہ نہیں؟

مرزا ناصر احمد: وحی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمارے عقیدے کے مطابق ان انبیاء پر بھی

نازل ہوئی جو کوئی شریعت نہیں لائے تھے۔ ہمارے نزدیک، ہمارے عقیدہ کے مطابق خدائے

پاک کے پاک الفاظ میں وحی امت محمدیہ کے صلحاء پر بھی نازل ہوئی۔ جہاں تک ان کی پاکیزگی کا

سوال ہے۔ اللہ کا تعلق ہے۔ چشمہ وحی سے یعنی *Source* اس کا کیا تھا۔ اگر وہ اللہ کا کلام ہے تو

اللہ کے کلام کے متعلق یہ کہنا کہ خدا کے کلاموں میں یہ فرق کرنا پڑے گا کہ بعض زیادہ پاک اور بعض

کم پاک ہیں۔ ہماری عقل میں تو نہیں آتی یہ بات۔ جو خدا کی طرف سے آئی بات، وہ خدا کی

طرف سے آنے والی تمام باتوں کے مطابق اپنے پاک چشمہ کی وجہ سے ایک جیسی ہے۔ لیکن اپنی

کیفیت میں بڑا اختلاف رکھتی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! معاف کیجئے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ کہہ رہے

ہیں کہ باقی وحی پاک نہیں ہے یا ان کی وحی، پاک نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی *Dispute* نہیں

ہے۔ جہاں تک مضمون بڑا صاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ”میری وحی بھی ویسی ہی پاک ہے

جیسی باقی انبیاء کو وحی ملی ہے“ جن کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مضمون یہ ظاہر

کر رہا ہے کہ ان پر مختلف وحی آئی، ایک مختلف نبی کی حیثیت سے۔

مرزا ناصر احمد: یہ نہیں ظاہر کر رہا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ابھی میں پھر پڑھتا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: نہیں نہیں، میں!.....

۱۔ مرزا ناصر احمد کی قادیانی حضرات بے قراری ملاحظہ کریں کہ وہ کس طرح مرزا کی

عبارت سے جان چھڑانے کے درپے ہیں۔ لیکن رچھچھ کا مکمل ان کو نہیں چھوڑتا۔

۳۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Mr. Yahya Bakhtiar:

مرزا ناصر احمد: میرا جواب سن لیجئے۔ آپ نے اس جگہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا نام لیا ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وحی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کرنے والی نہیں ہے اور یہ خود مثال بتا رہی ہے کہ کیا مطلب ہے۔ وہ مطلب نہیں جو اس کا لیا جاسکتا ہے، کوئی اور لے لے اس کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی اس نے شریعت موسویہ کو منسوخ نہیں کیا۔ بلکہ شریعت موسویہ کی تائید کرنے والی اور شریعت موسویہ کو بنی اسرائیل کے اندر مستحکم کرنے کے لئے اور جاری کرنے کے لئے اور ان کو ان کی زندگیوں میں، بنی اسرائیل کی زندگیوں میں موسوی شریعت کو قائم کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ کی ساری وحی تھی، کوئی شریعت نہیں تھی۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نئی شریعت تھی۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام ایک مختلف نبی تھے اور اپنی وحی ان پر مختلف آئی جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی۔ سوال یہ ہے۔ مختلف۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ امت.....

مرزا ناصر احمد: اختلاف معنوی.....

جناب یحییٰ بختیار: محمد یہ گناہی ہے۔ ”اسی طرح جیسے موسیٰ اور عیسیٰ مختلف تھے، میں یہ کہتا ہوں کہ میں اور محمد ﷺ مختلف تھے۔“ یہ مضمون ظاہر کر رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہہ رہا ہے کہ ”جو مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، وہ وحی نہیں ہے جو محمد ﷺ پر نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح پاک ہے۔“

مرزا ناصر احمد: اختلاف معنوی اگر لیا جائے تو نہیں، لیکن اختلاف لفظی لیا جائے تو ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، لفظی ہے۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، لفظی اختلاف، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام، جن کو ہم امتی نبی سمجھتے ہیں، ان کو وحی کے ذریعہ یہ کہا گیا کہ: یقیم الدین..... ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ دین اسلام کو قائم کرنا اور مسیحی..... ”یقیم الدین ویحی الدین ویقیم الشریعہ“ اور شریعت محمدیہ کا احیاء کرنا۔ اس..... یہ اس کے سپرد کام ہے، اور اسی منصب کے ماتحت اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوگی جو لوگوں پر شریعت محمدیہ کے، جو روشن اس کی تعلیمات ہیں۔ ان کو کھول کر بیان کرے گی، اور نئے زمانے کے نئے مسائل کو شریعت محمدیہ، قرآن عظیم کی روشنی میں، اس وحی سے روشنی پا کر وہ دنیا پر ثابت کرے گا کہ دین اسلام سچا ہے۔

۳۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(دین کو قائم کرنے کے لئے نبی کی ضرورت نہیں)

703 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! کیا یہ فرض نبی کا دعویٰ کے بغیر کوئی شخص نہیں کر سکتا؟

مرزا ناصر احمد: کر سکتا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: کر سکتا ہے؟

مرزا ناصر احمد: بالکل کر سکتا ہے۔ یہ.....

جناب یحییٰ بختیار: چونکہ آپ نے کل فرمایا کہ وحی تو اور بزرگ ہو، ولی ہو.....

مرزا ناصر احمد: یہ کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نبی تھے۔ اس لئے آپ نے وہ

مثالیں دے دیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں نے ویسے ہی.....

مرزا ناصر احمد: جی، بالکل کر سکتا ہے۔ ہر.....

جناب یحییٰ بختیار: اگر تو پھر شریعت وہی ہے.....

مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار:..... اور امت محمدیہ کے ہیں وہ، اور وہ کام کرنے کے لئے صرف

آئے ہیں جو صرف ایک اور اولیاء کی حیثیت سے، محدث کی حیثیت سے، بزرگ کی حیثیت سے،

اللہ کی وحی کے ذریعہ روشنی حاصل کرنے کے بعد کر سکتے تھے تو پھر اس نبوت کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا

اللہ کا مطلب کیا تھا؟

مرزا ناصر احمد: دیکھیں نا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ”نبی“ کہا اس لئے اس

عقیدے کے بعد میں یہ جرأت کیسے کر سکتا ہوں کہ اللہ نے کیوں ایسا کیا۔ یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، مرزا صاحب! میں اس پر ذرا تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور

سوال پوچھوں گا، کیونکہ کئی سوالات آتے ہیں اور اس سے ہم کسی اور ہی چیز میں چلے جاتے ہیں۔

میری کوشش ہے اور آپ کو بھی تکلیف دی، اتنے دنوں تک یہ چیز چل رہی ہے۔ پھر سوال اور آتے

ہیں جن کی طرف میں بعد میں آؤں گا، کہ جو مہدی نے آنا تھا یا مسیح نے آنا تھا، اس کے بارے

میں حدیث میں کیا ہے، حضرت مریم کے بیٹے ہوں گے، دمشق میں آئیں گے، یہ چیزیں جو ہیں۔

میں اس اسٹیج پر نہیں جاتا۔ کیونکہ اس میں مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بھی اپنے جواب ہیں۔ مگر ہم

۴۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ریکارڈ کے لئے یہ چیزیں..... تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ Clarification (وضاحت) کی ضرورت ہوگی۔ اس لئے بعد میں کچھ سوالات پوچھوں گا۔

(Interruption)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! ایک اور مضمون تھا جس کے متعلق میں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے تھے اور میں نے عرض کیا تھا کہ میری سمجھ کے مطابق جو میں نے آپ کا لٹریچر تھوڑا بہت پڑھا ہے یا جو مجھے سوالات دیئے ہیں اسمبلی کے ممبران صاحبان نے پوچھنے کے لئے، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ..... کہ آپ.....

(Interruption)

Mr. Yahya Bakhtiar: Mr. Chairman, I request that the members should pay attention because my question I will wait till they have concluded the discussion, then I will proceed.

(جناب یحییٰ بختیار: جناب چیئرمین صاحب! میں اراکین سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے سوال اور بحث کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ آپس میں بحث و مباحثہ کریں۔ اس وقت تک میں کارروائی روک لوں گا اور اس کے بعد مزید کارروائی ہوگی)

(pause)

(قادانیوں کا علیحدگی کا رجحان)

جناب یحییٰ بختیار:..... کہ آپ کی جماعت نے ہمیشہ ایک Separatist tendency adopt (علیحدگی کا رجحان اپنایا رکھا) کی، ایک علیحدگی کا رجحان رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو مسلمانوں سے مختلف سمجھتے رہے ہیں۔ علیحدہ امت خیال کرتے رہے ہیں۔ اس پر آپ کچھ وضاحت کر چکے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو بات واضح رہے کہ کس بارے میں سوالات پوچھ رہا ہوں آپ سے۔

مرزا ناصر احمد: جی، جی۔

جناب یحییٰ بختیار: اور آپ کی یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو Saparate treat (الگ سمجھا جائے) کیا جائے۔ آپ Saparate (علیحدہ) ہیں اور اس ضمن میں ایک

۴۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

دحوالے ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے جی ”الفضل“ ۱۶ جولائی

۱۹۴۹ء، 16th July 1949-

مرزانا صرا احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: اور میرے..... جو انفارمیشن مجھے دی گئی ہے..... وہ غلط ہو سکتی ہے..... اس کے مطابق یہ آپ کے خلیفہ الثانی مرزا بشیر الدین محمود صاحب سے منسوب کی گئی ہے۔ وہ اپنے کسی خطبے میں فرماتے ہیں جو ”الفضل“ میں شائع ہوا ہے، جس کی تاریخ ہے ۱۶ جولائی: ”لوگ“..... اور یہاں بریکٹ میں ”(احمدی)“ لکھا ہوا ہے۔ وہاں بریکٹ میں ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا.....

مرزانا صرا احمد: ہم دیکھ لیں گے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔

(دشمن کے مذہب کو ہم کھا جائیں گے، قادیانی خلیفہ کا اعلان)

مرزانا صرا احمد: ہم دیکھ لیں گے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔ ”لوگ گھبراتے ہیں کہ ان کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی عداوت کیوں کی جاتی ہے کہ انہیں دکھ کیوں دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر دکھ دینے کی یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارا شکار ہیں تو پھر ہمیں گھبرانا نہیں چاہئے اور وہ کسی قسم کا فکر..... اور کسی قسم کا فکر کرنا..... اور نہ کسی قسم کا فکر کرنا چاہئے۔ بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہئے کہ دشمن.....“ یہاں بریکٹ میں ”(غیر احمدی مسلمان)“ لکھا ہوا ہے۔ جو میرے خیال میں وضاحت کے لئے لکھا ہے۔ ہوگا نہیں وہاں۔ یہ میں خود ہی کہہ رہا ہوں۔ وہاں ہوگا نہیں۔ یہ مجھے سمجھانے کے لئے ہے۔

مرزانا صرا احمد: جی، جی، ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ”..... کہ دشمن.....“ وہاں ”دشمن“ لکھا ہوا ہے: ”..... دشمن یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ہم میں کوئی نئی حرکت پیدا ہوگی تو ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے۔“ تو مرزا صاحب! یہاں یہ ہے کہ ”دشمن“ سے ان کی کیا مراد تھی؟ میں نہیں کہتا کہ بریکٹ میں صحیح باتیں لکھی ہوئی تھیں.....

مرزانا صرا احمد: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: اور یہ کس کا مذہب تھا؟.....

۴۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحتاً: مذہب سے کیا مراد ہے؟
 706 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، کیا مراد ہے؟ اور کیا کھا جائیں گے؟ اور پھر یہ ”میں اور وہ“ گھبراتے ہیں ”اور“ ڈراتے ہیں اور ”فکر کرتے ہیں“ اور ”دکھ دیتے ہیں۔“ دو سیکشن Separate (الگ) ظاہر کر رہا ہے ”دشمن“ دو Different camps (علیحدہ کیمپ) ظاہر کر رہا ہے۔

مرزانا صراحتاً: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: اس پر آپ.....

مرزانا صراحتاً: جی، یہ چیک کر کے.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، چیک کرنے کے بعد.....

مرزانا صراحتاً: Context..... میں دیکھ کے.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔

مرزانا صراحتاً: مجھے بھی پتہ لگے گا کہ اس طرح کیوں آگئی شکل۔ جس طرح وہابیوں کا اہل حدیث کے ساتھ کبھی جھگڑا رہا ہے۔ یا بریلویوں کا رہا مختلف فرقوں کا، تو یہ اس قسم کا جھگڑا یہاں کیسے پیدا ہو گیا۔

جناب یحییٰ بختیار: اور میرے دماغ میں جو اس سے اثر پڑا ہے۔ اس کے لئے

Clarification (وضاحت) چاہتا ہوں آپ سے.....

مرزانا صراحتاً: جی، ٹھیک ہے، میں دیکھ کے.....

جناب یحییٰ بختیار: کہ یہ Tendency یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ مسلمانوں

سے مختلف ہیں اور ان کو دشمن سمجھتے ہیں.....

مرزانا صراحتاً: جی، یہ عرض کر دوں گا۔

جناب یحییٰ بختیار: اور ان کو دشمن سمجھتے ہیں۔

مرزانا صراحتاً: تو یہ آج چھ بجے انشاء اللہ meet (ملاقات) کریں جب تو اس

وقت یہ اس کے اوپر روشنی.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی.....

مرزانا صراحتاً: جی، جی۔

۴۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

707 جناب یحییٰ بختیار: اس پر توجہ دیں تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں۔ یہ بھی مرزا صاحب سے منسوب کیا گیا ہے، اور یہ ہے ”الفضل“ ۳ جولائی ۱۹۵۲ء۔
مرزا ناصر احمد: ۳ جولائی یا ۳۰ جولائی؟
جناب یحییٰ بختیار: یہاں میرے پاس ۳ جولائی لکھا ہوا ہے جی۔
مرزا ناصر احمد: اچھا۔
جناب یحییٰ بختیار: ممکن ہے غلط ہو، میں پھر چیک کرا لیتا ہوں.....
مرزا ناصر احمد: نہیں، مجھے نہیں پتہ۔
جناب یحییٰ بختیار: کیونکہ ”الفضل“ کے کچھ ہمارے پاس پرچے ہیں اور کچھ آپ سے مانگے تھے وہ، مگر.....
مرزا ناصر احمد: پہنچے نہیں ابھی۔
جناب یحییٰ بختیار: پہنچے نہیں ہیں یا وہ ویسے بہت زیادہ ریکارڈ تھا، آپ نہیں پہنچا سکتے تھے۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ میں سمجھ گیا۔ اگر اجازت دیں تو میں دو فقروں میں ویسے بتا دوں۔ بہت دوستوں کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری لائبریری جو بڑی محنت سے اکٹھی کی گئی تھی۔ ۱۹۴۷ء میں ہم اس کا شاید ۱۰ فیصد بھی یہاں نہیں لاسکے۔ نہیں لانے دیا وہاں کی حکومت نے ظلم کر کے اور پرانے ریکارڈ میں سے بڑے قیمتی مواد، جو ویسے عیسائیوں وغیرہ کے خلاف بھی تھے۔ وہ ساری لائبریری وہاں چھوڑنا پڑی اور یہاں کوئی ۱۰ فیصد حصہ آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے یہاں کوشش کی ہے۔ لیکن وہ پوری نہیں ہو سکی۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں ایک اور نقطہ نظر سے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے جب یہاں کہا گیا کہ یہ ریکارڈ ہے، تو میں نے کہا دیکھیں! ایک اخبار ہے، اس کا تیس سال کا ریکارڈ جو ہے۔ جب تک کہ ہم کم از کم منہ سے نہ کہہ دیں، بڑا مشکل ہے لانا۔ پوری لاری لانی پڑتی ہے۔ تو یہ بھی Difficulty (مشکل) تھی۔ بعض چیزیں جو Definite تھیں.....
مرزا ناصر احمد: ٹھیک، یہ چیک کر لیں گے۔

708 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ چیک کر لیں۔ میرے خیال میں آپ کے پاس ہے، اور.....

۴۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: ۳ جولائی یا تیس جولائی؟
 جناب یحییٰ بختیار: ۳ جولائی۔
 مرزا ناصر احمد: ۳ جولائی۔ ۳ جولائی؟
 جناب یحییٰ بختیار: ۱۹۵۲ء
 مرزا ناصر احمد: ۱۹۵۲ء
 جناب یحییٰ بختیار: اس میں وہ میرا خیال تھا.....
 مرزا ناصر احمد: یہ بھی چیک کر کے تو اکٹھے ہی آ جائے گا۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔ وہ، وہ جو خاص حوالہ ہے۔ جس کی طرف میں آپ کی توجہ
 دلانا چاہتا ہوں، وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو:

(ہمارے دشمن کا حال ابوجہل جیسا ہوگا، قادیانی خلیفہ کا اعلان)
 ”ہم فتح یاب ہوں گے۔ ضرورتاً مجرموں کی طرح ہمارے سامنے پیش ہو گے۔ اس
 وقت تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فتح مکہ کے دن ابوجہل اور اس کی پارٹی کا ہوا۔“
 یہاں مرزا صاحب! آپ سے یہ گزارش ہے کہ ”فتح“ کا کیا مطلب ہے؟ ”مجرموں“
 سے کیا مراد ہے؟ اشارہ کس، کن لوگوں کی طرف ہے کہ ”تمہارا وہی حشر ہوگا جو فتح مکہ کے دن
 ابوجہل اور اس کی پارٹی کا ہوا تھا۔“ اس پر آپ ذرا.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، یہ دیکھ لیں گے، چیک کر کے۔

(۱۹۵۲ء گذرنے نہ پائے کہ دشمن احمدیت کی آغوش میں آگرے)
 جناب یحییٰ بختیار: پھر ایک اور اقتباس ہے جی ”الفضل“ لاہور ج ۶/۴۰ نمبر ۱۴،
 مورخہ ۱۶ جولائی ۱۹۵۲ء ص ۳، جس میں وہ فرماتے ہیں: ”۱۹۵۲ء کو گزرنے نہ دیتے۔ جب تک
 کہ احمدیت کا رعب دشمن اس رنگ میں محسوس نہ کرے کہ اب احمدیت مٹائی نہیں جاسکتی اور وہ مجبور
 ہو کر احمدیت کی آغوش میں نہیں آگرے.....“⁷⁰⁹ ممکن ہے کچھ نہ کچھ غلطی ہو۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: تو یہ جو ہے نا، اس پر کہ ”دشمن“..... اس پر احمدیت کا رعب،
 دشمن پر.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں اس پر رعب.....
 جناب یحییٰ بختیار: اور اس کا احمدیت کی آغوش میں آ جانا.....
 مرزا ناصر احمد: آغوش میں آ جانا.....
 جناب یحییٰ بختیار: یہ ”ڈٹمن“ کون ہے؟ یہ رعب کیسارعب ڈالنا ہے؟
 مرزا ناصر احمد: یہ یہاں..... وہ Context سے پتہ لگ جائے گا۔
 جناب یحییٰ بختیار: اب پھر وہ فرماتے ہیں ایک اور اقتباس میں..... وہی ہیں یا کسی اور کا، میں نہیں کہہ سکتا..... مگر یہ جو ہے نا، میں حوالہ دے دیتا ہوں.....
 مرزا ناصر احمد: جی۔
 جناب یحییٰ بختیار: ”الفضل“ ۱۵ جولائی ۱۹۵۲ء.....
 مرزا ناصر احمد: ۱۵ جولائی ۱۹۵۲ء۔
 جناب یحییٰ بختیار: ”ہاں اب آخری وقت آ پہنچا ہے۔ اب تمام علمائے حق کے خون کا بدلہ لینے کا جن کو شروع سے لے کر آج تک یہ خون ملا.....“ پھر ہے: ”(عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا مودودی، مولانا احتشام الحق).....“ یہ بریکٹ میں ہے۔ پتہ نہیں وہاں ہے کہ نہیں.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: لیکن یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں.....
 مرزا ناصر احمد: ٹھیک ہے جی۔
 جناب یحییٰ بختیار: ”(اور مفتی شفیع).....“
 اس کو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے: ”..... قتل کراتے آئے ہیں، ان سب کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔“ بہر حال، اس پر آپ بھی توجہ دیں کہ یہ ”خونی ملا“ کون تھے اور.....
 مرزا ناصر احمد: اور ”خون کا بدلہ“ کا کیا مطلب ہے؟

۱ (اخبار الفضل لاہور ج ۶/۳۰ ش ۱۶۶، مورخہ ۱۵ جولائی ۱۹۵۲ء ص ۳۲) پورا حوالہ یہ ہے:
 الفضل نے ادارہ لکھا جو ص ۳ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی سرخی قائم کی ”خونی ملا کے آخری دن“
 آگے ص ۴ کالم دو پر لکھا ہے۔ ”ہاں آخری وقت آن پہنچا ہے۔ ان تمام علمائے حق (قادیانی رہنماؤں) کے خون کا بدلہ لینے کا جن کو شروع سے لے کر آج تک یہ خون ملا قتل کرواتے آئے ہیں۔ ان سب کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ (۱) عطاء اللہ شاہ بخاری سے، (۲) ملا بدایونی سے، (۳) ملا احتشام الحق سے، (۴) ملا شفیع سے، (۵) ملا مودودی پانچویں سوار سے۔“

۴۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: اور کیا انہوں نے کیا؟

مرزاناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ توجہ دے دیں اور شام کو پھر آپ، یہ جو

مسئلہ سامنے ہے.....

مرزاناصر احمد: ہاں، یہ تین حوالے جو آپ نے بتائے ہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: چار حوالے میں نے دیئے۔

مرزاناصر احمد: چار حوالے، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: اسی وجہ سے اس دن بھی جو میں نے دیا اور اس کو میں پھر ذرا

Repeat (دہرا) کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی یاد میں رہے.....

مرزاناصر احمد: نہیں، یہ لکھ لئے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ایک اور تھا جی۔ اس دن میں نے..... ۱۳ نومبر ۱۹۴۶ء کا۔

مرزاناصر احمد: (اپنے وفد کے ایک رکن سے) لکھو جی، ۱۳ نومبر.....

جناب یحییٰ بختیار: ۱۹۴۶ء کا.....

مرزاناصر احمد: ۱۹۴۶ء۔

جناب یحییٰ بختیار: جس کا ذکر "Impact" میں بھی تھا۔ وہ جو میں نے

آپ کو بتایا۔

مرزاناصر احمد: وہ وہ حوالہ.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں۔

711 مرزاناصر احمد: الفضل کا.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، نہیں، "الفضل" ۱۳ نومبر ۱۹۴۶ء میں مرزا صاحب.....

مرزاناصر احمد: ہاں، یہ بھی شام کو ہو جائے گا۔

(عیسائیوں اور پارسیوں کی طرح، قادیانی حقوق بھی)

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔ یہ جو ہے ناکہ: "میں نے اپنے نمائندے کی معرفت

ایک بڑے ذمہ دار انگریز افسر کو کہلوا بھیجا کہ پارسیوں اور عیسائیوں کی طرح ہمارے حقوق

بھی تسلیم کئے جائیں....."

۴۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحمہ: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: ”..... جس پر اس افسر نے کہا کہ وہ تو اقلیت میں ہیں اور تم ایک مذہبی فرقہ ہو۔ اس پر میں نے کہا کہ پارسی، عیسائی بھی تو مذہبی فرقے ہیں۔ جس طرح ان کے حقوق علیحدہ تسلیم کئے گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بھی کئے جائیں۔ تم ایک پارسی پیش کردو۔ اس کے مقابلہ میں میں دو دوا سہمی پیش کرتا جاؤں گا۔“

مرزانا صراحمہ: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ ایک ہی Context ہیں۔ تاکہ آپ کو میرے.....
مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں، یہ شام کو انشاء اللہ ہو جائے گا۔ ویسے مختصر آ تو میں نے، اس کا جواب میں نے دیا تھا۔ لیکن تفصیل مانتے ہیں۔

(انگریز کی اطاعت اسلام کا حصہ، مرزا قادیانی کا فرمان)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! آپ کے عقیدے یا نقطہ نظر کے مطابق کیا انگریز کی اطاعت بھی اسلام کا حصہ ہے؟ انگریز، برٹش گورنمنٹ اس سے میری مراد ہے۔ کیونکہ اس پر مجھ سے کئی سوالات کئے گئے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ.....

مرزانا صراحمہ: جی، ہم سے پہلوں نے اور ہم نے اسلام کی جو تعلیم سمجھی، وہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم حکومت مذہب میں دخل نہ دے اور عبادت کرنے کی اجازت ہو، اور جو انسانی حقوق ہیں، وہ ادا کر رہی ہو، تو ہم سے پہلوں نے بھی، ہم نے بھی یہ عقیدہ رکھا کہ ان کے خلاف بغاوت جو ہے، وہ درست نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ آپ جب کہتے ہیں کہ ”وہ مذہب میں دخل یا دین میں دخل نہ دے“ پہلے آپ نے یہ فرمایا.....

مرزانا صراحمہ: جی۔

جناب یحییٰ بختیار:..... پھر آپ نے حقوق کی دوسری بات کی.....

مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں، وہ ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار:..... تو آپ یہ ذرا تفصیل سے فرمائیں کہ ”دخل نہ دینے“ سے آپ کا کیا مطلب ہے کہ نماز، روزہ پڑھنے کی اجازت آپ کو ہو، حج جانے کی اجازت

۱۔ پہلے گذشتہ صفحات میں یہ مکمل حوالہ ہم حاشیہ میں نقل کر چکے ہیں۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

آپ کو ہو، اذان کی اجازت ہو؟
 مرزا ناصر احمد: تمام وہ فرائض، احکام جو ہیں وہ میں پہلے..... ایک ضمناً آیا تھا۔
 ایک ضمناً بعد میں میں نے بتایا تھا کہ بعض حکم اسلام کے ہیں کہ ایسا ضرور کرنا ہے۔ بعض احکام یہ
 ہیں کہ ایسا جائز ہے، یعنی جواز.....

Mr. Yahya Bakhtiar: Not obligatory?

Mirza Nasir Ahmad: Not obligatory.

تو وہ حکومت، جو اسلامی حکم ہے کہ ایسا ضرور کرنا ہے۔ ان احکام میں دخل اندازی نہیں
 دیتی۔ اس حکومت میں، اس حکومت کے خلاف بغاوت ہمارے عقیدے کے مطابق جائز نہیں، نہ
 ہم سے پہلوں میں سے بہت سے.....
 جناب بیگی بختیار: اچھا، خیر، میں آپ کا عقیدہ پوچھتا ہوں، کیونکہ اس طرح سے
 لمبی بحث ہے۔

مرزا ناصر احمد: جی، وہ اپنے تسلسل میں پتہ لگتا ہے نا۔
 جناب بیگی بختیار: آپ کے عقیدہ کے مطابق ایک مسلمان کے غلام ہونے کا تصور
 موجود ہے کہ غلام بھی ہو اور مسلمان بھی ہو؟
 مرزا ناصر احمد: ہمارے نزدیک ”غلام“ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کس
 معنی کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں؟
 جناب بیگی بختیار: کہ حکومت، اقتدار، وہاں کسی غیر مسلم کا ہو۔ میں سیاسی پہلے
 بات کر رہا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: یعنی ”غلام“ کے معنی ”شہریت کا اختیار کرنا۔“

(غیر ملکی غاصبین سے آزادی کیا بغاوت ہوگی؟)

713 جناب بیگی بختیار: شہریت کا اختیار کرنا اور وہ..... اختیار کرنا نہیں۔ اگر آپ
 جس ملک میں رہتے ہیں۔ جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں سے باہر سے کوئی فاتح آئے یا کسی
 طریقے سے آپ کے ملک پر قبضہ کرے اور وہ غیر اسلامی لوگ ہوں، اور حکومت کرے اس پر.....
 مرزا ناصر احمد: جب حکومت کریں اور کر رہے ہوں ڈیڑھ سو سال سے یا سو
 سال سے.....

جناب یحییٰ بختیار: تو اس حکومت کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لئے اگر کوئی جدوجہد کرے، وہ بغاوت شمار ہوگی؟
مرزاناصر احمد: اگر وہ.....

جناب یحییٰ بختیار: آپ کو اجازت ہے کہ نماز پڑھیں.....
مرزاناصر احمد: نہیں، میں سمجھ گیا بات جی۔ میں سمجھ گیا۔ سوال سمجھ گیا۔ اگر وہ قانون کے اندر رہ کر جدوجہد کرے تو بغاوت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ فتنہ پیدا کرے اور خون خرابہ جس کے نتیجے میں پیدا ہو اور بہت سی معصوم جانیں خطرے میں آجائیں اور بہت سے حقوق جو ہیں وہ ناجائز غصب ہونے کا امکان پیدا ہو جائے تو وہ کام نہیں کرنے چاہئیں کیونکہ: ان اللہ لایحب المفسدین
جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! ایک مشکل اس میں یہ آ جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کرتے ہیں۔ وہ بھی بعض موقع پر ایسے سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ حکومت ایسے قدم لیتی ہے کہ وہ مجبور ہو کر قانون کے دائرے سے کچھ تجاوز کرنا پڑتا ہے ان کو۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں تحریک پاکستان کے دنوں میں چھ سال تک مسلسل جدوجہد ہوتی رہی۔ بات چیت ہوتی رہی۔ Negotiation ہوتے رہے۔ Demonstrations لیگل فارم میں جو ہوتے ہیں وہ ہوتے رہے۔ مگر آخر میں انگریز نے یہ کہا اور یہ اشارہ دیا کہ وہ ساری کی ساری گورنمنٹ کانگریس کو یا ہندوؤں کے حوالے کرے گا۔ جو بھی ہمارے ساتھ یا مسلم لیگ کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ جو بھی انہوں نے وعدے کئے تھے۔ اس پر وہ مکر گئے۔ گورنمنٹ کیا Interim گورنمنٹ کے بارے میں، اس سے مکر گئے۔ اسکیم جو تھی اس سے مکر گئے۔ Interim اسکیم جو تھی اسی سے مکر گئے۔ تو ایک ایسا سٹیج پہنچا کہ قائد اعظم نے بھی کہا کہ ”ڈائریکٹ ایکشن۔“

⁷¹⁴ That means no longer the constitutional struggle.

(اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد مزید آئینی کوشش نہ کی جائے)

Mirza Nasir Ahmad: I don't know whether

'direct action' means what you say.

(مرزاناصر احمد: مجھے معلوم نہیں۔ راست اقدام کا وہی مطلب ہے جو آپ کہہ

رہے ہیں)

۵۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Mr. Yahya Bakhtiar: No. I mean that--- what I say may be subject to correction---- may be that direct action was also a form of constitutional struggle. I don't say this. But supposing this is; now we can't....

(جناب یحییٰ بختیار: میں جو کہہ رہا ہوں وہی میرا مطلب ہے کہ راست سے مراد بھی آئینی کوشش ہی تھی۔ یہ میں نے نہیں کہا۔ لیکن فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ.....)

مرزا ناصر احمد: ڈائریکٹ ایکشن۔ انہوں نے اعلان کر دیا۔ ڈائریکٹ ایکشن کا۔

جناب یحییٰ بختیار: جیسے مہاتما گاندھی نے کہا جی کہ آپ *Quit India* (ہندوستان چھوڑ دو) اور وہ حالانکہ.....

مرزا ناصر احمد: ڈائریکٹ ایکشن ہو گیا نا۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔

مرزا ناصر احمد: مسلم لیگ کا۔

جناب یحییٰ بختیار: مسلم لیگ کا۔ تو اسی طرح میں.....

مرزا ناصر احمد: اور اس کا میں جواب دوں؟

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں ذرا تھوڑا سا *Explain* (واضح) کر دوں.....

مرزا ناصر احمد: اچھا، ہاں، ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: تاکہ بعد میں..... اسی طرح کانگریس جو تھی۔ ہندو جو تھے۔ ان کے لیڈر مہاتما گاندھی جو تھے۔ انہوں نے بھی اس اسٹیج پر یہ حکم دیا۔ حالانکہ وہ *Non violence* (عدم تشدد) پر یقین کرتے تھے۔ *Constitutional struggle* (آئینی جدوجہد) پر بھی *Believe* (یقین) کرتے تھے اور *Non violence* (عدم تشدد) پر بھی۔ انہوں نے، جو رپورٹ آئی اور آپ نے دیکھی ہوگی۔ جو برٹش گورنمنٹ نے پبلش کی تھی۔ ان کی تصویریں، ان کی *Instructions* (ہدایات) ان میں یہ چیز آئی تھی *Quit India Movement* (ہند چھوڑو تحریک) میں، *Cut down telephone wirles, cut down small bridges.* (ٹیلی فون کی تاریں کاٹ دو پلوں کو تباہ کر دو) اس قسم کی ہدایات کانگریس نے ایٹھو کی تھیں تو لوگوں نے مذاق کیا کہ *If you cut down a bridge,*

۵۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.comwww.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.compopalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

however small it may be (اگر آپ بچوں کو تباہ کر دیں خواہ وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں) جو جانیں ضائع ہو جائیں گی وہ تو بہت بڑی ہو سکیں گی۔ جب ٹرین نے ہی گر جانا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو تھیں کسی سٹیج پر لوگ جو آزادی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جو چاہتے ہیں کہ کوئی اور مجھ پر حکومت نہ کرے۔ میں اس وقت صرف سیاسی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ.....

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: کیونکہ وہ جو مسئلہ ہے اس پر بعد میں آؤں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ”دین کی آزادی جو ہے“ اس پر علامہ کہتے ہیں:

ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناناں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد وہ ایک اور پہلو ہے۔

مرزانا صراحتاً: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: اس پر میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ کیا مطلب ہے علامہ کا اور کیا چیز بنتی ہے۔ یہاں صرف سیاسی جو *Struggle* (کوشش) ہے.....

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، ہاں، ہم یہاں پہنچے ہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: میری خودداری میں..... دیکھیں ناں جی۔ میں پورا *Explain* (واضح کر دوں)۔

مرزانا صراحتاً: نہیں، میں اپنے سمجھنے کے لئے ایک بات کر رہا ہوں۔ آپ کا سوال ہی سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم پہنچے تھے قائد اعظم صاحب کے ڈائریکٹ ایکشن کے سلسلے میں۔ میں نے وہاں اپنی سوچ ختم کر دی تھی۔ کیونکہ وہیں ہم چلتے نا، ہمارا تعلق اسی سے ہے..... قائد اعظم کے ڈائریکٹ ایکشن کا حکم۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، میں نے اس کے بعد کہا کہ ایسا حکم کانگریس والوں نے بھی دیا، تین سال پہلے اس سے۔

مرزانا صراحتاً: ہاں، لیکن *We have nothing to do with that* (ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں)

جناب یحییٰ بختیار: میں مزید یہ عرض کر رہا تھا.....

مرزانا صراحتاً: جی۔

716 جناب یحییٰ بختیار: کہ کسی ملک کے لوگ، رہنے والے، جن کو حب الوطنی کا جذبہ ہو، پہلے وہ کوشش کرتے ہیں قانون کی حدود میں رہ کر، مہذب طریقے سے اپنی آزادی حاصل کریں۔ مگر وہ کہتے ہیں: تنگ آمد بہ جنگ آمد۔ ایک اسٹیج وہ بھی آجاتا ہے جب آزادی کے لئے ”تنگ آمد بہ جنگ آمد“ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں صرف سیاسی نقطہ نظر سے، مذہب کو چھوڑ دیجئے فی الحال.....

مرزانا صراحتاً: قائد اعظم نے ڈائریکٹ ایکشن کی تفصیلات کس حکم کے..... کیا حکم دیا کیا کرو؟

جناب یحییٰ بختیار: میں، مرزا صاحب! میں نے عرض کیا کہ ممکن ہے انہوں نے کہا کہ Constitution (آئین) کے دائرے میں رہو۔

مرزانا صراحتاً: نہیں، نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسی واسطے کہا تھا کہ میں نے..... جب آپ نے قائد اعظم کا حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے قوم کی..... تو میں نے بس وہاں اگلی جو باتیں ہیں وہ میں نے..... Disconnected (غیر متعلقہ) ہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: میں پھر Repeat.....

مرزانا صراحتاً: قائد اعظم نے جب ڈائریکٹ ایکشن کا کہا.....

جناب یحییٰ بختیار: میں پھر Repeat (دوبارہ) کر دیتا ہوں کہ میں نے کیا عرض کیا۔

مرزانا صراحتاً: جی.....

جناب یحییٰ بختیار: میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ قائد اعظم نے جب یہ کہا کہ ”ڈائریکٹ ایکشن“ تو ان کا یہی نظر یہ ہو۔ ممکن ہے یہی Instructions (ہدایات) ہوں کہ باوجود Constitutional (آئینی) کوشش ختم ہونے کے پھر بھی یہ بھی Constitutional (آئینی) ہی رہے۔ یہ میں کہتا ہوں ممکن ہے، کیونکہ ممکن ہے میں اسٹوڈنٹ تھا، مجھے پانہ ہو.....

مرزانا صراحتاً: جی۔

717 جناب یحییٰ بختیار: مگر قائد اعظم کا اپنا مطلب یہی تھا اور ہوگا کہ آپ جلے

کریں۔ *Demonstration* (مظاہرہ) کریں۔ جلوس نکالیں۔ احتجاج کریں۔ مگر ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگوں کو ماریں۔ گھروں کو جلائیں۔ آگ لگائیں۔ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اس اصول کے آدی نہیں تھے۔ مگر جب ڈائریکٹ ایکشن ہوا۔ جس طرح لوگوں نے اس کو سمجھا اور جو کلکتہ میں جو تاریخ مقرر تھی..... میرے خیال میں ۱۶ ستمبر ۱۹۴۶ء کی، ۱۶ اگست ۱۹۴۶ء تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی دن میں میرے خیال میں کلکتہ میں دس ہزار جانیں ضائع ہو گئیں۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کی ملا کے اور وہ ڈائریکٹ ایکشن کے بارے میں بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر پاکستان بنا۔ ابھی آپ اس پر ذرا.....

مرزا ناصر احمد: میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قائد اعظم کی ہر جدوجہد میں جماعت احمدیہ کے افراد کندھے سے کندھا ملا کے پاکستان کے لئے لڑتے رہے ہیں اور اس کی ایک..... (اپنے وفد کے ایک رکن سے) وہ کہاں ہے فوٹو اسٹیٹ کی کاپی؟ (انٹارنی جنرل سے) یہ ایک ریلیز ہے قائد اعظم کی، اخبار ”ڈان“ ۱۸ اکتوبر ۱۹۴۳ء اس کا عکس ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے، جماعت احمدیہ قادیان کی مرکزی مراسلات پر لیس میں:

Ahmadiyya community to support Muslim League.

Qadian leader's guidance. Mr. M.A Jinnah has released the following correspondence to the Press. Letter from Nazim-e-Umoor-e- Aama of the... (یہ ہوگا مس ٹائپ) Umoor-e- Aama of the Ahmadiyya Movement, Qadian, addressed to Mr. Jinnah:

"Dear Sir:

I beg to enclose herewith a copy of the letter from Mohammad Sarwar Dani of village Marghazar Kurda district Rae-pur, addressed to Hazrat Amir-ul- Momineen, Khalifat-ul- Mashih 2nd, Head of the Ahmediyya community, and the reply thereto, for your kind perusal.

yours faithfully."

۵۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(احمدیہ جماعت مسلم لیگ کی حمایت کرے گی۔ رہنمایان قادیان کی ہدایت، مسٹر محمد علی جناح مندرجہ ذیل خط و کتابت اخبارات کو جاری کی ہے۔ احمدیہ جماعت کے ناظم امور عامہ قادیان کی طرف سے مسٹر جناح کے نام خط:

جناب والا! میں ایک خط منجانب محمد سرور دانی ساکن موضع مرگزار، ریاست رائے پور کی نقل جو کہ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح ثانی جماعت احمدیہ کے نام ہے۔ بھیج رہا ہوں اور اس خط کا جواب بھی آپ کے ملاحظہ کے لئے۔ آپ کا مخلص!

"The text of the letter from Muhammad Sarwar referred to above: وہ متن آگے ہے۔"

(یہ محمد سرور کے اس خط کا متن ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے)

⁷¹⁸ "We have the honour to make a request and a query. We are a few Ahmadies here in this town and in the present election campaign we have been approached both by the League and the Congress for contributions and assistance to the respective parties and candidates. Kindly guide us whom we should support."

Reply from the head of Ahmadia community:

"You ought to support Muslim League in the present elections and offer them whatever means of cooperation and assistance you can possibly afford. Muslims do require a united front in the present crisis. There differences, if allowed to exist, will affect them adversely for hundreds of years to come."

(”ہم ایک درخواست کر رہے ہیں۔ جس کے متعلق آپ سے رہبری کے طالب ہیں۔ اس قصبہ میں ہم چند احمدی ہیں۔ الیکشن کی ہم کے دوران ہم سے (مسلم) لیگ اور کانگریس دونوں نے رابطہ کیا ہے اور دونوں ہی اپنے اپنے امیدواروں کے لئے امداد کے خواستگار ہیں۔ از راہ کرم ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کس کی حمایت کریں۔“

۵۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

جماعت احمدیہ کی طرف سے جواب: ”موجودہ الیکشن میں آپ کو مسلم لیگ کی حمایت کرنی چاہئے اور ممکن حد تک جو بھی تعاون اور امداد آپ کر سکتے ہیں کریں۔ موجودہ بحران میں مسلمانوں کو متحدہ محاذ کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے اختلافات کو رہنے دیا گیا تو اس کے اثرات سو سال تک رہیں گے۔“

جناب یحییٰ بختیار: یہ تو آپ جو میں دوسرا عرض کر رہا تھا ناں.....
Seperatists کے متعلق اس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے۔
(چیئرمین کی رولنگ، مرزا ناصر نے سوال کا جواب نہیں دیا)

Mr. Chairman: The question of the Attorney-General is unanswered.

(جناب چیئرمین: اٹارنی جنرل کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا)

Mr. Yahya Bakhtiar: Beg your pardon?

Mr. Chairman: Your question has not been answered. (جناب چیئرمین: آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا)

Mr. Yahya Bakhtiar: That's why I said that relates to a different subject.

(جناب یحییٰ بختیار: میں نے کہا اس (سوال) کا تعلق دوسرے موضوع سے ہے)

Mr. Chairman: No, the question has not been answered as yet.

(جناب چیئرمین: نہیں، سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا)

Mr. Yahya Bakhtiar: That's why I am repeating that. کہ constitutional struggle becomes impossible and Muslims particularly find that they cannot achieve their

سوال تھا کہ آزادی کی جدوجہد کے لئے کسی مرحلہ پر ڈائریکٹ ایکشن ہو سکتا ہے۔ مرزا ناصر نے جواب دیا کہ قادیانی جماعت نے لیگ کے امیدوار کو ووٹ دیئے۔ سوال گندم جواب چنا!

independence in thir own country and they adopt methods other than constitutional in order to obtain independence.

(جناب یحییٰ بختیار: میں اسے دوہرا رہا ہوں۔ اگر آئینی کوششیں ناممکن ہو جائیں اور مسلمان یہ سمجھیں کہ وہ آئینی ذرائع کے علاوہ دوسرے ذرائع اختیار کئے بغیر اپنے ملک میں آزادی حاصل نہیں کر سکتے)

مرزا ناصر احمد: یعنی قانون شکنی کرتے ہیں۔ جانیں لیتے ہیں۔ لوٹتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: جانیں لینے کا میں نے نہیں کہا۔

⁷¹⁹ مرزا ناصر احمد: نہیں، میں ویسے وضاحت چاہ رہا ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا.....

جناب یحییٰ بختیار: میں نے *Unconstitutional* (غیر آئینی) کہا۔ اس

کی مثال میں یہی دیتا ہوں، چھوٹی سی۔

مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: کہ وہ کہتے ہیں کہ ”دفعہ ۱۴۴ لگ گئی ہے۔ آپ جلوس نہ

نکالیں“ وہ کہتے ہیں ”ہم نکالیں گے.....“

مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: ”..... ہم اس کو توڑیں گے۔“ چھوٹی سے مثال ہے۔

Struggle (کوشش) جو ہے کہ *Constitutional* (آئینی) انہوں نے توڑ دی۔ اس

کا نتیجہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے زیادتی کی کہ ”نہیں، آپ نہیں جائیں گے۔“ یا گورنمنٹ نے قانون

کو *Enforce* (نافذ) کیا، جو ان کی بھی ڈیوٹی سمجھی جاتی ہے۔ جب جلوس انہوں نے نکالا،

لوگ زخمی ہو گئے۔ گولی چلی۔ لاشی چارج ہوا۔ اس طرح یہ چیز چلتے چلتے ایک ایسی پوزیشن پر پہنچ

جاتی ہے جب گورنمنٹ کی مشینری بے حس ہو جاتی ہے.....

مرزا ناصر احمد: گورنمنٹ مشینری.....؟

جناب یحییٰ بختیار: بے حس۔

مرزا ناصر احمد: بے حس۔

جناب یحییٰ بختیار: بے حس، *Paralysed* (مفلوج) اور مجبور ہو کر جو فاتح

ہے، حاکم ہے، اس کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ جیسے انگریز کو چھوڑنا پڑا *Ultimately*.....

مرزا ناصر احمد: جی۔

۵۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: *Quit India Movement* (ہند چھوڑ تحریک) اور مسلم لیگ موومنٹ ساری ایسی ہی ہیں۔ تو اس بارے میں میں پوچھتا ہوں کہ یہ ان کو حق ہے کہ نہیں کہ اس قسم کی جدوجہد کریں تاکہ اپنی آزادی حاصل کر سکیں؟ میں جہاد کے مسئلہ کی طرف نہیں جا رہا۔
مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، میں سمجھ گیا۔ یہ جو ہے *Constitutional struggle to regain one's independence constitutional struggle* (آزادی حاصل کرنے کے لئے آئینی کوشش) مختلف معانی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ جس وقت *When the Govt. is paralysed, there is no law to obey* لاء ہی نہیں رہتا۔

When anarchy takes the place of Legal Government, then the question of breaking the law does not arise; one must struggle for one's survival.

(جب حکومت مفلوج ہو جائے۔ ملک میں کوئی قانون نہ رہے اور قانونی حکومت کی بجائے افراتفری اور عذر کا عالم ہو تو ایسے حالات میں قانون شکنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے بچاؤ کے لئے ہر کوئی خود کوشش کرتا ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: I said deliberately a situation is created when the Government machinery gets paralyzed. I said, "deliberately."

(جناب یحییٰ بختیار: میں نے کہا کہ حکومتی مشینری جان بوجھ کر مفلوج کر دی جائے۔ میں نے کہا جان بوجھ کر)
مرزا ناصر احمد: نہیں، کون؟

Deliberation on whose part?

(جان بوجھ کر کس کی طرف سے)

Mr. Yahya Bakhtiar: On the part of those who struggle for independence; they deliberately create a situation that the Government machinery becomes paralyzed.

(جناب یحییٰ بختیار: ان کی طرف سے جو آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ حکومت مفلوج ہو جائے)

مرزانا صراحتاً: اگر وہ ان کی یہ پہلی ابتدائی جو کوشش ہے، وہ *Under the constitutional right in any sense?* (کسی بھی طوراً کینی حقوق کے تحت)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، *Constitution* (آئینی).....

مرزانا صراحتاً: یعنی ان کے اپنے خیال میں؟

جناب یحییٰ بختیار: نہیں،.....

مرزانا صراحتاً: اگر ان کے اپنے ذہنوں میں، ان کی *Struggle* (کوشش) پھر بھی *Constitutional* (آئینی) ہے، اور نتیجہ وہ نکلتا ہے، تو *I donot want to blame them* (میں انہیں قصور وار نہیں ٹھہرانا چاہتا)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا۔ میں یہی عرض کروں گا کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات *Clear* (صاف) ہے کہ *Constitutional* (آئینی جدوجہد) نہیں ہو سکتی۔ اب ہم کو قانون شکنی کرنی پڑے گی۔ اپنے آپ کو..... جیسا کہ وہ کہتے ہیں جی..... گرفتاریوں کے لئے پیش کریں گے..... میں اس کی بات کر رہا ہوں..... جو قانون *Deliberately* (جان بوجھ کر) توڑیں گے۔ خواہ چھوٹا قانون ہو۔ وہ کہتے ہیں ”جلسہ مت کرو۔“ وہ کہتے ہیں ”کریں گے۔“ دفعہ ۱۴۴ لگے گی تو اچھا۔ اس کو توڑیں گے۔ میں ان کی کہہ رہا ہوں جو *Deliberately* (جان بوجھ کر) اس طریقے سے کوشش کر کے، لوگوں کی *Attention draw* (توجہ دلا کر) کر کے، لوگوں کی *Unity* (اتفاق) بڑھا کر، جسے کہتے ہیں قربانی کرنا، بعض لوگ جیلوں میں گئے، بعض سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ جیلوں میں جائیں۔ بہر حال جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ہم پر..... جو ہم پر حکومت ٹھوسی گئی ہے۔ وہ ہماری حکومت نہیں ہے۔ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ اگر قانونی جدوجہد سے ہو تو بہتر، اگر نہ ہو سکے تو ہم غیر قانونی جدوجہد کریں گے اور اس گورنمنٹ کو *Paralyse* (مفلوج) کر کے، فیصل کر کے مجبور کریں گے کہ یا تو ہمیں سارا اقتدار دے یا چلی جائے، جیسا بھی ہو۔ تو میں اس *Situation* (حالت) کا کہہ رہا ہوں کہ کیا کوئی جس کو آپ مسلمان کہتے ہیں یا جو بھی انسان ہو جو اپنی غیرت سمجھتا ہے کہ ”بھئی! میں آزاد ہوں، *I do not want anybody to rule me politically, do not want anybody to give me orders.*“

۵۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.comwww.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.compopalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(میں کسی کو سیاسی طور پر اپنے اوپر حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیتا نہ ہی کسی کو میں اپنے اوپر حکم چلانے دوں گا)

اب آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ مارشل ایوب خان آئے۔ ہم میں سے ایک تھے، مسلمان تھے، پاکستانی تھے۔ انہوں نے ایک آئین دیا جس میں انہوں نے کہا کہ:

"I, Field-Marshal Mohammad Ayub Khan do hereby give you this constitution."

(میں فیلڈ مارشل ایوب خان آپ (عوام) کو آئین دیتا ہوں۔) اور سارا ملک چیخ پڑا

کہ ”اس کا کوئی برٹس نہیں۔ We should give ourselves a Constitution“

(عوام نے کہا ہم اپنے آپ کو خود آئین دیں گے)

ایک فرد نہیں دے سکتا۔ اب یہ تو اپنا فرد تھا۔ اب باہر سے، وائٹ ہاؤس سے آرڈر آتے رہے کہ آئین کا یہ Constitution (آئین) ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ غیرت نہیں گوارا کرتی تھی غیرت مند لوگوں کی، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں انہوں نے Struggle (کوشش) کی۔ انہوں نے قربانیاں دیں۔ اپنے نقطہ نظر سے، یہ سمجھ کر کہ اس گورنمنٹ کو ہم نے Paralyse (مفلوج) کرنا ہے۔ قانونی طریقے سے ہو گیا تو ٹھیک، قانونی طریقے سے نہ ہو تو غیر قانونی طریقے سے بھی ہم کریں گے۔ کیا یہ Struggle (کوشش) جو اس طریقے سے ہو، جو غیر قانونی طریقے سے ہو۔ اس کو آپ جائز سمجھ سکتے ہیں یا اس کو بغاوت سمجھتے ہیں؟

مرزا ناصر احمد: یہ کچھ انسان کی اپنی جو Thinking (سوچ) ہے نا، وہ جواب میں تو بہر حال آئے گی۔ میں نے جو اسٹڈی انگریزوں کی یہاں کی حکومت کے متعلق کی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جہاں بھی ہمیں، ان کی Vision (بیان) کے مطابق، قانون شکنی نظر آتی ہے۔ اس کی ابتداء خود قانون بنانے والے نے قانون توڑ کے کی تھی۔ تو جب حکومت خود اپنے قوانین توڑ دیتی ہے۔ تو جو دوسرا جدوجہد کر رہا ہوتا ہے اپنی آزادی کے لئے۔ اس کے اوپر یہ الزام نہیں رکھا جاسکتا کہ قانون تھا اور اس نے توڑا مثلاً میں مثال دیتا ہوں دفعہ ۱۴۴۔ دفعہ ۱۴۴ ایک مستقل سپریم پریولج Supreme privilege نہیں ہے ڈی۔ سی۔ کا۔ مثلاً ڈی۔ سی۔ جو ہے، وہ دفعہ ۱۴۴ جائز بھی لگا سکتا ہے اور ناجائز طور پر بھی لگا سکتا ہے۔ وہ ناجائز طور پر، جانتے بوجھتے ہوئے کہ مجھے نہیں لگانی چاہئے، اوپر سے حکم آ گیا، وہ لگا سکتا ہے۔ برٹش گورنمنٹ کا

۶۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

حکم آ گیا ہے یا یہ کہ وہ غلط فہمی میں ہے.....
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! یہ تو.....

(انگریز خود قانون شکن تھا، مرزا ناصر کا اعلان)

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، میں..... میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جس وقت..... یعنی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق اس ساری *Struggle* (کوشش) میں قانون شکنی کی پہلی ذمہ داری انگریز نے اپنے سر پر رکھی۔ اس واسطے ان کے مخالف جو جدوجہد ہو رہی تھی۔ خواہ وہ کانگریس کی تھی یا مسلم لیگ کی تھی یا مسلمانوں کے کسی اور گروہ کی تھی۔ میری یعنی جو میں نے سٹڈی کیا ہے۔ میں اپنی رائے بتا رہا ہوں آپ کو، میری رائے کے نزدیک انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والوں پر قانون شکنی کا الزام لگایا ہی نہیں جاسکتا۔ خواہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہو۔ کیونکہ قانون شکنی کرنے والے وہ خود تھے۔ جنہوں نے قانون بنایا تھا مثلاً جلیانوالہ باغ ہے۔ انگریز کی حکومت نے وہاں *Slaughter* (خون ریزی) کی ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ خود ان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اور اگر کوئی کہے کہ گولیاں چلیں اور تمہیں آرام سے بیٹھے رہنا چاہئے کیونکہ قانون شکنی نہیں جائز، تو یہ تو غلط ہے میرے نزدیک۔ جب انگریز نے قانون شکنی کر دی تو ان کے خلاف جدوجہد جائز ہے اور *Constitution* (آئینی) ہے میرے نزدیک۔
جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! آپ نے میرے لئے ایک دوسرا مشکل مسئلہ کھڑا کر دیا ہے.....

مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ..... وہ اس واسطے میں عرض کرتا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: جی۔

723 جناب یحییٰ بختیار:..... کہ ہم جو قانون پڑھتے ہیں، جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں۔ اس کے مطابق آپ کہتے ہیں انگریز نے قانون شکنی کی۔ انگریز کہتا ہے کہ اگر میں نے قانون شکنی کی تو اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے۔ وہ عدالت کرے گی۔ اگر آپ نے کی، اس کا بھی فیصلہ عدالت کرے گی۔ تو آپ کی سمجھ کے مطابق درست ہوگا یہ کہ دفعہ ۱۴۴ غلط لگائی گئی۔ مگر اس کے لئے عدالت جانا پڑتا ہے۔ وہاں *Revision* (تعمیراتی) اور اپیل ہے اس کے لئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ طریقہ ہم نے نہیں اختیار کیا۔ ہم نے کہا ”نہیں، ہم نہیں مانتے۔“ تو یہ میں بات کر رہا ہوں.....

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: کہ انہوں نے غلطی کی۔ یہ غیر قانونی جدوجہد تھی کہ ۱۴۴ کو Violate (توڑا) کیا۔ آرڈر غلط تھا۔ آپ کی بات سو فیصد درست ہے کہ ڈی سی نے ناجائز طور پر لگایا مگر ہائی کورٹ میں Revision (نگرانی) ہے اس کی۔
 مرزا ناصر احمد: جی، تو یہ..... آپ کا سوال ختم ہو جائے تو پھر مجھے بتادیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، یہ میں کہہ رہا ہوں وہ تو اور فیئلڈ میں چلا جاتا ہے۔
 مرزا ناصر احمد: انگریز کہتا ہے.....
 جناب یحییٰ بختیار: قانون کہتا ہے۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، انگریز، یعنی انگریزی حکومت۔ ہم نے وہ مثال لے لی ہے ناں ایک۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔
 مرزا ناصر احمد: انگریزی حکومت کہتی ہے کہ ”ہم نے قانون شکنی نہیں کی“.....
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔
 مرزا ناصر احمد: اور جو اس کے خلاف جدوجہد کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ: ”تم نے پہل کی قانون شکنی میں۔“ انگریزی حکومت کہتی ہے کہ ”تم ہمارا جو ہے کورٹ، عدلیہ جو ہے، اس کے پاس جاؤ۔“ اور وہ جو، جس پر وہ الزام لگاتے ہیں، غلط میرے نزدیک کہ تم قانون شکنی کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ”تمہارا ڈی سی تو قانون شکنی کرنے والا ہے، اس کے پاس ہم کیسے جائیں گے؟“
⁷²⁴ جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ہائی کورٹ میں Revision ہو سکتی ہے۔
 مرزا ناصر احمد: ساری ان کا وہ تو، ساری حکومت کا تانا بانا خراب ہو چکا تھا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو سب ٹھیک ہے۔ میں یہی، مرزا صاحب! عرض کر رہا ہوں کہ ناجائز قانون..... روز قانون بنتے ہیں، وہ بظاہر ٹھیک معلوم ہوتے ہیں۔ مگر ان کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ ورنہ یہ اختیار جو ہے اس پر بھی کسی زمانے میں بڑے فائدے تھے اور بڑے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا۔ ابھی بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی جلدی ہمارے فیصلے ہو جاتے ہیں بشرطیکہ ڈی۔ سی۔ ایماندار ہو، بشرطیکہ جڑ گہ ممبر ایماندار ہو۔ جب یہ شرطیں آ جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ ذرا مشکل ہی ہو جاتا ہے۔

تو بہر حال انگریز نے ایک سسٹم رکھا تھا کہ اگر میرا قانون غلط استعمال ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہوا۔ کسی جگہ غلط آرڈر پاس کیا ہو۔ ناجائز آرڈر پاس کیا ہے۔ قانون کے مطابق نہیں پاس کیا۔ تو عدالت سے فیصلہ کراؤ گے۔ تو خود قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لو گے۔ میں کہتا ہوں کہ جب لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انگریز نے تو بات ٹھیک کہی ہے۔ مگر آج دفعہ ۱۴۴ کا آرڈر ہوتا ہے کہ کل جلسہ نہیں ہوگا۔ میں کہاں ہائی کورٹ پہنچوں۔ کیسے آرڈر لوں؟ یہ مشکلات آتی رہتی ہیں تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم قانون شکنی اس طرح سے کرتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ جلسہ ضرور کریں گے۔ جلوس ضرور نکالیں گے۔

Technically speaking, Sir, they do violate law.

Mirza Nasir Ahmad: In the eyes of the foreign

rulere.

Mr. Yahya Bakhtiar: No, that is what I say

any.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، اگر ہماری بھی آنکھوں میں یہی ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ Foreign ruler جو

ہے اس کے خلاف جدوجہد ہے۔ اس نے قانون بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ”میرا قانون یہ ہے کہ اگر میں ایک غلط فیصلہ لیتا ہوں۔ آپ عدالت میں جا کر اس کو درست کرا دیجئے۔ اگر غلط ہے Set aside کرا دیجئے۔ مگر آپ اس کے خلاف قدم نہیں لیں گے۔“ میں کہتا ہوں کہ ”صاحب! آپ نے آرڈر دیا ہے کہ کل جو میرا جلسہ ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ دفعہ ۱۴۴ آپ نے لگا دی ہے۔ یہ ناجائز ہے۔“ کہتا ہے ”Revision کرو۔“ میں کہتا ہوں: ”Revision کروں گا، جناب! تو مجھے دو تین دن کی ضرورت ہے۔ یا اگر ۴ گھنٹے کی ضرورت ہو۔ ہائی کورٹ میں ایک دن میں پہنچ بھی جاؤں گا تو مجھے یہ سب انتظامات کینسل کرنے پڑیں گے۔“ تو وہ کہتا ہے ”جلسہ پھر دو دن کے بعد کر لو۔“ وہاں سے بھی Reasonable بات معلوم ہوتی ہے۔ یہاں سے بھی Reasonable بات معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ”ہم تو ہائی کورٹ نہیں جا سکتے، اس پر کافی دیر لگے گی۔ اس لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جلسہ ضرور کریں گے۔“ میں اس Situation کا کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ انگریز نے قانون شکنی کی۔ انگریز کے نقطہ نظر سے قانون کی نظر سے اس نے قانون شکنی نہیں کی۔ قانون شکنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ”جی ہم کر

۶۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو جیل جانے کے لئے Volunteer کر رہے ہیں۔ ہم جلسہ کریں گے۔ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ جہاں تک جلسہ جلوس کا تعلق ہے۔ میں ان کے فعل کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ Justify کریں گے یا نہیں؟

مرزا ناصر احمد: یہاں اب دو سوال میرے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ ایک میں نے یہ سوچا کہ کیا میرا ہنر مجبور ہو جائے گا کسی وقت کہ قانون شکنی، بظاہر قانون شکنی کئے بغیر میں اپنے سیاسی حقوق کو حاصل کر سکوں؟ تو میرے دماغ نے جواب دیا، نہیں۔ میرے دماغ نے جواب دیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ..... میں اپنی بات کر رہا ہوں.....
جناب یحییٰ بختیاری: ہاں جی۔

(انگریزوں کو سمندر میں دھکیلا جاسکتا ہے، مرزا ناصر)

مرزا ناصر احمد: یا اپنی جماعت کی..... وہ فراست دی ہے کہ ظاہری طور پر قانون شکنی کئے بغیر بھی، اس مثال میں، انگریزوں کو سمندر میں دھکیلا جاسکتا ہے۔ یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب ہے ان دوستوں کا جو یہ سمجھتے ہیں یقین، دیانت داری کے ساتھ، کہ انگریز نے قانون توڑ دیا اور وہ یقین رکھتے ہیں دیانت داری کے ساتھ کہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہاں سے اپنے حقوق کی حفاظت ہم حاصل کر سکیں۔ کیونکہ ان کی جو عدالت ہے۔ کورٹس ہیں، وہ بھی انہی کی ہیں اور اوپر کے حاکموں کے اشارے پر وہ چل رہے ہیں۔ جو حصہ ہمارے ملک کا..... اور اب ہم بات کر رہے ہیں مسلم لیگ کی..... یہ سمجھتا تھا اور دیانت داری کے ساتھ یہ سمجھتا تھا کہ انگریز قانون توڑ چکا ہے۔ ان کے اوپر میرے نزدیک دیانت داری سے یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ انہوں نے بغاوت کی۔

جناب یحییٰ بختیاری: اچھا جی۔ اس کے بعد پھر میں دوسرے صفحے پر جاؤں گا.....

مرزا ناصر احمد: یہ اگر پانچ منٹ رہ گئے ہیں.....

جناب یحییٰ بختیاری: نہیں، اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پانچ منٹ میں چونکہ ابھی میں نے جانا تھا۔ اس تہید کے ساتھ، ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی طرف، جس کو بعض لوگ انگریز کی طرح سے عذر کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لئے اس پر میرے خیال میں کچھ ٹائم لگے گا۔
مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹائم لگے گا۔

۶۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Mr. Chairman: The Delegation is permitted to withdraw; to report at 6:00 p.m. چھ بجے

(جناب چیئرمین: وفد کو شام چھ بجے تک جانے کی اجازت ہے)

The honourable members may keep sitting.

(معزز ممبران تشریف رکھیں)

(The Delegation left the Chamber)

(وفد چیئرمین سے باہر چلا گیا)

(جناب چیئرمین: یہ کتابیں ان کی پہنچادیں۔)

Hazrat Maulana Attaullah, a lawyer definitely needs five minutes of recess after he has finished his cross-examination; this is my feeling as a lawyer. So, for five minutes, allow Mr. Attorney- General to have a rest.

(حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب جرح ختم کرنے کے بعد یقیناً وکیل کو پانچ منٹ

کا وقفہ درکار ہوتا ہے۔ یہ میرا خیال بطور وکیل کے ہے۔ اس لئے انارنی جنرل صاحب کو پانچ منٹ آرام کے لئے دیئے جاتے ہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: I had to go to the Defence College from 8 o'clock.

(جناب یحییٰ بختیار: مجھے ایک تقریر کے سلسلے میں آٹھ بجے ڈیفنس کالج جانا تھا)

Mr. Chairman: Yes. So, this is my personal request to Hazrat Maulana Attaullah.

(جناب چیئرمین: جی ہاں! تو یہ میری ذاتی گزارش ہے۔ حضرت مولانا عطاء اللہ کو)

This is food for یہ کتابیں ان کو دے دیں ناں جی! یہ آپ کے لئے ہے۔

thought. Any then honourable members want to say

anything. (یہ غور کرنے کا مقام ہے کیا کوئی معزز رکن کچھ کہنا چاہتے ہیں)

میاں محمد عطاء اللہ: ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں.....

⁷²⁷ جناب چیئرمین: ہاں جی، فرمائیے۔

(میں مولانا نہیں، میاں عطاء اللہ)

میاں محمد عطاء اللہ: چیئر مین صاحب! کہ میں مولانا نہیں ہوں۔ نہ ہی مولانا کہلانے کا حق دار ہوں اور آپ سے پہلے ہمارے سپیکر صاحب تھے، ہمارے موجودہ صدر، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا۔ میں نے ان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کی تھی کہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مولانا کہلاؤں کیونکہ مولانا کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے اور میں اپنے آپ کو ایک حقیر انسان سمجھتا ہوں۔ اس واسطے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ مہربانی سے مجھے مولانا نہ کہا کریں۔ ایک بات دوسری میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اٹارنی جنرل صاحب کو ہم جا کے کچھ چیزیں وقتاً فوقتاً عرض کرتے رہتے ہیں.....

Mr. Chairman: Nothing wrong with it.

میاں محمد عطاء اللہ: تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم نہیں بتائیں گے۔ جناب چیئر مین: نہیں، نہیں، بالکل۔

میاں محمد عطاء اللہ: اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی فوری طور پر نشاندہی کرنی پڑتی ہے.....

جناب چیئر مین: لازمی، لازمی۔

میاں محمد عطاء اللہ: کیونکہ وہ اس وقت کے سوالات کے متعلق *Relevant* ہوتی ہیں۔

جناب چیئر مین: بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ سے *Agree* (اتفاق) کرتا ہوں۔ صرف یہ ہے کہ پانچ منٹ کے لئے ان کو کبھی کبھی *rest* (آرام)..... میاں محمد عطاء اللہ: اس میں کوئی بات نہیں۔

Mr. Chairman: Should I adjourn the House?

(جناب چیئر مین: کیا ایوان کا اجلاس ملتوی کر دیا جائے)

⁷²⁸ *The House Committee is adjourned to meet at 6:00*

p.m. Thank you very much.

(خصوصی کمیٹی کا اجلاس چھ بجے شام تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ)

۶۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

[The Special Committee adjourned for lunch break to meet a 6:00 p.m]

(خصوصی کمیٹی کا اجلاس کھانے کے وقفے کے لئے ملتوی کیا جاتا ہے۔ شام چھ بجے تک)

[The Special Committee re-assembled after the lunch break, Mr. Chairman (Sahibzada Farooq Ali) in the Chair.]

(خصوصی کمیٹی کا اجلاس کھانے کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ چیئرمین

(صاحبزادہ فاروق علی) کی صدارت میں)

Mr. Chairman: Mr. Attorney- General, should we call them? And what about the Maulana?

(جناب چیئرمین: جناب اٹارنی جنرل! کیا انہیں بلا لیں اور مولانا کے متعلق کیا

کہتے ہیں)

پہلے ان کو تو فیصلہ کر لینے دیں ناں جی!

Yes, Mian Attaullah, can we disengage you and call them?

Mian Mohammad Attaullah: Call them, Sir.

(میاں محمد عطاء اللہ: جناب والا! انہیں بلا لیں)

Mr. Chairman: Call them.

(جناب چیئرمین: انہیں بلا لیں)

(The Delegation entered the Chamber)

(وفد ہال میں داخل ہوا)

Mr. Chairman: Mr. Attorney- General.

(جناب چیئرمین: جناب اٹارنی جنرل)

جناب بیگی! تختیار: مرزا صاحب! میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟

مرزا ناصر احمد: جی۔

۶۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: کل مرزا صاحب! میں نے آپ کی توجہ چند حوالوں کی طرف دلائی تھی۔ ایک تو چند بزرگ تھے جن کے متعلق کچھ توہین آمیز جملے تھے.....

مرزا ناصر احمد: جی۔

729 جناب یحییٰ بختیار: تو آپ نے کہا Verify (تصدیق) کریں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ ان کا مطلب کیا تھا۔

مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: تو کیا آپ کچھ کہیں گے اب؟

مرزا ناصر احمد: جی۔ وہ جو حوالے جس میں سخت زبان استعمال کی گئی تھی۔ جس کی طرف آپ نے میری توجہ دلائی تھی۔ وہ تاریخ کا ایک ورق ہے جس پر تقریباً ستر سال؟ ستر سال گزر چکے ہیں اور تاریخی واقعات کی صحت اور..... صحت سمجھنے کے لئے وہ تاریخ کا ماحول سامنے لانا ضروری ہے، ورنہ اس کی سمجھ نہیں آسکتی۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ درست ہے۔ یہ جملے ہیں؟

مرزا ناصر احمد: یہ جملے ہیں، ہاں جی۔

جناب یحییٰ بختیار: اس کے بعد آپ بیشک.....

مرزا ناصر احمد: ہاں جی، یہ جملے ہیں۔ میں..... وہ جملے ہیں..... اس کے آگے

Explanation (وضاحت) دے رہا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔

(مرزا قادیانی کی گالیوں کی وضاحت)

مرزا ناصر احمد: تاریخی حالات سامنے جب ہم لاتے ہیں۔ اس زمانہ کے جب یہ الفاظ دوچار کئے گئے تو جو تاریخ کا ہے انتخاب۔ جو ہم باتیں ہیں، وہ سامنے لائی جاتی ہیں۔ میں نے اس لئے دو تین باتیں، جو میرے نزدیک اہم تھیں۔ ان کا انتخاب کیا۔ اس زمانہ میں ہماری تاریخ کے اس زمانہ میں علماء جو تھے ان میں باہمی سخت کلامی کا ایک طوفان تھا۔ اور یہ باہمی سخت

۱۔ چونکہ علماء میں سخت کلامی کا طوفان تھا۔ چنانچہ نبی، مسیح موعود، نے بھی اس گنگا میں نہانے کے لئے کپڑے اتار دیئے۔ کیا عمدہ دلیل دی جا رہی ہے؟ قادیانی حضرات اپنے رہنماؤں کی اداؤں پر توجہ فرمائیں۔

۶۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

کلامی جو ہے یہ میرے نزدیک ویسے تو کوئی سو سال، دو سو سال پہلے سے شروع ہے لیکن اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور اس میں سے میں نے دو ایک مثالیں لی ہیں۔ صرف اس اپنے نکتہ کو ثابت کرنے کے لئے باہمی سخت کلامی سے کام لیا جا رہا تھا۔

(ایک دوسرے کے خلاف تین فتوؤں کا ذکر)

ایک حوالہ ہے ”ردالرافضہ“ یہ ۱۹۰۲ء میں چھپا ہے اور اس میں: ”بالجملہ ان رافضیوں تمہاریوں کے باب میں حکم یقینی قطعی اجماعی یہ ہے وہ علی العموم کفار مرتدین ہیں۔ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے۔ ان کے ساتھ مناکحت نہ صرف حرام بلکہ خالص زنا ہے۔ معاذ اللہ مرد رافضی اور عورت مسلمان ہو تو یہ سخت تہر الہی ہے۔ اگر مرد سنی اور عورت ان خمیشوں میں کی ہو جب بھی ہرگز نکاح نہ ہوگا۔ محض زنا ہوگا۔ اولاد ولد لڑنا ہوگی۔ باپ کا ترک نہ پائے گی اگر چہ اولاد بھی سنی ہی ہو کہ شرعاً ولد لڑنا کا باپ کوئی نہیں۔ عورت نہ ترکہ کی مستحق ہوگی نہ مہر کی، کہ زانیہ کے لئے مہر نہیں۔ رافضی اپنے کسی قریبی حتیٰ کہ باپ بیٹے، ماں، بیٹی کا بھی ترکہ نہیں پاسکتا۔ سنی تو سنی، کسی مسلمان بلکہ کسی کافر کے بھی یہاں تک کہ خود اپنے ہم مذہب رافضی کے ترکہ میں اس کا اصلاً کچھ حق نہیں۔ ان کے مرد، عورت، عالم، جاہل کسی سے میل جول اسلام میں ایک کبیرہ اور اشد حرام گناہ ہے جو کہ ان کے ملعون عقیدوں پر آگاہ ہو کر بھی انہیں مسلمان جانیں یا ان کے کافر ہونے میں شک کریں۔ بہ اجماع تمام ائمہ دین کل کافر بے دین ہیں اور اس کے لئے بھی یہی سب احکام ہیں جو ان کے لئے مذکور ہوئے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کے فتویٰ کو بہ گوش ہوش سنیں اور اس پر عمل کر کے سچے پکے سنی بنیں۔“

دوسرا حوالہ..... یہ تین ہی حوالے ہیں..... یہ حوالہ ہے ”ردالرافضہ۔“ اور یہ کتاب چھپی ہے ۱۹۰۲ء میں۔ اس کو چھپے ہوئے کوئی اکہتر سال ہو گئے اور کتب خانہ حاجی مشتاق احمد اینڈ سنز اندرون بوہڑ گیٹ ملتان.....

جناب یحییٰ بختیار: مضمون کس کا ہے جی یہ؟

مرزا ناصر احمد: یہ وہاں کے علماء کا، یہ علماء کا فتویٰ شائع کیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ان میں نام ہیں کوئی؟ ایک دو پڑھ لیجئے، علماء کے جو نام ہیں۔

مرزا ناصر احمد: یہ بریلوی علماء کا ہے۔ یہ کتاب ہے ناں۔ اس میں سے یہ حوالہ لیا

ہے۔ یہ بریلوی علماء نے شیعوں کے اوپر یہ فتویٰ دیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ احمدیوں کے خلاف نہیں ہے یہ؟
مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، نہیں، شیعوں کے.....

(مرزا کی بدزبانی اور فرقوں کے باہمی فتوؤں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! دیکھیں، میرا سوال، آپ معاف کیجئے۔ ایک بالکل Simple (سادہ) ہے کہ مرزا صاحب نے..... میں نے تین بزرگوں کے نام لئے..... ان کے متعلق یہ الفاظ کہے اور آپ فتوؤں کا ذکر کر رہے ہیں کہ شیعوں نے شیعوں کے خلاف کیا دینے۔ شیعوں نے شیعوں کے خلاف کیا کیا۔ اس میں ان کا کیا جواز ہے کہ جو مرزا صاحب نے ان کے متعلق کہا ”خبیث، بدکار عورت کا لڑکا“ ان کے متعلق آپ کچھ فرمائیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تو آپ یہ کہہ چکے ہیں کافی، یہ کافی فتوے ایک دوسرے خلاف دیتے رہے ہیں اور کئی عرصے سے دیتے رہے ہیں۔ محض نامے میں آپ کے آچکا ہے۔

مرزا ناصر احمد: آپ کا مطلب یہ ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، تاکہ مختصر ہو۔ میں نہیں آپ کو روکتا، نہ روک سکتا ہوں، نہ مجھے اختیار ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ Proceedings اتنی لمبی ہو گئی ہے۔ آپ یہ بھی Strain اسمبلی پر بھی Strain اور اس لئے میں مؤدبانہ عرض کروں گا کہ اگر آپ اس کو اس چیز کے لئے Confine کریں۔ اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں مل گیا ہے۔ آپ نے پوری تفصیل سے بتایا ہے کہ کیا فتوے ہوئے اور کس نے کس کے خلاف دیئے اور کس قسم کے فتوے ہوئے اور بڑی سخت کلامی ہوئی ہے اس میں۔ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ ان تین بزرگوں کے خلاف جو الفاظ مرزا صاحب نے استعمال کئے۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ اس زمانے میں سخت کلامی فیشن تھی، اس لئے یہ زبان.....

مرزا ناصر احمد: میں، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس سے آگے میں یہ کہوں گا کہ اس فیشن میں بانی سلسلہ ملوث نہیں ہوئے۔ اگر ساری میری باتیں سن لیں؟

(ڈائریکٹ اس پوائنٹ پر آئیں کہ مرزا نے سخت کلامی کیوں کی؟)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ہاں تو یہ میں عرض کر رہا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ ڈائریکٹ اس پوائنٹ پر آ جائیں کہ ان کے متعلق کیوں انہوں نے کہا؟ اگر انہوں نے مرزا صاحب کے متعلق باتیں کہی ہیں تب تو آپ پہلے وہ پڑھ کے سنا دیجئے۔ پھر یہ کہیں کہ مرزا صاحب

۷۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

نے ان حالات میں یہ بات کہی یا نہیں کہی، یا یہ ان کا مطلب تھا جو.....
 مرزا ناصر احمد: جی، اگر میں یہ سمجھوں کہ اس پس منظر کو سامنے لائے ہوئے میں اس
 مختصر سوال کا مختصر جواب نہیں دے سکتا تو پھر میرے لئے کیا ہدایت ہے آپ کی؟
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، پھر آپ جیسے مرضی ہے کریں۔ میں نے عرض کیا تھا،
 Request (درخواست) کی تھی۔ (درخواست)

مرزا ناصر احمد: میں نے سینکڑوں فتاویٰ میں سے اسی لئے صرف دو تین لئے ہیں.....
 جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔

مرزا ناصر احمد: اور صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس زمانہ میں ایک فرقہ دوسرے
 فرقے کے خلاف بڑی سخت گوئی سے کام لے رہا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جس زمانہ کے متعلق
 سوال کیا گیا ہے اس زمانے کا پس منظر جب تک سامنے نہ ہو جو اب کی میرے نزدیک سمجھ آ سکتی۔
 اس کی خاطر میں نے صرف تین لئے ہیں، ورنہ تو کتنا میں بھری ہوئی ہیں ان سے۔

اب یہ خلاصہ فتویٰ علمائے دین شریفین، جو دوسرا حوالہ ہے، مندرجہ فتویٰ حریم بردف
 ندوة العلماء..... (اپنے وفد کے ایک رکن سے) یہ کیا لکھا ہے؟ (اثارنی جنرل سے) ندوة
 التبیین۔ ناشر مولوی امین عبدالرحیم احمد سلیمانی سیٹھ۔ مطبوعہ گلزار حسنی، واقع بمبئی۔ ۱۳۱۷ھ
 بمطابق ۱۹۰۰ء۔ یہ حریم شریف کا فتویٰ ہے، نمبر ۲۔ میں نے تین سے زیادہ نہیں لئے اسی لئے:
 ”وہ علی العموم کفار مرتدین ہیں۔ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ..... یہ تو میں پڑھ چکا ہوں..... یہ ہے: ”بد
 مذہب جتنے ہیں سب گمراہ ہیں، فتنہ پرداز ہیں، ظالم ہیں.....“

(کیا دوسروں کی بدزبانی مرزا قادیانی کی بدزبانی کو جواز فراہم کرتی ہے؟)
 مولانا غلام غوث ہزاروی: جناب صدر صاحب! ایک بات کہتا ہوں میں کہ یہ گواہ
 کو جناب ارشاد فرمائیں کہ نبی کی گالیاں..... مسیح موعود کی گالیوں کے مقابلے میں امتیوں کی اور
 دوسروں کی گالیاں کیوں پیش کرتے ہیں؟

Mr. Chairman: "This is a question. This can
 come only through the Attorney-General. Yes, the witness

۱۔ جب تک لوگوں کی گالیاں نہ سنا لوں مرزا صاحب کے گالیاں دینے کے فلسفہ پر کچھ
 کہنا ممکن نہیں۔ کیا عمدہ استدلال ہے؟ تف بر تو اے چرخ گردوں تف۔

۷۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

can reply, should continue what he was replying."

(مسٹر چیئرمین: یہ ایک سوال ہے جو کہ انٹرنی جنرل صاحب کے توسط سے پوچھا جا

سکتا ہے۔ گواہ جواب دے سکتا ہے۔ وہ (گواہ) اپنا بیان جاری رکھے)

مرزانا صراحتاً: بد مذہب جتنے ہیں، سب گمراہ ہیں۔ فتنہ پرداز ہیں، ظالم ہیں، ہالک ہیں۔ ان کی اہانت واجب، ان کی توقیر حرام، ان سے بغض رکھنے، انہیں اپنے سے دور رکھنے کا حکم ہے۔ وہ مفسد ہیں۔ انہوں نے دین کو پارہ پارہ کر دیا۔ ان سے میل جول حرام ہے۔ ان سے دوری واجب ہے۔ اہل سنت کے سوا سب کلمہ گواہل قبلہ گمراہ، فاسق، بدعتی، ناری ہیں۔ صحابہ کرام سے آج تک تمام امت مرحومہ کا اس پر اجماع ہے۔ مسلمانوں پر ان کا ضرر کافروں سے زائد ہے۔ ان کی بات لا علاج مرض ہے۔ ان کی نکر سے پہاڑ ٹل جاتے ہیں۔ وہ گمراہ گمراہ ہیں۔ شیطان نے جھوٹی طمع کاری کی دلیلیں انہیں سکھا دی ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنا جائز نہیں۔ احادیث کا ارشاد ہے ان سے دور بھاگو۔ انہیں اپنے سے دور کرو۔ کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دیں۔ کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈالیں۔ وہ بیمار پڑیں تو عیادت کو نہ جاؤ۔ میری توجنا زے پر نہ جاؤ۔ ملیں تو سلام نہ کرو۔ ان کے پاس نہ بیٹھو۔ ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ پانی نہ پیو۔ شادی بیاہ نہ کرو۔ ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو۔ ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ نبی ان سے بیزار ہیں۔ وہ نبی سے بے تعلق ہیں۔ وہ سب جہنمی ہیں۔ انہوں نے اسلام کی رسی اپنی گردنوں سے نکال دی ہے۔ ان سے بچو۔ جو ان سے بغض رکھ کر ان سے منہ پھیرے اس کا دل چین اور اطمینان سے بھر جائے۔ جو ان کی اہانت کرے اللہ تعالیٰ اس کے سو درجے جنت میں بلند فرمائے۔ نیچری، زندیق ہیں۔ دشمنان دین ہیں۔ وہ سب خبیث کافر مرتد ہیں۔ ان کی کلمہ گوئی اور نماز سے قبلہ محض بے سود اور ان کی تاویلیں سراسر مردود۔ جو ان کے کفر میں شک کرے خود کافر۔ رافضی دین سے خارج ہیں۔ نرے لٹہ۔ اسلام اور ملت سے باہر ہیں....."

یہ آگے صفحہ ۷۴ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اس کا اندازہ ہو گیا کہ کس نہج پر ہے۔

تیسرا فتویٰ ہے بریلویوں کے خلاف۔ یہ تو شیعوں کے خلاف تھا۔ میں نے بتایا نا

صرف تین نمونے لئے ہیں: "ہم محمدیوں کے نزدیک....." یہ بریلویوں کے خلاف فتویٰ ہے:

"ہم محمدیوں کے نزدیک تمام حنفی مذہب کے علماء اور درویش مثلاً خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ قطب الدین دہلوی، بابا فرید شکر گنج پاک پتن، نظام الدین بدایونی، مخدوم علی ہجویری صاحب "کشف الحجاب" خواجہ سلیمان تونسہ والا، غلام علی شاہ نقشبندی، بہاء الدین نقشبندی، ابوالحسن خراسانی اور تہارے پیران پیر عبدالقادر جیلانی، جنابلی اور جو حنفی و جنابلی و مالکی مذہب والے

۷۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

درویش تمام جہان کے اور ”شرح وقائع“ والا اور امام اعظم ابوحنیفہ اور اس کے شاگرد اور اس کے تقلید کرنے والے، خواہ درویش ہوں، خواہ عالم ہوں، سب جہنمی ہیں (جن کا نام لکھا ہوا ہے) اور مشرک ہیں اور مرتد ہیں اور چشتیہ اور قادریہ اور نقشبندیہ اور سہروردیہ و چہار پیروچودہ خان..... یہ کیا ہے؟ خانوادہ.....؟

خانوادہ، سب اسلام سے خارج ہیں اور واجب القتل ہیں۔ یہ لوگ کاہن ہیں اور اجہار اور رہبان میں سے ہیں اور حضرت عمرؓ نے جب بیس تراویح نکالی ہیں..... اور حضرت عمرؓ نے جو بیس تراویح نکالی ہیں..... بڑی بدعت کا بلکہ جہنمی راستہ نکالا۔ بڑی خطا انہوں نے کی۔ وہ معصوم نہ تھے۔ حالانکہ انبیاء بھی خطا سے خالی نہیں ہیں۔ مطلق معصوم نہ تھے۔ حضرت سے اجتہاد میں غلطی ہوئی اور روم اور شام کا بادشاہ بھی خفی ہے۔ پس کافر ہے۔ بموجب حدیث کے، کیونکہ تقلید درست نہیں ہے۔ کعبہ شریف میں..... کعبہ شریف میں..... اس قدر بدعت اور شرک ہے جس کا حد و حساب نہیں۔ اگر ہمارا بس چلے تو تمام روضہ اصحاب و انبیاء کو منہدم کر دیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک قبر پختہ نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ خریق رحمت کرے حضرت عبدالوہاب نجدی کو، ان کے فرزند حامی شریعت محمد کو، جس نے بہت شرک و بدعت و کفر مسلمانوں میں سے نکالا اور اس کو روم و شام کے بادشاہ جہنمی نے شہید کیا۔ لیکن بفضل خدا لاکھوں کروڑ موحد موجود ہیں اور آگے کفار میں غوث و قطب و ابدال وغیرہ موجود ہوتے تھے۔ بلکہ مجوسیوں اور نصرانیوں میں۔ اسی طرح تم نے غوث و قطب و ابدال اپنے بزرگوں مشرکوں کو چار خاندان میں چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، حنفیہ، مالکیہ، حنبلیہ، شافعیہ کو بنا دیا۔ تمہارے امام اعظم نے سات سوا حدیث جان کر چھوڑ دیں اور نہ لکھیں۔ پس وہ کافر ہے اور عبدالقادر جیلانی نے جھوٹے وہم سے حال بنایا۔ چنانچہ ابن جوزی نے ان کی تکفیر کی۔ ہمارے نزدیک بھی تکفیر ان کی اور مولوی رومی و جامی و سعدی و امیر خسرو و نظامی و بہاء الحق ملتانی کی جو حنفی المذہب تھے، درست ہے و جناب سردفتر محمد شین اولین و آخرین، یگانہ جہاں، جناب حامی شریعت و قاطع بدعت، مولوی اسماعیل شہید محمدی و جناب مولوی سید نذیر حسین صاحب محمدی و مولوی جناب فاضل اجل محمد حسین محمدی و محدث وغیرہ تمہارے حنفی یعنی امام ابوحنیفہ، شافعی، حنبلی، مالکی، عبدالقادر جیلانی حنبلی و بہاء الدین حنفی نقشبندی و شہاب الدین شافعی و معین الدین حنفی، چشتی، امگیری سے ایمان و اسلام، علم و عمل، شرافت میں کروڑوں درجہ افضل ہیں۔ بلکہ تمام چشتیہ و قادریہ و سہروردیہ و نقشبندیہ و حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی علماء و فقراء کو اسلام و ایمان حاصل نہیں۔ تمہارے ربانی مجدد الف ثانی و رشید الدین چشتی دہلوی اور جو لقب اس حنفی مذہب، چشتیہ

۷۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مشرّب وقادر یہ، سہروردیہ و نقشبندیہ کے ہیں، متقدم و متاخرین گزرے ہیں۔ لاجواب ہیں اور سلطان روم اور جہاں خانہ کعبہ مدینہ میں چار مصلیٰ ہیں۔ سب دوزخی اور بدعتی ہیں اور مرتد ہیں۔ مولوی اسماعیل شہید علم، عمل، ایمان و اسلام میں کروڑوں درجہ ابوحنیفہ بایزید بسطامی، عبدالقادر جیلانی سے افضل ہیں۔ جناب مولوی سید نذیر حسین صاحب، حافظ الحدیث، محدث جہاں، شافعی، حنبلی، مالکی، سب درویشوں، عالموں سے ایمان و عمل میں کئی درجہ افضل ہیں۔ جس نے نماز جناب استادی مولوی سید نذیر حسین کی دیکھی ہوگی بے شک وہ کہے گا کہ رسول اللہ و حضرت علی ایسے ہی پڑھتے تھے اور مولوی عبدالرحمن پانی پتی حنفی، مولوی احمد علی حنفی، مولوی یعقوب علی حنفی، مولوی قاسم، مولوی رشید احمد گنگوہی حنفی و شیخ عبدالحق، یہ سب بدعتی اور مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں پر نفرین کرتا ہے۔

محمد شاہ ملعون حنفی، منصور علی ملعون حنفی۔ لعن اللہ علی الکافرین۔ یہ نیچے ہے: ”الراقم، سید شریف حسین۔“ یہ سارا جس کا..... ”ہوا الہادی“ ۵ تا ۳۔ ”کلام سلیم بہ دفع بہتان عظیم“ مطبع انصاری۔ یہ بھی ۱۳۰۰ھ یعنی ۱۷۳۰ء سال پہلے کی بات ہے..... یہاں جی، یعنی ۹۴ سال پہلے کی ہے۔

(مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین کی تمام گالیوں کو جو اسے دی گئیں جمع کر دیا)

میں..... صرف یہ تین نمونے میں نے اس لئے کہ میں نے جواب اس سے شروع کیا کہ جس زمانہ میں وہ تین فقرے کہے گئے تھے۔ اس کا پس منظر ایک یہ تھا۔ ”کتاب الوجی“ ان کا..... اس زمانہ میں جو گالیاں بانی سلسلہ احمدیہ کو دی گئیں۔ اس کا ایک مختصر سا ایک نمونہ آپ نے خود اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ یہ (کتاب البریہ ص ۱۱۸، خزائن ج ۱۳ ص ۱۴۶ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی) ہے۔ ۱۸۹۸ء۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے کے ارد گرد وہ فتاویٰ چکر لگا رہے ہیں جن کو میں نے ابھی پڑھا۔ نمونہ صرف تین کا۔ اس میں آپ نے خود، آپ کے خلاف جو کہا گیا وہ لکھ دیا۔ بے تکلف، بغیر کسی ڈر کے۔

736 ”وہ فتویٰ جو ہماری تکفیر میں رسالہ ”اشاعت السنہ نمبر پانچ“ جلد ۱۳ میں شائع ہوا۔ اس کے راقم اور افتاء کے مجیب یہی شیخ الکل ہیں۔ راقم فتویٰ یعنی میاں صاحب اس فتویٰ میں ذیل کے الفاظ میری نسبت استعمال کرتے ہیں: ”اہل سنت سے خارج، اس کا عملی طریق محمدین باطنیہ وغیر اہل ضال کا طریق ہے۔ اس کے دعوے و اشاعت کا ذیبا اور اس طہرانہ طریق سے اس کو تیس دجالوں میں سے، جن کی خبر حدیث میں وارد ہے، ایک دجال کہہ سکتے ہیں۔ اس کے پیروہم

۷۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا اس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا اس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں اس قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مشرّب و ذریات دجال۔ خدا پر افتراء باندھنے والا۔ اس کی تاویلات الحاد و تحریف کذب و تدلیس سے کام لینے والا۔ دجال، بے علم، نا فہم، اہل بدعت و ضلالت۔“

پھر شیخ محمد حسین بٹالوی ”اشاعت السنہ“ یکم لغایت ششم، جلد شانزدہم، ۱۸۹۳ء میں مرزا قادیانی نے (کتاب البریہ ص ۱۱۹، خزائن ج ۱۳ ص ۱۳۷) پر لکھا: ”اسلام کا چھپا دشمن، مسیلمہ ثانی دجال زمانی، نجومی، رطلی، جوتھی، انکل باز، جعفری..... (یہ جعفری ہے؟) بھنگل، پھکڑ، اڑڑ پوپو، اس کا موت کو نشان ٹھہرانا حماقت و سفاہیت شیطان ہے۔ مکار، جھوٹا، فریبی، ملعون، گستاخ، شوخ، مثیل الدجال، اعور دجال، خدار، پرقندہ و مکار، کاذب، کذاب، ذلیل و خوار، مردود، بے ایمان، روسیہ، مثیل مسیلمہ واسود، رہبر ملاحظہ، عبدالدرابہم، والدنا نیر، تمغات لعنت کا مستحق، مورد ہزار لعنت، خدا و فرشتگان و مسلمانان، کذاب، غلام مفتری علی اللہ، جس کا الہام احتلام ہے۔ پکا کاذب، ملعون، کافر، فریبی، حیلہ ساز، اکذب، بے ایمان، بے حیا، دھوکہ باز، حیلہ باز، بھنگلی، بازاری شہدوں کا سرگروہ، دہریہ، جہاں کے احمقوں سے زیادہ احمق، جس کا خدا معلم الملکوت شیطان، محرف، یہودی، عیسائیوں کا بھائی، خسارت مآب، ڈاکو، خوریز، بے شرم، بے ایمان، مکار، طرار، جس کا مرشد شیطان علیہ لعنتہ، بازاری شہدوں، چوہڑوں، بہائم اور وحشیوں کی سیرت اختیار کرنے والا، مکر، چال، فریب کی چال والا، جس کی جماعت بد معاش، بد کردار، جھوٹ بولنے والی، زانی، شرابی، مال مردم خور، دعا باز، مسلمانوں کو دام میں لاکر ان کا مال لوٹ کر کھانے والا۔ ایسے سوال و جواب میں یہ کہنا حرام زادگی کی نشانی ہے۔ اس کے پیرو خران بے تمیز۔

یہ غزنویوں کی طرف سے فتویٰ جو شائع ہوا: ”وہ ان امور کا مدعی، رسول خدا کا مخالف ہے۔ ان لوگوں میں سے جن کے حق میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ آخر زمان میں دجال کذاب پیدا ہوں گے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم کو گمراہ نہ کریں اور بہکانہ دیں۔ اس قادیانی کے چوزے ہنود و نصاریٰ کے منگھٹ ہیں۔“

احمد بن عبد اللہ غزنوی، بہ صفحہ ۲۰۱: ”قادیانی کے حق میں میرا وہ قول ہے جو ابن تیمیہ کا قول ہے۔ جیسے تمام لوگوں سے بہتر انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ویسے تمام لوگوں سے بدتر وہ لوگ ہیں جو نبی نہ ہوں اور نبیوں سے مشابہ بن کر نبی ہونے کا دعویٰ کریں۔ یہ بدترین خلأق ہیں۔ تمام لوگوں سے ذلیل تر، آگ میں جھونکا جائے گا۔“

احمد بن عبد اللہ غزنوی صفحہ ۲۰۲: ”غلام احمد قادیانی کج راہ و پلید فاسد ہے اور راہ کھوتی گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا، چھپا مرتد، بلکہ وہ اپنے اس شیطان سے زیادہ گمراہ..... بلکہ

۷۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

وہ اپنے اس شیطان سے زیادہ گمراہ..... جو اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ شخص ایسا اعتقاد پر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور نہ یہ اسلامی قبرستان میں دفن ہو۔“

۱۳۱۳ھ میں عبدالحق غزنوی نے یہ لکھا: ”دجال، طحہ، کاذب، روسیاء، بدکار، شیطان، لعنتی، بے ایمان، ذلیل، خوار، خستہ، خراب، کافر، شقی سرمدی ہے۔ لعنت کا طوق اس کے گلے کا بار ہے۔ لعن و طعن کا جو ت اس کے سر پر پڑا۔ بے جاتا و ایل کرنے والا۔ مارے شرمندگی کے زہر کھا کر مر جاوے گا۔ بکو اس کرتا ہے۔ رسوا ذلیل شرمندہ ہوا۔ اللہ کی لعنت ہو۔ جھوٹے اشتہارات شائع کرنے والا۔ اس کی سب باتیں بکو اس ہیں۔“

پھر ۲۳ جولائی ۱۸۹۲ء میں یہ فتویٰ صادر ہوئے بانی سلسلہ احمدیہ کے متعلق: ”مرزا صاحب دھوکہ باز اور گمراہ کرنے والا۔ مرزا صاحب تارک جمعہ و جماعت، وعدہ خلاف، سیرت محمدی سے کوسوں دور۔ مرزا عیار، جھوٹا دعوے دار۔ مرزا صاحب چالاک اور بچہ باز۔ مرزا صاحب فضول خرچ، مسرف، حیلہ ساز۔“

اس کے بعد ۱۳۱۳ھ کا فتویٰ ہے، صفحہ ایک سے آٹھ تک۔ یہ ہیں ”کتاب البریہ ص ۱۲۲، خزائن ج ۱۳ ص ۱۵۰) پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ اصل وہی حوالہ ہے: ”قادیانی، رافضی..... بے پیر، دجال، یزید، اس کے مرید یزیدی، خانہ خراب، فتنہ گر، ظالم، تباہ کار، روسیاء، بے شرم، احمق، کاذب، خارجی، بھانڈ، یادہ گو، غبی، بد معاش، لالچی، جھوٹا، کافر۔ مفتری، طحہ، دجالی حمار، احمق، بکو اسی، بد تہذیب، مشرکانہ خیال کا آدمی۔ اس کا گواہوں منحوس ہے۔ اس کی دجالیاں اور مکاریاں اور رمالیاں اظہر من الشمس ہیں۔ اس کی کتابیں ایمان اور دین کا ازالہ کرنے والی ہیں۔“

پھر محمد رضا شیرازی کے حوالہ سے مرزا غلام احمد قادیانی نے (کتاب البریہ ص ۱۲۲، خزائن ج ۱۳، ص ۱۵۰) پر لکھا: ”مرزا کاذب ہے۔ مفتری، یادہ گو، تباہ کار، مکار، بنی، غوی، غبی، گمراہ، نادان، فضول، ڈھکوسلی، بے ہودہ سرانے، کاذب، جھوٹا، دروغ گو، بے شرم، تنگ خلاق، کاذب، بانی ملت مبتدعہ، تلبیس کرنے والا، داعی ملت بدعیہ، سرکش طبع، راندہ درگاہ ازلی، گم کردہ صراط مستقیم، سوئے فہم، بادہ پیمائی کرنے والا، چاہہ اثر خایاں چاہہ ضلالت میں ڈوبا ہوا، اور گمراہی کے تزویر میں پھنسا ہوا، عجب و تکبر میں گرفتار، مزخرفات موہومہ باطلہ کا کہنے والا۔ اس کی جماعت ضلالت و گمراہی میں ہے۔ اس کی مراسلت سراسر فضول و لچر ہے۔ اس کے دلائل سب و شتم و فحش

۷۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

سے بھرے ہوئے ہیں۔ مرزا مقہور شکستہ بال ہے۔ اس کی باتیں ہفوات و ہزلیات ہیں۔ وہ گمراہ نبی ہے۔ اس کی تحریرات میں خرافات ہیں۔ اس کے ذہن کے شرتحات گندیدہ ہیں۔ اس کا مدعا زور و وطنان ہے۔ شتم و تحش و بہتان لانے والا۔ افتراء کذب کے دلائل پیش کرنے والا۔ شاعت و فضیحت کے سوا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ کاذب دارلہواریں میں جائے گا۔ ظلمت، کفر، طغیان، ان کی وجہ سے دنیا میں ہے۔“

یہ پس منظر تھا جس میں اب ہم نے دیکھا ہے ان تین فقروں کو جن کی طرف مجھے توجہ دلائی گئی۔ پہلے ہم لیتے ہیں..... میں لے رہا ہوں سعد اللہ لدھیانوی۔ آپ نے اس کے متعلق شعر لکھا:

اذیتی خبثا فلسفت بصادق ان لم تمت بالخری یا ابن بغاء

(تتمہ حقیقت الوحی ص ۱۵، نثر: ان ج ۲۲ ص ۲۳۶)

739 اور ”انجام آتھم“ میں اس کے متعلق ۱۹۰۷ء میں الحکم میں ایک نوٹ ہے جس میں ابن بغاء کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے اور وہ ہے ”اے سرکش انسان۔“ ”یہ سرکش“ جو ”ابن بغاء“ کے معنی ہیں، ان کے متعلق میں آگے بھی کچھ کہوں گا لغت وغیرہ سے۔ اخبار ”اہل حدیث“ ۲۶ جولائی ۱۹۱۲ء..... وہ مولوی ثناء اللہ صاحب کا..... یہ مولوی ثناء اللہ صاحب بڑے مشہور مناظر ہیں۔ انہوں نے اپنے اخبار ”الجمہوریت“ ۲۶ جولائی ۱۹۱۲ء میں لکھا: ”یعنی کے معنی.....“

”الجمہوریت“ میں انہوں نے لکھا ”یعنی“ کے معنی اس کے نیچے کہ اس کے معنی کیا ہیں: ”حاکم وقت، بادشاہ وقت، سردار قبیلہ وغیرہ کی نافرمانی اور سرکشی۔“

”الجمہوریت“ میں یہی معنی ”سرکشی“ کے آئے۔ ”بغاء“ کے۔

آپ نے سعد اللہ کے متعلق ”تتمہ حقیقت الوحی“ میں لکھا، بانی احمدیہ نے: ”میں نے اس (سعد اللہ لدھیانوی..... اسی کا ذکر ہے یہاں) کی بدزبانی پر بہت صبر کیا اور اپنے تئیں روکا کیا۔ لیکن جب وہ حد سے گزر گیا اور اس کے اندرونی گند کا پل ٹوٹ گیا تب میں نے نیک نیتی سے اس کے حق میں وہ الفاظ استعمال کئے جو گل پر چسپاں تھے۔ اگرچہ وہ الفاظ جیسا کہ مذکورہ بالا الفاظ میں مندرج ہیں۔ بظاہر کسی قدر سخت ہیں، مگر دشنام دہی کے قسم میں سے نہیں۔ مگر واقعات کے مطابق ہیں اور عین ضرورت کے وقت لکھے گئے ہیں اور ہر ایک نبی حلیم تھا۔ (یہ آگے پہلے انبیاء کی مثال دی ہے) مگر ان سب کو واقعات کے متعلق..... (سارے انبیاء اور آنحضرت ﷺ ہمارے لئے اسوۂ حسنہ ہیں یہ اسوۂ حسنہ کی طرف اشارہ ہے۔) ان سب کو واقعات کے متعلق

۷۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

اپنے الفاظ اپنے دشمنوں کی نسبت استعمال کرنے پڑتے ہیں۔“

(تمتہ حقیقت الوہی ص ۲۰، ۲۱، ۲۲ ج ۲۲ ص ۲۵۲)

یہ جو واقعہ ہے سعد اللہ صاحب کا یہ علامہ اقبال صاحب کے کان میں بھی پڑا اور انہوں نے ایک نظم لکھی۔ اچھی خاصی لمبی ہے۔ یہ چار پانچ شعر میں نے اس میں سے لئے ہیں چار شعراور یہ نظم چھپی ہے مطبع الحق، دہلی میں ستمبر ۱۹۱۲ء میں۔ اس وقت علامہ اقبال ایف۔ اے میں پڑھ رہے تھے۔ ایف۔ اے کی کلاس میں تھے۔ کانوٹ مشن سکول سیالکوٹ میں۔ انہوں نے یہ مولوی سعدی کو مخاطب کر کے اسی واقعہ پر یہ لکھا:

”واہ سعدی دیکھ لی گندہ دہانی آپ کی خوب ہوگی مہتروں میں قدر دانی آپ کی
بجٹ سعدی آپ کی بیت الخلاء سے کم نہیں ہے پسند خاک رویاں شعر خوانی آپ کی
گوہر بے راہ جھڑے ہیں آپ کے منہ سے سبھی جان سے ننگ آگئی ہے بہترانی آپ کی
قوم عیسائی کے بھائی بن گئے پگڑی بدل واہ کیا اسلام پر ہے مہربانی آپ کی“
یہ علامہ اقبال کے شعر ۱۹۱۲ء میں یہ سعد اللہ لدھیانوی کے حق میں کہے گئے ہیں۔

دوسری مثال آپ نے دی تھی گولڑہ شریف والوں کی۔ وہ پس منظر میں نے بتا دیا ہے۔ وہ ہمارے اس وقت ذہن میں ہے۔ یہ گولڑہ والوں نے..... گولڑہ شریف والوں نے ایک اور..... بہر حال، ان کی طرف منسوب ایک نظم لکھی۔ ایک سیف چشتیائی میں ایک نظم لکھی.....
جناب یحییٰ بختیار: وہ تو ایک حوالہ ہے سیف چشتیائی کا، انہوں نے ایک نظم لکھی۔
مرزا ناصر احمد: انہوں نے ایک نظم لکھی جو سیف چشتیائی میں چھپی ہے۔ خود شاعر ہی ہے۔ وہی ایک ہی بات ہے۔ سیف چشتیائی۔ ان کی ایک کتاب ہے۔ ایک نظم انہوں نے اپنی اس کتاب، سیف چشتیائی میں نے، اپنی کتاب میں شائع کرائی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں:

۱۔ مرزا قادیانی ملعون کا اپنے گالیوں کے دفاع میں یہ کہنا کہ انبیاء علیہم السلام بھی درشت گوئی کے مرتکب ہوئے تھے۔ ملعون قادیانی نے اپنے دفاع میں دیگر انبیاء علیہم السلام کو گالیاں دینے والا ثابت کیا۔ (معاذ اللہ) ہے کوئی قادیانی شریف انسان جو مرزا قادیانی کے اس کفر پر ترف کہہ کر شرافت کا ثبوت دے۔

۲۔ قادیانی..... خدا تعالیٰ، آنحضرت ﷺ، قرآن و سنت پر افتراء کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ اگر علامہ اقبالؒ کے خلاف جھوٹ منسوب کر دیا ہو تو کیا بعید ہے۔

۷۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

”اللاے میرزا تا کیف تو حال این و آں بنی
دے چشم دلت وا کن کہ نور عین جاں بنی
به مکنذیب امامت تو نداز آسمان آمد“
741 شعر کی وجہ سے تو وہ نیچے زیر نہیں ہے۔

”بزودی پیش حق شاداں گروہ دشمنان بنی“
اب یہ اگلا شعر ہے۔ سننے والا۔ پہلے وہ میں نے اس لئے پڑھ دیا تھا کہ ”اللاے مرزا“
قید لگ جائے کہ حضرت مرزا صاحب کو انہوں نے مخاطب کیا ہے:
”زمین نفرت کنزاز تو فلک گرید براحوالت“
زمین تجھ سے نفرت کرتی ہے اور غصہ میں فلک کی، آسمان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔
”ملک لعنت کنناں نزد خدا برآ سماں بنی“
اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتے جو ہیں وہ تجھ پر لعنت کر رہے ہیں، ملعون کیا جاتا ہے۔ تو
اس کے مقابلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ لکھا:

اتانی کتاب من کذوب یزور کتاب خبیث کالعقارب یا بر فقلت.....
انہوں نے کہا: ”آسمان پر فرشتے تجھ پر لعنت کرتے ہیں۔“ جواب میں اتنا کہا: ”تم پر
آسمانی لعنت ہو۔“ بس

انہوں نے..... ان کے ایک شاگرد تھے مولوی عبدالاحد خان پوری، وہ گولڑہ شریف
والوں کے، جنہوں نے یہ نظم لکھی۔ ان کے ایک شاگرد تھے مولوی عبدالاحد خان پوری اور انہوں
نے ایک کتاب لکھی۔ یہ ان سے پھر گئے اور بے نقطہ گالیاں اپنے پہلے پیشوا اور ہادی کو دیں۔ میں
ان میں سے کوئی نہیں پڑھوں گا اقتباس۔ میں صرف یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں بہت سارے اقتباس
لکھ دیئے تھے۔ لیکن میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ وہ جانیں اور ان کے شاگرد جانیں۔

اور تیسرا حوالہ۔ یہ حوالہ ہے۔ ہاں، یہ ہاں، جناب رشید احمد صاحب گنگوہی کے متعلق بھی
چند الفاظ تھے جن کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ وہ نمبر ۳ ہیں۔ ان کے متعلق اس زمانے میں جو دوسروں نے
فتوے دیئے وہ میں ابھی پہلے پڑھ چکا ہوں اور میں بتا رہا تھا کہ اس زمانے میں پس منظر یہ تھا۔ انہوں
نے بانی سلسلہ پر ایک فتویٰ دیا جو ”اشاعت السنہ“ جلد ۳ ص ۱۵۶ پر شائع ہوا ہے۔

742 ”اشاعت السنہ“ جو مولوی محمد حسین بٹالوی کا پرچہ تھا..... اس میں ان کا ایک فتویٰ
شائع ہوا۔ جس شخص کے اعتقادات ایسے ہوں، جو سوال میں ہے کسی نے سوال پوچھا ”وہ اہل ہوا اور

۷۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

گمراہ ہے۔“ ابن مریم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو مسیح دجال کا مثل و نذر ہے۔ ان کو..... ان کے متعلق ”انجام آتھم“ میں جو آپ نے وہ آخری فقرہ پڑھا تھا: ”واخرهم شیطان الاعمی“..... ملعوین۔

انہوں نے کہا یہ دجال ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی لعنت..... ایک میں یہاں واضح کر دوں کہ ”ملعون“ اپنی طرف سے نہیں، ”ملعون“ کے اصل معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے۔ یہ بدعا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے سپرد کوئی کام کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے۔ وہ تو اگر غلط دعا ہے تو رد کر کے اس کے منہ پر مارتا ہے جو دعا کرنے والا ہے۔ تو ان کی بدعا کی ان کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اگر دعا یہ غلط ہے تو وہ منہ پر مار دی جائے گی۔ لیکن ان کا جو ہے۔ جناب رشید احمد گنگوہی، ان کے متعلق اس وقت کے لوگ جو سمجھتے تھے۔ وہ دیوبندی مذہب ہیں۔ ان کے خلاف جو فتوے ہیں۔ ایک میں پڑھ دیتا ہوں.....

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب کے اور نہیں پڑھ رہے آپ؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، نہیں، پڑھوں؟

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، مرزا صاحب کے اور کوئی نہیں ہیں ان کے متعلق؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، آپ نے تین ہی کی طرف توجہ دلائی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، میں نے یہی پوچھا ہے جی کہ فتوے آپ پڑھ چکے ہیں۔

میرے خیال میں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔ اچھا۔ پھر ایک..... تو ٹھیک ہے۔

ایک چیز میں واضح کر دوں۔ وہ نام آ گیا تھا۔ ”ذریۃ البغایہ“۔ ”ذریۃ البغایہ“ جو ہے۔ اس کے معنی عربی کے لینے میں ہم نے۔ عربی کا لفظ ہے ”ذریۃ البغایہ“۔ ”آئینہ کمالات اسلام“ میں ۱۸۹۴ء میں، آئینہ کمالات اسلام جو ۱۸۹۴ء میں شائع ہوئی۔ اس میں یہ لفظ ”ذریۃ البغایہ“ استعمال ہوا۔ اس کے ساتھ کوئی ترجمہ نہیں: ”الا ذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون“ اس میں صرف یہ ہے کہ ”ذریۃ البغایا“ وہ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے ختم کر

۱۔ مرزا قادیانی کا دفاع کرنا جھوٹ کو بیچ، سیاہ کو سفید، اندھیرے کو روشنی، کفر کو اسلام ثابت کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ دیکھئے! یہاں مرزا ناصر کو اپنے دادا مرزا قادیانی کے متعلق یہ کہنا پڑا: ”اگر دعا یہ غلط ہے تو وہ منہ پر مار دی جائے گی۔“ پیر مہر علی شاہ تو یقیناً لعنت کے مستحق نہیں۔ یقیناً مرزا کی لعنت، مرزا کے گلے کا ہار ہے۔

۸۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

دئے، ان کے اوپر مہر لگادی۔ ”نبی“ کے معنی ”ذریۃ البغایا“ جو ہے..... ”نبی“ کے معنی ہر لغت میں ”نا فرمانی“ اور ”سرکشی“ لکھے ہیں۔ اخبار ”المحدیث“ میں درج ہے کہ ”ذنی“ کے معنی ”حاکم وقت“..... وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ وہ یہاں آ گیا ہے..... اور ”سرکش انسان“ کے ہیں۔

”الغزول کافی موسومہ بہ کافی کلیمی“ حصہ دوم، ”کتاب الروضہ“ مطبوعہ نول کشور پریس، لکھنؤ، میں امام محمد باقر فرماتے ہیں۔ یہ امام باقر کا ہے قول وہاں: ”ثم قال یا ابا حمزہ ان الناس کلہم اولاد اللبغایہ ما خلا حیتنا“ تو یہاں بھی ”سرکش“ کے معنی لئے گئے ہیں:

”کیونکہ ہمارے سوا سارے سرکش ہیں۔“

اخبار ”مجاہد“.....

جناب نیچی بختیار: یہ کس کا اخبار ہے؟

مرزا ناصر احمد: یہ مجلس احرار کا ایک اخبار تھا، مجلس احرار کا۔ اس کا نام ہے اخبار ”مجاہد“ ۱۴ مارچ ۱۹۳۶ء میں اس کے اندر یہ ہے فقرہ: ”ولد البغایہ، ابن الحرام اور ولد لحرाम، ابن الحلال اور بنت الحلال وغیرہ“

سب عرب کا اور ساری دنیا کا محاورہ ہے۔ جو شخص نیکی کو ترک کر کے بدکاری کی طرف جاتا ہے، اس کو، باوجودیکہ اس کا حسب و نسب درست ہو، (یعنی حرامی نہیں اس کے معنی) باوجود اس کے کہ اس کا حسب و نسب درست ہو، صرف اعمال کی وجہ سے ابن الحرام، ولد الحرام کہتے ہیں۔ اس کے خلاف جو نیکو کار ہوتے ہیں ان کو ابن الحلال کہتے ہیں۔ اندر میں حالات امام کا اپنے مخالفین کو ”اولاد بغایا“ کہنا بجا اور درست ہے۔ پس جو ترجمہ ”ذریۃ البغایا“ کا ”کنجریوں کی اولاد“ کہ کیا گیا ہے۔ از روئے لعنت، از روئے استعمال اور از روئے تشریح بانی جماعت احمدیہ غلط اور محض اشتعال دلانے کے لئے ہے۔“

علاوہ ازیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”من احب ان کان نطفۃ العبدو من البغتن کان نطفۃ الشیطان“ یہ وہی محاورہ ہے کہ ”سرکشی کرتا ہے۔“ ہاں، حق کو قبول نہیں کر رہا۔ یہ ”الغزول کافی“ میں ہے۔ ”کتاب النکاح“ مطبوعہ نول کشور۔ یعنی جو شخص ہم سے محبت رکھتا ہے وہ بندے کا نطفہ ہے۔ مگر وہ جو مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ وہ نطفہ شیطان ہے۔

یہ الفاظ مختلف فرقہ ہے مسلمانوں کے بارے میں استعمال کئے گئے ہیں اور کسی جگہ بھی اس کے معنی ”ولد الحرام“ کے نہیں لئے گئے ہیں۔ یعنی ناجائز اولاد کے نہیں لئے گئے ہیں۔ بلکہ سرکش اور نیکی کو چھوڑنے والے کے لئے گئے ہیں۔ تو جو معنی لغت نہیں کرتی جو معنی ہمارے آئمہ

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

نہیں کرتے۔ جو معنی ہمارا لٹریچر نہیں کرتا۔ وہ معنی خود بخود کر کے اعتراض کر دینا میرے نزدیک یہ درست نہیں۔

Mr. Chairman: Break for Maghrib.

(مسٹر چیئرمین: مغرب کے لئے وقفہ)

مرزا ناصر احمد: میں، وہ جو حوالے ہیں نا دوسرے.....

Mr. Chairman: The Delegation is permitted to leave(to Attorney-General).....

Mr. Yahya Bakhtiar: Conclude this.

جناب چیئرمین: اچھا۔ یہ کتنی دیر اور لگے گی؟ مغرب Prayer (نماز) کا ٹائم

ہو گیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ، یہ Conclude ہو گیا نا جی؟

مرزا ناصر احمد: یہ تو..... ہاں، میں بس کرتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ اور حوالے ہیں۔

میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ واضح، میرے خیال میں واضح ہو گئی ہے بات۔

جناب یحییٰ بختیار: اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں.....

⁷⁴⁵*Mr. Chairman: The Delegation to report back*

at 8:00 p.m. (جناب چیئرمین: اب آٹھ بجے شام دوبارہ)

Mr. Chairman: The honourable members may keep sitting.

آٹھ بجے جی، آٹھ بجے پورے۔

مرزا ناصر احمد: اچھی بات جی۔

(The Delegation left the Chamber.)

Mr. Chairman: The Assembly is adjourned for Maghrib prayers to meet at 8:00 p.m.

(The special committee adjourned for Maghrib prayers to meet at 8:00 p.m.)

[The special Committee re-assembled after Maghrib Prayers, Mr. Chairman (Sahibzada Farooq Ali) in the Chair.]

Mr. Chairman: Should we call them?

Mr. Yahya Bakhtiar: Yes.

Mr. Chairman: They may be called.

(The Delegation entered the Chamber.)

Mr. Chairman: Mr. Attorney General.

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! آپ نے جو علامہ اقبال کی نظم پڑھی.....
مرزانا صراحتاً: جی۔

(مرزانا صراحتاً علامہ اقبال کے متعلق جھوٹ پکڑا گیا)

جناب یحییٰ بختیار: وہ میں کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ کون سا اخبار ہے؟

مرزانا صراحتاً: جی۔ نہیں، وہ..... اس کا تو حوالہ ہے میرے پاس۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ حوالہ دکھا دیجئے پھر، اخبار کا یا کس کا؟ چھپی تھی؟

مرزانا صراحتاً: نہیں، وہ میں نے حوالہ پڑھا تھا۔ پھر پڑھ دیتا ہوں۔

746 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مجھے یعنی.....

مرزانا صراحتاً: ہاں جی، بس ٹھیک ہے۔ میں دے دیتا ہوں وہ آپ کو۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔ یہ مرزا صاحب؟ جو آپ نے یہاں نوٹ کیا ہے۔ اس پر یہ

لکھا ہوا ہے کہ ”شیخ محمد اقبال، ایف۔ اے کلا، سکالج مشن اسکول، سیالکوٹ۔“ یہ تو نام ہے نظم لکھنے

والے کا۔ ”آئینہ حق نما“ مصنف شیخ یعقوب علی عرفان، صفحہ ۱۰۷، ۱۰۸، مطبع الحق، دہلی۔ مطبوعہ

ستمبر ۱۹۱۲ء، یہ نظم ۱۹۱۲ء میں لکھی گئی تھی یا پہلی دفعہ ۱۹۱۲ء میں شائع ہوئی؟ کچھ آپ کو علم ہے اس کا؟

مرزانا صراحتاً: اس سے متعلق تو میں نے کوئی تحقیق نہیں کی۔

جناب یحییٰ بختیار: کیونکہ بات یہ ہو جاتی ہے ناں جی کہ اگر یہ شخص جس نے نظم لکھی

ہے اور جیسے آپ نے کہا ہے، علامہ اقبال کی نظم سعد اللہ لدھیانوی کے متعلق، اور آپ نے فرمایا

کہ ۱۹۱۲ء کی نظم ہے اور وہ ایف۔ اے کلاس میں پڑھتے تھے۔ تو اس وقت ان کی عمر ۳۵ سال بن

جاتی ہے جو ہمارے کیلنڈر اور علامہ کی جو *Date of birth* ہے، اس کے مطابق جو *Latest*

۱۔ یعقوب عرفانی! خود قادیانی تھا۔ ایک قادیانی کی بات لے کر دشنام دہی پر مبنی نظم کو

مرزانا صراحتاً علامہ اقبال کی طرف منسوب کر دیا۔

۸۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

view ہے وہ یہ ہے کہ ۱۸۷۷ء میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ پہلا View یہ تھا کہ ۱۸۷۳ء میں۔ تو ایک لحاظ سے ۳۵ سال عمر بن جاتی ہے، ایک لحاظ سے۔ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں ۳۸ سال عمر بن جاتی ہے۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، یہ جو ہے، اسی واسطے غالباً لکھا گیا ہے کہ ۱۹۱۲ء میں شائع ہوئی اور یہ نوٹ لکھنے کی ضرورت اس لئے پڑی کہ ۱۹۱۲ء میں تو ان کی عمر زیادہ تھی۔ تو اسی واسطے کتاب لکھنے والے نے یہ نوٹ لکھ دیا کہ یہ نظم اس وقت لکھی گئی جس وقت اپنے ایف۔ اے میں پڑھ رہے تھے۔ جناب یحییٰ بختیار: ہاں، تو یہ آپ نے کہا کہ یہ ۱۹۱۲ء میں جب وہ ایف۔ اے میں پڑھتے تھے۔ تو اسی واسطے مجھے *impression* ہوا کہ شاید کوئی اور شخص ہے۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، ۱۹۱۲ء میں وہ ایف۔ اے میں نہیں پڑھتے تھے۔ کتاب چھپی، جس میں یہ نظم چھپی ہے۔ وہ کتاب چھپی ہے ۱۹۱۲ء میں۔ اور کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی جس وقت وہ ایف۔ اے میں پڑھ رہے تھے۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی ۱۹۱۲ء میں ان کو علامہ کے نام سے خطاب کیا تھا انہوں نے؟
747 مرزا ناصر احمد: نہیں، جو یہاں لکھا ہوا ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو اوپر تو آپ نے لکھا ہوا ہے نا، یہ پتہ نہیں چلتا۔
مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، وہ تو میرا لکھا ہوا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: اس میں تو لکھا ہوا ہے ”شیخ محمد اقبال“۔
مرزا ناصر احمد: ہاں ”شیخ محمد اقبال“ یہی لکھا ہوا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، تو ”شیخ محمد اقبال“ ایک اتنا *Common* نام ہے۔
میں اسی واسطے سوچ رہا تھا.....

مرزا ناصر احمد: میں یہ کہتا ہوں کہ ہزار ہا آدمی ”شیخ محمد اقبال“ کا نام رکھتے ہیں۔ لیکن جس وقت شیخ محمد اقبال، جو ایف۔ اے میں پڑھ رہے تھے اور اس تعلیمی ادارے میں علم حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے سعد اللہ کے متعلق.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اگر آپ *Definite* ہیں کہ یہ علامہ اقبال ہیں تو میں یہ نہیں پوچھتا سوال۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں *Definite* ہوں۔

۸۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: ہاں میں یہی پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ وہ ایف۔ اے آپ نے کہا
۱۹۱۲ء کا تو صحیح ہوا۔

مرزا ناصر احمد: ہاں جی، میں نے ”علامہ اقبال“ بعد میں کہا۔

(باہمی فتوؤں کی پوزیشن)

جناب یحییٰ بختیار: اب مرزا صاحب! میں کچھ عرض کروں گا۔ بیشتر اس کے کہ آپ
ایک بات کا جواب دیں۔ آپ مہربانی کر کے میری عرض سن لیجئے۔ جو آپ نے ابھی..... اس کے
بعد پھر آپ جو فرمائیں گے۔

پہلا تو میں یہ عرض کرنا ہے کہ جو آپ نے فتاویٰ پڑھے۔ وہ ایک دوسرے کو مختلف
طبقے، فرقے کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ وہ کافر ہیں۔ اب یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے یا سمجھ
کی بات ہے کہ اگر ہم کہیں کہ فلا نا آدی کافر ہے۔ وہ کافر جو ہم کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ سے باہر
ہے، یا وہ کافر سمجھیں جیسے ہندو ہے۔ اگر ایک ہندو سے مسلمان شادی کرتا ہے، تو اس کی جواد لاد ہو
گی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام کی اولاد ہے۔ یہ شادی نہیں یہ زنا ہے۔ اس قسم کے فتوے انہوں نے
ایک دوسرے کو کافر بنا کے دیئے ہیں۔ یہ ایک ان کا *Description* ہے جو کہ *Legal*
description ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک ناجائز شادی ہو، جو شادی نہ ہو قانون کے مطابق، تو
اولاد جو ہے وہ حرام ہوگی اور ان کی وراثت میں کوئی حق نہیں ملے گا۔ یہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے
اس قسم کے فتوے دے رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ گالیوں اور توہین کی بات نہیں ہوتی۔
Describe کرتے ہیں کہ

*What are going to be the consequences, as a result of
this sort of marriage.* (اس قسم کی شادی کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں)

اور یہ وہ اس لئے میں یہ سمجھوں گا کہ قطع نظر اس سے کہ بیک گراؤ نڈ کیا ہے۔ جو آپ
بتا رہے ہیں کہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ اس کی کوئی *Relevancy* نہیں ہے۔

مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: باقی میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ غزنویوں کی طرف سے جو چیز
ہوئی مرزا صاحب پر، اس کا بھی کوئی *Relevance* نہیں ہے کیونکہ کسی غزنوی کا میں نے آپ
کو حوالہ نہیں پڑھ کے سنایا کہ انہوں نے متعلق مرزا صاحب نے کیوں یہ بات کہی یا کہی یا نہیں کہی۔

صرف تین شخصیتیں جو تھیں، ان کا تھا۔ آپ نے جواب ضرور دیا اور Explain آپ نے کیا ہے۔ میں ذرا پھر آپ کی توجہ ان حوالوں کی طرف دلاؤں گا۔

آپ نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑہ کے متعلق کہا کہ انہوں نے مرزا صاحب کے متعلق کوئی بات کہی اور انہوں نے ان کو ”ملعون“ کہا اور ملعون کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سپرد کر کے، اللہ ہی اس پر لعنت بھیجے گا۔ پھر آپ نے رشید احمد گنگوہی صاحب کے متعلق کہا کہ انہوں نے مرزا صاحب کی شان میں کچھ ایسے فقرے کہے کہ جس کے جواب میں..... کہ انہوں نے ”ابن مریم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، دجال ہے۔“ یہ ہے۔ اس کے جواب میں مرزا صاحب نے کہا کہ ”اندھا، شیطان، دیو، گمراہ۔“ اب میں صرف آپ سے عرض..... ”ملعون، سفیہ، ملعون، من المفسدین“ وغیرہ لکھان کے متعلق.....

مرزا ناصر احمد: یہ جو آپ نے کل دو شعر پڑھے تھے..... اچھا جی، اچھا..... رشید گنگوہی کے بارے میں.....

749 جناب یحییٰ بختیار: رشید.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں..... اچھا، ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: تو میں نے کہا کہ اس کے متعلق یہ الفاظ ہیں تاکہ آپ کو پھر یاد آ جائیں۔ شاید آپ نے نوٹ نہ کئے ہوں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں مل جاتا ہے۔ یہ میرے سامنے ہے۔ جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ”اندھا شیطان، دیو، گمراہ، سفیہ، ملعون، من المفسدین“ تو یہ میں صرف اس واسطے آپ سے..... ابھی تک تو میں اپنا سوال تو پورا نہیں کر سکا ہوں۔ میں صرف بیان کر رہا ہوں کہ ”اندھا شیطان، دیو“ یہ الفاظ ”گمراہ“ یہ جو ہیں۔ یہ سارے عربی کے معانی میں استعمال ہوتے ہیں یا اردو کے معنی ہیں؟ کیونکہ یہ سارے الفاظ جو میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے اردو میں ہیں۔ بعض مرزا صاحب عربی میں باتیں کی ہیں جن کا ترجمہ ہوا ہے۔

مرزا ناصر احمد: ویسے یہ سارے جو ہیں وہ عربی میں ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔ تو اسی واسطے میں کہتا ہوں..... پھر آگے مولوی سعد اللہ کا نام لے کر مرزا صاحب نے کہا ہے..... جن کے متعلق آپ نے نظم سنائی جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کی ہے..... ان کے بارے میں مرزا صاحب نے نام لے کر کہا ہے ”مکار عورت کا بیٹا“.....

مرزا ناصر احمد: نہیں کہا۔
 جناب یحییٰ بختیار: یہ نہیں؟ میں اسی واسطے آپ سے وہ کر رہا ہوں۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، نہیں کہا۔ میں.....
 جناب یحییٰ بختیار: یعنی یہ لفظ نہیں ہے وہاں؟
 مرزا ناصر احمد: نہیں، بالکل نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: کیا لفظ استعمال کئے گئے ہیں؟
 مرزا ناصر احمد: ”سرکش.....“
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں،.....
 مرزا ناصر احمد: ⁷⁵⁰ ”..... ابن بغایا۔“
 جناب یحییٰ بختیار: یا ”ابن بنی“، ”اگر تو اے نسل بدکاران.....“ (انجام آتھم ص ۲۸۲،
 نوائن ج ۱ ص ۲۸۲) یہاں ایسا ترجمہ آپ کی کتاب میں ہے۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، کتاب میں ہے۔ لیکن یہ بانی سلسلہ کا نہیں ہے ترجمہ۔
 جناب یحییٰ بختیار: آپ کی جماعت سے جو کتاب پبلش ہوئی ہے.....
 مرزا ناصر احمد: معلوم ہوتا ہے ترجمہ کرنے والے کو اس وقت عربی کے معانی نہیں
 آتے تھے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یعنی آپ کی یا ”انجام آتھم“ کی جو کتاب پبلش ہوئی،
 آپ کی ہی طرف سے شائع ہوئی ہے.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار:..... اور کئی سال سے چلتی آرہی ہے۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، میں تو تسلیم کرتا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں اسی واسطے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کتاب غلط ہے۔ آپ
 کی نہیں، تو اس واسطے.....

۱۔ مرزا ناصر فرما رہے کہ ایک صدی سے مرزا کی کتاب جو قادیانی جماعت چھاپ
 رہی ہے، اس کا ترجمہ غلط ہے۔ ایک جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کتنے مرزا ناصر جھوٹ
 بول رہا ہے؟

۸۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، نہیں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری کتاب ہے اور ترجمہ بھی ہمارا ہی ہے۔ لیکن وہ غلط ترجمہ ہے ”ابن نعنی“ کا۔

جناب یحییٰ بختیار: ”بغنی“ کا باقی جگہ بھی جو ترجمہ ہوا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا، یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ ”تفسیر کبیر سورہ مریم آیت نمبر ۲۹ ج ۵ ص ۱۹۲ اپریل ۱۹۸۶ء جدید ایڈیشن“ اس میں بھی یہ ”بغنی“ کا کہ ”اور ماں بھی بدکار نہیں تھی۔“ پھر آگے یہ ہے صفحہ ۱۶۸۔ پھر ایک جگہ آتا ہے: ”اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔“ وہ ”بغنی“ ”اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔“ یہ بھی آپ دیکھ لیں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، وہ تو دیکھ لیا۔ اصل میں عربی کے ہیں یہ الفاظ اور اس میں کوئی دقت نہیں۔ یہاں جو زیر بحث ہے وہ ”بغنی“ نہیں ہے.....
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مطلب ہے.....
مرزا ناصر احمد: میری بات سنیں..... ”ابن نعنی“ ہے اور ”ابن نعنی“ کے معنی جو ہیں وہ ”سرکش“ کے ہیں۔

751 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! میں نے ابھی تک سوال پورا نہیں کیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک جگہ ”ابن نعنی“ کے بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ”بدکار عورت“ کے ”بدکار“ اور پھر دوسری جگہ صرف ”بغنی“ کے، ”بدکار“۔ میں اس واسطے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔
مرزا ناصر احمد: ”بغنی“ کے معنی ”بدکار“ عربی لفظ میں کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کسی سے یہاں پوچھ لیں۔ وہ آپ کو بتا دے گا کہ ”بغنی“ جو ہے وہ فعل ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ آپ دیکھ لیجئے۔ کہیں تو ”میں کبھی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی۔“.....
مرزا ناصر احمد: وہاں ”بغنی“ ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: خیر، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس پر پھر آپ بعد میں.....
مرزا ناصر احمد: نہیں، وہاں یہ لفظ ہی نہیں۔ وہاں لفظ ہی دوسرا ہے۔ (اپنے وفد کے ایک رکن سے) قرآن کریم نکالو جی۔ یہ لو۔ نکالو۔ ادھر لائیں جی میرے پاس۔
جناب یحییٰ بختیار: مفتی صاحب! آپ سے توجہ ایک منٹ کے لئے دلائیں گے کیونکہ.....

۱۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت ہذا کا تفسیر صغیر ص ۳۸۳ پر ترجمہ مرزا محمود ”تیری ماں بدکار نہ تھی“ کیا ہے۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مولوی مفتی محمود: قرآن کریم میں ہے: ”ولانکرہوا فتیاتکم علی البغاء“ (سورہ نور: ۳۳) یہاں ”بغی“ کے معنی کیا ہیں؟

(مرزا ناصر کا نیا پینترا)

مرزا ناصر احمد: عربی لغت اپنے الفاظ کو متعدد معانی میں استعمال کرتی ہے۔ مثلاً ”زکوٰۃ“ کے تیرہ، چودہ معانی ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہاں جو ہے وہ.....

جناب چیئر مین: ہاں، اس کے معنی کیا ہیں جو مفتی صاحب نے سوال کیا ہے؟

مرزا ناصر احمد: مجھے بات ختم کر لینے دیں۔ ہاں ”ابن بغی“ جب اس Context میں استعمال ہو تو اس کے معنی ”حرام زادہ“ کے ہیں ہی نہیں۔ اس کے معنی ہیں ”ہدایت سے دور“ اور ”سرکش“۔

جناب یحییٰ بختیار: اور اگر یہ لفظ.....

مولوی مفتی محمود: میں نے تو صرف قرآن کریم کی آیت کے بارے میں پوچھا ہے کہ قرآن کریم.....

⁷⁵² Mr. Chairman: Ask the translation.

مولوی مفتی محمود: کہ قرآن کریم میں جو ”بغی“ کا لفظ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
مرزا ناصر احمد: قرآن کریم نے ”ابن بغی“ کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا، محاورہ ”ابن بغی“ کا..... (مداخلت)

جناب چیئر مین: ایک منٹ ٹھہریں۔

جو آیت مفتی صاحب نے پڑھی ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن کر دیں آپ۔ (مفتی محمود

صاحب سے) ایک دفع پھر پڑھیں۔..... Let this

مولوی مفتی محمود: ”ولانکرہوا فتیاتکم علی البغاء (نور: ۳۳)“

یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ لفظی بتادیں۔

جناب چیئر مین: اس کا لفظی ترجمہ کر دیں جی۔

Let it go on the record.

جناب یحییٰ بختیار: اچھا۔

Mr. Chairman: No, Just a minute. Let this Ayat be translated by the witness.

(مرزا ناصر کا اور پینترا)

مرزا ناصر احمد: لغت عربی میں، لغت عربی میں جب یہ فتح یاب کے متعلق استعمال ہو تو اس کے معنی بدکاری ہے ہیں۔

جناب چیئر مین: تفسیر بعد میں کریں۔ پہلے اس آیت کا ٹرانسلیشن کر دیں۔

This is the question.

مرزا ناصر احمد: ”اپنی جو لونڈیاں ہیں تمہارے گھروں میں، ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ خود اسے پسند نہ کریں۔“ لفظی ترجمہ یہ ہوگا۔

Mr. Chairman: Now the witness can add the explanation.

مرزا ناصر احمد: یہ ٹھیک ہے، اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے۔ لیکن ”ابن نبی“ کا عربی میں یہ معنی نہیں ہے۔

753 جناب بیچی بختیار: ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہے۔ اب اس کو یہاں ایک منٹ کے لئے چھوڑتا ہوں۔ ایک چیز ہے جس کے بعد.....

مرزا ناصر احمد: اگر آپ پسند کریں تو صبح بہت ساری روایات کے حوالے دے دیں؟

(مرزا قادیانی کی نئی گالیاں)

جناب بیچی بختیار: نہیں، نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ میں ابھی اس سبکیٹ پر نہیں آ رہا۔ کیونکہ گالیوں کا ذکر آ گیا ہے تو ایک اور Context میں جا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگ آزادی لڑی۔ ان کے متعلق مرزا صاحب سے منسوب..... شاید یہ غلط ہو، نہ ہو۔ میں ایسے کہہ رہا ہوں..... یہ ”ازالہ اوہام“ حصہ دوم سے لیا گیا ہے۔ انگریز کے مقابل سر اٹھانے کو ”مکر و بدکاری“ کہا اور لکھا کہ: ”ان لوگوں نے چوروں، قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محسن گورنمنٹ پر حملہ کرنا شروع کیا ہے اور اس کا نام جہاد رکھا۔“

(ازالہ اوہام ص ۲۵ حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۳۹۰)

۹۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

یہاں جو الفاظ ہیں ابھی ”چوروں، قزاقوں، حرامیوں۔ تو یہ اگر آپ سمجھیں کہ عربی میں ”چوروں، قزاقوں، حرامیوں“ کو جہاں تک میں جانتا ہوں، عربی Slang میں ”حرامی“ چور کو ہی کہتے ہیں۔ یہاں ”چور“ بھی استعمال ہوتا ہے اور ”حرامی“ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ مائنڈ Mind میں رکھیں کہ آخر یہ گالیاں ہیں یا یہ کہ ایسے ہیں کہ صرف باغیوں کے بارے میں بات ہے؟

مرزا ناصر احمد: یہ Context دیکھ لیں۔ (اپنے وفد کے ایک رکن سے) نوٹ کرو جی۔

جناب یحییٰ مختیار: ہاں، پھر وہ اس پر.....

مرزا ناصر احمد: ویسے آپ نے صبح بھی چار پانچ باتیں پوچھی تھیں۔

جناب یحییٰ مختیار: وہ میں آ رہا ہوں جی اس پر۔ کیونکہ میں نے کہا ایک سبیکٹ ہو جائے۔ اب مرزا صاحب! ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ بعض لوگوں نے سخت الفاظ استعمال کئے..... جو آپ نے پڑھ کے سنائے..... مرزا صاحب کے متعلق، اور آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں یہ ایک قسم کا فیشن تھا کہ اس قسم کی زبان استعمال کر رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف، اور یہ ان کا مطلب بھی نہیں ہوتا تھا.....

مرزا ناصر احمد: یہ اگلا فقرہ نہیں کہا میں نے۔

754 جناب یحییٰ مختیار: یہ، ان کا یہ مطلب نہیں تھا، جو ظاہری معلوم ہوتا ہے۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے کہا کہ یہ ان کی عادت پڑی ہوئی تھی اس قسم کے سخت الفاظ.....

(عام آدمی اور مدعی نبوت دونوں کی بدزبانی میں کیا فرق ہے؟)

جناب یحییٰ مختیار: ہاں، اس قسم کے الفاظ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک معمولی انسان، گناہ گار انسان، دوسری طرف ایک نبی اور ایسا نبی جس کے انہی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں، جس کے بارے میں کیا کیا لکھا جا چکا ہے، وہ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے بھی سخت بعض جگہ زبان استعمال کر رہے ہیں..... مرزا صاحب! میں بڑی Responsibility سے بات کر رہا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، آپ بات کریں، ابھی نہیں میں بول رہا۔

جناب یحییٰ بختیار: اگر غزنویوں نے بری گالیاں دیں، بدزبانی کی، ان کو جواب دے دیں، تو میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہاں بعض الفاظ جو ہیں مولوی سعد اللہ کے بارے میں کہ ”بدکار عورت کا بیٹا۔ بدگو۔ خبیث۔ منحوس۔ لعین۔ شیطان۔“ (انجام آتھم ص ۲۸۱، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۱) میں نے ان کو دیکھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے بھی مرزا صاحب کے متعلق بہت سی جگہ ایسے الفاظ استعمال کئے ہوں۔ مگر جہاں آپ نے پڑھ کے سنائے انہوں کی طرف سے، تو ان سے مجھے یہ بات ظاہر نہیں ہوئی، بہر حال، سوال یہ ہے کہ یہ شخص.....

مرزا ناصر احمد: یہ سعد اللہ کی گالیوں کا حوالہ کہاں ہے؟ وہاں تو نہیں تھے یہ سارے۔
 جناب یحییٰ بختیار: میں نے آپ کو سنائے تھے جی۔ ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۱ ہیں۔
 جناب! آخر میں آپ نے کہا تھا، Admit کر لیا تھا۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، ”ابن نعیمی“ کہا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں مجھے، میں نے کہا کہ جو مرزا صاحب نے ان کے بارے میں.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ”ابن نعیمی“ کہا۔
 جناب یحییٰ بختیار: یہاں جو یہ لکھا ہوا ہے ”اور آپ نے Admit کیا۔“ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں.....

مرزا ناصر احمد: نہیں ”انجام آتھم“ میں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، صفحہ ۲۸۱، ۲۸۲۔ آپ نے کہا کہ یہ لفظ جو ہیں ناں ”بدکار عورت کا بیٹا“ نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے ”ابن نعیمی“.....
 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں.....
 جناب یحییٰ بختیار: باقی باتوں کی طرف میں ابھی آ رہا ہوں۔
 مرزا ناصر احمد: ”ذریعہ البغایہ“ اور ”ابن نعیمی“ کے متعلق.....
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، نہیں، وہ میں تو.....
 مرزا ناصر احمد: ”لغت“ کے متعلق یہ تین باتیں ہوئی ہیں.....
 جناب یحییٰ بختیار: باقی، ”بدگو، خبیث، منحوس.....“
 مرزا ناصر احمد: اور یہ کہاں ہیں؟
 جناب یحییٰ بختیار: یہ آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے تو آپ کو حوالہ دیا ہے اور میرے خیال میں آپ نے Admit کر کے جواب دیا ہے۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحمہ: نہ، نہ۔
 جناب یحییٰ بختیار: پھر آپ دیکھ لیں ان کو۔
 مرزانا صراحمہ: ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ”بدگو، خبیث، مفید، آراستہ است، منحوس، و نام اوجاہلاں
 سعد اللہ نہادہ اند“..... یہ آجاتا ہے جی.....
 مرزانا صراحمہ: کل آپ نے ”انجام آتھم“ ۲۸۲ کا.....
 جناب یحییٰ بختیار: ۲۸۱، ۲۸۲، دوسرے پر آگے آجاتا ہے۔
 مرزانا صراحمہ: ہاں، اس میں یہ ہے: ”اس.....“
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، وہ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں نے ۲۸۱، ۲۸۲
 دونوں صفحے بتائے آپ کو۔ جو میں نے یہاں نوٹ کئے ہیں اور دوسرے جو ہیں نا، آپ اسے
 دیکھ لیں۔ ۲۸۱ پر ہیں۔ مل گیا آپ کو؟ جہاں لکھا ہوا ہے: ”وہ خبیث.....“
 مرزانا صراحمہ: جی، یہ ہیں الفاظ۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، میں یہ عرض کر رہا تھا.....
 مرزانا صراحمہ: جی.....

(نبی کی سخت زبان، عام انسان کی طرح؟)

جناب یحییٰ بختیار: کہ بہت ہی سخت زبان استعمال کی گئی ہے اور سوال جو تھا وہ
 صرف یہ تھا کہ:
 من بدکنم و تو بد مکافات دہی بس فرق میانے من و تو چوست بگو
 ایک آدمی کہتا ہے ”میں نبی ہوں۔“ ایک عام انسان ہے اور نبی بھی وہی زبان استعمال
 کرتا ہے۔ اس سے زیادہ سخت وہ زبان استعمال کرے تو پھر اس پر ذرا سوال آتا ہے کہ کیا
 Status (مقام) نبی کا ہوتا ہے کہ ایسی زبان استعمال کرے؟
 مرزانا صراحمہ: یہ تو پہلے انبیاء کی تاریخ ہمیں بتائے گی کہ ان کا Status (مقام)
 یہ ہوتا ہے کہ نہیں۔

۱ ابھی تھوڑا پہلے اس حوالہ کا انکار، اب اقرار، مرزا قادیانی کا حوالہ مرزانا صراحمہ کے
 حلق میں مچھلی کے کانٹے کی طرح پھنس کر اس کو گتگی کا ناچ نچوڑا ہا ہے یا توے پر رقص کر دار ہا ہے؟
 قادیانی فیصلہ فرمائیں۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: نہیں خیر وہ تو آپ کے مطابق.....
 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں۔ پہلے انبیاء کی، ان کی کتب سے.....
 جناب یحییٰ بختیار: کہ یہ نبیوں کے لئے جائز ہے کہ ایسی زبان استعمال کریں آپ؟
 مرزا ناصر احمد: نبیوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ گالی دیں۔ لیکن نبیوں کے لئے
 ایک سرجن کے نشتر کی طرح استعمال کرنے کی نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے ان کے لئے لیکن
 ایک غنڈہ بازار میں چاقو استعمال کرتا ہے تو وہ قاتل اور مفسد بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے
 میں آدھا سینہ چیر دیتا ہے۔ Lungs سارا نکال کے باہر پھینک دیتا ہے سرجن۔ تو جو بات، جو
 کلمہ سچا ہو، جو ہے مثلاً مجسٹریٹ ہے، وہ چور کو چور کہتا ہے، گالی نہیں ہے۔ لیکن کوئی اور دوسرے کو
 چور کہے گالی بن جاتی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی جو مرزا صاحب گالی دیں وہ صحیح ہے، وہ حقیقت ہے؟
 مرزا ناصر احمد: نہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے کہا کہ انبیاء
 کی تاریخ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جن کے اذکار، جن کی باتیں قرآن کریم نے بھی بیان کی ہیں
 اور ان کی کتب جس شکل میں بھی ہیں، موجود ہیں کہ ان کو سخت الفاظ..... جو سخت نظر آتے ہیں
 دوسروں کو..... وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں اور وہ گالی نہیں ہوتی، حقیقت حال ہوتی ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ⁷⁵⁷ نہیں، یہ الفاظ جو استعمال ہوئے ’’خبیث، منحوس، لعین،
 شیطان۔‘‘ یہ گالیاں نہیں تھیں؟

مرزا ناصر احمد: ان کے صحیح معنوں میں یہ گالیاں نہیں تھیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: اچھا، ٹھیک ہے۔

۱۔ مرزا ناصر کہنا چاہتا ہے کہ گویا سابقہ انبیاء علیہم السلام گالیاں دیتے تھے۔ قارئین! یہ
 ہے قادیانی کفر کہ مرزا قادیانی کو بچانے کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام پر الزام دھر دیا۔ اس لئے
 کہتے ہیں کہ قادیانی معلم المملکت کی اولاد ہیں؟
 ۲۔ تو کیا ہم مرزا قادیانی کو دجال و کذاب، ملعون کہیں تو قادیانیوں کو اس پر اعتراض نہ
 ہوگا۔ یا یہ تمام قادیانی ذریعہ البغایا ہیں یا یہ کہ مرزا محمود نسل بدکاران تھا۔ کیا قادیانی اسے گالی نہ
 سمجھیں گے؟
 ۳۔ منحوس، لعین، شیطان مرزا قادیانی تھا۔ ہمارے نزدیک یہ صحیح معنوں میں مرزا کے
 لئے یہ گالیاں نہیں۔ کیا قادیانی کرم فرما اسے تسلیم کر لیں گے؟

۹۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزاناصر احمد: صحیح معنوں میں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔

مرزاناصر احمد: اور اس کی مثالیں ہم دیں گے تب مقابلہ ہوگا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، تو ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ”خبیث، منحوس، لعین،

شیطان“ کا مطلب ”خبیث، منحوس، لعین، شیطان“ نہیں ہوتا؟“

مرزاناصر احمد: نہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے کہا عربی زبان میں ان الفاظ کے

اس Context میں جو معانی ہو سکتے ہیں۔ وہ جو ہے، اس کو جائز ہے کہنے جو اللہ تعالیٰ سے علم

پاکے۔ اس کے اندرون کو ایسا دیکھے۔ ورنہ نہیں جائز اور پہلے انبیاء کی یہی سنت ہے، یہ طریق ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: اچھا مرزا صاحب! وہ تو.....

مرزاناصر احمد: میں آپ کو صبح پہلے یہ یاد دلا دوں گا.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، آپ نے کہہ دیا، مرزا صاحب! میں اس پر.....

مرزاناصر احمد: نہیں، نہیں، میں اس کو یہاں وہ ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، آپ اس کو ریکارڈ کروالیں۔ مگر اب میرا دوسرا سوال ہے

کہ میں نے کچھ سوالوں کا ذکر کیا تھا.....

مرزاناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: اس میں ہے کہ: ”میرے مخالف جنگلوں کے، بیابانوں کے

خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتوں سے بھی بڑھ گئیں۔“

مرزاناصر احمد: ہاں، یہ وہ ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ”مجم الہدیٰ صفحہ ۵۳، خزائن ج ۱۳ ص ۵۳“

مرزاناصر احمد: ⁷⁵⁸ یہ اس کو چیک کیا ہے۔ ابھی ادھر دیتے ہیں۔ یہ ”مجم الہدیٰ“ کا

صفحہ ۵۳ تھا؟

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔

مرزاناصر احمد: یہ مجم الہدیٰ، صفحہ ۵۳؟

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، ہاں۔

مرزاناصر احمد: اس میں یہ ایک مضمون ہے عربی کا۔ اسکے اندر یہ نظم آئی ہے:

۹۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ان العداصارو اخنازیر الفلا ونساء هم من دونهن الاکلب
اس شعر میں ”العداء“ سے مراد وہ معاندین ہیں جو سید المعصومین حضرت محمد ﷺ کے
خلاف نہایت گندہ دہانی سے کام لیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں:

سبواما ادري لا یسی جریمۃ سبوا العصى الحب اونتحنب
انہوں نے گالیاں دیں اور میں نہیں جانتا کیوں دیں۔ کیا ہم اس دوست (محمد) کی
مخالفت کریں یا اس سے کنارہ کریں؟ اس نظم کے شروع میں آپ نے اس کے معنی کئے ہیں کہ
”حب“ سے مراد محمد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں، ان دو شعروں کے کہ:

”ہمارا ایک دوست ہے اور ہم اس کی محبت سے پر ہیں اور مراتب اور منازل سے ہمیں
بے رغبتی اور نفرت ہے..... ہم اپنے پیار کے دامن سے آویختہ ہیں ایسے کہ جو..... ہم اپنے
پیارے کے دامن سے آویختہ ہیں ایسے کہ جو صاف اور شفاف نہیں ہو سکتا وہ بھی ہمارے لئے منور
ہو گیا ہے۔“ (اس کے طفیل)

اس کتاب میں..... یہ نظم کے معنی دیئے گئے تھے ناں..... بڑی وضاحت سے یہ بتایا
گیا ہے کہ دشمن اسلام، محمد کے خلاف اس قدر ایذا رسانی سے کام لے رہے ہیں، دکھ دہ باتیں کر
رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں اور اس Text میں وہ جو آیا ہے ابھی اس میں ”یقتلوا“⁷⁵⁹
خنزیر“ اور پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ”خنزیر“ سے مراد ”دشمنان اسلام“ ہیں۔ وہ مراد ہے
یہاں۔ ایک آگے..... ابھی نہیں ختم ہوا.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں اس پر وہ دوسرا حوالہ جو ہے ناں.....
مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔
جناب یحییٰ بختیار: اچھا، اسی پر آپ کہہ رہے ہیں؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، اسی پر۔ اس کتاب میں، جیسا کہ میں نے بتایا، آپ نے
فرمایا کہ بد زبان پادری اور ان کی وہ عورتیں ہیں جو گھروں میں جا کر مسلمانوں کو مرتد کرنے کے
لئے ہر قسم کا جتن کر رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ”نجم الہدیٰ“ اسی کتاب میں: ”تو آپ لوگوں نے
اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ دین صلیبی اونچا ہو گیا اور پادریوں نے ہمارے دین کی نسبت کوئی دقیقہ
طعن کا اٹھا نہیں رکھا اور ہمارے نبی کو گالیاں دیں اور بہتان لگائے اور دشمنی کی اور تم دیکھتے ہو کہ وہ
اپنے عقیدے میں کیسے سخت ہو گئے ہیں اور کیسے تعصب سے فروختہ ہیں اور اپنی باطل باتوں پر

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

کیسے اتفاق کئے بیٹھے ہیں اور تھوڑی مدت سے ایک لاکھ کتاب انہوں نے ایسی تالیف کی ہے جس میں ہمارے دین اور رسول اللہ کی نسبت بجز گالیوں اور بہتان اور تہمت کے کچھ نہیں۔

یہ ”نجم الہدیٰ“ ۶۳ صفحہ کا یہ حوالہ ہے۔ پھر فرمایا: ”اور سیلاب کی طرح مسلمانوں کے کوچوں میں بہنے لگے اور طرح طرح کے افتراؤں سے اس شہر کے باشندوں کو دھوکے دینے لگے۔ پھر اپنی عورتیں اس غرض کے لئے شریفوں کے گھروں میں بھیجیں..... پس اسلام پر وہ مصیبتیں پڑیں جن کی نظیر پہلے زمانوں میں نہیں۔“

یہ ”نجم الہدیٰ“ تو یہ سارا جو ہے، یہ کتاب جو ہے۔ یہ عیسائیوں کے متعلق ہے۔ ان کی گندہ دہانی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ایک ٹرپ ہے دل میں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے یہاں ہمارے ملک میں اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ حضرت خاتم الانبیاء کے خلاف۔

جناب یحییٰ بختیار: میں کچھ عرض کر سکتا ہوں جی؟
760 مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ ”نجم الہدیٰ“ میں صفحہ ۱۸، پھر صفحہ ۲۰.....

مرزا ناصر احمد: (اپنے وفد کے ایک رکن سے) کہاں ہے ”نجم الہدیٰ“؟

جناب یحییٰ بختیار: آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے، انہوں نے جو عیسائی ہیں، انہوں نے جو حملے کئے، ان کے جواب میں یہ باتیں کہیں۔ یہاں وہ لکھتے ہیں:

”اور میں نے اس رسالہ کو حجت کے پوری کرنے کے لئے تالیف کیا ہے اور اس امت کے غافلوں کی ہمدردی کے لئے میں نے جلدی سے یہ کام کیا اور میں خادموں کی طرح اس کام کے لئے اسلامی جماعت کے کمزوروں کے لئے کھڑا ہوا کیونکہ میری دعوت کے قبول کرنے میں ان کے زن و مرد کی بھلائی ہے اگرچہ اپنی عبادت اور زہد کے ساتھ رابعہ وقت ہوں۔“

(نجم الہدیٰ ص ۱۸، جزائن ج ۱۳ ص ایضاً)

پھر آگے وہ فرماتے ہیں: ”اور یہ میرا رسالہ میری قوم سے خاص ہے جنہوں نے میری دعوت سے انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ ایک کذاب.....“

۱۔ مبالغہ یا کذب بیانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ عیسائیوں کی ایک لاکھ نہیں، پچاس ہزار کتابوں کے نام ہی بتادیں۔ ہے کوئی ماں کالال قادیانی جو اپنے گرو کے دامن سے اس سیاہ جھوٹ کے دھبے کو صاف کرے۔

مرزا ناصر احمد: یہ ۱۹ کا ہے؟
جناب یحییٰ بختیار: ۱۹ نہیں، پہلے ۱۸ پھر صفحہ ۲۰ سے۔
مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: میں نے ۱۸ سے ایک Passage پڑھا، page 18۔

Now i am reading from page 20.

”اور یہ میرا رسالہ میری قوم سے خاص ہے.....“

صفحہ ۲۰، جو عربی ترجمہ ہے اس کا: ”جنہوں نے میری دعوت سے انکار کیا اور کہا کہ یہ ایک کذاب کا جھوٹ ہے اور میری بات کو دروغ سمجھا اور گمان کیا کہ یہ ایک بہتان ہے اور بدظنی سے میری ہتک عزت کی۔ پس میرے غم و اندوہ نے جو کمال تک پہنچا ہوا ہے۔ نصیحت اور غم خواری کی طرف مجھے تحریک کی اور خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں کو جانتا ہے اور ان کے پوشیدہ بھیدوں پر اطلاع رکھتا ہے اور وہ تمام دنیا کے حالات سے آگاہ ہے اور میں اس رسالہ میں اس بات کی طرف کچھ حاجت نہیں پاتا کہ مذہب اسلام کی حقیقت کے دلائل لکھوں یا.....“

(نجم الہدیٰ ص ۲۰، خزائن ج ۱۴ ص ۱۴۳ ایضاً)

وہ آگے پھر لکھتے ہیں اس پر..... تو اسے آپ نے جو کہا ہے نا، ”عیسائیوں کے لئے“ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ خاص طور.....“

مرزا ناصر احمد: نہیں، بات سنیں، آپ نے..... جو سوال ہے وہ مجھے بتادیں تاکہ میں سوال دے دوں..... جواب دے دوں اس کا۔

جناب یحییٰ بختیار: پہلا سوال یا ابھی جو.....

مرزا ناصر احمد: نہیں ابھی جو، ابھی جو.....

(مرزا قادیانی نے مخالفوں کو جنگلوں کے خنزیر، ان کی عورتوں کو کتیا کہا)

جناب یحییٰ بختیار: ابھی آپ نے فرمایا کہ اس رسالے میں جو ”میرے مخالفوں“ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ”جنگلوں کے، بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیاؤں سے بڑھ گئیں۔“ تو آپ نے فرمایا کہ اشارہ عیسائیوں کی طرف تھا جو کہ آنحضرت ﷺ پر ناجائز حملے کرتے تھے۔ اس کے جواب میں.....

مرزا ناصر احمد: ہاں جی، ہاں جی۔ میں.....

جناب یحییٰ بختیار: یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ”مجھ پر اتنا دکھ ہوا، مجھ پر یہ ظلم ہوا، کیا میری امت کے لوگوں نے، میرے لوگوں نے، میں ان کے متعلق یہ لکھ رہا ہوں۔“

مرزا ناصر احمد: میں، میں اب سمجھ گیا جی۔ میں اب سمجھ گیا ہوں اور اس کا جواب ویسے یہاں بڑا واضح ہے۔ اگر مجھے اجازت دیں، ایک وضاحت ضروری ہے۔ نصاریٰ کے خلاف بھی *Whole-sale condemnation* نہیں۔ بلکہ ان میں سے وہ لوگ جو بدزبانی کرتے ہیں نبی اکرم کے خلاف، اور اسلام پر حملہ آور ہیں۔ یہاں آپ کی توجہ ایک طرف نہیں گئی۔ یہ بڑا واضح ہے۔ جب آپ پڑھ رہے تھے تو میں نے پڑھنا اس لئے چھوڑ دیا کہ وہ بالکل واضح تھا۔ ”اور یہ میرا سالہ میری قوم سے خاص ہے۔“

”قوم میری مخاطب نہیں“ آپ نے یہ فرمایا کہ ”دین مشین کی محبت میرے دل میں ہے اور میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نصاریٰ اس قسم کے حملے کر کے اور ہمارے خلاف یہ جال پھیلا رہے ہیں۔“ آپ نے فرمایا اور یہ میرے.....

جناب یحییٰ بختیار: یہ، یہ، اس.....

مرزا ناصر احمد: میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔

جناب یحییٰ بختیار: اس سے پہلے صفحہ ۱۸ پڑھ لیجئے، پھر ۲۰۔ کیونکہ دونوں میں نے پڑھے ہیں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، ۱۸ میں نے پڑھ لیا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اس میں جو ہے ناں کہ: ”اور میں نے اس رسالہ کو حجت کے پورا کرنے کے لئے تالیف کیا ہے۔“

مرزا ناصر احمد: نصاریٰ پر حجت کے پورا کرنے کے لئے تالیف کیا ”اور اس امت کے.....“

جناب یحییٰ بختیار: ”اور اس امت کے خالقوں.....“

مرزا ناصر احمد: ”اور اس امت کے خالقوں کی ہمدردی کے لئے.....“

جناب یحییٰ بختیار: دیکھیں، مرزا صاحب!

Please let me conclude. I will repeat it.

تاکہ اس میں وہ غلط فہمی، جو میرے دماغ میں ہے، وہ نہ رہے۔ اس واسطے میں Repeat کر رہا ہوں۔

I would not have wasted your time or intervened.

۹۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس میں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: ”اور میں نے اس رسالہ کو حجت کے پوری کرنے کے لئے تالیف کیا ہے اور اس امت کے غافلوں کی ہمدردی کے لئے میں نے جلدی سے یہ کام کیا اور میں خادموں کی طرح اس کام کے لئے اسلامی جماعت کے کمزوروں کے لئے کھڑا ہوا کیونکہ میری دعوت کے قبول کرنے میں ان کے زن و مرد کی بھلائی ہے۔“ (نجم الہدی ص ۱۸، خزائن ج ۱۳ ص ۱۳۷ ایضاً) یہ یہاں آجاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ: ”یہ میرا رسالہ میری قوم کے لئے خاص ہے جنہوں نے میری دعوت سے انکار کیا.....“ ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی دعوت سے انکار کیا۔

مرزا ناصر احمد: یہ، یہ میں اس کا، اگر اجازت دیں.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ابھی آپ فرمائیے۔

مرزا ناصر احمد: میرے نزدیک پہلے بھی واضح تھا، اب بھی واضح ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ”اور میں نے اس کو جمعرات کے دن شروع کر کے جمعہ کی صبح پورا کر دیا۔ (ایک دن میں میں نے تیار کیا) بغیر اس کے جو مجھ کو کوئی تکلیف پہنچی اور میں نے اس رسالہ کو حجت کے پوری کرنے کے لئے تالیف کیا ہے۔“

”حجت“ کے معنی ہم دے چکے ہیں: ”نصاری کے خلاف اسلام کے حق میں دلائل قاطع سے مرصع کر کے میں نے یہ رسالہ لکھا ہے۔“ اور اس کے، اس کے مخاطب..... وہ جو دلائل ہیں..... اس کے مخاطب نصاریٰ ہیں، ہماری قوم نہیں۔ ”ہماری قوم غافل ہے اور میرے دل میں ان کی ہمدردی ہے۔“ اور حملہ عیسائیت کا جو ہے وہ لاکھوں مسلمان کہلانے والوں کو..... جو دوسری جگہ آپ نے کہا ہے..... عیسائی بنا چکا ہے اور اس امت کے غافلوں کی ہمدردی کے لئے اور ان کے علم میں اضافہ کے لئے اور ان کے سامنے یہ بات لانے کے لئے کہ عیسائی اس وقت اس طور پر حملہ آور ہیں ”میں نے جلدی سے یہ کام کیا۔“ ایک دن میں یہ رسالہ کر دیا اور ”میں خادموں کی طرح اسلام..... خادموں کی طرح..... اسلام کے لئے، اس کام کے لئے اسلامی جماعت کے کمزوروں کے لئے کھڑا ہوا ہوں“ کہ جو حملہ آور اسلام پر ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو کمزور ہیں۔ ان کی طرف سے، ان کی ہمدردی میں، عیسائیت کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہوں۔ ”کیونکہ میری دعوت کے قبول کرنے میں ان کے زن و مرد کی بھلائی ہے، ہمدردی ہے۔ یعنی کوئی اس سے تعلق رکھے، متفق ہو، اتفاق رکھے یا نہ، لیکن یہاں جو کہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ”میرے دل میں امت

۱۰۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مسلمہ کی ہمدردی ہے۔ دجل سے کام لیا جا رہا ہے، سینکڑوں عیسائی بن رہے ہیں، اس ہمدردی کے نتیجے میں عیسائیوں کے خلاف یہ رسالہ لکھا ہے اور اپنے بھائیوں کے لئے لکھا ہے تاکہ اس کو پڑھ کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کر سکیں۔ ان کو لا جواب کر سکیں، ان کے اثر کو قبول نہ کر سکیں۔

764 جناب یحییٰ بختیار: اور ۲۰ پر جو آپ ابھی..... میں نے..... آپ کچھ فرما رہے تھے۔
مرزا ناصر احمد: میں ۲۰ کے اوپر آ رہا ہوں۔ اب لیتے ہیں صفحہ ۲۰: ”اور یہ میرا رسالہ میری قوم سے خاص ہے۔“

ان کے مخالف نہیں، ان سے تعلق رکھتا ہو، ان کی ہمدردی میں یہ لکھا گیا ہے جنہوں نے میری دعوت سے انکار کیا“ تاکہ ان.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اس سے آپ کا.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ”جنہوں نے میری دعوت سے انکار کیا“ تاکہ ان کو پتہ لگے کہ میری دعوت دراصل اسلام کے استحکام کے لئے ہے۔ اس کی مضبوطی کے لئے ہے کہ عیسائیوں کے خلاف جو میری دلیلیں وہ دیکھیں گے تو ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ جو انہوں نے انکار کیا۔ وہ درست نہیں ہے اور میرا کلام.....

جناب یحییٰ بختیار: انکار جو عیسائیوں نے کیا؟

مرزا ناصر احمد: نہ، نہ، نہ جو میرے دعویٰ کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں میں سے، ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں عیسائیوں کے مقابلے کے لئے، اسلام کے دفاع کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور جو لوگ مجھے اس وقت تک کذاب اور جھوٹا..... جھوٹ کا میری طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ گو اور میری بات کو دروغ سمجھا اور گمان کیا کہ یہ ایک بہتان ہے اور بدظنی سے میری ہتک عزت کی۔ پس میرے غم و اندوہ نے جو کمال تک پہنچا ہوا ہے۔ نصیحت اور عنخواری کی طرف مجھے تحریک کی اور خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی تبتوں کو جانتا اور ان کے پوشیدہ بھیدوں پر اطلاع رکھتا ہے۔ وہ تمام دنیا کے حالات سے آگاہ ہے اور میں اس رسالہ میں اس بات کی طرف کچھ حاجت نہیں پاتا کہ مذہب اسلام کی حقیقت کے دلائل لکھوں یا کچھ فضائل آنحضرت کے بیان کروں“

کیونکہ وہ ایک بہت لمبا مضمون ہے۔ تو جوان کا جو حملہ ہے صرف اس کو سامنے رکھ کر میں دفاع کر رہا ہوں۔ اسلام کی جو تعلیم ہے حسین، اس کے متعلق میں نے اور جگہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے مخاطب جو ہیں نا، سخت الفاظ کے، یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کہاں سے اعتراض آ گیا۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

765 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! آپ نے یہ *Concede* کیا، میرے خیال میں..... ممکن ہے میں غلط ہوں..... یہ بات آپ مان چکے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ: ”یہ میرا رسالہ میری قوم سے خاص ہے۔“

آپ کہتے ہیں کہ یہ قوم کو مخالف نہیں سمجھتے وہ اس جگہ ”قوم“ کے بعد میں ”خاص ہے“ ”جنہوں نے میری دعوت سے انکار کیا۔“ یعنی وہ لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، قوم میں سے، جنہوں نے ان کی دعوت سے انکار کیا۔ میں نہیں کہتا کہ یہ عیسائیوں کے خلاف نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اس اسٹیج پر۔ میں اس اسٹیج پر صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس فقرے میں عیسائیوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا.....

مرزا ناصر احمد: بالکل نہیں کیا۔ بالکل میں نے نہیں مانا۔ *Concede* کیا۔

جناب یحییٰ بختیار: پھر آپ اس کا مطلب مجھے مہربانی کر کے سمجھائیے کہ: یہ میرا رسالہ میری قوم سے خاص ہے..... میری قوم سے خاص ہے..... جنہوں نے میری دعوت سے انکار کیا اور کہا کہ یہ ایک کذاب کا جھوٹ ہے اور میری بات کو دروغ سمجھا۔ ”کیا انہوں نے ان کو *Ignore* کر کے عیسائیوں پر حملے کئے؟ عیسائیوں کو کہا کہ ”خزیر ہیں؟“

مرزا ناصر احمد: انہوں نے جو سخت الفاظ استعمال کئے وہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پہلے انبیاء کے طریق پر کئے۔ لیکن وہ الفاظ استعمال کئے گئے ہیں نصاریٰ کے خلاف۔ کسی..... میری پہلے بات ختم کر لینے دیں۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ ٹھیک آپ فرما رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کے خلاف.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں، میں..... مجھے بات ہی ختم نہیں کر لینے دیتے۔ میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، آپ کہیں جی، میں تو اب.....
766 مرزا ناصر احمد: اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ: ”میرا یہ رسالہ میری قوم..... میری قوم کے اندر پیار پایا جاتا ہے۔..... میری قوم سے خاص ہے۔“ اور انہوں نے مجھے نہیں

۱۔ مرزا کو بچانے کے لئے انبیاء علیہم السلام پر الزام دیکھو، ابن بغیہ کو کیا کر رہا ہے؟
۲۔ چپ اور قادیانی۔ اینٹ اور کتے کا پیر اس کو کہا جاتا ہے۔

۱۰۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

پہچانا۔ مجھے جھوٹا کہا اور مجھے کذاب کہا۔ لیکن اس رسالہ کے لکھنے سے میں ان پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو اسلام کے، دین اسلام کی حفاظت کے لئے بھیجا گیا ہوں اور اس امت کا ایک روحانی جو مقابلہ ہے۔ اس کے ایک جرنیل کی حیثیت میں نصاریٰ کے اس کی، اس زبردست یلغار جو اس وقت ہو رہی تھی۔ جس وقت لکھا گیا اس سے دین اسلام کی حفاظت دلائل کے زور سے اور نشانات اور براہین کے زور سے عیسائیوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب میری قوم پر یہ بات واضح ہوگی کہ میں عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے آیا ہوں تو شاید وہ یہ سمجھنے لگیں کہ میں کذاب اور جھوٹا نہیں۔ یعنی نصاریٰ سے جنگ ان کو یہ سمجھانے کے لئے ہے کہ میں، میں تمہارے خلاف نہیں کچھ کر رہا۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب انہوں نے کہا: ”یہ میرا رسالہ میری قوم سے خاص ہے۔ جنہوں نے میری دعوت سے انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ ”ایک کذاب کا جھوٹ ہے اور میری بات کو دروغ سمجھا اور گمان کیا کہ یہ ایک بہتان ہے۔ بدظنی سے میری ہتک عزت کی۔“ تو اسے آپ نے یہ فرمایا کہ اس پر انہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ جو مسلمانوں نے ان کو انکار کیا تو ان کے بارے میں یہ گالی والی کچھ بھی نہیں ہے۔

مرزانا صراحتاً: نہیں، نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ صرف عیسائیوں کے بارے میں ہے؟

مرزانا صراحتاً: یہ صرف عیسائیوں کے متعلق ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: باوجود اس کے.....

مرزانا صراحتاً: اگر مجھے اجازت دیں تو آگے بھی پڑھ دوں، واضح ہو جائے گا۔

جناب یحییٰ بختیار: جی، میں..... نہیں، آپ مجھے یہ مطلب سمجھائیں۔ میں صرف

یہ کہتا ہوں کہ جو مسلمانوں نے مرزا صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے.....

767 مرزانا صراحتاً: اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔

جناب یحییٰ بختیار:..... اور ان کا کوئی جواب نہیں دیا.....

مرزانا صراحتاً: صرف یہ کہ.....

جناب یحییٰ بختیار:..... یہاں تک انہوں نے ان کی ہتک کی.....

مرزانا صراحتاً: ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار:..... ان کا کوئی جواب نہیں دیا؟

مرزانا صراحتاً: کوئی جواب نہیں، قطعاً قطعاً کوئی جواب نہیں دیا۔

۱۰۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(ذریعہ البغایا کی گالی کی تفصیل)

جناب یحییٰ بختیار: بس ٹھیک ہے، اس کے آگے کوئی ضرورت ہی نہیں۔
اب تو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں نے کل ”آئینہ کمالات صفحہ ۵۴، خزائن ج ۵
ص ایضاً“ میں مرزا صاحب کا ایک حوالہ کل پڑھ کر سنایا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ: ”کل
مسلمانوں نے مجھے قبول کیا اور میری دعوت کی تصدیق کر لی۔ مگر کتھیروں اور بدکاروں کی اولاد نے
مجھے نہیں مانا۔“

یہ دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہاں تو صرف مسلمانوں کا ذکر آ گیا۔
مرزا ناصر احمد: یہاں ”ذریعہ البغایا“ کا استعمال ہوا ہے، پانچ سو.....
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! یہ درست ہے؟
مرزا ناصر احمد: یہ یہاں ہے اور میں اس کا جواب ابھی میں دے چکا ہوں پہلے
اپنے..... ہاں جی، ”ذریعہ البغایا“ کا ترجمہ جو کیا گیا وہ غلط ہے۔ یہاں تو ترجمہ ہے ہی نہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ ”بغایا“.....
مرزا ناصر احمد: یہ تو ہے ہی نہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، آپ تو پہلے جو وہی..... یہاں جو ہے ناں ”بدکار۔“
”مگر کتھیروں اور بدکار عورتوں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا“.....
مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، یہاں کوئی ترجمہ یہاں نہیں ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، آپ کی کتابوں میں کسی جگہ ایسا ترجمہ نہیں ہے؟
مرزا ناصر احمد: ⁷⁶⁸ نہیں، بالکل نہیں ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: اور دوسرے آپ یہ فرمائیے کہ کیا عربی میں ”بغایا“ کے سوائے
”بدکار“ کے کوئی اور معنی بھی ہیں؟ قرآن شریف میں کسی اور Sense میں استعمال ہوا ہے.....
مرزا ناصر احمد: ”ذریعہ البغایا“ کسی اور Sense میں استعمال نہیں ہوا۔
جناب یحییٰ بختیار: سوائے ”بدکار“ کے؟
مرزا ناصر احمد: استعمال؟ میرے خیال میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ قرآن کریم کا
یہ محاورہ ہی نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں ”بغایا“ کس Sence میں استعمال ہوا ہے؟

۱۰۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا ناصر احمد: ”ذریۃ البغایا“ بھی نہیں قرآن کریم میں ”بغیہ“ ہے۔ ”ذریۃ البغایا“ کا محاورہ نہیں ہے۔
مولوی مفتی محمود: ”بغایا“ جمع ہے ”بغیہ“ مفرد ہے۔ وما کان اس کے معنی کیا ہیں؟
یا حدیث میں آتا ہے: ”البغایا“ ”بغایا“ حدیث میں بھی ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟
جناب یحییٰ بختیار: آپ.....
مرزانا ناصر احمد: مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ میں صرف آپ کے سوالات کے جواب دوں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، بعض چیزوں سے جو میں واقف نہیں ہوں۔ اس پر کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ مولانا انصاری یا کوئی اور مجھے Assist کریں گے اور بعض چیزوں پر کل کسی وقت مولانا ہی آپ سے سوال پوچھیں گے۔ یہ کمیٹی کی اتھارٹی کے مطابق کہ اگر میں Assistance کے.....

مرزانا ناصر احمد: یہ، اس کی ہمیں اطلاع کوئی نہیں ملی۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ آپ کی اطلاع کے لئے ضروری بھی نہیں ہے۔
769 مرزانا ناصر احمد: پہلے کی اطلاع تو ہمیں مل گئی تھی۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ رول یہ بنایا تھا کہ انارنی جنرل۔

But he will be assisted by anybody he wants.

But اپنی طرف سے کوئی اٹھ کے سوال نہیں پوچھیں گے، میرے Through پوچھیں گے اور مجھے Assistance کی ضرورت ہے۔ فرض کرو میں تھک جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کوئی اور ایڈووکیٹ ہے، وہ یہ مزید سوال پوچھے تو یہ چیئرمین صاحب اور کمیٹی کی Approval سے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کر رہے ہیں۔
مرزانا ناصر احمد: ہاں، نہیں۔ میں تو اطلاع چاہتا ہوں۔
جناب یحییٰ بختیار: ہاں، اگر آپ کو اعتراض ہے کہ.....

۱ حضرت مفتی صاحب کے آتے ہی، مرزانا ناصر پر کچی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔
یا جان پر بن آتی ہے، قادیانی حضرات نوٹ کریں۔
۲ آئے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا۔ خیر سے بدھو گھر کولوٹ آئے، اور آئندہ اسی تنخواہ پر گزارہ کریں گے۔ شام باید کرد!

۱۰۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحتاً: ہاں، میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے ابھی اطلاع کوئی نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: تو اس لئے اگر آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب نے جو کہا.....
 مرزانا صراحتاً: میں بڑے ادب سے مفتی صاحب سے یہ کہوں گا کہ ”ذریۃ البغایا“
 کی بات چونکہ لغت عربی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے کل انٹارنی جنرل صاحب کی وساطت سے
 آپ کو لغت عربی کے حوالے سے دے دیئے جائیں گے۔
 جناب یحییٰ بختیار: جی، اور ان آیات.....
 مرزانا صراحتاً: جی ہاں ”ذریۃ“ اور آیات کے بھی۔
 جناب یحییٰ بختیار: اچھا جی۔
 اب اسی سوال پر جب مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ: ”کل مسلمانوں نے مجھے قبول
 کر لیا اور میری دعوت کی تصدیق کی مگر (جو بھی مطلب ہے) کھجریوں کی.....“
 مرزانا صراحتاً: نہیں، یہ غلط بات ہماری طرف منسوب نہ کریں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لکھا گیا ہے.....
 مرزانا صراحتاً: ”ذریۃ البغایا“ کہا ہے؟
⁷⁷⁰ جناب یحییٰ بختیار: ہاں، جو بھی مطلب ہو وہ ”ان کی اولاد نے.....“
 مرزانا صراحتاً: نہیں، نہیں، کسی کی اولاد نہیں جی۔
 جناب یحییٰ بختیار: ”..... کسی نے مجھے نہیں مانا“.....
 مرزانا صراحتاً: تو پھر عربی کا لفظ استعمال کر لیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں، وہ آگے..... میں کہتا ہوں کہ وہ تو آپ بیان کریں
 گے۔ میرا سوال جو ہے یہ ہے کہ یہاں مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ: ”کل مسلمانوں نے مجھے قبول
 کر لیا۔“ کل مسلمان کون تھے؟ اور کس، کب ان کو قبول کیا؟ جہاں تک میں نے..... ابھی میں
 ایک بات ذرا اور بھی واضح کر دوں.....
 مرزانا صراحتاً: جی، جی۔

(قادیانیوں کی تعداد)

جناب یحییٰ بختیار:..... جہاں تک میں آپ سے سوالات پوچھتا رہا ہوں۔ اس
 سے یہ اندازہ ہوا کہ ۱۹۰۱ء میں ۱۸۰۰ یا ۱۹۰۰ احمدی تھے۔ ۱۹۰۸ء میں جب مرزا صاحب کی وفات

۱۰۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس میں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ہوئی تو ہمارے ریکارڈ میں، سرکاری ریکارڈ میں (۱۹۰۰۰) کے قریب احمدی تھے۔ جنہوں نے ان کو قبول کیا۔ تو جب یہ کہتے ہیں ”کل مسلمان“ میں عرض کر رہا ہوں جی.....
مرزانا صراحتاً: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: کہ جو ہمیں *Facts and figures* ملے ہیں۔ جن کے مطابق میں نے کہا یہ ہیں۔ آپ نے کہا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے اندازے کے مطابق چار لاکھ تھے۔ جب مرزا صاحب کی وفات ہوئی اور پھر میں نے پوچھا کہ اگر وہ لوگ چار لاکھ تھے تو آپ نے خود ہی رپورٹ دی باؤنڈری کمیشن کو کہ آپ کے دو لاکھ تھے اس وقت۔ تو یہ سوال کرنا *Contradiction* میں ہم نہیں جاتے۔ کوئی بھی تعداد ہو، اٹھارہ ہزار ہو،.....

مرزانا صراحتاً: باؤنڈری کمیشن میں دو لاکھ کی کوئی فکر نہیں آئی۔ پہلے میں نے.....
جناب یحییٰ بختیار: ڈھائی لاکھ؟

مرزانا صراحتاً: نہیں، ڈھائی لاکھ کی بھی نہیں آئی۔

جناب یحییٰ بختیار: خیر وہ میں، وہ پھر سوال آپ سے پوچھ لوں گا۔

⁷⁷¹ *Mirza Nasir Ahmad: Half a million does not mean two and fifth.*

Mr. Yahya Bakhtiar: In the whole sub-continent, Sir.

مرزانا صراحتاً: وہ تھوڑے رہ گئے وہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، تو پھر چار لاکھ سہی، مرزا صاحب! یعنی چار لاکھ ۱۹۴۷ء میں اور چار لاکھ ۱۹۰۸ء میں۔ یہ آپ کی *Contradiction* نہیں.....

مرزانا صراحتاً: نہیں، میری کوئی *Contradiction* نہیں.....
جناب یحییٰ بختیار: بعض اوقات.....

مرزانا صراحتاً: بالکل *Contradiction* نہیں ہے۔ اس لئے کہ میں نے کہا کہ *Census*، مردم شماری نہیں ہوئی، اور مختلف آدمیوں نے مختلف اوقات میں.....
جناب یحییٰ بختیار: جی، بالکل، بالکل۔

مرزانا صراحتاً: مختلف اندازے کئے۔ *Contradiction* کہاں سے آگئی؟
جناب یحییٰ بختیار: بجافرمایا، آپ نے بجافرمایا۔ آپ نے یہ کہا۔ جب میں نے یہ

۱۰۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

کہا کہ *Census* کے مطابق ۱۹۰۸ء میں احمدیوں کی تعداد انیس ہزار ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے اندازے کے مطابق اور آپ کی فکر کے مطابق ۴ لاکھ کے قریب تھی۔ ایک بات پھر ابھی فرما رہے ہیں کہ ۱۹۴۷ء میں جو آپ نے فگر دی.....

Half a million in the whole of the sub-continent.

اب بہت کم وہاں رہ گئے۔ تو پھر بھی چار لاکھ، قریب ساڑھے چار لاکھ کے بن جاتے ہیں۔
مرزا ناصر احمد: جو ہم نے فگر دی وہ مردم شماری کی نہیں دی۔
جناب یحییٰ بختیار: میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ کی فکر کہہ رہا ہوں۔ ۱۹۰۸ء میں اور ۱۹۴۷ء میں آپ کے فگر زبھی ہیں۔

مرزا ناصر احمد: اندازے تھے۔

جناب یحییٰ بختیار: اندازے تھے؟

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، ایک آدمی کا اندازہ نہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! چالیس سال میں.....

772 مرزا ناصر احمد: ۱۹۰۸ء میں اندازہ کرنے والا اور گروہ ہے اور ۱۹۴۷ء میں

اندازہ کرنے والے اور گروہ ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے ہیں، آپ کے مختلف گروہ.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں نے اسی واسطے کہا تھا مردم شماری کوئی نہیں ہوئی۔

جناب یحییٰ بختیار: مردم شماری نہیں ہوئی، آپ نے خود فگر زدئے؟

مرزا ناصر احمد: اس واسطے کوئی *Exact* فگر نہیں دی جاسکتی۔ مختلف اوقات

میں مختلف انسانوں نے مختلف اندازے کئے اور جب دو مختلف آدمی اندازے مختلف کرتے ہیں تو

ان کو کوئی زبان *Contradiction* نہیں کہتی۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! میں اس بات پر جانا نہیں چاہتا تھا مگر

چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں صرف جو ریکارڈ پر چیز آچکی ہے۔ اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا

چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ ۱۹۰۸ء میں مرزا صاحب کی وفات کے وقت *Census* رپورٹ

کے مطابق احمدیوں کی تعداد انیس ہزار کے لگ بھگ ہے۔

۱۔ قارئین توجہ کریں! قادیانی تعداد کتنی ہے؟ اسے مرزا ناصر احمد اس طرح چھپاتا ہے

جس طرح گناہ گار اپنی محصبت کو چھپاتا ہے۔ آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔

۱۰۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس میں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

"Less than nineteen thousand" the report says.

پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ”نہیں، ہمارے اندازے کے مطابق چار لاکھ کے قریب تھی۔“ ایک۔ پھر ابھی میں نے کہا کہ ۱۹۴۷ء میں آپ نے، خود جو فگر دیئے ہیں، اپنے اندازے کے مطابق، وہ Half a million ہے In whole of the sub-continent پانچ لاکھ، چار لاکھ، پانچ لاکھ۔ اس میں سے میں نے کہا، پاکستان میں آدھے ہوں گے، آپ کہتے ہیں نہیں، بہت زیادہ آگئے تھے، کم رہ گئے۔

But it remains more of less four Lakhs. But we leave that now.....

اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں فی الحال۔ میں اس لحاظ سے پوچھ رہا ہوں کہ چار (۴) لاکھ تھے یا دو (۲) لاکھ تھے۔ مرزا صاحب کے زمانے میں، کل مسلمان تو اتنے نہیں تھے.....
مرزا ناصر احمد: ہاں جی۔

جناب یحییٰ بختیار: کل مسلمان اس وقت مرزا صاحب کے زمانے میں.....
”مسلمان“ اس نقطہ نظر سے میں کہہ رہا ہوں جو ہم، آپ Define کر رہے ہیں۔ جو محمد ﷺ اور خدا کو مانتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کی Defination میں جو آتے ہیں..... اس وقت وہ صرف نہ انیس (۱۹) ہزار تھے، نہ چار لاکھ تھے۔ مگر یہاں جو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ”کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا“ تو ان سے کیا مراد تھی؟ احمدیوں کی تھی؟ باقیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے وہ؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: ”کل مسلمان مجھے قبول کر لیں گے“.....
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ نہیں ہے۔ ”کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا۔“
مرزا ناصر احمد: ”قبول کر لیا“ کہا ہے؟ (اپنے وفد کے ایک رکن سے) نکالو۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ الفاظ یہ ہیں۔ جو میرے پاس ترجمہ ہوا ہے.....
مرزا ناصر احمد: جو میرے پاس عربی کے الفاظ ہیں: ”الالذی..... من..... الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون“ یہ مضارع کا ہے۔ قبول ”وہ لوگ قبول نہیں کریں گے۔“ جن کے متعلق زیادہ تفصیل سے دوسری جگہ آتا ہے کہ اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے گا اور ساری دنیا محمد ﷺ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے گی، سوائے ان چند کے جن کی حیثیت دنیا میں کوئی نہیں رہے گی۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: یہ آپ کا مطلب ہے کہ جب..... یہاں۔
 ”یہاں تو کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا اور میری دعوت کی تصدیق کر لی۔“
 یہ جو میں ترجمہ بنا رہا ہوں..... ممکن ہے غلط ہو..... اس کا یہ مطلب ہے کہ Future میں؟
 مرزا ناصر احمد: ”کر لیا“ عربی میں ہے ہی نہیں ”کر لے گا“ ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ”تصدیق کر لی“ نہیں ہے؟
 مرزا ناصر احمد: نہ، نہ، نہ، یہاں کوئی نہیں ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: آپ پڑھ کر سنا دیجئے۔
 مرزا ناصر احمد: ”تلك كتب ينظر اليها“
⁷⁷⁴ ”ينظر“ کے معنی ہیں اس کو، اس کو دیکھتا ہے، یعنی تو، وہ دیکھے گا، وہ انہیں شکر کی نگاہ سے، قبولیت کی نگاہ سے..... ”ينظر“ مضارع کا صیغہ ہے..... دیکھے گا اور ”ينتفع من معارفها“
 (اور وہ اس کے معارف سے فائدہ حاصل کرے گا اور مجھے قبول کر لے گا اور میری تصدیق کرے گا۔ سوائے اس کے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے، وہ قبول نہیں کریں گے)
 سارے مضارع کے صیغے چلے آ رہے ہیں۔ حال اور مضارع کے، اور مضارع سے مراد ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ ٹرانسلیشن ہے اس میں لکھا ہوا؟
 مرزا ناصر احمد: اس میں تو ٹرانسلیشن ہے ہی نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، اور کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے آپ کے پاس؟
 مرزا ناصر احمد: نہیں، لیکن میں وہ آپ کو لغت عربی اور نحو جو ہے عربی کی، اس کے حوالے جتنے چاہیں نکال کے لادیتا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: بس۔ ایک، ایک۔ ابھی دیر ہو گئی۔ میں اسی سوال کے ساتھ۔
 مرزا ناصر احمد: (اپنے وفد کے ایک رکن سے) یہ نوٹ کرو جی، کل یہ مضارع کے متعلق ہمیں لانے ہیں۔

(جو مسلمان ہونے کے مدعی، نہ کہ مسلمان)

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں، ”کل مسلمانوں“ کا جو لفظ آ گیا۔
 تو اس کے ساتھ ہی میں نے آپ سے پرسوں عرض کی تھی اور آپ نے نوٹ فرمایا تھا کہ

آپ جواب دیں گے۔ وہ صاحبزادہ بشیر احمد صاحب کا ایک حوالہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ: ”جب مرزا صاحب اپنی کتابوں میں مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام اور مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان نہیں۔“ اس قسم کا مضمون میں نے پڑھ کر سنایا ہے آپ کو۔ میں پڑھ کر پھر سنا دوں گا۔ آپ نے کہا Verify کر کے پھر جواب دیں گے۔

مرزا ناصر احمد: (اپنے وفد کے ایک رکن سے) نوٹ کیا؟ یہ دیکھتے ہیں (انٹارنی جنرل سے) شاید اس کا جواب بھی آچکا ہو۔

775 جناب یحییٰ بختیار: آپ دیکھ لیجئے۔

مرزا ناصر احمد: اگر یہ..... میری ایک بڑی ادب سے گزارش ہے۔ اگر کوئی صاحب، مثلاً ہمارے سیکریٹریان وغیرہ میں سے کوئی، جو کل کے متعلق ہوں، وہ بھی نوٹ کر لیں تاکہ صبح کو یہ کوئی شائبہ گنجائش نہ رہے شہ کی، کہ ہم نے جواب دینے سے احتراز کیا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، میں نے سب اسی لئے نوٹ کئے۔

مرزا ناصر احمد: بس ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: میں نے اسی لئے سب نوٹ کئے۔ میں یہ سمجھا کہ آپ خود جیسے ہی جواب تیار ہوں گے، دیتے رہے گے۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: تو ابھی میں نے کہا کہ ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے اور جو بھی ابھی سوالات کے جواب آ رہے ہیں۔ ایک ایسا Jig-saw puzzle بن گیا ہے۔ کیونکہ ایک چیز کو ہم اٹھاتے ہیں، مضمون کو، پھر حوالہ نہیں ملتا اور اس کو چھوڑ کر پھر میں کسی اور مضمون پر جاتا ہوں۔ تو اس لئے وہ خانہ پری جب تک نہ ہو۔ وہ Jig-saw puzzle کی شکل ٹھیک نہیں آتی کہ یہ کیا شکل بن گئی ہے۔ تو اس لئے بیچ میں میں نے نوٹ کئے اور میں نے جو نوٹ کئے ہیں وہ تو کوئی دس پندرہ ہیں۔ اس میں سے تین پر ہم پہنچے ہیں پھر تو سیشن ختم.....

مرزا ناصر احمد: ہاں جی۔

جناب یحییٰ بختیار: آج صرف تیسرے پر میں پہنچا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: اچھا۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی جو نوٹ کئے ہیں۔ جن سے حوالے آپ کو میں لکھوائے تھے اور آپ نے جواب دینے تھے۔

۱۱۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحمہ: پندرہ؟
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ناں جی.....
 مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں، وہ تو پھر یعنی اگر تو ہماری طرف سے سہو ہوا ہے.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، آپ نے نوٹ کئے ہوئے ہیں.....
 مرزانا صراحمہ: ہاں۔⁷⁷⁶
 جناب یحییٰ بختیار:..... مگر یہ کہ آپ بھی کام کرتے رہے ہیں۔ ہم بھی کام کرتے
 رہے ہیں تو یہ چیز رہ گئی ہے کہ ابھی تو ممکن ہے کہ آپ نے تیار کئے ہوں یا نوٹ کئے ہوں.....
 مرزانا صراحمہ: ہاں، بعض ہیں، بعض ہیں میرے سامنے۔
 جناب یحییٰ بختیار: تو یہ آپ فی الحال مجھے اس کا یہ بتادیں صاحبزادہ صاحب! اگر
 آپ تیار ہیں.....
 مرزانا صراحمہ: (اپنے وفد کے ایک رکن سے) یہ قول ”الفضل ہے“
 جناب یحییٰ بختیار: مجھے یاد نہیں۔
 مرزانا صراحمہ: ہمارا خیال ہے..... بعض ہمارے ڈیلی گیٹیشن کے ایک دو ممبر کا خیال
 ہے کہ کل اس کا جواب مل چکا ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، نہیں آیا۔
 مرزانا صراحمہ: نہیں آیا؟ وہ کون سا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ صفحہ کونسا ہے؟
 جناب یحییٰ بختیار: آپ نے کہا کہ بشیر الدین محمود صاحب کا نہیں ہے۔ بشیر احمد
 صاحب کا ہے یہ۔
 مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ایک تو آپ نے وہ اتھارٹی جس کو آپ نے Reject کر دیا ہے۔
 مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں، وہ تو بالکل Rejected ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔
 مرزانا صراحمہ: نہیں، نہیں۔ یہ کیا ہے؟
 جناب یحییٰ بختیار: وہ جو ہے ناں جی، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ انہوں نے
 کہا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب مرزا صاحب اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں ”مسلمان“ تو

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ان کا مطلب مسلمان، کہتے ہیں نہیں۔ ان کا مطلب وہ لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔
مرزا ناصر احمد: نہیں، یہ نہیں۔ یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں۔ یہ حوالہ تو میرے
ذہن میں بھی نہیں آ رہا۔

777 جناب یحییٰ بختیار: یہ ایک اور کتاب سے تھا۔ ابھی اور کتاب ہے۔ ”کلمۃ
الفصل“ صفحہ ۱۴۔ یہ لکھا ہے: ”معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کو بھی بعض.....“

مرزا ناصر احمد: یہ صفحہ کون سا ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: صفحہ ۱۴، جی، جلد..... صفحہ ۱۲۶، جلد ۱، ”ریویو آف ریلیجن“۔

مرزا ناصر احمد: جی، یہاں کیا ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: یہ جی ۱۲۶ صفحہ پہ۔ آخری آٹھ دس لائنیں جو ہیں.....

مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: وہاں آتا ہے کہ: ”حضرت مسیح موعود کو بھی بعض اوقات اس
بات کا خیال آیا ہے کہ کہیں میری تحریروں میں غیر احمدیوں کے متعلق مسلمان کہنا، دیکھ کر مسلمان
دھوکہ نہ کھائیں۔ اس لئے میں نے کہیں کہیں بطور ازالہ کے غیر احمدیوں کے متعلق ایسے الفاظ لکھ
دیئے کہ وہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں جہاں کہیں بھی مسلمان کا لفظ ہو، اس سے مدعی اسلام
سمجھا جاوے، نہ کہ حقیقی مسلمان۔“

(کلمۃ الفصل ص ۱۲۶، ریویو آف ریلیجن ج ۱۳ نمبر ۳-۴، بابت مارچ، اپریل ۱۹۱۵ء)

مرزا ناصر احمد: یہ تو بڑی لمبی چوڑی بحث ہوگئی۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ میں نے..... اگر اب نہیں تو کل کر لیجئے اس پر۔

مرزا ناصر احمد: یہ الفاظ جو آپ نے پڑھے ہیں وہ تو ہیں یہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: میں یہ کہہ رہا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، یہ ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: کہ یہاں مسلمان سے مطلب یہ ہے کہ مسلمان، جو مرزا

صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان.....

مرزا ناصر احمد: نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں، وہ یہاں ہیں؟

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ ہیں۔

۱۱۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

778 مرزانا صراحمہ: لیکن میں ان کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں۔ معنوی لحاظ سے، لفظی تصدیق کر رہا ہوں۔

جناب بیچی بختیار: لفظی تصدیق آپ کر رہے ہیں؟

مرزانا صراحمہ: جی ہاں، لفظی تصدیق کر رہا ہوں۔

جناب بیچی بختیار: بس فی الحال وہ پھر بعد میں جو.....

مرزانا صراحمہ: اپنے وفد کے ایک رکن سے نوٹ کر لو۔ یہاں نشان لگا لو۔

جناب بیچی بختیار: اور پھر یہ میں نے ایک اور حوالہ تاکہ ساتھ ہی اگر آپ کو یاد رہے۔

مرزانا صراحمہ: جی۔

جناب بیچی بختیار: کیونکہ کل.....

مرزانا صراحمہ: ہاں جی۔

جناب بیچی بختیار: پھر اس چیز کو Repeat کروں گا تو آپ کو شاید ممکن ہے

جواب تیار ہو: ”تم ایک دوسرے فرقوں کو“ کیونکہ میں Connect کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے

آپ سے عرض کیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے میری دعوت سے انکار کیا“ یہ مطلب

مسلمان تھے۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ جو باتیں کہی ہیں عیسائیوں کے بارے

میں۔ ”خزیر“ وغیرہ جو آیا ہے.....

مرزانا صراحمہ: جی۔

جناب بیچی بختیار: پھر میں نے عرض کیا، اچھا، اگر وہ ہے تو مسلمانوں کے

بارے میں انہوں نے یہ کہا: ”کل مسلمانوں نے، میری دعوت قبول کر لی سوائے.....“

تو پھر آپ.....

مرزانا صراحمہ: نہیں، میں..... ہاں، ہاں.....

جناب بیچی بختیار: تاکہ میں.....

779 مرزانا صراحمہ: میں بولتا نہیں۔

۱۔ بت کہہ میں کافر کی زتاری بھی دیکھ۔

۲۔ کیوں، بولتی بند ہوگئی صاحب؟

۱۱۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Mr. Yahya Bakhtiar: I have got to be very fair, Mirza sahib, so that I am not misunderstood and you are not misunderstood.

(جناب یحییٰ بختیار: مجھے صاف بات کرنی ہے، مرزا صاحب تاکہ نہ مجھے غلط سمجھا جائے اور نہ آپ کو) پھر میں نے کہا ”کل مسلمانوں“ کا ڈائریکٹ نام آ گیا، ڈائریکٹ ذکر آ گیا کہ انہوں نے میری دعوت قبول کر لی اور میری تصدیق کر لی، سوائے ان کے..... جو ابھی آپ عربی میں ان کا ترجمہ کریں گے۔

مرزا ناصر احمد: ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ.....

مرزا ناصر احمد: یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ”کر لی“، میں نے کہا ”کر لیں گے۔“

جناب یحییٰ بختیار: میں نے یہ کہا۔

مرزا ناصر احمد: آپ نے یہ کہا اور میں نے اس کا یہ جواب دیا۔

جناب یحییٰ بختیار: اس کے بعد پھر میں نے آپ کی توجہ دلائی کہ اگر ”مسلمانوں“

سے آپ کا مطلب ”مسلمان“ ہے تو بشیر احمد صاحب، بشیر احمد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب جب ”مسلمان“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں..... لفظی معنی، باقی معنی تو اور ہوں گے..... ”مسلمان“ کا مطلب مسلمان نہیں۔ ”مسلمان“ کا مطلب وہ لوگ ہیں جو مسلمان بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، الفاظ میں۔ یہ آ گیا۔ آپ نے کہا کہ لفظی ٹھیک ہے۔ مگر اصل معنی یہ نہیں ہیں۔ وہ تو آپ تفصیل بتادیں گے۔

اب میں یہاں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ جب آ گیا اسلام کا، اور پھر *Next* میرا یہ آتا ہے: ”تمہیں دوسرے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، بہ کلی ترک کرنا پڑے گا۔“ وہ کہتے ہیں کہ ”میں نے بعض دفعہ ”مسلمان“ لفظ استعمال کیا اور بعض دفعہ یہ استعمال کیا ”دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں“..... یہ حاشیہ ”تحفہ گولڈویہ کے صفحہ ۲۷“ پر..... تو اس پر بھی آپ نے اگر جواب تیار نہیں ہے.....

مرزا ناصر احمد: میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ یہ وہی ۱۲۶ کے اوپر ہے؟

780 جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، یہ میرے..... یہ صفحہ ۲۷.....

مرزا ناصر احمد: کس کتاب کا ہے یہ؟

جناب یحییٰ بختیار: حاشیہ ”تذکرہ گولڈویہ“ صفحہ ۲۷۔
 مرزانا صراحمہ: ہاں، یہ چیک کر لیں گے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، چیک کر لیں آپ۔
 مرزانا صراحمہ: ہاں۔ پھر (اپنے وفد کے ایک رکن سے) لکھیں جی۔

(ولد الحرام بننے کا شوق، مرزا قادیانی کی گالی)

جناب یحییٰ بختیار: اور پھر میں نے، مرزا صاحب! میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ
 ”انوار الاسلام“ صفحہ ۳۰، خزائن ج ۹ ص ۳۱ پر: ”جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا
 کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔“ یہ آپ نے نوٹ کیا تھا اس دن۔
 مرزانا صراحمہ: جی، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ (اپنے وفد کے ایک رکن سے) ہاں، وہ
 کہاں ہے؟ (انارنی جنرل سے) ہاں جی، یہ ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: جی، اس کا جواب تیار ہے؟
 مرزانا صراحمہ: میں دیکھتا ہوں، شاید تیار اس میں ہونوٹ۔
 جناب یحییٰ بختیار: پھر اکٹھے تینوں دیجئے.....
 مرزانا صراحمہ: نہیں، دیکھ لیتے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: کیونکہ ایک اور میں پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں تاکہ.....
 مرزانا صراحمہ: نہیں، یہ ”ولد الحرام“ اور ”ذریۃ البغایا“ کا یہ نوٹ ہے۔ مل گیا۔ یہ
 فرماتے ہیں ”انوار الاسلام“ میں: ”اگر کسی کو ایسا ہی اسلام سے بغض اور عیسائیت کی طرف میل
 ہے اور ہر صورت عیسائیوں کو فتح یاب بنانا چاہتا ہے تو اس راہ کے سوا اور تمام راہیں بند ہیں۔ نہ ہم
 کسی کو ولد الحرام کہتے، حرام زادہ نام رکھتے۔ بلکہ جو شخص ایسے سیدھے اور صاف فیصلے کو چھوڑ کر
 زبان درازی سے باز نہیں رہے گا وہ آپ یہ تمام نام اختیار کرے گا۔“
⁷⁸¹ ہم نہیں کہتے۔ اور ”ذریۃ البغایا“.....
 جناب یحییٰ بختیار: ”جو مجھے کہتا ہے وہ ہے یہ؟“
 مرزانا صراحمہ: نہیں، نہیں.....
 جناب یحییٰ بختیار: یہ..... کافٹوی.....
 مرزانا صراحمہ: نہیں، نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ذریۃ البغایا ہے۔ اس کے

۱۱۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

معنی ہیں ”سرکش“ آپ نے لکھے ہیں خود سرکش، آپ نے خود لکھے ہیں، بانی سلسلہ نے۔ لیکن اگر کوئی شخص اب ہی کہے: ”نہیں جی، اس کے معنی ولد الحرام کے ہیں“ تو اس کا علاج بانی سلسلہ کے پاس نہیں، نہ میرے پاس اور نہ کسی اور کے پاس۔ تو جس معنی میں لکھنے والا کہتا ہے میں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اس معنی کو چھوڑنا نہیں چاہئے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہاں تو، مرزا صاحب! یہاں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ.....

مرزا ناصر احمد: اور ابھی میں نے آپ کو حوالہ پڑھ کر سنایا تھا.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں تو کہتا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: (اپنے وفد کے ایک رکن سے) وہ کہاں ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: ”جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو

ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔“ یہ سارا اسی Context میں ہے۔

مرزا ناصر احمد: جو شخص یہ کہتا ہے..... اصل میں اس میں یہ دقت پڑ گئی ہے کہ ”ہماری

فتح“ سے مراد لی جاتی ہے بانی سلسلہ احمدیہ کی فتح اور ہم مراد لیتے ہیں اسلام کی فتح۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! میں اس واسطے..... اس کے لئے میں نے

آپ کی توجہ ایک اور حوالے کی طرف اسی کے ساتھ پڑھ کے سنائی تھی۔ وہ ہے آپ کے خلیفہ ثانی

کا کہ: ”ہم فتح یاب ہوں گے اور ضرور تم مجرموں کی طرح ہمارے سامنے پیش ہو گے اور اس وقت

تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فتح مکہ کے دن ابو جہل اور اس کی پارٹی کا ہوا۔“ میں نے.....

مرزا ناصر احمد: ⁷⁸² اس جواب ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، میں نے.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، اس کا جواب میرے پاس تیار ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے، پڑھ کے سنائیے۔

مرزا ناصر احمد: یہ ہے ہی نہیں۔

اثارنی جزل.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، بنایا ہوا ہے۔ جس..... جو حوالہ جس اخبار کا دیا ہے۔ اس

میں ہے ہی کوئی نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ جو میں نے آپ کو پڑھ سنایا جی؟

مرزا ناصر احمد: یہ ”الفضل“، ۱۳..... ۳ جولائی ۱۹۵۲ء کا آپ نے حوالہ دیا ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔
 مرزاناصر احمد: ٹھیک ہے ناں؟
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔
 مرزاناصر احمد: یہ ”الفضل“ ۱۳.....۳ جولائی ۱۹۵۲ء کا آپ نے حوالہ دیا ہے؟
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔
 مرزاناصر احمد: ٹھیک ہے ناں؟
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔
 مرزاناصر احمد: یہ ”الفضل“ ۱۳.....۳ جولائی ۱۹۵۲ء میں اس نوعیت کا کوئی حوالہ موجود ہی نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: کسی اور ”الفضل“ میں ہے یا نہیں؟
 مرزاناصر احمد: ہمارے علم میں نہیں۔

(محمد پھر آئے ہم میں، پر پھر بحث)

جناب یحییٰ بختیار: اچھا مرزا صاحب! اس پر ایک اور بات مجھے یاد آگئی۔ پیشتر اس کے کہ یہ مضمون ختم ہو۔ آپ نے اس دن فرمایا کہ جو قصیدہ مرزا صاحب کی تعریف میں اکمل

۱۔ دنیائے انصاف میں مرزاناصر احمد جیسا ضدی، مکار اور عیار شاید کوئی ہو؟ یہ حوالہ ۳ جولائی ۱۹۵۲ء کا نہیں۔ نقل در نقل میں ۳ جنوری، ۳ جولائی ہو گیا۔ اس پر مرزاناصر چکر در چکر کاٹ کر لومڑی کی بھٹ میں گھسنے کے درپے ہے۔ مرزاناصر احمد تو حساب کتاب پر چلا گیا۔ تاہم قادیانیوں سے درخواست ہے کہ ۳ جنوری ۱۹۵۲ء اخبار الفضل لاہور ص ۳-۴ پر ہے ”گو ہماری ہر جگہ مخالفت کی جاتی ہے لیکن ذرا غور کرو..... اور اپنی اکثریت کے زعم میں دوسروں سے بہ جبر اپنے مسلک کو منوانے کی کوشش کرتا ہے..... تم اس قسم کی باتیں انگریزوں اور ہندوؤں کے متعلق کیوں نہیں کہتے یہ محض اکثریت میں ہونے کا نتیجہ ہے کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ لیکن غور کرو کیا ابو جہل کی بھی یہی دلیلیں نہیں تھیں..... آخر آج جو دلیل تم دیتے ہو کیا وہی دلائل ابو جہل نہیں دیا کرتا تھا..... جب محمد رسول اللہ ﷺ نے مکہ فتح کیا اور اکثریت کا گھمنڈ کرنے والے لوگ آپ ﷺ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ ﷺ نے انہیں فرمایا بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے..... میں بھی کہتا ہوں کہ اس دن جب تمہارا اکثریت میں ہونے کا غرور ٹوٹ جائے گا..... تو خود اس وقت میں ہوں یا میرا قاتل تم سے بھی سلوک کیا جائے گا۔

۱۱۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

صاحب نے لکھا۔⁷⁸³ میں نے کہا کہ یہ مرزا کی موجودگی میں..... جو مجھے *Instructions* ملی تھیں اور مجھے کہا گیا تھا..... کہ مرزا صاحب کی موجودگی میں سنایا گیا اور انہوں نے ”جزاک اللہ“ کہا۔ تو آپ نے کہا ”نہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ اس کے سامنے کبھی نہیں سنایا گیا اور اس بات کی تردید ہو چکی ہے۔“

مرزانا صراحتاً: جی، اور خود جو یہ لکھنے والے ہیں قاری اکمل صاحب.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی؟

مرزانا صراحتاً: ان کی طرف سے بھی تردید ہو جانے کے گواہ ہیں ہمارے پاس.....

جناب یحییٰ بختیار: تو وہ انہوں نے تردید.....

مرزانا صراحتاً: اور، اور.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یعنی آپ نے کہا تردید ہو چکی ہے۔ میں.....

مرزانا صراحتاً: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوئی تردید؟ تو آپ نے کوئی

نوٹ کیا ہوگا؟

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ، یہ مجھے یاد تھا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ

میرے پاس ہے حوالہ۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، جو تو آپ نے کہا کہ..... تو ان کے پاس ہوگا وہ۔ یہ

”بدر“ اخبار ہے جس میں وہ نظم چھپی ہے۔ مگر یہ بات جو میں نے کہی.....

مرزانا صراحتاً: ہاں، وہ تردید اور چیز ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ میں نے کہا، آپ نے کہا کہ تردید کی تھی کہ مرزا صاحب

کی موجودگی میں یہ ہوا اور مرزا صاحب.....

مرزانا صراحتاً: ہاں، یہ تردید ہو چکی ہے۔ یہ (اپنے وفد کے ایک رکن سے) کچھ

نروس سے ہیں۔ یہ لے کے آئے ہوئے تھے۔ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ میں لے کے جا رہا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں نے تو..... اس کے بعد مجھے پھر پوچھا گیا۔

⁷⁸⁴ مرزانا صراحتاً: اس کی تردید ہوئی ”الفضل“ ۱۹ اگست ۱۹۳۴ء میں۔

جناب یحییٰ بختیار: کس نے کی ہے؟

مرزانا صراحتاً: خلیفہ ثانی نے، جو اتھارٹی تھا اپنے وقت میں۔

جناب یحییٰ بختیار: انہوں نے کہا کہ ان کی موجودگی میں نہیں ہوئی ہے؟
 مرزا ناصر احمد: انہوں نے کہا کہ یہ ساری ہے ہی غلط۔ انہوں نے یہ کہا: ”اگر اس
 کا مطلب یہ ہے کہ درجہ میں بڑے ہیں تو یقیناً کفر ہے۔“ بڑی سخت تردید کی ہے۔ لیکن اگر مراد یہ
 ہے کہ اس زمانے میں اشاعت دین زیادہ ہوئی تو یہ قرآن کریم کے.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! میرا سوال ہی مختلف تھا۔ اسی واسطے.....
 کیا یہ نظم مرزا صاحب کی موجودگی میں پڑھی گئی؟ آپ نے کہا ”نہیں“.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، میں کہتا ہوں.....
 جناب یحییٰ بختیار:..... وہ تو دوسری بات ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نظم
 کا۔ دیکھئے ناں جی.....

مرزا ناصر احمد: خلیفہ ثانی نے کہا کہ کفر ہے، جس معنی میں لیا جا رہا ہے ناں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا۔ میرا سوال.....
 مرزا ناصر احمد: میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، وہ تو ٹھیک ہے۔ تو آپ.....
 مرزا ناصر احمد: خلیفہ ثانی نے کہا یہ کفر ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: یہ مطلب جو ہے، کفر ہے؟
 مرزا ناصر احمد: ہاں، وہی ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: اگر اس مطلب میں لفظی.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، یہ کفر ہے.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میرا سوال یہ اور تھا۔
 مرزا ناصر احمد:⁷⁸⁵..... اور میں یہ کہتا ہوں کہ بانی سلسلہ احمدیہ کے سامنے یہ نظم
 پڑھی جاتی اور وہ اس کو سنتے تو اس شخص کو جماعت سے باہر نکال دیتے۔

۱ فقیر راقم پہلے ۲۲ اگست ۱۹۴۴ء الفضل قادیان ج ۳۲ نمبر ۱۹۶ ص ۴ کے حوالہ سے
 پہلے حوالہ دے چکا ہے کہ ”یہ نظم مرزا کی موجودگی میں پڑھی گئی۔ مرزا خوشخط قطعہ گھر لے گیا۔ نظم سن
 کر ”جزاک اللہ“ کہا۔“ اب مرزا ناصر انکاری ہے تو سوائے قرآنی آیت ”لعنت اللہ علی الکاذبین“
 پڑھنے کے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا میں انصاف نام کی کوئی چیز ہے تو اسے میں دھائی دیتا ہوں
 کہ حوالہ پڑھ کر فیصلہ کریں مرزا ناصر کتنا بڑا کذاب تھا۔

۱۲۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: تو پھر یہ انہی کی حیات میں ”البدز“ میں شائع ہوا اور ان کو جماعت سے نہیں نکالا گیا۔

مرزا ناصر احمد: ان کے علم میں نہیں آیا ہوگا۔ اب اس وقت ”الفضل“ پچھلے دس سال.....
جناب یحییٰ بختیار: ۱۹۰۳ میں، ۱۹۰۶ء میں شائع ہوا۔ مرزا صاحب کا دو سال بعد..... ”بدز“ ہے۔ یہ ۲۵ اکتوبر کے ”البدز“ میں شائع ہوا ہے۔

مرزا ناصر احمد: ”بدز“ میں شامل..... شائع ہوا ہے۔ اور ہم نے..... اس کے بعد جو ”بدز“ کے سارے جو پرچے ہیں نا، ان میں سے ہم نہیں گزرے۔ اس تردید کی تلاش میں، اس کے لئے وقت چاہئے۔

جناب یحییٰ بختیار: تو میں پھر آپ کی توجہ کے لئے.....
یہ مجھے دکھا دیجئے۔ میرا خیال ہے.....

(To Maulana Muhammad Zafar Ahmed Ansari)

Ansari Sahib, if you don't mind, you read it, because I am tired.

(مرزا ناصر سے) یہ ایک لمبا مضمون ہے۔ اسی سلسلے میں ”الفضل“ میں، وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔

مرزا ناصر احمد: یہ ”الفضل“ کا نمبر کیا ہے؟ پرچہ کون سا ہے؟
ایک رکن: ”الفضل“ مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۴۳ء۔

جناب یحییٰ بختیار: ۱۹۳۳ء کے بعد ۱۹۴۳ء کی بات ہے اور میرے خیال میں اسل صاحب کی طرف سے یہ کوئی.....

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: اس میں اس کی سرخی ہے: ”کیا مولوی محمد علی صاحب سراسر غلط اور بے بنیاد الزام واپس لیں گے؟“ اخبار ”الفضل“ ۱۳ اگست ۱۹۴۳ء میں یہ وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ جس شعر کے مفہوم کو مولوی محمد علی صاحب نے یہاں الفاظ: ”اندر بیٹھ کر یہی سبق دیا جاتا تھا۔“

786 اور اسی کو پڑھ کر شاعر نے کہا تھا کہ ایک حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ دنیا میں آئے ہیں تو پہلے سے بڑھ کر شان میں آئے ہیں۔ (پیغام صلح نمبر ۲۰، ۲۳ اگست ۱۹۴۳ء) بگاڑ کر خلافت ثانیہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ قرار دیا ہے اور اس نظم کا ایک حصہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

۱۲۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

حضور میں پڑھی گئی اور خوش خط لکھے ہوئے قطعہ کی صورت میں پیش کی گئی اور حضور سے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ اس وقت کسی نے اس شعر پر اعتراض نہیں کیا.....؟“
مرزا ناصر احمد: یہ جب پڑھ لیں گے تو کر لیں گے۔
مولانا ظفر احمد انصاری: ”..... حالانکہ.....“
مرزا ناصر احمد: اچھا سنا دیجئے۔

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: ”..... حالانکہ مولوی محمد علی صاحب اور اعوانم موجود تھے اور جہاں تک حافظہ مدد کرتا ہے، بوٹوق کہا جاسکتا ہے کہ سن رہے تھے۔ اگر وہ اس پر بوجہ مرور زمانہ انکار کریں تو یہ نظم ”بدر“ میں چھپی اور شائع ہوئی۔ اس وقت ”بدر“ کی پوزیشن وہی تھی، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر تھی جو اس عہد میں جو ”الفضل“ کی ہے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب ایڈیٹر سے ان لوگوں کے عہدہ و بے تکلفانہ تعلقات تھے۔ وہ خدا کے فضل سے زندہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھ لیں اور خود کہہ دیں کہ آیا آپ میں سے کسی نے بھی اس پر ناراضی یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا؟ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شرف سماعت حاصل کرنے اور ”جزاکم اللہ تعالیٰ“ کا صلہ پانے اور اس قطعہ کو اندر خود لے جانے کے بعد کسی کو حق ہی کیا پہنچتا تھا کہ اس پر اعتراض کر کے اپنی کمزوری ایمان و قلت عرفان کا ثبوت دیتا۔ اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ اس وقت اس شعر کے وہی معنی سمجھے گئے جو ”خطبہ الہامیہ“ کی عبارت کے ہیں اور جو ”الفضل“ میں مع ترجمہ شائع کئے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد کسی غیر احمدی اخبار نے بھی کچھ نہیں لکھا اور شیخ رحمت اللہ صاحب، مرزا یعقوب بیگ صاحب، سید محمد حسین صاحب.....“

787 مرزا ناصر احمد: ”خطبہ الہامیہ“ کا اس میں کوئی حوالہ ہے؟ صفحہ؟

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: ”خواجه کمال الدین صاحب، جب قادیان آتے تو حضرت مفتی صاحب کی ملاقات کے ساتھ ہی مجھ سے بھی ملتے رہتے۔ بلکہ میرے کمرے میں بوجہ ”بدر“ کے کاروبار کے آکر بیٹھ جاتے۔ خواجه صاحب نے مجھے کہا کہ میں حضرت صاحب (مسیح موعود) کی نظم فارسی کو اردو کا لباس پہنانا چاہتا ہوں۔ آپ اس میں شریک ہوں۔ چنانچہ اسی وقت ہم نے

بدہ است چشم خود آب درختان محبت را

نظم کا ترجمہ اردو شعروں میں کیا۔ ابتدائی زمانہ تھا اور میری طبیعت بھی حاضر رہتی۔ کئی شعرنی البدیہہ ہوتے اور خواجه صاحب احسن و مرجا کہہ کر لکھ لیتے۔ دیر جو ہوئی تو مولوی محمد علی صاحب بھی تشریف لے آئے اور خواجه صاحب سے شکوہ کیا کہ کام ضروری تھا اور آپ یہاں بیٹھے

۱۲۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ہیں۔ پھر خود بھی تھوڑی دیر بیٹھ گئے؟ اس واقعہ کا ذکر یہ بتانے کے لئے کیا گیا کہ گو میری ابتداء عمر تھی۔ مگر یہ معزز اصحاب میرے پاس بیٹھنے اور آنے جانے سے احتراز نہیں کرتے تھے اور کچھ تکلف درمیان میں نہ تھا۔ اگر کوئی امر ناپسندیدہ ہوتا تو مجھے کہہ سکتے تھے مفتی صاحب سے کہہ کہ اس کی تردید یا کم از کم تشریح یا مجھے تنبیہ کر سکتے تھے۔ خیر یہ تو ہوا میری نسبت، جہاں تک مجھ سے تعلق ہے۔ مگر یہ ثابت اور معلوم ہونے کے باوجود اس وقت برسر پرکار یہ لوگ تھے جو اب ”پیغام صلح“ سے متعلق ہیں اور حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ کی عمر ۱۷ سال کی تھی۔ وہ ان پر ۳۸ سال کے بعد یہ الزام کیوں دیتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کے نتیجے میں یہ شعر کہا گیا۔ حالانکہ یہ شعر ”خطبہ الہامیہ“ کو پڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں کہا گیا اور ان کو سنا بھی دیا گیا اور چھاپا بھی گیا۔ پس کا مولوی محمد علی صاحب تسلیم کریں گے کہ الزام لگانے میں وہ حق بجانب نہیں ہیں اور صفائی کے ساتھ اسے واپس لیں گے۔ جس کے نیچے دراصل وہ خود آتے ہیں۔ یہ ”بینوا و تو جروا“ معمر کوئی حدیث الاحد حل نہیں کر سکتا اور نہ شیخ انعام الحق حل کر سکتے ہیں جو اسلام کے بارے میں اپنی عملی رائے دے کر اپنی حیثیت اور درانت فہم واضح کر چکے ہیں اور نہ شیخ عبدالرحمن صاحب مصری کا منصب ہے، کیونکہ وہ اس وقت طالب علم ہائی سکول کے تھے:

داستان اہل گل را بشنوید از عندلیب زانغ و بوم آشفته تر گویند این افسانہ را
اکمل غنی اللہ عنہ!

اور یہ نظم جو ہے، یہ نظم گویا یہ ہے..... اب اکمل آپ بولے..... کہ:

امام اپنا عزیز! اس زماں میں	غلام احمد ہوا دارالاماں میں
غلام احمد ہے عرش رب اکرم	مکان اس کا ہے گویا لامکان میں
غلام احمد رسول اللہ ہے برحق	شرف پایا ہے نوع انس و جاں میں
غلام احمد مسیحا سے ہے افضل	بروز مصطفیٰ ہو کر جہاں میں
غلام احمد کا خادم ہے جو دل سے	بلاشک جائے گا باغ جناں میں
تسلی دل کو ہو جاتی ہے حاصل	یہ ہے اعجاز احمد کی زباں میں
بھلا اس معجزے سے بڑھ کے کیا ہو	خدا اس قوم کا مارا جہاں میں
قلم سے جو کام کر کے دکھایا	کہاں طاقت تھی یہ سیف و سناں میں
محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں ⁷⁸⁹	اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل	غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

۱۲۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

غلام احمد مختار ہو کر یہ رتبہ تو نے پایا ہے جہاں میں
تیری مدحت سرائی مجھ سے کیا ہو کہ سب کچھ لکھ دیا راز نہاں میں
خدا ہے تو، خدا تجھ سے ہے واللہ تیرا رتبہ نہیں آتا بیباں میں
مرزانا صراحمہ: ہاں، پڑھ لیں اسے۔

Mr. Chairman: This file may beThis file of newspapers may be given to the witness, may be sent to him. The librarian may take this. If they can check up just now.

(جناب چیئرمین: اخبارات کی یہ فائل گواہ کو دینا لاہیرین (گواہ) کے پاس لے جائے۔ اگر وہ اسی وقت چیک کر سکتے ہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: I have to refer to some other questions from it. Sir, but the dates have been noted down.

(جناب یحییٰ بختیار: مجھے کئی دوسرے سوال کرنا ہیں جن کے بارے۔ تاریخیں نوٹ کر رکھی ہیں)

مرزانا صراحمہ: ہاں جی۔

جناب یحییٰ بختیار: Date آپ نے نوٹ کر لی ہے ناں جی اس کی؟

مرزانا صراحمہ: ہاں، یہ دوبارہ پڑھ دیجئے DATES۔

میاں محمد عطاء اللہ: یہ ”الفضل“ جو ہے جس میں وہ تردید نکلی ہے یہ صحیح ہے۔

مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں۔

میاں محمد عطاء اللہ: وہ ۲۲ اگست ۱۹۴۴ء۔

مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں، ۱۹۴۴ء۔

⁷⁹⁰ میاں محمد عطاء اللہ: اور جو نظم چھپی ہے وہ ”البدر“ کے اندر اور اس کی تاریخ ہے

۲۵ اکتوبر، ۱۹۰۶ء۔

مرزانا صراحمہ: ۲۵ اکتوبر ۱۹۰۶ء۔

میاں محمد عطاء اللہ: ہمارے پاس دونوں اصل موجود ہیں۔

۱۲۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحمہ: جی۔
میاں محمد عطاء اللہ: آپ دیکھ لیں ان کو۔
مرزانا صراحمہ: ہاں جی۔

Mr. Chairman: It may be given to the witness.

And if he can say that.

(جناب چیئرمین: گواہ کو دے دیں۔ اگر وہ جواب دے سکے)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, they have got their own records. I have to refer to some other passages from this.

(جناب یحییٰ بختیار: ان کے پاس اپنا ریکارڈ ہے۔ مجھے کئی اور حصوں کا حوالہ دینا ہے)

Mr. Chairman: I see. (جناب چیئرمین: میں سمجھ گیا)

Mr. Yahya Bakhtiar: But if they do not have it, and if they do not have the records, then, naturally.....

(جناب یحییٰ بختیار: لیکن اگر ان کے پاس اپنا ریکارڈ نہ ہو تو پھر.....)

جناب چیئرمین: ہاں!

Mr. Yahya Bakhtiar: no, if they do not have it.....

(جناب یحییٰ بختیار: (مرزانا صراحمہ سے) نہیں! اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو.....)

مرزانا صراحمہ: نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے یہ۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ کے پاس ۱۹۴۴ء کا ”الفضل“ نہیں ہوگا؟

مرزانا صراحمہ: نہیں اور یہ ”بدر“ بھی نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ”بدر“ میں تو صرف نظم چھپی ہے۔ وہ تو یہ آپ کو دکھادیتے ہیں۔

مرزانا صراحمہ: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔

Mr. Chairman: It may be shown to the witness, in original. It may be shown to the witness. Why not? Is it not shown?

۱۲۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

(جناب چیئر مین: گواہ کو دکھادیں۔ کیوں گواہ کو نہیں دکھا دیتے۔ ابھی (گواہ) کو دیں)
 791 جناب یحییٰ بختیار: آپ دیکھ لیجئے۔

Mr. Chairman: Just it may be sent to the witness.

The other may be also sent.

(جناب چیئر مین: ابھی صرف گواہ کو دے دیں)
 میاں عطاء اللہ صاحب ان کو چھوڑ دیں ناں۔ حکم دین کو دے دیں تو یہ پہنچ جائے گی۔
 مرزانا صرا احمد: یہ اخبار ”بدر“ میں جس میں یہ نظم چھپی ہے۔ اس میں یہ نوٹ
 نہیں ہے یہاں.....

Mr. Chairman: No.

مرزانا صرا احمد: صرف نظم ہے یہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: میں نے عرض کی.....
 مرزانا صرا احمد: جی۔
 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب حیات تھے، ۱۹۰۶ء میں، جب یہ چھپی۔
 مرزانا صرا احمد: ہاں۔ ویسے اس میں نوٹ نہیں ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔
 مرزانا صرا احمد: اس میں نوٹ یہ نہیں ہے.....
 جناب یحییٰ بختیار: مگر وہ Writer جو ہے.....
 مرزانا صرا احمد: وہ ۱۹۴۴ء کا؟
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔
 مرزانا صرا احمد: اس میں یہ ہے کہ وہ پڑھ کے سن گئے۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ، وہ مولوی محمد علی صاحب نے کچھ اعتراض کیا تھا.....
 مرزانا صرا احمد: ہاں، ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: کچھ مرزا صاحب نے کچھ کہا تھا۔ کچھ مرزا صاحب بیشر
 الدین صاحب نے، تو پھر مولوی محمد علی صاحب نے.....

Mr. Chairman: No, the first question would be

۱۲۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

that the witness, after having seen "Badr" 1906, will give his opinion whether it is correct or not.

(جناب چیئر مین: نہیں! پہلا سوال یہ ہے کہ گواہ ۱۹۰۶ء کے "البدر" کو دیکھنے کے بعد بتائیں کہ کیا صحیح ہے؟)

⁷⁹² Mr. Yahya Bakhtiar: He has said that there is not note by the writer.

(جناب یحییٰ بختیاری: اس (گواہ) نے کہا کہ اس میں کوئی نوٹ نہیں ہے)

Mr. Chairman: But it is correctly recorded?

جناب یحییٰ بختیاری: ہاں!

Mr. Chairman: So, this note will come. And then that dated 1944 or 46. This the witness has replied that he will tell tomorrow.

(جناب چیئر مین: لیکن یہ اس طور پر لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ نوٹ ریکارڈ پر آئے گا اور پھر ۱۹۴۴ء، ۱۹۴۶ء والا گواہ نے کہا کہ وہ کل جواب دے گا)

Mr. Yahya Bakhtiar: Then, he will....

Mr. Chairman: So far as 1906 is concerned, it is on the record that it was correctly recorded.

(جناب چیئر مین: جہاں تک ۱۹۰۶ء کا حوالہ ہے۔ (البدر کی نظم کا) صحیح ریکارڈ ہوا ہے)

Mr. Chairman: No, no, explanation can come.

(جناب چیئر مین: کسی وضاحت کی ضرورت نہیں)

جناب یحییٰ بختیاری: چیئر مین صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔

مرزا ناصر احمد: جی ہاں، وہ تو دیکھ لیا۔

جناب یحییٰ بختیاری: ہاں، آپ نے دیکھ لیا، تسلی کر لی اور آپ نے یہ فرمایا کہ جہاں تک "بدر" کا تعلق ہے، اس میں کوئی اس قسم کا نوٹ نہیں.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔

۱۲۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: جو یہ کہے۔ سوائے اس کے نظم چھپی ہے۔ مگر یہ نوٹ نہیں کہ یہ مرزا صاحب کی موجودگی میں پڑھی گئی یا انہوں نے ”جزاک اللہ“ کہا۔ کچھ ایسی بات نہیں ہے۔ باقی جو ہے۔ وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ Controversy کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں.....

Mr. Chairman: Yes.

جناب یحییٰ بختیار: اس کا جواب آپ کل دیں گے۔

Mr. Chairman: No, there are two points: one is publication of the poem in the 'Al- Badr'....

(جناب چیئر مین: دو باتیں ہیں۔ ایک نظم کی البدر میں شائع ہونے کے متعلق.....)

Mr. Yahya Bakhtiar: Those are not denied, Sir.

(جناب یحییٰ بختیار: اس سے انکار نہیں کیا گیا)

Mr. Chairman: That's not denied.

(جناب چیئر مین: ان سے انکار نہیں کیا گیا ہے۔ (مداخلت)

Mr. Yahya Bakhtiar: That's not denied.

(جناب یحییٰ بختیار: کیا ان کا اقرار نہیں کیا گیا؟)

Mr. Chairman: That is admitted.

(جناب چیئر مین: اس کا اقرار کیا گیا ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: They say that in the publication of Al- Badar....

(جناب یحییٰ بختیار: البدر کی اشاعت میں نظم بغیر کسی نوٹ کے شائع ہوئی.....)

Mr. Chairman: Yes. (جی ہاں!)

Mr. Yahya Bakhtiar: ... The poem, is given without any comments or note.

Mr. Chairman: Without any comments.

Mr. Yahya Bakhtiar: And so far as the other is concerned....

Mr. Chairman: Yes.

۱۲۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

Mr. Yahya Bakhtiar: They have seen it; they will give the reply tomorrow.

Mr. Chairman: Yes.

The Delegation is permitted to withdraw.

(جناب چیئرمین: وفد کو اجازت دے دی جائے)
 جناب یحییٰ بختیار: وہ تو آ گیا ناں جی، قاضی اکمل کا بیان ہے جو اس.....
 مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: اٹارنی جنرل صاحب کے توسط سے ایک بات
 عرض کرنی تھی۔ وہ یہ کہ ڈپلیکیشن نے آج بعض فتاویٰ کا ذکر کیا ہے، Witness نے۔ تو وہ
 اور بیجٹل فتاویٰ..... (مداخلت) دیکھئے ناں، ہم تمام اور بیجٹل بکس ان کو سپلائی کرتے ہیں تو وہ
 اور بیجٹل فتاویٰ.....

Mr. Chairman: That we will discuss just afterwards.

⁷⁹⁴ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: ان سے اور بیجٹل فتاویٰ طلب کئے جائیں۔

Mr. Chairman: That we will discuss.

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: انہوں نے کہا کہ اہل حدیث نے جو فتاویٰ
 دیئے ہیں.....

Mr. Chairman: Just afterwards.

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: ان سے اور بیجٹل مانگے جائیں تاکہ وہ داخل کریں۔
 جناب یحییٰ بختیار: میں پوچھ لیتا ہوں، مولانا! میں پوچھ لیتا ہوں۔
 مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: بغیر اور بیجٹل کے ان کا بیان مکمل نہیں ہونا چاہئے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مولانا! میں پوچھ رہا ہوں۔ مجھے مولانا نے پہلے ہی کہا تھا۔
 مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: جب ہم اور بیجٹل داخل کرتے ہیں.....
 جناب چیئرمین: ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
 مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: وہ کیوں نہیں داخل کرتے ہیں؟
 جناب چیئرمین: ٹھیک ہے، وہ پوچھ رہے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: آپ نے مجھے کہا اور میں بھول گیا۔ وہ میں نے مرزا صاحب

سے عرض کرنی تھی۔

(مرزانا صراحمہ سے) جو فتاویٰ کا ذکر کیا آپ نے صبح کی نشست میں.....

مرزانا صراحمہ: جی، جی۔

جناب یحییٰ بختیار: جب آج صبح کی نشست میں، یہ جو بریک سے پہلے کی

نشست تھی۔ آپ نے جو ذکر کیا کہ یہ فتاویٰ بریلویوں، وہابیوں نے دیئے ہیں.....

مرزانا صراحمہ: ہاں، اس زمانے میں دیئے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: تو وہ جو کتابیں ہیں..... اور بیکٹل سے ان کا یہ مطلب نہیں کہ جو

انہوں نے پہلے لکھا تھا..... جو کتابیں ہیں وہ آپ ذرا دکھادیں ان کو، جہاں سے آئی ہیں۔

مرزانا صراحمہ: ٹھیک ہے۔

795 جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔

مرزانا صراحمہ: ٹھیک ہے۔ وہ کل پیش کر دیں گے۔ یہاں رکھ دیں گے۔

جناب چیئرمین: کل آجائیں گی کتابیں۔

The witness has promised to bring the books tomorrow.....the original books.

مرزانا صراحمہ: ہاں، اور بیکٹل بکس، وہ لاہور ری میں دے دیں گے۔

Mr. Chairman: The Delegation is permitted to withdraw, tomorrow at 10:00 a.m. دس بجے صبح جی!

(The delegation left the Chamber)

(دفعہ چلا گیا)

Mr. Chairman: Honourable members may kindly keeps sitting. (جناب چیئرمین: معزز اراکین! تشریف رکھیں براہ کرم)

نہیں، ہاں بند کر دیں جی۔

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: ان کو تو چونکہ جانے سے پہلے بتانا تھا کہ وہ لے کے

آئیں گے واپس۔

جناب چیئرمین: نہیں، نہیں۔

۱۳۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

PRODUCTION OF ORIGINAL FATWAHS

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: مطلب عرض کرنا یہ ہے نہیں، نہیں، میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے توسط سے آزیہل عزت مآب انارنی جنرل صاحب سے عرض کروں گا کہ کتابیں جو ہیں مختلف، وہ انہوں نے بھی اپنے یہاں چھاپی ہیں۔ مسلمانوں میں Misunderstanding پیدا کرنے کے لئے، ان کو آپس میں لڑانے کے لئے، اور پینل فتاویٰ..... اور پینل، کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتاویٰ جو علمائے ہندوستان نے پاکستان نے الحمد للہ نے، غیر مقلد نے، کسی نے بھی Issue کئے جائیں۔ اس پر مفتیوں کی مہر ہوتی ہے.....

796 جناب چیئر مین: نہیں، نہیں، اس میں عرض کروں.....

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: مثلاً دیوبند دارالعلوم، میں عرض کرتا ہوں.....

جناب چیئر مین: میری بات سن لیں۔

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: ایک منٹ، میں عرض کر لوں۔

جناب چیئر مین: ایک منٹ میری.....

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: مجھے عرض کرنے دیں آپ.....

جناب چیئر مین: ایک منٹ.....

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: میری بات پوری ہونے دیں آپ.....

جناب چیئر مین: Controversy ختم ہو جائے گی۔ وہ کتاب اپنی پیش کریں

گے جس میں ان فتاویٰ کا ذکر ہوگا۔ آپ ان سے صرف ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہ فتاویٰ، سوائے آپ کی کتابوں کے، اگر واقعی ان علماء نے دیئے تھے، تو کسی اور کتاب میں ان عالموں کی یا ان مدرسوں کی یا ان کتبوں کی ہے یا نہیں ہے۔

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: بالکل، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ.....

Mr. Chairman: This one question will solve the problem. (جناب چیئر مین: یہ سوال مسئلہ کو حل کر دے گا)

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: ”فتاویٰ“ کی شکل..... میں ایک بات عرض کر

دوں..... فتویٰ جو ہوتا ہے مثلاً دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ نکلا۔ اس پر مفتی کی اصل مہر لگی ہوئی

ہوتی ہے اور دارالعلوم دیوبند سے وہ فتوے شائع ہوتے ہیں اور بریلی سے جو فتاویٰ نکلے ان پر مفتی

کی مہر ہوتی ہے باقاعدہ.....

۱۳۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب چیئرمین: اور جو فتوے آپ جاری کرتے ہیں؟
 مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: علمائے فرنگی محل سے جو فتاویٰ نکلتے ہیں، مثلاً
 ملتان سے، خیر المدارس سے، قاسم العلوم سے، انوار العلوم سے، فتاویٰ نکلتے ہیں.....
 جناب چیئرمین: اور جو فتاویٰ آپ جاری کرتے ہیں!
⁷⁹⁷ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: اور بنگلہ ہوتی ہے وہ، اس پر، سب پر مہر
 ہوتی ہے مفتی کی۔ تو وہ اور بنگلہ فتاویٰ ان کو پروڈیوس کرنے چاہئیں۔ اگر وہ اور بنگلہ فتاویٰ پروڈیوس
 نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی غلط دے رہے ہیں اور ہم کو تردید کرنی چاہئے۔
 جناب یحییٰ بختیار: دیکھیں! میں.....

Mr. Chairman: The question will come. ٹھیک ہے۔
 (جناب چیئرمین: سوال کیا جائے)

Yes, Mr. Attorney-General.

جناب یحییٰ بختیار: میں جناب مولانا صاحب سے.....
 مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: کا طریقہ معلوم ہو جائے۔
 جناب یحییٰ بختیار: میں مولانا صاحب! میں مولانا صاحب!.....!

Mr. Chairman: The reporters can go, They are free.....
 (جناب چیئرمین: پریس والے جاسکتے ہیں)

جناب یحییٰ بختیار: میں نے اتنا عرض کیا کہ جب آپ نے کہا.....

Mr. Chairman: It is just our discussion.
 (جناب چیئرمین: یہ اپنی شورائی کی کارروائی ہے)

*The special committee of the whole House
 subsequently adjourned to meet at ten of the clock, in the
 morning, on Saturday, the 10th August 1974.*

(پورے ایوان پر مشتمل خصوصی کمیٹی کا اجلاس ملتوی ہوا۔ ۱۰ اگست ۱۹۷۴ء بروز ہفتہ کو
 صبح دس بجے منعقد ہوگا)

۱۳۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان



THE
NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

PROCEEDINGS
OF
THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE

OFFICIAL REPORT

Saturday, the 10th August, 1974

(Contains No. 1—21)

CONTENTS

	Pages
1. Recitation from the Holy Qur'an	801
2. Cross-Examination of the Qadiani Group Delegation	802-826
3. Programme for further sittings of the Committee/Assembly	829-831
4. Cross-Examination of the Qadiani Group Delegation—(Continued)	831-850
5. Programme for further sittings of the Committee	850-853

PRINTED BY THE MANAGER, PRINTING CORPORATION OF PAKISTAN PRESS, ISLAMABAD
PUBLISHED BY THE NATIONAL BOOK FOUNDATION, ISLAMABAD

1

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگان، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

No. 06

400



THE
NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

PROCEEDINGS
OF
THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE

OFFICIAL REPORT

Saturday, the 10th August, 1974

(Contains No. 1—21)

۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے بازخواں ایس قصہء پاریندر.....

⁸⁰¹ **THE NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN**

(قومی اسمبلی پاکستان)

PROCEEDINGS

OF

**THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE.**

OFFICIAL REPORT

Saturday, the 10th August, 1974.

(مکمل ایوان کی خصوصی کمیٹی بند کرے کی کارروائی)

(۱۰ اگست ۱۹۷۴ء، بروز ہفتہ)

*The Special Committee of the Whole House met in
Camera in the Assembly Chamber, (State Bank Building),
Islamabad, at ten of the clock, in the morning. Mr.
Chairman (Sahibzada Farooq Ali) in the Chair.*

(مکمل ایوان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس اسمبلی چیمبر (سٹیٹ بینک بلڈنگ) اسلام آباد

صبح دس بجے جناب چیئرمین (صاحبزادہ فاروق علی) کی زیر صدارت منعقد ہوا)

(Recitation from the Holy Quran)

(تلاوت قرآن شریف)

۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگان، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے بازخواں ایس قصہء پاریندر.....

Mr. Chairman: They may be called.

(جناب چیئر مین: انہیں بلا لیں)

(Pause)

Where is Maulana Atta Ullah? Then you can avail this opportunity full.

Ch. Jahangir Ali: Mr. Chairman....

(چوہدری جہانگیر علی: جناب چیئر مین.....)

Mr. Chairman: Yes. Ch. Jahangir Ali.

(جناب چیئر مین: جی، چوہدری جہانگیر علی صاحب)

چوہدری جہانگیر علی: ایک گزارش ہے جناب پانی پلانے کے لئے کوئی

Servant (ملازم) ہوا کرتا تھا۔

جناب چیئر مین: جی۔

⁸⁰² چوہدری جہانگیر علی: پانی پلانے کے لئے ایک *Servant* (ملازم) ہوا کرتا

تھا۔ آج کل اس کی ڈیوٹی بھی نہیں ہے۔ وہاں میرا خیال ہے ایک دو آدمیوں کی ڈیوٹی وہاں لگادی جائے، تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔

جناب چیئر مین: اچھا ٹھیک ہے۔ *Thank you very much, I will*

see that it. (آپ کا بہت بہت شکریہ، میں اس کو دیکھوں گا) بھی انہیں آج ہی کریں۔ *I*

am sorry. (میں معذرت خواہ ہوں)

(Pause)

Mr. Chairman: Yes, the Attorney- General.

(جناب چیئر مین: جی، اٹارنی جنرل)

CROSS- EXAMINATION OF THE QADIANI GROUP DELEGATION

(قادیانی وفد پر جرح)

Mr. Yahya Bakhtiar: Before I proceed, Sir, I had

۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے بازخواں ایس قصہء پاریندر.....

drawn Mirza Sahib's attention about three four days or five days ago to a resolution passed in Blackburn, England and Mirza Sahib said that they had not recieved any information or copy and this is a very branch of their community there and then I made enquiries from the Govt. to find out. I want to explain the position to Mirza Sahib and I have been informed now that under the instruction of Landon Mosque of Ahmadies, their resolutions, similar, terms, Similar language were passed all over England and they were distributed to the press, they were given to Embassy, they were sent to the Prime Minister. So this is a thing that not one small branch has passed this resolution. They were circulated to the press also, but they do not know whether the press took any note of it or published it. They are looking for that.

(برطانیہ کے ریزولیوشن کے بارہ میں استفسار)

(جناب یحییٰ بختیار: جناب والا! مزید کاروائی سے قبل (میں گزارش کروں گا کہ) تقریباً تین چار یا پانچ روز ہوئے میں نے مرزا صاحب کی توجہ اس ریزولیوشن کی جانب دلائی تھی جو کہ بلیک برن، انگلینڈ میں پاس کیا گیا تھا اور مرزا صاحب نے کہا تھا کہ وہاں پر ان کی جماعت کی ایک چھوٹی سی برانچ ہے اور یہ کہ انہیں اس ریزولیوشن کے بارے نہ کوئی اطلاع موصول ہوئی ہے اور نہ ہی ریزولیوشن کی نقل۔ چنانچہ حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے میں نے حکومت سے رابطہ قائم کیا۔ اب میں مرزا صاحب کو ریزولیوشن واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد احمدیہ لندن کی ہدایات کے مطابق یہ ریزولیوشن یکساں الفاظ اور یکساں زبان میں پورے انگلستان میں پاس کئے گئے تھے اور پریس (اخبارات) کو بھجوائے گئے تھے۔ یہ (ریزولیوشن) سفارت خانہ اور وزیراعظم کو بھی بھجوائے گئے تھے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ ریزولیوشن کسی چھوٹی سی برانچ نے پاس نہیں کئے تھے۔

۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

بلکہ تشہیر کے لئے اخبارات کو بھجوائے گئے۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اخبارات نے انہیں شائع کیا یا نہیں۔ اس بارے میں پڑتال ہو رہی ہے)

مرزانا صراحتاً: جو میں نے عرض کی تھی۔ وہ آپ کی اس وقت کی بات کے متعلق تھی،

وہ میں بھجوا چکا ہوں.....

جناب بیجی بختیار: ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں۔

مرزانا صراحتاً: وہ خط بھجوا چکا ہوں۔

جناب بیجی بختیار: میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ وہاں سے Information (معلومات) لیں گے، تو تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات رہے کہ ابھی مجھے جو Information (معلومات) مجھے ملی ہیں، اطلاع ملی ہے۔ اس کے مطابق اس قسم کے Language Resolution (انہی عبارت میں قرارداد) میں ہر جگہ احمدیہ کمیونٹی نے پاس کئے ہیں اور پھر ان کو Distribute (تقسیم) بھی کیا ہے۔

مرزانا صراحتاً: اور اخباروں میں چھپ گئے؟

جناب بیجی بختیار: اخباروں میں نہیں چھپے ابھی تک وہ دیکھ رہے ہیں اس کو، مگر

اخباروں کو دیئے گئے یہ Circulate (بھجوائے) کئے گئے۔

مرزانا صراحتاً: میں صرف اطلاع کے لئے.....

جناب بیجی بختیار: اور اگر کوئی جوکل میں نے درخواست کی تھی اور کوئی حوالے سے

کوئی تیاری ہے آپ کی تو پہلے آپ وہ.....

مرزانا صراحتاً: جی، جی وہ پہلے کا ہے۔ ایک تو بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا

چاہتا ہوں کہ آپ نے کل فرمایا تھا کہ وہ پندرہ ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق.....

جناب بیجی بختیار: مرزا صاحب! چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں جیسے میں نے

Resolution کی بات کہہ دی بیچ میں، کوئی چیز نہ جائے ناں جی، کہ بعد میں.....

مرزانا صراحتاً: نہیں، میں یہی کہنے لگا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز نہ جائے اور سمجھا

جائے کہ ہم نے جواب دینے سے گریز کیا۔

جناب بیجی بختیار: نہیں، نہیں۔ اسی لئے میری ڈیوٹی ہے کہ یہ آپ کی توجہ دلاؤں

اس چیز کے لئے کہ Otherwise it would be very unfair (بصورت دیگر

۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

میرے لئے یہ نامناسب ہوگا) نہیں وہ نہیں ہوگا۔

مرزا ناصر احمد: بس یہی میں کہنا چاہتا تھا، کہاں ہے؟

(Pause)

یہ کام جو ہے وہ چلتا رہنا چاہئے، آپ کی بھی یہی خواہش ہے اور میری بھی کہ جلدی ختم ہو۔ یہ کل میں نے ایک وعدہ یہ کیا تھا کہ جو عربی کے الفاظ ہیں ان کے متعلق لغت سے دیکھ کر میں یہاں پیش کر دوں گا۔ یہاں سے جب ہم گئے ہیں۔ کچھ دس بج گئے تھے اور آج صبح بھی وقت نہیں ہوتا اس لئے پورا وعدہ کو تو انشاء اللہ چھ بجے کے اس میں ہم کر دیں گے۔ لیکن ایک لفظ کے معنے دیکھنے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! میں ایک عرض کروں کہ اگر چھ بجے بھی نہ ہو سکے تو.....

مرزا ناصر احمد: نہیں میں چھ بجے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ ایسی چیز ہے کہ یہ *Clarification* (وضاحت) نہایت ہی ضروری ہے۔ *Misunderstanding* (غلط فہمی) کا دور ہونا ضروری ہے اور اسی لئے آپ کو تکلیف دی ہے اور ہم اتنا اس پر وقت لگا رہے ہیں۔ آپ بے شک اپنا *Time* (وقت) ضروری لے لیجئے تاکہ چیز یہ نہ ہو کہ بیچ میں ادھوری رہ جائے، تو اس کے لئے میں جہاں تک ہوں، میرا تعلق ہے۔ میری یہی کوشش ہے اور مجھے امید ہے کہ کمیٹی بھی یہی اتفاق کرے گی.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، کمیٹی بھی یقیناً.....

جناب یحییٰ بختیار: کہ اس پر پورا *Clarification* (وضاحت) ہونی چاہئے، تو آپ پیشک کل کر لیجئے اس میں کوئی.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، تو پھر میں ایک بات بتانا چاہتا تھا محترم مفتی صاحب کے لئے۔ ممکن ہے انہوں نے بھی کچھ سوچنا ہو کہ ”ذریعہ البغایا“ ہے۔ ”بغایا“ کا جو مفرد ہے اگر یہ ”بغی“ ہو تو اس کے ایک معانی ہیں، اور یہی ”بغایا“ کی جمع اور مفرد کی بھی ہے تو ہو سکتا ہے۔ جو میں بتاؤں گا وہ اور ہو، تو میں پہلے اس لئے بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بھی کچھ دیکھنا ہو، دیکھ لیں۔

(Pause)

۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

یہ ایک یہ حکم دیا گیا تھا کہ بانی سلسلہ کی بڑی ہی مختصر سوانح برائے ریکارڈ یہاں میں پیش کر دوں۔ وہ تیار ہے اور وہ دیر اسی لئے لگی کہ پہلے پندرہ بیس صفحے کی تھی۔ آپ نے کہا زیادہ لمبی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں! یہی میں نے نوٹ کیا تھا میں نے کہا اگر زیادہ آپ نے فائل کرنا ہے تو وہ فائل کر دیجئے اور اگر مختصر ہے تو پڑھ دیجئے۔
 805
 مرزا ناصر احمد: بالکل! دو صفحے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے جی۔
 مرزا ناصر احمد: میں پڑھ دیتا ہوں۔

Mr. Yahya Bakhtiar: Sir, I will make a request that when a record is prepared, this part should come in the beginning when I asked this question because it is relevant there, but it is not relevant....

(جناب یحییٰ بختیار: جناب! میں گزارش کروں گا کہ جب ریکارڈ مرتب کیا جائے تو یہ (سوانح عمری) ابتداء میں رکھی جائے)

Mr. Chairman: I will make a note of it.

(جناب چیئرمین: میں نے اسے نوٹ کر لیا ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: The founder of Ahmadiyya Movement and his life ___ Sketch should come in the beginning, then other questions. Otherwise it will not be....

(جناب یحییٰ بختیار: چونکہ جماعت احمدیہ کے بانی کی سوانح عمری سے متعلقہ ہے۔ اس لئے اسے ریکارڈ کے اوائل میں رکھا جائے)

Mr. Chairman: I will make a note of it.

(جناب چیئرمین: میں نے اسے نوٹ کر لیا ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: Thank you.

(جناب یحییٰ بختیار: آپ کی مہربانی)

مرزا ناصر احمد:

۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
 کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
 اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
 یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
 گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پاریندر.....

(مختصر سوانح بانی سلسلہ احمدیہ)

آپ ۱۳ فروری ۱۸۳۵ء کو قادیان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام مرزا غلام مرتضیٰ صاحب تھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم چند استادوں کے ذریعہ سے گھر پر ہی ہوئی۔

۱۔ مرزا ناصر احمد کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی پیدائش ۱۹۳۵ء میں ہوئی۔ حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے۔ عمر مرزا پر مستقل رسالہ ہے مولانا حبیب اللہ امرتسری کا، وہ دیکھا جائے۔ جو احتساب قادیانیت کی جلد نمبر ۳ ص ۱۴۸ سے ۱۶۸ پر موجود ہے۔ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے: ۱..... ”میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی۔“ (کتاب البریہ ص ۱۴۶، خزائن ج ۱۳ ص ۷۷۷ حاشیہ) ۲..... ”میری عمر چونتیس پینتیس برس کی تھی جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا۔“ (کتاب البریہ ص ۱۵۹ حاشیہ، خزائن ج ۱۳ ص ۱۹۲ حاشیہ) ۳..... ”مرزا کے والد کا انتقال ۱۸۷۲ء میں ہوا۔“ (نزل المسیح ص ۱۶، خزائن ج ۱۸ ص ۴۹۴، ۴۹۵) پس ۱۸۷۲ء میں مرزا کی عمر چونتیس پینتیس سال تھی تو ان کی پیدائش وہی ۱۸۳۹ء، ۱۸۴۰ء بنتی ہے۔ اس پر مرزا اور مرزائیوں کے پچاس سے زائد حوالے موجود ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی پیدائش ۱۸۳۹ء، ۱۸۴۰ء میں ہوئی۔ مرزا کے مرنے تک ہر قادیانی یہی کہتا اور لکھتا رہا کہ مرزا قادیانی کی پیدائش ۱۸۳۹ء، ۱۸۴۰ء میں ہوئی۔ ایک بھی پوری قادیانیت کی تاریخ میں مرزا کی زندگی کا حوالہ نہیں جس سے ثابت ہو کہ مرزا کی پیدائش ۱۸۳۵ء میں ہوئی۔ لیکن جونہی مرزا آنجہانی ہوا قادیانیوں نے جھوٹ پر ایسا کر کے جھوٹ کی دیوار تعمیر کر کے کہنا شروع کیا کہ ۱۸۳۵ء میں مرزا کی پیدائش ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے پیشگوئی کی تھی کہ: ”میری عمر ۷۷ سے ۸۰ کے درمیان ہوگی۔“ لیکن پیدائش ۱۸۳۹ء میں ہوئی اور مرزا کی وفات ۱۹۰۸ء میں تو مرزا کی عمر ۶۹ سال بنتی ہے۔ مرزا کے مرنے کے بعد مرزا کی پیش گوئی کے جھوٹ کو بیچ ثابت کرنے کے لئے پوری قادیانیت نے جھوٹ پر اجماع کر لیا کہ مرزا ۱۸۳۵ء میں پیدا ہوا تھا کہ کسی طرح اس کی اصل عمر ۷۷ سال ہو جائے۔ فلعنۃ اللہ علیہ الکاذبین! مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوا۔ آج پوتا مرزا ناصر کہتا ہے کہ نہیں آپ ۱۸۳۵ء میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک نیا عجوبہ ہے کہ نہ؟ پھر ہم نے بارہا مناظروں میں چیلنج کیا کہ مرزا کی زندگی کے پورے قادیانی لٹریچر سے ایک حوالہ دکھا دو کہ مرزا یا کسی مرزائی نے لکھا ہو کہ مرزا ۱۸۳۵ء میں پیدا ہوا۔ آج تک تمام قادیانی مل کر بھی نہیں دیکھا سکے نہ قیامت تک دکھا سکتے ہیں۔ مرزا کے مرنے کے بعد اس ۱۸۳۹ء کو ۱۸۳۵ء بنانا پوری قادیانیت کے چہرہ پر جھوٹ کی سیاہی کی پالش کے لئے کافی ہے۔

۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

آپ کے اساتذہ کے نام فضل الہی، فضل احمد اور گل محمد تھے۔ جن سے آپ نے فارسی، عربی اور دینیات، فقہ وغیرہ کی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور علم طب اپنے والد صاحب سے پڑھا۔ آپ شروع سے ہی اسلام کا در در رکھتے تھے اور دنیا سے کنارہ کش تھے۔ آپ کا ایک شعر ہے:

دگر استاد را نامے ندانم کہ خواندم در دیستان محمد
آپ نے عیسائیوں اور آریوں کے ساتھ ۱۸۷۶ء کے قریب اسلام کی طرف سے مناظرے اور مباحثے بھی کئے اور ۱۸۸۴ء میں اپنی شہرہ آفاق کتاب براہین احمدیہ کی اشاعت کی۔ جو قرآن کریم کی آنحضرت ﷺ اور اسلام کی تائید میں ایک بے نظیر کتاب پائی گئی ہے۔ ۱۸۸۹ء میں آپ نے باذن الہی سلسلہ بیعت کا آغاز کیا۔ ۱۸۸۹ء اور ۱۸۹۱ء میں خدا تعالیٰ سے الہام پاکر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ کی تمام عمر اسلام کی خدمت میں گزری اور آپ نے ۸۰ کے قریب کتابیں تصنیف فرمائیں جو عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں ہیں اور ان تینوں زبانوں میں آپ کا منظوم کلام بھی ملتا ہے۔ آپ کا اور آپ کی جماعت کا واحد مقصد دنیا میں اسلام کی اشاعت و تبلیغ تھا اور ہے۔ ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو آپ کی وفات ہوئی اور ملک کے اخباروں اور رسالوں نے آپ کی اسلامی خدمات کا پر زور الفاظ میں اعتراف کیا۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کے چار بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں اور اس وقت آپ کے خاندان کے افراد کی تعداد دو سو کے قریب ہے۔ یہ مختصر سا بنایا ہے۔ اس کو تو ریکارڈ کرانا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، یہ ریکارڈ پر آ جائے گا۔

(Pause)

مرزانا ناصر احمد: ایک کل یا پرسوں شام غالباً کل ہی تھا جب ابوالعطاء صاحب کی کتاب کے حوالے پر بات ہو رہی تھی کہ خاتم النبیین کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے وہ مکرم سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کے قادیانی مسئلہ کا جواب ہے اور یہ کہ اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں جس کا جواب یہ سمجھا جائے تو.....

جناب یحییٰ بختیار: میں ایک غلط فہمی دور کر دوں یہ قادیانی مسئلے کا جواب نہیں۔ ختم نبوت کتابچے کا جواب ہے۔ دو علیحدہ علیحدہ کتابیں ہیں۔

(مرزانا ناصر کا اعتراف غلطی)

مرزانا ناصر احمد: ہاں! ”ختم نبوت“ کہاں ہے وہ؟ میری غلطی ہے، نہیں وہ یہاں انہوں نے دوسری کتاب رکھ دی تھی۔ وہ پھر دوسرے وقت میں لے آؤں گا۔

۱۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(Pause)

میں نے ایک یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ پہلی کتب میں اور انبیاء کی جو سوانح ہیں ان میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بعض اوقات انہیں بظاہر سخت الفاظ استعمال کرنے پڑے تو اس کے..... اور قرآن کریم میں بھی بظاہر..... میں بظاہر کا لفظ جان کے کہہ رہا ہوں..... بظاہر سخت الفاظ استعمال کرنے پڑے.....

جناب یحییٰ بختیار: میرے خیال میں مرزا صاحب اگر اس میں نہ جائیں تو.....
مرزانا صاحب: چھوڑ دیں؟ نہیں میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے بات کی تھی اگر آپ.....

جناب یحییٰ بختیار: جب آپ نے کہہ دی ہے تو پھر اس میں نہ جائیں تو.....
مرزانا صاحب: ٹھیک ہے اور اسی طرح اس کو بھی پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ علمائے ربانی نے امت محمدیہ کے تیرہ سو سال کے عرصہ میں حسب ضرورت اللہ تعالیٰ کی ایما سے سخت الفاظ استعمال کئے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ نے جب کہہ دیا تو.....
مرزانا صاحب: اس کی تفصیل بھی چھوڑ دیتے ہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: ہاں! Detail (تفصیل) میں جانے کی ضرورت نہیں۔
مرزانا صاحب: پہلے ختم نبوت، یہ ہے مل گئی یہاں کاغذوں کے اندر ہی، اس میں صرف ختم نبوت کا بیان نہیں بلکہ نزول مسیح کا بھی بیان ہے کہ مسیح آئیں گے اور وہ اس سے تعلق رکھتا ہے جو ابوالعطاء صاحب کا جواب ہے اس واسطے یعنی سوال یہ تھا کہ جو جواب دیا جا رہا ہے کتاب میں اس میں ایسا Topic (موضوع) ایسا مضمون کیسے آسکتا ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہیں۔ جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اوپر کے ختم نبوت کی جو یہ کتاب جب ہم نے دیکھی تو اس میں صرف نبی اکرم ﷺ کی خاتمیت نبوت آپ کا خاتم الانبیاء خاتم المرسلین ہونا ہی زیر بحث نہیں۔ بلکہ ایک آنے والے مسیح نبی اللہ کا بھی ذکر ہے۔ یعنی اس نام کے ساتھ اس وجہ سے وہ جواب دیا گیا۔ بس اتنا ہی.....!

۱۔ بت کدہ میں کفر کی زناری بھی دیکھ، کہ مرزانا صاحب، مرزا قادیانی کی گالیوں کو جائز ثابت کرنے کے لئے انبیاء علیہم السلام اور قرآن مجید کے متعلق کہہ رہا کہ ان میں بھی بظاہر سخت الفاظ..... اور یحییٰ بختیار کی دیانت و دین داری دیکھیں کہ وہ مرزانا صاحب کو اس اشتعال انگیزی سے روک رہا ہے۔

۱۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس میں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(مودودی صاحب نے مسیح علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا)

808 جناب یحییٰ بختیار: سوال جو تھاناں جی! میں آپ کو پھر Repeat (دوہرا) کر دوں میں نے ایسا نہیں کہا کہ مولانا مودودی صاحب نے مسیح کا ذکر نہیں کیا یا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے دو Chapter (باب) یہاں لکھے ہیں۔ پہلا Chapter (باب) ہے کہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے اور اس سے ان کی کیا مراد ہے اور مسلمان کیا سمجھتے ہیں یا ان کے نقطہ نظر سے کیا ہے اور آپ کے نقطہ نظر سے کیا ہے ان کے Point of view (نقطہ نظر) سے..... دوسرا آجاتا ہے وہ نزول مسیح یہاں جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مودودی صاحب کے نقطہ نظر سے فیض کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ اس Chapter (باب) میں آتا ہے جہاں ختم نبوت کا ذکر ہے اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، اگر فیض سے یہ مراد ہے کہ کوئی نیک ہستی اس کے بعد نہیں آئے گی تو یہ مودودی صاحب نے جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہیں نہیں لکھا، باقی یہ انہوں نے ضرور لکھا ہے کہ کوئی اور نبی نہیں آسکتا اور انہوں نے یہی جواب دیا ہے کہ فیض کے دروازے سے صاف مجھے بھی یہی سمجھ آرہی ہے کہ اور نبی آسکتے ہیں۔ (بقول ابوالعطا قادیانی) یہ ان کو جواب دے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو پھر دیکھ لیجئے۔

(Pause)

(قادیانیت کے مخالف ہماری آغوش میں)

مرزا ناصر احمد: جی یہ یاد رکھو مضمون۔ ایک سوال تھا ”الفضل“ ۱۶ جنوری ۱۹۵۲ء سے متعلق اور وہ مجبور ہو کر احمدیت کی آغوش میں آگرے اس میں سوال یہ تھا کہ دشمن اور آغوش ان کا کیا مطلب ہے؟ جو میں اس وقت Recollect (یاد) کرتا ہوں تو یہ زمانہ ہے۔ ۱۹۵۲-۵۳ء کا اور اس کے مخاطب سارے مسلمان نہیں بلکہ وہ جو فساد کی خاطر نمایاں ہو کر سامنے آگئے تھے اور آغوش میں گر.....

جناب یحییٰ بختیار: Anti- Ahmediyya Agitation (جماعت احمدیہ کے خلاف تحریک) چل رہی تھی۔ میں نے وہ نوٹ کیا ہوا ہے۔

مرزا ناصر احمد: جی، جی!

جناب یحییٰ بختیار: میں صرف آپ کو وہ.....

809 مرزا ناصر احمد: تو صرف وہ مراد تھے اور آغوش میں آگرے کا مطلب یہ ہے کہ

۱۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

وہ معاملہ سمجھ جائیں اور پھر دوست دوست بن جائیں اور یہ جماعت کی جو ایک بالکل بچوں کی، نوجوانوں کی ہے تنظیم یہ اس کا حوالہ ہے جماعت کا، اس جماعت کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ جو اخبار میں شائع ہوا نوجوانوں کی تنظیم کی طرف سے تبلیغ کی طرف توجہ دلانے کے لئے ایک نوٹ ہے اور یہ اس تنظیم کی طرف سے بھی نہیں بلکہ اس تنظیم کے اس شعبے کی طرف سے ہے جس کا نام ہے مہتمم تبلیغ یعنی تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ جس تنظیم کا تعلق ہے نوجوانوں کی تنظیم کے اندر پھر چھوٹی تنظیم اس کا نام ہے۔ مہتمم تبلیغ اور مہتمم تبلیغ کی طرف سے یہ عبارت شائع ہوئی۔ الفضل میں اور ۱۹۵۲، ۱۹۵۳ء کے فسادات شروع ہو چکے تھے۔ دشمن سے مراد وہی نہیں جو باہر نکل رہے تھے۔ مکانوں کو آگ لگانے کے لئے اور قتل و غارت کرنے کے لئے اور اس کو یہ کہا ہے کہ ان کو اس طرح سمجھاؤ کہ پھر وہ سمجھ جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کا مقابلہ کرو اسی طرح۔

(”تبادلہ خیال کرو“ کا کیا مطلب اور کس کی طرف سے ہے؟)

جناب یحییٰ بختیار: بیشتر اس کے کہ آپ دوسرے سوال کا جواب دیں یہ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت کی طرف سے یہ ہے مگر یہ کہ *Authoritative* (اتھارٹی) نہیں ہے یا *Authoritative* (اتھارٹی) ہے؟

(مرزانا ناصر کا انکار)

مرزانا ناصر احمد: یہ ہماری جماعت کی طرف سے نہیں ہے۔ جماعت کی وہ تنظیم جو نوجوانوں کی تنظیم ہے اس کے اس شعبے کی طرف سے جس کا نام اہتمام تبلیغ ہے اور ان کی طرف سے ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزانا صاحب میرا جماعت سے مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کی طرف سے یا *Top Organization* (سربراہ تنظیم) یا جماعت.....
مرزانا ناصر احمد: نہ جماعت کی اتھارٹی نہیں سمجھی جائے گی۔
جناب یحییٰ بختیار: یا جماعت کے کسی شعبے کی طرف سے۔
مرزانا ناصر احمد: جماعت کے اس شعبے کی طرف سے ہے جو نوجوانوں کا ہے اور مضمون یہ ہے کہ تبادلہ خیال کرو۔

810 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں۔ مضمون کے متعلق نہیں، میں صرف کہتا ہوں

۱۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

تاکہ یہ ریکارڈ یہ *Clear* (صاف) ہو جائے کہ جماعت کے شعبے کی طرف سے ہے مگر وہ نوجوانوں کا شعبہ ہے۔

مرزانا ناصر احمد: نوجوانوں کے شعبہ در شعبہ کی طرف سے ہے اور تبلیغ کا جو شعبہ ہے اس کی طرف سے ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ تبلیغ یعنی تبادلہ خیال کرو۔
جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے۔

مرزانا ناصر احمد: وہ بروز کا بیان تو داخل کرایا جا چکا ہے ایک تھا ”الفضل“ مورثہ ۱۵ جولائی ۱۹۵۲ء۔

(خونی ملا کے متعلق سوال اور مرزانا ناصر کی معذرت)

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی وہ کچھ خونی ملا کے متعلق تھا۔

مرزانا ناصر احمد: ہاں، خونی ملا کے متعلق وہ کہاں ہے؟ یہ ایڈیٹر کا *Editorial Note* (اداریہ) ہے۔ یہ کوئی جماعت کی طرف سے مضمون نہیں۔ الفضل جو صدر انجمن احمدیہ کا اخبار ہے ان کے ایڈیٹر نے یہ مضمون لکھا تھا۔ فسادات سے پہلے اور منیر انکوائری کمیٹی میں اس کے متعلق انکوائری بھی ہو چکی ہوئی ہے اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا خونی ملا۔ اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ..... اس طرح اٹھان ہے۔ اس کی..... وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جن کو اغیار یعنی اسلام کے دشمن بھی مسلمان سمجھ کر ان سے یکساں سلوک کرتے ہیں وہ ان سب کو ایک محاذ پر جمع ہو جانا چاہئے۔ یہ اٹھان ہے اس مضمون کی، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ وہ اصول جس کی بناء پر پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ فرقہ واری پر نظر نہیں رکھی جائے گی بلکہ ہر وہ شخص یعنی یہ مضمون یہ کہتا ہے کہ..... ہر وہ شخص جس کو اسلام کا دشمن اسلام سمجھتا ہے اور ایک ہی *Category* سمجھ کر اس پر حملہ آور ہو رہا ہے..... میں ۱۹۴۷ء میں آخری *Convey* سے آیا تھا، اس کا مفہوم بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بہر حال یہ اصول ہے اور آگے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس اصول کی بناء پر آگے یہ لکھا ہے۔ جب یہ اصول تمام اسلامی دنیا میں پھیل جائے گا کہ فرقہ وارانہ باتوں کو چھوڑ کر متحد ہو جانا چاہئے۔ جب یہ اصول تمام دنیا میں پھیل جائے گا اور اچھی طرح جڑ پکڑ جائے گا تو خونی ملا آپ اپنی موت مر جائے گا۔ یعنی جب سارے متحد ہو جائیں گے تو وہ حصہ چھوٹا سا جوتل و عمارت اور لوٹ مار کی طرف آ رہا ہے۔ وہ آپ اپنی اس کوشش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس میں میرے نزدیک بھی خونی ملا کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہونا چاہئے تھا۔ کیونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ہوگی۔

۱۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگان، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

اس کو ہم *Condemn* (مذمت) کرتے ہیں اور کرنا چاہئے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں۔ جب ہو چکا تو یہ تو اتنی بات نہیں ہے۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں جی۔
 جناب یحییٰ بختیار: جب لفظ ”جہنمی“ استعمال ہو چکا ہے تو یہ تو اتنی بات نہیں ہے۔
 یہ تو کوئی چھوٹی ڈگری کا ہی کافر ہوگا، یہاں۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، ”جہنمی“ جو ہے وہ تو نبی کریم ﷺ نے استعمال کیا ہے اور محمد بن عبدالوہاب علیہ الرحمۃ نے بڑی تاکید کی اس پر عملاً اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالی ہیں۔ جس کا میں نے وہ حوالہ دیا ہوا ہے اور غالباً کتاب بھی دی ہے۔ محمد بن عبدالوہاب کی اپنی کتاب باہر کی چھپی ہوئی اور وہ سیرت النبی مختصر سیرت رسول اس کتاب کا یہ حوالہ ہے اور وہ ہماری طرف سے یہاں دے دی گئی تھی۔ ویسے تمام علماء کے پاس ہوگی۔

(الفضل رسالہ آپ کی پارٹی کا ہے؟)

جناب یحییٰ بختیار: باقی یہ جو ہے، یہ آپ کی پارٹی کا *Official Orgian* ہے یہ ”الفضل“؟
 مرزا ناصر احمد: یہ صدر انجمن احمدیہ کا سلسلہ.....
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، جی ہاں۔
 مرزا ناصر احمد: اس کے متعلق منیر انکوٹری کے وقت بھی سوال کیا گیا۔
 جناب یحییٰ بختیار: اس میں کچھ علماء کے نام بھی دیئے گئے ہیں۔ ان میں؟ ہاں وہ بھی سنا دیں۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، علماء کے نام دیئے گئے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ سنا دیجئے۔
 مرزا ناصر احمد:⁸¹² یہاں آجاتا ہے۔ وہ منیر انکوٹری.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں جو ایڈیٹوریل ہے ناں جی اس سے.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، اسی کا یہ حوالہ ہے ناں۔

۱۔ اس کو ایک آسان تعبیر میں ناک رگڑنا بھی کہتے ہیں۔ قادیانی دوست اس منظر کو نہ بھولیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں اگر Original (اصل) سے آپ پڑھیں۔ تو پھر یہ نہ ہو کہ بعد میں کسی اور Document (دستاویزات) سے پڑھا گیا۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہی میں پڑھنے لگا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ نام دیئے ہوئے ہیں اس میں؟

مرزا ناصر احمد: جی ہاں! اس میں ہیں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں۔

”وکیل نے سوال کیا، حضرت خلیفہ ثانی سے کہا آپ نے افضل کے ۱۵ جولائی ۱۹۵۲ء کے شمارہ میں ایک مقالہ افتتاحیہ جو خوبی ملا کے آخری دن کے عنوان سے شائع ہوا، دیکھا ہے۔ جس میں مندرجہ ذیل الفاظ آئے ہیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں، آپ جو فرما رہے تھے۔ ”ہاں آخری وقت آن پہنچا ہے ان تمام علمائے حق کے خون کا بدلہ لینے کا، ۱۳۰۰ سال میں جو گزرے ہیں۔ جن کو شروع سے یہ خوبی ملا قتل کرواتے آئے ہیں۔ ان سب کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ عطاء اللہ شاہ بخاری سے، ملا بدایونی سے، ملا احتشام الحق سے، ملا محمد شفیع سے ملا مودودی سے۔“

جواب: ”ہاں اس تحریر کے متعلق ٹنگمری کے ایک آدمی کی طرف سے ایک شکایت میرے پاس پہنچی تھی اور میں نے اس کے متعلقہ ناظر سے جواب طلبی کی تھی۔ اس نے مجھے بتلایا تھا، کہ اس نے ایڈیٹر کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ اس کی تردید کرے۔“

(کیا تردید آپ کے علم میں آئی؟)

سوال: کیا وہ تردید آپ کے علم میں آئی؟

جواب: ”نہیں (نہیں کہنے کے بعد) لیکن ابھی ابھی مجھے ۱۷ اگست ۱۹۵۲ء کے ”افضل“ کا ایک آرٹیکل جس کا عنوان ایک غلطی کا ازالہ ہے، دکھایا گیا ہے۔ جس میں مذکورہ بالا تحریر کی تشریح کر دی گئی تھی اور وہ تردید یعنی جو معنے پہنائے جا رہے تھے اس کی تردید کر دی گئی۔“

عدالت کا سوال: ادارتی مقالہ میں جن مولویوں کو ملا کہا گیا ہے..... سب کو نہیں ملا کہا گیا..... جن مولویوں کو ملا کہا گیا ہے۔ کیا انہوں نے یہ رائے ظاہر کی تھی کہ احمدی مرتد اور واجب القتل ہیں؟

جواب: میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے یہ رائے ظاہر کی تھی۔“

اس کے متعلق یہ سارا بیان ہے..... نیز..... (Pause)

اور جو رہ گئے ہیں۔ اگر وہ..... میں بڑا شرمندہ ہوں، ہم نے نوٹ تو کئے ہوئے ہیں۔“

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! یہ Strain ہم سب محسوس کر رہے ہیں، مجھے بھی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور آپ جانتے ہیں۔ مجھے ان چیزوں کا بہت کم علم ہے تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں اور اسٹیکر صاحب سے بھی ہم Request (درخواست) کرتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ اور ٹائم دے دیجئے۔ ایک گھنٹہ اور ٹائم دیجئے وہ بھی بڑے Cooperate (تعاون) کرتے ہیں تو اس میں یہ ایک ”الفضل“ ۱۶ جولائی کا رہ گیا ہے۔ ۱۹۴۹ء کا۔

مرزا ناصر احمد: ۱۶ جولائی ۱۹۴۹ء۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ۱۶ جولائی ۱۹۴۹ء کا جواب ہے ہمارے پاس۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، تو پھر یہ دے دیں تاکہ میرا یہ Page (صفحہ) پورا ہو جائے۔

مرزا ناصر احمد: ۱۶ جولائی ۱۹۴۹ء کے ایک ایسے خطبہ پر سوال کوئی کیا گیا تھا جس کا

تعلق حضرت خلیفہ ثانی سے تھا، ٹھیک ہے نا۔

(دشمن محسوس کرتا ہے کہ ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے)

814 جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔

مرزا ناصر احمد: جس میں یہ لکھا ہے کہ دشمن محسوس کرتا ہے کہ اس کے مذہب کو کھا

جائیں گے۔ ۱۶ جولائی ۱۹۴۹ء میں حضرت خلیفہ ثانی کا کوئی خطبہ یا مضمون چھپا ہی نہیں، کوئی ایسا

خطبہ نہیں چھپا جس میں یہ لکھا ہو۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی کہیں نہیں چھپا؟ کہ تاریخ میں کوئی فرق ہو گیا ہے؟ کیونکہ یہ

نہ ہو کہ پھر وہ بیچ میں تاریخ کسی اور کا آ جائے۔ بعض دفعہ پرنٹنگ میں غلطی ہو جاتی ہے۔

مرزا ناصر احمد: ہاں ویسے ہم.....

جناب یحییٰ بختیار: ان (اپنے والد مرزا محمود) کے خطبات سے تو آپ اچھی طرح

واقف ہوں گے؟ آپ دیکھ لیجئے اسے، تسلی کر لیجئے.....

مرزا ناصر احمد: اور تسلی کر لیں گے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔

مرزا ناصر احمد: لیکن جو تھوڑی بہت تسلی کی ہے وہ نہیں ہمیں ملا۔ لیکن آپ کے کہنے

پر مزید.....

۱ آگے چل کر تسلیم کر لیا کہ یہ بیان ۲۵ جولائی ۱۹۴۹ء میں چھپا ہے۔

۱۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: ہاں میں یہ کہتا ہوں کیونکہ.....
 مرزانا صراحتاً: اسی طرح اسی قسم کا ایک اور بھی ہے۔ ایک تھا ۳ جولائی ۱۹۵۲ء میں
 سوال یہ تھا کہ اس قسم کی وہاں تحریر ہے کہ ”تم مجرموں کی طرح پیش ہو گے“ تو ہمیں ۳ جولائی
 ۱۹۵۲ء میں اس قسم کی..... خالی یہ یعنی یہ لفظی میں تردید نہیں کر رہا۔ اس مضمون کی کوئی عبارت نہیں
 ملی کہ تم مجرموں کی طرح پیش ہو گے اور اگر آپ فرمائیں تو اس کے علاوہ اور زیادہ.....
 جناب یحییٰ بختیار: آپ تسلی کر لیں تاکہ کیونکہ یہاں بھی بعض منگوارے ہیں وہ
 دیکھ رہے ہیں۔

مرزانا صراحتاً: مزید تسلی کر لیں گے۔ (Pause)
⁸¹⁵ جناب یحییٰ بختیار: یہاں جو ابوجہل کی طرح ذکر آتا ہے یہ وہی ہے ناں جی؟
 مرزانا صراحتاً: ہاں، ”مجرموں کی طرح پیش ہو گے“ وہ ابوجہل والی ہے بہر حال.....
 جناب یحییٰ بختیار: ”فتح مکہ کے بعد“
 مرزانا صراحتاً: ہاں جی یہی ہے۔ ”مجرموں کی طرح پیش ہو گے“ اسی کے ساتھ
 تعلق رکھتا ہے لیکن اس اخبار میں اس قسم کا کوئی.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں میں کہتا ہوں آپ Verify (تصدیق) کر لیں۔
 مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، Verify (تصدیق) اور کر لیتے ہیں کہیں آگے پیچھے
 کسی اور تاریخ میں نہ ہو۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، کیونکہ جہاں تک خطبوں کا تعلق ہے یہ تو ایسی چیز نہیں ہے
 کہ صرف اخبار میں ہی ہو آپ کا اپنا ریکارڈ ہو گا ان کا۔
 مرزانا صراحتاً: نہیں جو بعد میں اتنی دیر کے ہیں تو صرف اخبار ہی ریکارڈ ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی۔ ۱۹۵۳ء اور ۱۹۵۲ء کی ایسی چیزیں ہیں کہ.....
 مرزانا صراحتاً: صرف، صرف میں بتا رہا ہوں ناں کہ ہمارے ہاں یہ طریق رہا ہے
 کہ جب ٹیپ بھی آ گیا تو چونکہ بڑا خرچ ہوتا تھا اور اس کے غریب لوگ ہیں ہم تو یہ اصول بنا لیا
 کہ جب لکھا جائے اور چھپ جائے خطبہ تو اس کے کچھ عرصے بعد ٹیپ جو ہے اس کے اوپر دوسرا
 خطبہ آ جائے۔

۱۔ ۳ جولائی نہیں ۳ جنوری ہے۔ مرزانا صراحتاً جاننے کے باوجود اسے گول کر رہا ہے۔
 اس پرنٹ پہلے گزر چکا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: وہاں تو ایک جگہ میں نے پڑھا۔ میں اس میں جانا نہیں چاہتا کہ یہ سارا حکومت نے شروع کیا ہے کہ *To deprive you of billions of rupees* (ارہوں روپے ہتھیانے کی خاطر) اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ غریب ہیں۔
مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: خیر میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔
مرزا ناصر احمد: میں بھی جواب میں نہیں جانا چاہتا مگر ہے غریب جماعت۔
جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی تو میں مزید سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے۔
مرزا ناصر احمد: ہاں جی، ہاں جی۔
جناب چیئرمین: ایک اور حوالہ تھا کل الفضل کا۔

(میرا مخالف عیسائی، یہودی، مشرک اور جہنمی ہے)
جناب یحییٰ بختیار: وہ میں نے حوالہ دیا تھا جی کہ جو شخص میرا مخالف ہے وہ عیسائی، یہودی، مشرک اور جہنمی ہے۔ یہ مرزا غلام احمد صاحب کا ہے۔
مرزا ناصر احمد: کس کتاب کا حوالہ ہے۔ (Pause) ہاں یہ تو کل آیا تھا ایک تو کل آیا تھا نا، جس میں میں نے کہا کہ عربی کی عبارت ہے اور اس کے متعلق میں نے کہا ہے کہ سارے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں ایک اور ہے یہ اس میں میرا سوال یہ تھا کہ اگر یہ صحیح ہے تو مرزا صاحب کا مطلب کیا ہے کہ: ”جو شخص میرا مخالف ہے وہ عیسائی، یہودی، مشرک اور جہنمی ہے۔“ تو آپ میرا سوال پہلے سن لیجئے کہ میں پوچھنا کیا چاہتا ہے یہ ہے ان کی تحریر۔
مرزا ناصر احمد: پتہ نہیں یہ کون سا ہے حوالہ۔
جناب یحییٰ بختیار: میں نے دو دفعہ لکھوایا ہے۔
مرزا ناصر احمد: ابھی دیکھ لیتے ہیں شاید ابھی ہو اس کو ٹالنے نہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ ہے نزول مسیح ص ۴، اور تذکرہ ص ۲۲۔

۱۔ مرزا قادیانی نے (نزول مسیح ص ۴، خزائن ج ۱۸ ص ۳۸۲) پر لکھا ہے: ”اور جو میرے مخالف تھے ان کا عیسائی، یہودی اور مشرک نام رکھا گیا۔“ مرزا کا الہام (تذکرہ ص ۱۶۳، ۳۳۶، طبع ۳) پر ہے جس میں اپنے مخالف کو جہنمی کہا ہے۔“

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحمہ: یہ رہ گیا ہے چیک کرنا۔

(مرزانا صراحمہ کی بدحواسی)

جناب یحییٰ بختیار: خیر یہ بعد میں کر لیں۔ آپ دیکھ لیں اگر ایک دو صفحے آگے پیچھے

ہوں تو.....

مرزانا صراحمہ: ہاں، نہیں نہیں بالکل۔

جناب یحییٰ بختیار: بعض دفعہ ۲۲۷ کا ۲۲۷ ہوتا ہے۔

مرزانا صراحمہ: یہ ہم خود دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی آگے اور پیچھے پانچ دس صفحے دیکھ کے۔

817 جناب یحییٰ بختیار: ہاں پانچ دس نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ۲۲۷ کا ۲۲۷ ہوتا

ہے وہ اردو میں جس طرح.....

مرزانا صراحمہ: لیکن اگر آپ کو دیا ہو ”۲۲۷“ اور اصل میں ہو ”۲۰۶“ تو وہ نہیں ہوگا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، وہ نہیں۔ جو عام سی غلطی پر تنگ میں ہو سکتی ہے۔

مرزانا صراحمہ: ٹھیک ہے۔ (Pause)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب ایک اور چیز بھی مہربانی کر کے آپ چیک کر لیں

یہ کل ایک حوالہ دیا گیا تھا۔ ۵/۱۹۴۷ء کا کہ پاکستان کے متعلق کچھ اس میں کہا گیا ہے اگر

آپ پہلے.....

مرزانا صراحمہ: وہ جو ہے اپنا پارسیوں وغیرہ کا؟ وہ ہے؟

(اکھنڈ ہندوستان)

جناب یحییٰ بختیار: وہ نہیں نہیں۔

مرزانا صراحمہ: اچھا اچھا، اکھنڈ ہندوستان کے متعلق؟

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی تو اسی قسم کا ایک اور جی آپ چیک کر لیں۔ ۱۶/۱۷۱۷

۱۹۴۷ء کا۔

مرزانا صراحمہ: مئی ۱۹۴۷ء میں کر دیتے ہیں سارے اخبار دیکھ لیں گے۔

جناب یحییٰ بختیار: اس میں پاکستان کے متعلق کچھ رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔

مرزانا صراحمہ: میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً تیار ہے جو اب اکھنڈ ہندوستان کا۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ بھی ساتھ ہی دیکھ لیں۔

۲۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحتاً: ساتھ ہی یہی میرا مطلب ہے کہ شام کو جب آئیں تو ہم کر دیں اس کو بھی۔

جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے جی۔ (Pause)

وہ ایک حوالہ تھا صاحبزادہ بشیر احمد صاحب کا۔

⁸¹⁸ مرزانا صراحتاً: کلمۃ الفصل؟

جناب یحییٰ بختیار: جی ہاں وہ تیار ہے۔

مرزانا صراحتاً: کلمۃ الفصل کا کون سا ہے یہ صفحہ؟

(مرزا صاحب کی تحریر میں مسلمان سے کیا مطلب ہے؟)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب کی جو تحریر میں مسلمان کا لفظ ہے اس کی تفسیر کی ہے

کہ مطلب کیا ہے اس کا۔

مرزانا صراحتاً: یہ سارا ۱۲۶ اور ۲۷ دونوں صفحے پورے؟

جناب یحییٰ بختیار: کل میں نے..... مرزا صاحب یہ وہی کتاب ہے یا دوسری ہے؟

مرزانا صراحتاً: یہ کون سی ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: یہ آپ کی ہے وہ میں پھر منگوا لیتا ہوں۔

مرزانا صراحتاً: یہ ہماری ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ وہاں ہے وہ میں آپ کو..... میں نے Passage (پیرا)

پڑھ کر۔ (Pause) سنایا تھا۔ ص ۱۲۶ پر مرزا صاحب یہ پہلے حرف کا ذکر آتا ہے۔ پھر وہ فرماتے

ہیں کہ متن دیکھیں:

”اگر ایک شخص سراج الدین نامی مسلمان سے عیسائی ہو جائے تو اسے پھر بھی سراج

الدین ہی کہیں گے۔ حالانکہ عیسائی ہو جانے کی وجہ سے وہ اب سراج الدین نہیں رہا۔ بلکہ کچھ اور

بن گیا کہیں عرف عام کی وجہ سے اس نام سے پکارا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے.....“ یہ میں نے یہاں

سے پڑھا ہے۔ ”معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کو بھی بعض وقت اس بات کا خیال آیا کہ کہیں

میری تحریروں میں غیر احمدیوں کے متعلق مسلمان کا لفظ دیکھ کر لوگ دھوکہ نہ کھائیں اس لئے کہیں

کہیں بطور ازالہ کے غیر احمدیوں کے متعلق ایسے الفاظ بھی لکھ دیئے گئے ہیں کہ وہ لوگ جو اسلام کا

دعویٰ کرتے ہیں تا جہاں کہیں بھی مسلمان کا لفظ ہو اس سے مدعی اسلام سمجھا جائے نہ کہ حقیقی

مسلمان۔“ (کلمۃ الفصل ص ۱۲۶)

مرزانا صراحمہ: حقیقی مسلمان۔
جناب یحییٰ بختیار: مدعی مسلمان۔
مرزانا صراحمہ: یہاں اگر آپ کو میں.....

(مدعی مسلمان، حقیقی مسلمان؟)

جناب یحییٰ بختیار: ایک تو جہاں وہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان..... جیسے میں نے کل کہا اور ایک دو حوالے دیئے..... جہاں وہ مسلمان کہتے ہیں تو اس سے مطلب کیا ہے؟ اور پھر یہاں ”کہیں کہیں بطور ازالہ کے غیر احمدی کے متعلق ایسے الفاظ بھی لکھ دیئے ہیں کہ وہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تا جہاں کہیں بھی مسلمان کا لفظ ہو اس سے مدعی اسلام سمجھا جاوے نہ کہ حقیقی مسلمان۔“

تو میں سوال یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جب مرزا صاحب یا آپ کی جماعت کے رہنما جو مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس سوال پر چونکہ اس مضمون پر کافی سوال میرے پاس آچکے ہیں۔ اس لئے میں چاہتا تھا کہ اس کی پوری وضاحت ہو جائے جیسے ابھی لندن کارپوریٹ ڈیویژن ہے۔ انگلینڈ میں جو مسلمان ہیں ان کو کہا *Non-Ahmade Pakistanies* (غیر احمدی پاکستانی) اور اپنے کو کہا احمدی مسلمان، میں ریزولوشن کی بات کر رہا ہوں۔ ریزولوشن غلط ہو اور بات ہے جو آیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو *Impression* (تأثر) پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں: ”مسلمان ایسے کر رہے ہیں۔“ تو جب اپنی طرف آپ کا مطلب ہوتا ہے احمدیوں کی طرف تو حقیقی مسلمان مطلب ہوتا ہے باقیوں کے متعلق آپ کا مطلب ہوتا ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ *Pretenders* (حیلہ ساز) یہ وہ کفر والی بات نہیں آتی یہاں اس میں کہ کتنی ڈگری کا کافر ہے یا اس دائرے میں ہے یہ بالکل یعنی یہ *Impression* (تأثر) ہے کہ جو غیر احمدی ہیں وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اصل میں مسلمان نہیں تو یہ آپ ذرا *Clarify* (واضح) کر دیں۔

مرزانا صراحمہ: ⁸²⁰ جو میں سمجھتا ہوں سوال وہ یہ ہے کہ یہاں بانی سلسلہ احمدیہ نے ایک گروہ کو حقیقی مسلمان کہا اور دوسرے گروہ کے متعلق کہا کہ میرے نزدیک وہ مسلمان تو ہیں لیکن حقیقی مسلمان نہیں تو یہ کیا فرق ہے؟ اس کا جواب محض نامے میں آچکا ہے۔ لیکن چونکہ سوال دوہرایا گیا ہے اس لئے میں اس کا جواب دوہرانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت بانی سلسلہ

احمدیہ نے حقیقی مسلمان جو کہا اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ محض نامے کے ص ۲۳ پر یہ تحریر ہے: ”ہمارے نزدیک یہ فتاویٰ سارے جو اس کے تھے ظاہر پرینی ہیں اور فی ذاتہ ان کو جنت کا پروانہ یا جہنم کا وارنٹ قرار نہیں دیا جاسکتا جہاں تک.....“

جناب یحییٰ بختیار: یہ صفحہ ۲۶۲ کہا آپ نے؟

مرزا ناصر احمد: یہ صفحہ ۲۳ محض نامے کا اس میں ایک اقتباس بانی سلسلہ کا جس سے پتہ لگتا ہے آپ کے نزدیک حقیقی مسلمان سے کیا مراد ہے۔ جہاں تک حقیقت اسلام کا تعلق حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے الفاظ میں ہم حقیقی مسلمان..... جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے..... حقیقی مسلمان کی تعریف درج کرتے ہیں۔ آپ کے نزدیک حقیقی مسلمان کی تعریف یہ ہے۔

”اصلاحی معنی اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی

یہ کہ ”بلیٰ من اسلم وجهہ للہ وهو محسن فله اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون“ یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سوئپ دیوے، یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے ارادوں کی پیروی کے لئے اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لئے وقف کر دیوے اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لئے قائم ہو جائے اور اپنے وجود کو تمام عملی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دیوے۔ مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جاوے اعتقادی طور پر اس طرح سے اپنے تمام وجود کو حقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جو خدا تعالیٰ کی شناخت اور اس کی اطاعت اور اس کے عشق اور محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے بنائی گئی ہے اور عملی طور پر اس طرح سے کہ خالصتاً اللہ حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق اور ہر ایک خداداد توفیق سے وابستہ ہیں بجالاوے۔ مگر ایسے ذوق و شوق و حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرمانبرداری کے آئینہ میں اپنے معبود حقیقی کے چہرہ کو دیکھ رہا ہے اب آیات مدوحہ بالا پر ایک نظر غور ڈالنے سے ہر ایک سلیم العقول سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی حقیقت تب کسی میں متحقق ہو سکتی ہے کہ جب اس کا وجود مع اپنے تمام باطنی و ظاہری قوی کے محض خدا تعالیٰ کے لئے اور اس کی راہ میں وقف ہو جاوے اور جو امانتیں اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں پھر اس معطی

۱۔ ایک اخبار کے متعلق کہا کہ وہ جوانوں کا اعلان تھا۔ ☆..... دوسرے اخبار کے متعلق کہا کہ وہ ایڈیٹر کی بات تھی۔ ☆..... اب مرزا قادیانی کے الہام کے بارہ میں کہتے کہ وہ ظاہر پرینی تھا۔ ☆..... گویا حقیقت پرینی نہ تھا۔ قادیانی حضرات مرزا ناصر احمد کی اس وقت کی قلبی کیفیت کا اندازہ فرمائیں کہ کیا درگت بن رہی ہوگی۔ مجھے تو اب اس کو پڑھ کر ترس آ رہا ہے۔

۲۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

حقیقی کو واپس دی جائیں اور نہ صرف اعتقاد ہی طور پر بلکہ عمل کے آئینہ میں بھی اپنے اسلام اور اس کی حقیقت کاملہ کی ساری شکل دکھائی جاوے۔ یعنی شخص مدعی اسلام یہ بات ثابت کر دیوے کہ اس کے ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ اور اس کی عقل اور اس کا فہم اور اس کا غضب اور اس کا رحم اور اس کا حلم اور اس کا علم اور اس کی تمام روحانی اور جسمانی قوتیں اور اس کی عزت اور اس کا مال اور اس کا آرام اور اس کا سرور اور جو کچھ اس کے سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک باعتبار ظاہر و باطن کے ہے یہاں تک کہ اس کی نیت اور اس کے دل سے خطرات اور اس کے نفس کے جذبات سب خدا تعالیٰ کے ایسے تابع ہو گئے ہیں جیسے ایک شخص کے اعضاء اس شخص کے تابع ہوتے ہیں۔ غرض یہ ثابت ہو جائے کہ صدق قدم اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ جو کچھ اس کا ہے وہ اس کا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہو گیا ہے اور تمام اعضاء اور قوی الہی خدمت میں ایسے لگ گئے ہیں کہ گویا جو ارحم الحق ہیں اور ان آیات پر غور کرنے سے یہ بات بھی صاف اور بدیہی طور پر ظاہر ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں زندگی کا وقف کرنا جو حقیقت اسلام ہے دو پر قسم ہے ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کو ہی اپنا معبود اور مقصود اور محبوب ٹھہرایا جائے اور اس عبادت اور محبت اور خوف ورجا میں کوئی شریک باقی نہ رہے اور اس کی تقدیس اور تسبیح اور عبادت اور تمام عبودیت کے اداب احکام اور اوامر اور حدود اور آسمان فضا و قدر کے امور یہ دل و جان قبول کئے جائیں اور نہایت نیستی اور تذلل سے ان سب حکموں اور حدود اور قانونوں اور تقذروں کو بارودت کام سر پر اٹھالیا جاوے اور نیز وہ تمام پاک صدائیں اور پاک معارف جو اس کی وسیع قدرتوں کی معرفت کا ذریعہ اس کی ملکوت اور سلطنت کے علوئے مرتبہ کو معلوم کرنے کے لئے ایک واسطہ اور اس کے آلاء اور نعماء کو پہچاننے کے لئے ایک قوی رہبر ہیں۔ بخوبی معلوم کر لی جائیں۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی راہ میں.....“

مولانا غلام غوث ہزاروی: جناب صدر صاحب یہ محضر نامے میں تین صفحے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ تین صفحے سنانا تو بہت وقت لگے گا یہ محضر نامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسلام کی تعریف مرزا صاحب نے اپنا تقدس ظاہر کرنے کے لئے.....

جناب چیئرمین: یہ محضر نامے میں ہے۔

اراکین: جی ہاں۔

Mr. Chairman: Then it need not be repeated. It can be referred page so and so of Mahzar- Nama yes, it need not be repeated.

۲۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(جناب چیئرمین: دہرائے مت۔ صرف محضر نامہ کا حوالہ کافی ہوگا)

(Interruptions)

جناب یحییٰ بختیار: اگر آپ *Emphasize* کرنا چاہتے ہیں۔
مرزانا صراحت: نہیں، نہیں میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف ایک بات کی
وضاحت چاہتا ہوں۔ ممکن ہے میں نے غلط سمجھا ہو میں اپنے آپ کی تصحیح کروانا چاہتا ہوں۔ پہلے
دن یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ اگر سوال دہرایا جائے گا تو جواب بھی دہرایا جائے گا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں.....

مرزانا صراحت: تو چونکہ سوال دہرایا گیا ہے حقیقی مسلمان کے متعلق.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں سوال تو ابھی تک نہیں دہرایا گیا یہ تو ایک *Reference*

(حوالہ) ہے مرزا بشیر احمد صاحب کا.....

مرزانا صراحت: اور اس سے پوچھا گیا کہ حقیقی.....

جناب یحییٰ بختیار: اور اس میں ایک لفظ حقیقی آ گیا تھا۔

مرزانا صراحت: ہاں، حقیقی مسلمان کون ہے اور دوسرا کون ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ محضر نامے میں آپ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

مرزانا صراحت: تو حقیقی اسلام کے متعلق میں نے یہ سنائی ہے بات، ویسے میں آگے

چھوڑ دیتا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے۔ ریکارڈ پر آچکا

ہے اس واسطے.....

مرزانا صراحت: الی آخر یعنی اس کو آخر تک پڑھ لیا جائے تو بتائیں یہ رہا تھا..... جو

کچھ سن لیا اس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ (Pause)

جہاں سے یہ سوال جس پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ مدعی اسلام اور حقیقی مسلمان میں کیا فرق
ہے؟ یہی سوال بنا تھا تو میں نے بتایا کہ آپ کے نزدیک حقیقی یہ شخص..... جس اقتباس کے دو ایک
صفحے میں نے پڑھے ہیں اور کچھ رہ گئے ہیں۔ لیکن جو مطلب ہے وہ واضح ہو جاتا ہے اس لئے
میں نے وقت بچانے کے لئے چھوڑ دیا تو حقیقی مسلمان سے وہ مراد ہے اور جو ویسا نہیں وہ مدعی
اسلام ہے اور یہاں سے وہ مفہوم نہیں نکلتا ایک جو قابل اعتراض ہو۔ یہ فیصلہ ہم پہلے کافی تبادلہ
خیال کے بعد کر چکے ہیں کہ وہ گروہ ہے مسلمانوں کا جو انتہائی طور پر مخلص اور خدا کے مقرب ہیں اور

۲۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ایک وہ ہے جو ان کے حدود سے نکلنے کے بعد جو وہ حد اسلام سے ہی خارج کر دیتی ہے اس کے درمیان ہزاروں قسم کے نیم مخلص، درمیانے درجے کے اور ادنیٰ درجے کے ہیں وہ بات واضح ہو چکی ہے وہی یہاں.....

جناب یحییٰ بختیار: میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بیچارہ سادہ پٹھان تھا میری طرح میں بھی پٹھان ہوں ایک مولوی سے اس نے پوچھا کہ مولوی صاحب جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے پہلے تو کہا کہ بھی نماز پڑھو، روزے رکھو، حج جاؤ۔ یہ سب باتیں ہیں اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ تو اس نے کہا اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو میں جنت میں پہنچ جاؤں گا؟ کہتے ہیں نہیں پل صراط ہوگا، تلوار سے تیز، بال سے باریک تو اس نے کہا کہ پھر صاف بات کیوں نہیں کہتے کہ کوئی راستہ ہی نہیں جانے کا، تو آپ سے یہ عرض کروں گا.....

مرزا ناصر احمد: نہ میں یہ نہیں کہتا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں۔ میں ملا اور پٹھان کی بات کرتا ہوں آپ نے حقیقی مسلمان کی Definition (تعریف) کی ہے۔ اس کے مطابق آپ کو کتنے مسلمان اس دنیا میں نظر آئے ہیں؟

مرزا ناصر احمد: میں نے جو حقیقی مسلمان کی تعریف بتائی ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں میں یہ نہیں کہتا.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں میرا جواب سن لیں اس سے میں نے یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ جو اس قسم کے مسلمان نہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا.....
مرزا ناصر احمد: میں سمجھا نہیں۔

(حقیقی مسلمان کم ہیں، یا ہیں نہیں؟)

825 جناب یحییٰ بختیار: میرا سوال یہ ہے کہ بہت ہی کم ہیں ایسے مسلمان یا بالکل ہی نہیں ہیں؟

مرزا ناصر احمد: امت محمدیہ میں لاکھوں کروڑوں ایسے گزرے۔

جناب یحییٰ بختیار: اس Definition (تعریف) کے مطابق.....

مرزا ناصر احمد: ہاں جی اس Definition (تعریف) کے مطابق۔
 جناب یحییٰ بختیار: اور آج کل بھی کوئی لاکھوں کروڑوں ایسے نہیں آپ کے خیال میں؟
 مرزا ناصر احمد: اس وقت مجھے سمجھا جائے گا کہ میں متعصب ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں اتھارٹی جو ہے جس نے Study (مطالعہ) کی ہے جس نے لوگوں کو دیکھا ہے.....
 مرزا ناصر احمد: اس وقت بھی میرے نزدیک میرے علم میں، نزدیک نہیں، میرے علم میں ہزاروں ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہزاروں ہیں؟
 مرزا ناصر احمد: میرے علم میں نہیں ہیں اور میرا علم بہر حال حاوی نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔ میرے علم میں ہزاروں ہیں جو اس تعریف کے ماتحت آجاتے ہیں۔ حقیقی مسلمان والی۔

(سب قادیانی حقیقی مسلمان نہیں؟)

جناب یحییٰ بختیار: یعنی آپ کے علم میں ہیں جو اس تعریف کے اندر آتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ علم میں اور آپ کے نقطہ نظر سے سب احمدی اس میں نہیں آسکتے۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں نہیں آسکتے۔ میں نے صاف کہہ دیا، نہیں آسکتے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ان میں کچھ تعداد ہوگی جو مدعی اسلام ہوں گے، کچھ حقیقی ہوں گے، ان میں بھی اب یہاں جو انہوں نے کہا ہے مرزا صاحب نے میں اس کی طرف پھر توجہ دلا دینا چاہتا ہوں۔⁸²⁶ آپ کی اور وقت ضائع کر رہا ہوں، وہاں جو ہے یہ سوال نہیں ہے کہ مدعی اسلام کون ہے اور حقیقی اسلام میں کون، وہاں یہ ہے کہ..... غیر احمدیوں کے متعلق مسلمان کا لفظ دیکھ کر لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ مرزا صاحب!
 مرزا ناصر احمد: جی بالکل ٹھیک ہے۔

۱۔ قادیانی حضرات توجہ فرمائیں۔ حقیقی مسلمان کی تعریف میں تمام قادیانی شامل نہیں۔
 گویا مرزا قادیانی کو مان کر قادیانی، کافر کے کافر ہے۔ مبارک ہو موجودہ قادیانیوں کو، کہ: ”نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم“

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Mr. Yahya Bakhtiar: *This is Ahmadi a*
nd only to whom he is referring۔ کہ ان کو حقیقی نہ سمجھیں۔
 (جناب یحییٰ بختیاری: یہ صرف اور صرف غیر احمدیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے)
 مرزا ناصر احمد: جب آپ ختم کر لیں تو مجھے بتادیں۔ میں جواب دوں یہاں کوئی
 اس سے اتفاق کرے یا نہ، یہی کہا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک تمام وہ جو احمدی نہیں مدعیان اسلام
 ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تمام وہ جو احمدی نہیں وہ حقیقی مسلمان ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیاری: آپ پھر دیکھ لیں۔
 مرزا ناصر احمد: پھر میں نے دیکھا یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تمام وہ جو احمدی نہیں مدعیان
 اسلام ہیں اور احمدیوں میں سے بھی بہت سارے مدعیان اسلام ہیں اور حقیقی مسلمان نہیں ہیں اس
 سے انکار ہی نہیں کیا گیا اس میں۔

جناب یحییٰ بختیاری: میں ایک دفعہ پھر پڑھ کے پھر اس سوال کو چھوڑ دیتا ہوں اور پھر
 آگے آپ کو تکلیف دوں گا۔ ”معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کو بھی بعض وقت اس بات کا خیال
 آیا ہے کہ کہیں میری تحریروں میں غیر احمدیوں کے متعلق مسلمان کا لفظ دیکھ کر.....“ کبھی عیسائی تو
 مدعی اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہودی ہو نہیں سکتا۔ مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو صرف غیر احمدی
 مسلمان جو ہیں وہی ہو سکتے ہیں۔ ”غیر احمدیوں کے متعلق مسلمان کا لفظ دیکھ کر لوگ دھوکہ نہ
 کھائیں اس لئے آپ نے کہیں کہیں بطور ازالہ کے غیر احمدیوں کے متعلق ایسے الفاظ بھی لکھ دیئے
 کہ وہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تا جہاں کہیں بھی مسلمان کا لفظ ہو اس سے مدعی اسلام سمجھا
 جاوے نہ کہ حقیقی مسلمان۔“
 827 مرزا ناصر احمد: نہ کہ حقیقی مسلمان اس کی تعریف بھی آگئی۔

Mr. Yahya Bakhtiar: *Clearly outside the pale of*
Ahmadi Musalman. If I mean, if I write Musalman I mean
people who claim to be Musalman or pretend to be
Musalman. This is the impression from the plain, simple
reading of the passage. After that if you want to add
something more, Sir, That will come on the record.
 (جناب یحییٰ بختیاری: صریحاً احمدی مسلمان کے دائرے سے خارج، اگر میں کہوں

اگر میں لکھوں ”مسلمان“ تو میرا مطلب ان سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یا خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اس پیرا کا صاف اور سادہ مطلب ہے۔ اس کے باوجود آپ کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریکارڈ پر آجائے گا)

مرزا ناصر احمد: میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں جو عبارت ابھی پڑھی گئی ہے وہ بانی سلسلہ احمدیہ کی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے ”حضرت مسیح موعود کو بھی بعض وقت اس بات کا خیال آیا ہے..... یہ آرٹیکل لکھنے والے کا اپنا استدلال ہے۔ جس کے متعلق انہوں نے یہ اظہار کیا ہے کہ مجھے بھی اپنے استدلال پر پختہ یقین نہیں اس لئے لفظ استعمال کیا معلوم ہوتا ہے۔ ”معلوم ہوتا ہے“ ایک پختہ بات کے لئے نہیں استعمال کیا گیا بلکہ پختہ بات ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات ہے، یہاں یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے اور یہ آپ کا استدلال ہے اور آگے جو کہا کہ وہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہیں مدعی اسلام سمجھا جاوے، حقیقی مسلمان جو اس تعریف کے اندر آتا ہے جس میں سارے احمدی بھی نہیں وہ نہ سمجھا جائے۔ یہ سارا ایک استدلال ہے۔ اس مضمون کے لکھنے والے کا.....“

جناب یحییٰ بختیار: وہ کہتے ہیں غیر احمدی کے بارے میں جب میں مسلمان کہتا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: یہ استدلال ہے مضمون لکھنے والے کا، اور میں نے بتایا کہ یہ کہنا میرے نزدیک تمام غیر احمدی اس تعریف کے مطابق حقیقی مسلمان نہیں، اس کا اس سے یہ نہیں منطقی نتیجہ نکلتا۔ منطقی اس کے خلاف کہتی ہے۔ ہمیں *Theological conclusion is not that* (اس کا منطقی نتیجہ یہ نہیں) کہ جو احمدی ہیں وہ سارے حقیقی مسلمان ہیں۔ فقرہ یہ ہے کہ جو احمدی نہیں۔

Mr. Yahya Bakhtiar: Sorry Sir, one minute

(جناب یحییٰ بختیار: جناب والا! معاف کیجئے گا۔ ایک منٹ.....)

آپ کے نقطہ نظر سے عقیدے سے کوئی غیر احمدی بھی حقیقی مسلمان ہے؟

(آپ کے نقطہ نظر سے کوئی غیر احمدی، مسلمان نہیں؟)

مرزا ناصر احمد: میرے عقیدے کے مطابق ہاں یہ بڑا واضح ہے سوال، میرے عقیدے کے مطابق اس تعریف کے لحاظ سے میرے علم میں کوئی غیر مسلمان حقیقی مسلمان نہیں۔ غیر احمدی مسلمان ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والا اس معیار کا کوئی نہیں۔

828 جناب یحییٰ بختیار: حقیقی کوئی نہیں؟

مرزا ناصر احمد: اس معیار کا حقیقی مسلمان!۔
جناب یحییٰ بختیار: ہاں وہ حقیقی جو آپ نے Define (تعریف) کیا ہے۔
مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں جو اس حوالے سے لکھا ہے۔

Mr. Yahya Bakhtiar: Sir, the next subject will take some time shall we have to break now.

(جناب یحییٰ بختیار: جناب اگلی بات کچھ وقت لے گی، کیا اب ہمیں وقفہ کرنا چاہئے)

Mr. Chairman: The delegation is permitted to withdraw for 12:15. - سوا بارہ بجے۔

(جناب چیئرمین: وفد کو سوا بارہ بجے تک جانے کی اجازت ہے)

(The Delegation left the Hall)

(وفد ہال سے چلا گیا)

Mr. Chairman: I would like to know if any honourable member wants to say something.

(جناب چیئرمین: میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی معزز رکن کچھ کہنا چاہتے ہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, Sir.

(جناب یحییٰ بختیار: نہیں، جناب)

Mr. Chairman: Then we meet at 12:15. Thank you very much.

(جناب چیئرمین: پھر ہم سوا بارہ بجے ملیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ)

(The Special committee adjourned for tea break to meet again at 12:15 pm.)

(خصوصی کمیٹی کا اجلاس چائے کے وقفہ کے لئے سوا بارہ بجے تک کے لئے ملتوی ہوتا ہے)

۱ پوری دنیا کے مسلمان جو مرزا کو نہ مانیں؟

۳۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(The Special Committee re-assembled after tea break, Mr. Chairman (Sahibzada Farooq Ali) in the Chair.)
 (خصوصی کمیٹی کا اجلاس چائے کے وقفہ کے بعد شروع ہوا۔ چیئرمین صاحبزادہ فاروق علی نے صدارت کی)

 جناب چیئرمین: ابھی نہ بلائیں۔ دو منٹ ہاں نیچے آ جائیں، باہر بٹھادیں، آپ تشریف رکھیں ناں جی۔

Just to tell something about the programme to the honourable members... I draw the attention of honourable members ___ Sardar Abdul Aleem. I will just draw the attention of Honourable member.... Sadar Abdul Aleem.
 (پروگرام کے بارے میں میں معزز اراکین کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں معزز اراکین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سردار عبدالعلیم)

829
**PROGRAMME FOR FURTHER SITTING OF
 THE COMMITTEE / ASSEMBLY**

(اسمبلی/کمیٹی کے اگلے اجلاسات کا پروگرام)

I will just draw the attention of honourable members that we have decided certain things about the programme. I want to tell to the honourable members the Attorney General needs a week to prepare what has been done in six days, it takes at least a week for preparation. We also need a week for the preparation of our record. Only then we can supply to honourable members the copies of record without which we cannot proceed further. So many things are left out so many things are to be asked. So to-day will be the last

۳۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
 کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
 اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
 یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
 گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

day, rather this meeting will be the last for the cross-examination, but the cross-examination will continue. The date will be fixed and will be told. The House committee will adjourn from to-day and the date will be round about 19, 20, 21st. It will be told to the honourable members. Tomorrow will be no session. For 12th and 13th, we will meet as National Assembly, one session daily on the 12th and 13th morning.

(میں معزز اراکین کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ پروگرام کے بارے میں ہم نے کچھ فیصلے کئے ہیں جو کہ میں معزز اراکین کو بتانا چاہتا ہوں۔ پچھلے چھ روز میں جو کارروائی ہوئی اس کے مد نظر انٹرنی جنرل کو مزید کارروائی کی تیاری کے لئے ایک ہفتہ مہلت درکار ہے۔ ہمیں بھی ریکارڈ کی تیاری کے لئے ایک ہفتہ چاہئے۔ تاکہ نقول معزز اراکین کو مہیا کی جاسکیں۔ اس کے بغیر مزید کارروائی ممکن نہیں۔ کئی باتیں رہ جاتی ہیں۔ کئی باتیں پوچھنا ہوتی ہیں۔ چنانچہ آج جرح کا آخری دن ہوگا۔ گوگواہ پر مزید جرح جاری رہے گی۔ (آئندہ کارروائی کے لئے) تاریخ مقرر کی جائے گی اور اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کمیٹی کا اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا اور آئندہ تاریخ ۱۹، ۲۰ یا ۲۱ ہوگی۔ اس کا اعلان معزز اراکین کے سامنے کر دیا جائے گا۔ کل کوئی اجلاس نہیں ہوگا۔ ۱۲ یا ۱۳ تاریخ کو ہم بطور قومی اسمبلی اجلاس کریں گے جس کا روزانہ ایک اجلاس صبح کے وقت ہوگا)

Mr. Abdul Hafeez Pirzada (Minister for Law and Parliamentary Affairs): I would request that we shall have after noon session.

(جناب عبدالحفیظ پیرزادہ (وزیر قانون): میری گزارش ہے کہ اجلاس شام کو منعقد کیا جائے)

Mr. Chairman: Now, Mr. Law Minister, you have also to accept our request.

(جناب چیئرمین: وزیر قانون صاحب! آپ کو میری گزارش ماننا ہوگی)

Mr. Abdul Hafeez Pirzada: Because the Senate

۳۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگان، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

is.... (جناب عبدالحفیظ پیرزادہ: چونکہ سینیٹ.....)

Mr. Chairman: You were absent for six days.

(جناب چیئر مین: آپ چھ روز تک غیر حاضر رہے)

Mr. Abdul Hafeez Pirzada: Sir, the Senate is meeting in the morning.

(جناب عبدالحفیظ پیرزادہ: جناب والا سینیٹ کا اجلاس صبح کو ہو رہا ہے)

Mr. Chairman: You have to compensate, now we can meeting simultaneously, we have made arrangements, we can....

(جناب چیئر مین: اس کا ازالہ اب آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ اجلاس ایک ہی وقت

ہو سکتے ہیں۔ ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں۔ ہم.....) (Interruption)

All right. (ٹھیک ہے)

Mr. Abdul Hafeez Pirzada: We have a lot of burden in the morning and other work suffers a lot.

(جناب عبدالحفیظ پیرزادہ: صبح کے وقت کافی زیادہ کام ہوتا ہے اور دوسرے

کاموں کا حرج ہوتا ہے)

⁸³⁰ *Mr. Chairman: Yes.* (جناب چیئر مین: جی ہاں)

Mr. Abdul Hafeez Pirzada: In the evening.

(جناب عبدالحفیظ پیرزادہ: شام کے وقت)

Mr. Chairman: Six of the Clock in the in the morning. Now we are in a position that the Senate and National Assembly can meet simultaneously, that will be for the convenience of the Ministers.

(جناب چیئر مین: شام چھ بجے۔ چنانچہ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس ساتھ

ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح وزراء صاحبان کو سہولت رہے گی)

Mr. Abdul Hafeez Pirzada: Yes.

۳۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگان، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

(جناب عبدالحفیظ پیرزادہ: جی ہاں)

Ch. Mohammad Hanif Khan (Minister for Labour and Works): There are Bills pending now before the National Assembly at the same time simultaneously, we will have to appear before the Senate, because the Bills are pending there as well.

(چوہدری محمد حنیف خان (وزیر محنت): قومی اسمبلی کے پاس قانونی مسودہ بل ہیں۔ سینیٹ کے پاس بھی ایسے ہی بل ہیں۔ لہذا ہمیں ایک ہی وقت میں سینیٹ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے)

Mr. Chairman: I see. So, on the 12th and 13th we will be....

(جناب چیئر مین: اس لئے میں کہتا ہوں کہ ۱۲ اور ۱۳ کو ہم ہوں گے.....)
چوہدری محمد حنیف خان: دونوں ایک ہی وقت نہیں مل سکیں گے۔ بہت Bills ہیں وہاں پر.....

جناب چیئر مین: ٹھیک ہے۔ *In the evening.* (شام کے وقت)
جناب عبدالحفیظ پیرزادہ: رپورٹرز کے دو حصے کر دیئے ہیں۔ وزراء کے بھی دو حصے کر دیجئے کہ آدھے.....

Mr. Chairman: So, should we call them? The delegation may be called.

(جناب چیئر مین: تو کیا ہم انہیں بلا لیں؟ وفد کو بلا لیا جائے)

Mr. Yahya Bakhtiar: Sir, I may explain you know that....

(جناب یحییٰ بختیار: جناب والا! میں وضاحت کر دوں۔ آپ کو معلوم ہے.....)

Mr. Chairman: Just a minute, yes.

(جناب چیئر مین: ذرا ٹھہریئے۔ جی)

Mr. Yahya Bakhtiar: Since it have been agreed

۳۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

that after this sitting will be adjourned, so I don not want to start a subject like Jihad or what they said about the British.

(جناب یحییٰ بختیار: چونکہ اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ اس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا۔ لہذا میں کوئی موضوع شروع نہیں کرنا چاہتا۔ جہاد یا برطانیہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا)

Mr. Chairman: Yes, (جناب چیئرمین: جی ہاں)

Mr. Yahya Bakhtiar: So even if I finish within 15,20 minutes.

(جناب یحییٰ بختیار: اگر میں پندرہ بیس منٹ میں اپنے سوالات ختم کر دوں تو پھر.....)

⁸³¹ Mr. Chairman: Yes, it is all right.

(جناب چیئرمین: جی ہاں! یہ ٹھیک ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: We should finish today. I would not go to the (new subject)....

(جناب یحییٰ بختیار: ہم کاروائی آج ختم کر لیں گے میں کوئی نیا موضوع شروع نہیں کروں گا)

Mr. Chairman: It is all (up) to the convenience of the Attorney- General.....

(جناب چیئرمین: یہ سب اٹارنی جنرل صاحب کی اپنی سہولت پر ہے.....)

Mr. Yahya Bakhtiar: New subject all together.

(جناب یحییٰ بختیار: بالکل نیا موضوع.....)

Mr. Chairman: It is Attorney- General like or the Law Minister propose, perhaps we can hold a meetings of the steering Committee also just one day before, that is on 19th or 20th.

(جناب چیئرمین: اٹارنی جنرل صاحب یا وزیر قانون صاحب پسند کریں تو ہم سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ایک روز قبل یعنی ۱۹ یا ۲۰ کو بلا سکتے ہیں)

۳۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

Mr. Abdul Hafeez Pirzada: We see that sir.

(جناب عبدالحفیظ پیرزادہ: جناب والا! یہ دیکھ لیں گے)
 مولانا محمد ظفر احمد انصاری: وہ دیکھ لیجئے گا۔
 جناب چیئرمین: وہ دیکھ لیں گے۔ *They may be called.* (انہیں بلا لیں)

(The Delegation entered the Hall)

(وفد ہال میں داخل ہوا)

*The Attorney- General is ready? Yes, Mr. Attorney-
 General.* (اٹارنی جنرل تیار ہے؟ جی ہاں، جناب اٹارنی جنرل)

CROSS- EXAMINATION OF THE QADIANI GROUP DELEGATION

(قادیانی وفد پر جرح)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب میں نے چند سوالات آپ سے پوچھے تھے جس سے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے کو مسلمانوں سے ایک علیحدہ فرقہ یا امت یا گروہ یا پارٹی سمجھتے ہیں تو اسی *Separatism* اور *Separatist Tendency* (علیحدگی کے رجحان) کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ سوال کس پر میں پوچھ رہا ہوں، آپ سے ایک دو سوال اور میں پوچھوں گا جی۔

مرزا ناصر احمد: ویسے میں یہ تمہید.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں آپ *Deny* (انکار) کیا ہے نا۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں میں تمہید بھی نہیں سمجھا میں تو یہ کہنے لگا ہوں اب آپ نے تمہید باندھی ہے۔

832 جناب یحییٰ بختیار: میں پھر کہہ دیتا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: وہ میں اس لئے نہیں سمجھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے سوال پوچھے تھے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔

۳۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(قادیانیوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں سے الگ شمار کیا جائے)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ اثر پڑتا تھا۔ یہ Impression (تأثر) میں نے ایک سوال آپ سے پوچھا تھا کہ مرزا صاحب نے ایک جگہ کہا تھا کہ Census (مردم شماری) میں ہمیں علیحدہ ریکارڈ کیا جائے پھر میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایک نمائندہ بھیجا تھا کہ جہاں پارسی، عیسائی علیحدہ Treat (شمار) ہو رہے ہیں۔ ہمیں بھی علیحدہ Treat (شمار) کیا جائے۔

مرزا ناصر احمد: اس کا بھی جواب نہیں دیا میں نے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں میں نے کہا جی کہ وہ مد نظر رکھیں آپ کہ میں اس Subject (موضوع) پر بول رہا ہوں تاکہ آپ بعد میں یہ نہ سمجھیں کہ کس Context (ضمن) میں یہ بات ہوئی تھی۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! یہ تو آپ کو علم ہے اور سب کو علم ہے عیسائیوں، ہندوؤں، پارسیوں کے اور مسلمانوں کے علیحدہ علیحدہ کیلنڈر ہیں۔

مرزا ناصر احمد: علیحدہ علیحدہ؟

جناب یحییٰ بختیار: کیلنڈر۔

مرزا ناصر احمد: اچھا۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ درست ہے ناں جی کہ یہ عیسوی ہے عیسائیوں کی، مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر ہے جو ہجری سے شروع ہوتا ہے۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔

(احمد یوں کا بھی کوئی علیحدہ کیلنڈر ہے؟)

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، پھر پارسیوں کا ایسا ہی ہے جو اپنے نوروز سے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کا کیلنڈر ہے۔ ابھی ہمارا ۱۳۹۴ھ سال ہے۔ یہ تو کیا آپ کا احمد یوں کا بھی کوئی کیلنڈر ہے؟

مرزا ناصر احمد: نہیں۔

833 جناب یحییٰ بختیار: کیا آپ کے اخبارات میں ہجری سن کے ساتھ آپ کے کسی سال کا ذکر آتا ہے۔ کیلنڈر کا جو اخبارات یا رسالے چھپتے ہیں جیسے ہمارے اخبارات میں عیسوی کے

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ساتھ ہجری لکھتے ہیں۔ آپ آج کا اخبار ”جنگ“ اٹھا لیجئے۔ آپ ”نوائے وقت“ اٹھا لیجئے یا کوئی اخبار دیکھ لیجئے۔ ہجری اور عیسوی دونوں کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ کے بعض اخباروں میں اور رسالوں میں ہجری یا عیسوی کے ساتھ آپ کے کیلنڈر کا، سال کا، مہینے کا کوئی ذکر ہوتا ہے یا نہیں؟

مرزانا صراحتاً: نہیں ہمارے کیلنڈر کا ذکر نہیں ہوتا۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ کے کیلنڈر.....

مرزانا صراحتاً: ہمارا کیلنڈر ہے ہی نہیں ذکر کہاں سے ہوگا۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، میں یہی پوچھ رہا تھا پہلے میں نے.....

مرزانا صراحتاً: نہیں میں وضاحت کر دوں کیونکہ پھر آجائے گا کہ شاید میں نے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، میں نے پہلے پوچھا کہ کیلنڈر ہے؟ آپ نے کہا نہیں ہے۔

مرزانا صراحتاً: بالکل نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: پھر بعض اخباروں میں ایسے.....

مرزانا صراحتاً: اگر آپ کا سوال ختم ہو جائے تو پھر میں جواب دوں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ کی جو

Publications (مطبوعات) ہیں.....

مرزانا صراحتاً: جو ہجرت ہے وہ ہمارے ساتھ تو نہیں تعلق رکھتی۔ اسلام کے ہر

فرتے سے تعلق رکھتی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں میں یہی پوچھ رہا تھا۔

مرزانا صراحتاً: تو جس کیلنڈر کو کوئی کسی شکل میں ہجرت سے شروع کیا جائے گا وہ

سوائے اسلام کے کسی اور کی طرف منسوب ہی نہیں ہو سکتا۔

834 جناب یحییٰ بختیار: نہیں میں نے صرف یہ گزارش کی کہ آپ کا اپنا کوئی ایسا

کیلنڈر ہے؟

مرزانا صراحتاً: نہیں ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی کیلنڈر نہیں ہجرت سے تعلق

رکھنے والا ایک کیلنڈر ہے۔

۱۔ مرزانا صراحتاً کے اس جواب کو قادیانی ملاحظہ فرمائیں۔ پھر آگئے جو وہ مؤقف

اختیار کریں اس پر توجہ کریں کہ دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے؟ جو ایک دینی راہنما کہلانے والے

کے بالکل شایان شان نہیں۔ ایسے حربے تو عیار دنیا دار بھی نہیں کرتے جو مرزانا صراحتاً کر رہا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ تو مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے؟
مرزا ناصر احمد: ہاں ہاں مسلمانوں کا کیلنڈر ہی ہے جو ہجرت سے تعلق رکھتا ہے وہ
مسلمانوں کا کیلنڈر ہے۔ (Pause)

(”ماہ، وفا“ کون سے مہینے کو کہتے ہیں؟)

جناب یحییٰ بختیار: یہ ”ماہ وفا“ کون سے مہینے کو کہتے ہیں آپ۔
مرزا ناصر احمد: ابھی کیلنڈر کی بات ہو رہی تھی، پھر مہینے کی، میں نے اسی واسطے کہا تھا
کہ ہجرت سے تعلق رکھنے والے کسی کیلنڈر کو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والا کیلنڈر کہنا یہ درست
نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی نہیں اس کو درست سمجھے گا۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ہجرت سے تعلق رکھنے
والے دو کیلنڈر ہیں، ایک کو قمری کہا جاتا ہے جس کا چاند سے تعلق ہے، وہی ابتداء اس کی وہی ہے
ہجرت، اور ایک کو شمسی کہا جاتا ہے جس کا سورج سے تعلق ہے۔ جیسے کہ عیسائیوں کا کیلنڈر ہے جو
ہجرت کا قمر کے ساتھ تعلق رکھ کر آگے چلے ناں سال وہ تمام دنیا میں رائج ہے۔ لیکن دنیا کے ایک
حصے میں مسلمانوں نے ہجرت سے بھی ایک دوسرا کیلنڈر جس کا سورج سے تعلق ہے لیکن وہ
مسلمانوں کا کیلنڈر ہے۔ کیونکہ ہجرت سے چلتا ہے وہ بنا یا..... افغانستان میں وہ رائج ہے۔ ایران
میں وہ رائج ہے۔ ”ہجری، شمسی“ اور اس کو ہمارا بھی دل کیا اور اب بھی کرتا ہے کہ اس کو رائج کریں
پوری طرح ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس کیلنڈر کا تعلق ہجرت نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ہے جو
افغانستان میں رائج ہے جو ایران میں رائج ہے اگر جماعت احمدیہ ایک تھوڑی سی حقیر کوشش کرے
تو اس کو اس کا اپنا کیلنڈر کیسے کہا جائے گا؟

835 جناب یحییٰ بختیار: نہیں میں نے یہ کبھی نہیں کہا میں نے.....

مرزا ناصر احمد: میں وضاحت کر رہا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: میں نے پوچھا آپ سے۔

مرزا ناصر احمد: بس یہی میرا جواب ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ ”ماہ وفا“ جو ہے یہ شمسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟

مرزا ناصر احمد: یہ شمسی کے ساتھ شمسی ہجری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔

(افغانستان میں یہی مہینے ہیں؟)

جناب یحییٰ بختیار: افغانستان میں بھی یہی مہینے ہیں؟

مرزا ناصر احمد: نہ مہینوں کے نام یہ نہیں ہیں۔ مہینوں کے نام ہم نے نبی اکرم ﷺ کی زندگی کے مختلف واقعات جو تھے ان کے اوپر Base کر کے یہ نام رکھے ہیں بارہ مثلاً ”فتح مکہ“، ”فتح“، ”اس کا تعلق فتح مکہ سے ہے۔“

۱۔ مرزا ناصر احمد نے یہاں صریح دھوکہ دہی سے کام لیا ہے۔ ایران، افغانستان کے سنی کیلنڈر علیحدہ ہیں۔ ان کے مہینوں کے نام علیحدہ، قادیانیوں کے بالکل علیحدہ، پھر قادیانیوں نے علیحدہ مہینوں کے نام اپنی وجہ سے رکھے۔ مثلاً نومبر کے مہینہ کو قادیانی نبوت کہتے ہیں۔ اس لئے کہ نومبر ۱۹۰۱ء میں مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ دیگر مثالیں سمجھانے سے پہلے ان کے مہینوں کی ترتیب اور نام ملاحظہ کریں۔ جنوری کے مہینہ کو قادیانی ”صلح“ کہتے ہیں۔ فروری کو تبلیغ، مارچ کو امان، اپریل کو شہادت، مئی کو ہجرت، جون کو احسان، جولائی کو وفا، اگست کو ظہور، ستمبر کو تیوک، اکتوبر کو اخاء، نومبر کو نبوت، دسمبر کو فتح۔ غرض ہر مہینہ کے نام کے پیچھے قادیانیوں نے اپنی جماعتی زندگی کے کسی اہم واقعہ پر بنیاد رکھی۔ جیسے نومبر کو نبوت، اس لئے کہ نومبر میں مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء میں مرزا کی وفات ہوئی۔ تو مئی کو یہ ہجرت کہتے ہیں۔ ۱۴ جولائی ۱۹۰۳ء میں عبداللطیف قادیانی افغانستان میں پھانسی لگا تو یہ جولائی کو وفا کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں ہجرت سن آنحضرت ﷺ کی ہجرت کی مناسبت سے ہجری کہلایا۔ یا عیسائی حضرات میں سن عیسوی چلتا ہے۔ بہت سارے سنہ چلتے ہیں۔ مسلمانوں سے علیحدہ شناخت کے لئے سن ہجری سے قادیانیوں نے علیحدہ سن بنایا۔ نام دیا اس سن کو ہش یعنی ہجری، سنی، لیکن اس میں دجل سے کام لیا۔ ہجری سے مراد آنحضرت ﷺ کی ہجرت مراد نہیں لیتے۔ بلکہ ان کی مراد ہجرت سے مرزا کی وفات ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں قادیانیوں کی شائع کردہ ڈائری ۱۹۴۲ء ہے۔ یکم جنوری ۱۹۴۲ء کو ذی الحجہ کی ۱۳ تاریخ اور سن ہجری ۱۳۶۰ ہے۔ قادیانیوں نے یکم جنوری ۱۹۴۲ء کو ذی الحجہ کی ۱۳ تاریخ اور سن ہجری ۱۳۶۰ کو یکم صلح اور سن ۱۳۲۱ ہجری، سنی، کیا ہے۔ ۱۳۲۱ ہجری، سنی، جس کو وہ مختصر آہش کہتے ہیں۔ یہ خالصتاً دجل کا شاہکار ہے۔ مثلاً ۱۳۲۱ ہجری سے شمس سے مراد ہجری سن، سنی لحاظ سے بالکل نہیں بلکہ ہجری سے مراد مرزا کا سن وفات ہے۔ مثلاً ۱۳۲۱ کی ترتیب یہ قائم کی۔ ۱۳ جمع ۲۱ = ۳۴۔ مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں مرا تو ۱۹۴۲ء میں مرے ہوئے اسے ۳۴ سال ہو گئے۔ ۱۹۰۸ء میں ۳۴ جمع کریں تو ۱۹۴۲ بنتا ہے۔ اب مہینوں کے ناموں میں دجل، سن کے انتخاب میں دجل، غرض ہر اعتبار سے مسلمانوں سے علیحدہ اپنی شناخت کرائی۔ مگر یہاں اسمبلی میں وہ کیسے انکار کر رہا ہے؟ لیجئے قادیانیوں نے انگریزی مہینوں سے مقابل کے اپنے مہینوں کے ناموں پر مشتمل نظم بھی بنائی جو یہ ہے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

۴۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(کس مہینے کا نام کس وجہ سے رکھا، تفصیل دے دیں)
جناب یحییٰ بختیار: پھر اس کی تفصیل دے دیں کہ کس مہینے کا کس وجہ سے آپ نے
نام رکھا؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں یہ ٹھیک ہے۔

(”ضیاء الاسلام پریس“ قادیان میں تھا؟)
جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! اب آپ یہ فرمائیے کہ کیا ایک ”ضیاء الاسلام
پریس“ قادیان میں تھا؟
مرزا ناصر احمد: جی ایک پریس تھا قادیان میں جس کا نام ضیاء الاسلام تھا۔

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ)

ہجری، شمسی اور عیسوی مہینے

جنوری	صلح	فردری	تبلغ	ماہ	مارچ	امان	کو	لایا
اور اپریل	کا	مہینہ	جب	آیا	تو	شہادت	کا	نام ہے پایا
مئی	ہجرت	ہے	جون	ہے	احسان	اور	جولائی	میں وفا آیا
ہیں	اگست	ظہور	ہم	معنی	اور	ستمبر	تہوک	کہلایا
اور اکتوبر	احاء	میں	ہم	چیسے	بھائی	بندوں	کا	راز سمجھایا
پھر نبوت	مہ	نومبر	ہے	اور	دسمبر	کو	فتح	فرمایا

(از اکل..... احمدی جنوری ۱۹۴۲ء میں ص ۱۹)

اسی طرح احمدی جنوری ۱۹۴۳ء کے ص ۶ پر ہے کہ حضور ﷺ کی ہجرت مدینہ ۱۲ اکتوبر ۶۲۳ء کو ہوئی۔ اب قادیانی اگر ہجرت مدینہ مراد لیتے تو اکتوبر کو ہجرت کا مہینہ قرار دیتے۔ لیکن انہوں نے مئی کو ہجرت کا مہینہ قرار دیا کہ اس میں مرزا کا انتقال ہوا۔ اسی طرح اسی ص ۶ پر درج ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اعلان نبوت ۲۳ فروری ۶۱۰ء کو فرمایا۔ اگر آنحضرت ﷺ سے منسوب یہ مہینے ہوتے تو فروری کو قادیانی نبوت کا مہینہ قرار دیتے۔ انہوں نے نومبر کو نبوت کا مہینہ قرار دیا۔ اس لئے کہ مرزا نے نومبر ۱۹۰۱ء میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ مارچ کو قادیانی امان کہتے ہیں کہ اس ماہ میں مرزا نے بیعت لی۔ جو مرزا کی بیعت میں آیا امان پا گیا۔ دسمبر کو یہ ماہ فتح کا نام اس لئے دیتے ہیں کہ دسمبر میں ان کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا جسے یہ اپنی فتح سے تعبیر کرتے تھے۔

۴۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: اور اس میں ایک کتابچہ وہاں شائع ہوا ہے درود شریف کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے وہ؟
مرزا ناصر احمد: میں نے وہ پڑھا نہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے۔

(مرزائیوں کا درود شریف)

جناب یحییٰ بختیار: اس میں درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ ”اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد“
836 میں تھوڑی سی تبدیلی ہے کہ محمد ﷺ کے بعد ”احمد“ آ جاتا ہے۔ ”آل محمد“ کے بعد ”آل احمد“ آ جاتا ہے کیا یہ درست ہے؟

مرزا ناصر احمد: ہماری جماعت کا تو ایسا کوئی درود نہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں میں اسی واسطے آپ سے پوچھ رہا ہوں.....
مرزا ناصر احمد: نہیں ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: میں ابھی آپ کو فوٹو سٹیٹ دیتا ہوں آپ اسے ایک نظر دیکھ لیجئے۔
مرزا ناصر احمد: نہیں یہ مجھے علم ہے کہ اس کتاب میں یہ ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ ہے ناں کتاب میں؟
مرزا ناصر احمد: ہاں، لیکن وہ جماعت کا نہیں ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ ضیاء الاسلام پریس جو ہے قادیان میں اس کا آپ کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں؟

مرزا ناصر احمد: ضیاء الاسلام پریس ہے وہ ہر آدمی کی کتاب جو وہاں سے چھپوانا چاہئے.....
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، آپ کی Publications (مطبوعات شائع) کرتا رہا ہے یہ؟

مرزا ناصر احمد: ہماری Publications (مطبوعات شائع) کرتا رہا ہے۔ لیکن ہماری Publications (مطبوعات شائع) ”م ش“ کا اخبار بھی لاہور میں کرتا ہے اور بہت

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

سے اخبار اور پریس کرتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پریس سے آپ کا کیا تعلق ہے یا کوئی تعلق نہیں؟

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں یہ احمدی کی ملکیت.....

جناب یحییٰ بختیار: جماعت احمدیہ کی ملکیت؟

مرزا ناصر احمد: نہ نہ فرد احمدیہ کی ملکیت۔

⁸³⁷ جناب یحییٰ بختیار: مالک اس کا احمدی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی

Publications (مطبوعات شائع) یہ کرتا رہا ہے؟

مرزا ناصر احمد: ہماری *Publications* (مطبوعات)

جناب یحییٰ بختیار: اور یہ جو ہے درود شریف یہ آپ کی *Publications*

(مطبوعات).....

مرزا ناصر احمد: یہ ہماری *Publications* (مطبوعات) نہیں جماعت کی

Publications (مطبوعات) نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ کسی احمدی کی، اور کی ہے؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، کسی اور کی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مگر ہے احمدی کی یہ؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، احمدی کی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: انصاری صاحب! آپ پڑھ دیں۔

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: یہ ”ضمیمہ ص ۱۴۴ رسالہ درود شریف“ اور وہ صبح کی

نماز میں التزام کے ساتھ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد دعائے قنوت بالجہر پڑھا کرتے تھے اور

اس میں روزانہ درود شریف ان الفاظ میں پڑھا کرتے تھے: ”اللہم صلی علی محمد و احمد

و علی آل محمد و احمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید

مجید . اللہم بارک علی محمد و احمد و علی آل محمد و احمد کما بارک علی

۴۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید“ یہ واقعہ قریباً ۱۳۱۶ھ یعنی ۱۸۹۸ء کا یا اس کے قریب کا ہے انہوں نے کوئی تین چار ماہ تک متواتر نماز پڑھائی تھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام (مرزا قادیانی) بھی جماعت میں شامل ہوتے تھے اور کبھی حضور نے حافظ محمد صاحب کے اس طرح پر درود شریف پڑھنے کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تھا ایک دفعہ قاضی سید امیر حسین صاحب حافظ رحمت اللہ خاں صاحب اور چوہدری المعروف بھائی عبدالرحیم صاحب سابق جگت سنگھ صاحب نے ان سے کہا کہ یہ درود اس طرح پڑھنا چاہئے۔ بلکہ جس طرح حدیث میں آتا ہے اور نماز میں تشہد کے بعد پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھنا چاہئے۔ حافظ محمد صاحب کچھ تیز طبیعت کے تھے۔ انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ آپ لوگوں کا مجھے اس سے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر منع کرنا ہوگا تو حضرت صاحب اس سے مجھے خود منع فرمادیں گے۔ مگر حضور نے انہیں کبھی منع نہیں فرمایا تھا اور نہ ہی ان بزرگوں نے اس معاملے کو حضور کی خدمت میں پیش کیا اور حافظ صاحب بدستور اسی طرح نماز صبح میں دعائے قنوت اور درود شریف بالفاظ مذکورہ بالا پڑھتے رہے اس زمانے میں ابھی حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی ہجرت کر کے قادیان نہیں آئے تھے۔

”اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم انک حمید مجید“ اس میں یہ ہے کہ بالجبر پڑھا کرتے تھے۔ یعنی زور سے دعائے قنوت کے ساتھ یہ درود بھی پڑھتے تھے اور مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب کبھی اس کو روکا نہیں۔

مرزا ناصر احمد: بات سنیں جو اس کی کتابیں یہ ”رسالہ درود شریف“ جو کہا جاتا ہے ہمارے پاس ہیں ان میں یہ ہے ہی نہیں۔

جناب بیگی بختیار: مرزا صاحب! یہ Clarification (وضاحت) اس

۱۔ مرزا ناصر احمد دجل کر رہے ہیں۔ ”رسالہ درود شریف“ نہیں بلکہ ”ضمیمہ رسالہ درود شریف“ ہے۔ اس میں محمد و احمد والا درود اور یہ عبارت موجود ہے اس کا ہمارے پاس فوٹو موجود ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ معروف صحافی جناب شفیق مرزا صاحب جو اخبار جنگ میں کام کرتے تھے انہوں نے اس زمانہ میں مرزا ناصر احمد کو چیلنج کیا کہ تم میرے سامنے انکار کرو میں کتاب پیش کرتا ہوں۔ مرزا ناصر کو سانپ سونگھ گیا۔

۴۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو Approve (تسلیم) نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے؟

839 مرزانا صراحمد: میں یہ کہتا ہوں کہ جس کتاب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ اس میں ہے۔ یہ اس میں نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیاری: نہیں میں نے دوسرا سوال کیا آپ نے پہلے فرمادیا یہ کہ جو یہ درود ہے بالکل غلط ہے اور آپ اس کو Approve (تسلیم) نہیں کرتے بس یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔

مرزانا صراحمد: بالکل غلط ہے۔

جناب یحییٰ بختیاری: اور آپ کو یہ کوئی ہدایت نہیں کہ یہ اس قسم کا درود پڑھیں۔

مرزانا صراحمد: میں آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیاری: نہیں جی میں اسی واسطے پوچھ رہا ہوں.....

مرزانا صراحمد: نہیں ہے، نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیاری: دیکھیں نا، مرزا صاحب! میں الزام نہیں لگا رہا آپ سے

Clarification (وضاحت) چاہتا ہوں۔

مرزانا صراحمد: ہاں میں نے Clarification (وضاحت) دے دی

کہ نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیاری: میرے پاس سوالات آتے ہیں اور میری ڈیوٹی ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ بعد میں اس کی Basis (بنیاد) پر کوئی فیصلہ دیا جائے۔ جب تک کہ آپ کی توجہ اس پر مبذول نہ ہو اور آپ Clarification (وضاحت) نہ کریں تو اس ضمن میں میری ڈیوٹی ہے آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کھڑے آپ پر Allegation (الزام) لگا رہا ہوں۔

مرزانا صراحمد: نہیں، نہیں میں بالکل نہیں سمجھ رہا۔

جناب یحییٰ بختیاری: مرزا صاحب ویسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور اس پر کچھ

میرے نوٹس میں جواب نہیں پتہ چلتا اور ریکارڈ بن نہیں گیا ابھی تک اس لئے Difficulty

(مشکل) الفضل جلد نمبر ۵ شمارہ ۶۹، ۷۰۔ یہ ایک حوالے کا میں نے ذکر کیا تھا۔
 840 مرزا ناصر احمد: ۶۹، ۷۰؟ یہ شمارہ اس کی تاریخ کیا ہے؟
 جناب یحییٰ بختیار: تاریخ نہیں میرے پاس لکھی ہوئی، جی جلد ہے جی جلد نمبر ۵ شمارہ.....
 مرزا ناصر احمد: یہ ویسے ہمارے سامنے پہلی دفعہ آ رہا ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی میں پڑھ کر سنا چکا ہوں میں نے Mark (نشان) کیا ہوا ہے میں سنا چکا ہوں میں پھر پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر آپ کو تو یاد آ جائے گا کہ میں پڑھ چکا ہوں وہ یہاں لائے تھے۔ وہ ہمارے میاں عطاء اللہ صاحب وہ آج ہیں نہیں تو میں نے کہا شاید آپ کے پاس یہ Reference (حوالہ) ہو۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: ”کیا مسیح ناصری نے اپنے پیروؤں کو یہودیوں سے الگ نہیں کیا گیا؟ کیا وہ انبیاء جن کے سوانح کا علم ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ جماعتیں بھی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اپنی جماعتوں کو غیروں سے الگ نہیں کیا؟ ہر شخص کو ماننا پڑے گا کہ بیشک کیا ہے۔ پس اگر حضرت مرزا صاحب نے جو کہ نبی اور رسول ہیں اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق غیروں سے علیحدہ کر دیا تو نبی اور انوکھی بات کون سی ہے؟“ اس کا میں نے پڑھ کر سنایا تھا آپ نے Verify نہیں کیا؟ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: میرے ذہن میں نہیں ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں تو آپ ذرا مہربانی کر کے نوٹ کر لیں۔ کیونکہ یہ وہی.....
 مرزا ناصر احمد: اس کا وہ ہے ناں تاریخ کوئی نہیں الفضل کی۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ لائے گئے تھے جی کل مجھے بھی خیال نہیں رہا کہ آپ کو پھر توجہ دلاؤں۔

مرزا ناصر احمد: بغیر تاریخ کے تو میں.....
 (احمد یوں کو چھوڑ کر غیر احمد یوں میں کیوں قوم تلاش کرتے ہو؟)
 جناب یحییٰ بختیار: شمارہ اور جلد دونوں موجود ہیں۔

۴۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: جلد ۵ اور شمارہ ۶۹، ۷۰، ۷۱ ٹھیک ہے۔ اسی Reference (حوالہ)

سے آجائے گا۔

841 جناب یحییٰ بختیار: پھر میں صبح جب آپ کی توجہ دلارہا تھا کئی چیزیں رہ گئی ہیں۔ اس کی طرف پھر ایک تھا ملائکہ اللہ ص ۴۷ اور ۴۸..... مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی کتاب جس میں ہے کہ ”مگر جس دن سے کہ تم احمدی ہوئے تمہاری قوم تو احمدیت ہو گئی۔ شناخت اور امتیاز کے لئے اگر کوئی پوچھے تو اپنی ذات یا قوم بتا سکتے ہو ورنہ اب تو تمہاری گوت، تمہاری ذات، احمدی ہی ہے۔ پھر احمدیوں کو چھوڑ کر غیر احمدیوں میں کیوں قوم تلاش کرتے ہو؟“ آپ نے نوٹ بھی کیا میرے خیال میں اس پر آپ نے کچھ اس وقت بھی کچھ فرمایا تھا مگر تفصیل سے یا کچھ اور مزید ہے Verification (تصدیق) کہ یہ چیز Clear (واضح) رہے اس میں۔

مرزا ناصر احمد: جتنا یہ میرے سامنے ہے وہیں ختم کر دینا چاہئے۔ میرے نزدیک یہاں جو کہ بدعت تھی ناں کہ جو ہے مثل وہ سید میں شادی نہیں کرے گا اور سید وغیرہ تو میں وہ دوسری قوموں میں شادی نہیں کریں گے اور بعض تو میں اپنے آپ کو اونچی قومیں سمجھتی تھیں اور بعض کو وہ نیچے سمجھتی تھیں اور اونچی قوم سے تعلق رکھنے والے نیچے قوم سے شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے یہ ان کو یہ کہا ہے کہ اس وقت ساری چیزیں چھوڑو اسلام اور احمدیت نے تمہیں ایک بنا دیا ہے اس واسطے اس تفریق کو بھول جاؤ۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ پھر اس پر توجہ کر لیں۔ کیونکہ آپ.....

مرزا ناصر احمد: میں نے سن لیا۔

جناب یحییٰ بختیار: مگر جس دن سے کہ تم احمدی ہوئے تمہاری قوم تو احمدیت ہو گئی۔

مرزا ناصر احمد: تمہاری ایک قوم۔

جناب یحییٰ بختیار: علیحدہ باقیوں سے۔

مرزا ناصر احمد: تو یہ جو فرق ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: یعنی ”شناخت اور امتیاز کے لئے اگر کوئی پوچھے تو اپنی ذات یا

قوم بتا سکتے ہو۔“ وہ تو Tribal System جو چلتا ہے ذات پات وغیرہ۔

842 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔ لیکن معاشرے میں نہیں۔

۴۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیاری: ہاں، نہیں ہاں، ”وہ اب تو تمہاری گوت، تمہاری ذات احمدی ہی ہے۔ پھر احمدیوں کو چھوڑ کر.....“ یعنی احمدیوں میں بھی تو ذات پات ہے راجپوت ہیں آرائیں ہیں۔ جاٹ ہیں پٹھان ہوں گے۔ بلوچ ہوں گے۔ کیونکہ یہ تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو کہتے ہیں ان سب کو ملا کر کہتے ہیں پھر کیوں احمدیوں کو چھوڑ کر..... تو یہ تو وہ ذات پات نہیں آتی۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں ٹھیک ہے۔ یہ میں ابھی واضح کر دیتا ہوں احمدیوں کو چھوڑ کر، باہر قوم کیوں ڈھونڈتے ہو؟ یعنی جب تم سید ہو اور تمہیں ایک احمدی لڑکی کا رشتہ ملتا ہے تو تم کہتے ہو نہیں، ہم نے سید میں ہی کرنی ہے چاہے کہیں باہر سے کرنی پڑے۔ وہ تو عظیم جدوجہد ہے معاشرے میں اتحاد پیدا کرنے کی اور ایک Level پر لانے کی۔

جناب یحییٰ بختیاری: مرزا صاحب! وہ نماز کا، شادی کا، علیحدہ میں حوالہ دے چکا ہوں۔
مرزا ناصر احمد: اسے چیک کر لیں گے۔ آگے پیچھے ہوگا۔ یہیں واضح ہو جائے گا۔

(احمدی اپنے آپ کو علیحدہ امت کہتے ہیں)

جناب یحییٰ بختیاری: کیونکہ میں یہ توجہ آپ کی اس طرف دلانا چاہتا ہوں جو میرے پاس سوال ہے۔ لٹریچر آیا ہوا ہے۔ اس کے مطابق احمدی اپنے آپ کو علیحدہ امت، علیحدہ قوم علیحدہ Entity سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے باقی انبیاء نے اپنی امت کے علاوہ ان سے باقیوں سے سلوک کیا اور اپنی امت کو علیحدہ کیا۔ ہمارے نبی احمدی سمجھتے ہیں کہ حضرت غلام احمد صاحب کی جو امت ہے وہ ان سے علیحدہ ہے اور ان کو کرنے کا حق ہے۔ یہ Impression (تاثیر) پڑتا ہے اس لٹریچر سے جب ہی لیکن آپ کو عرض کر رہا ہوں.....
مرزا ناصر احمد: جی ٹھیک ہے۔

(مسلمانوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو)

جناب یحییٰ بختیاری: اس قسم کے جو آگے سوال آتے ہیں شادیاں مت کرو۔ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ یہ چیزیں جو میں پوچھتا ہوں۔ یہ اس Separalist Tendency (علیحدگی کا رجحان) کی Support (تائید) میں آ رہی ہیں اور ان کے لئے وضاحت آپ دے سکیں تو یہ بات.....

مرزا ناصر احمد: ہاں جی ٹھیک ہے نوٹ کر لیں۔ (Pause)⁸⁴³
جناب یحییٰ بختیار: ایک کتاب تھی جو میرے خیال میں قادیان، مدراس، لندن، شکاگو
میں شائع ہوئی تھی۔ پچاس صفحے کی ہے۔ پہلے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی انگریزی میں ہے یہ۔

"Some basic facts regarding religious beliefs and
views of Kadianis as revealed by Mirza Bashir-ud-Din
Mahmood Ahmad, son and second successor of Ghulam
Ahmad Kadiani."

(قادیانیوں کے مذہبی اعتقادات کے بارے میں کچھ بنیادی حقائق جن کا ذکر
مرزا بشیر الدین محمود ظلف اور خلیفہ ثانی مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا)

In his book "Ahmad the messenger of the later
Days."

یہ آپ کے علم میں ہوگی۔ یہ کتاب Published in 1924 میرے خیال میں
مرزا بشیر الدین محمود صاحب گئے تھے لندن.....

مرزا ناصر احمد: وہاں Address (خطاب) کیا تھا۔
جناب یحییٰ بختیار: وہاں انہوں نے Address (خطاب) کیا تھا، تو وہاں
انہوں نے مشن کو Explain (واضح) کیا ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب کا اس میں جو میرے
پاس ایڈیشن ہے۔ اس کے Page:58 (صفحہ ۵۸) پر

The Heading Sir, is "Ahmadis to form a Separate
community from the outside Musalman."

(جناب والا! عنوان یہ ہے احمدیوں کو باقی مسلمانوں سے علیحدہ قوم جماعت بنانا ہے)

Mirza Nasir Ahmad: From the outside
Musalmans? (مرزا ناصر احمد: باقی مسلمانوں سے)

جناب یحییٰ بختیار: یہ غلط انگریزی ہوگی، مگر جو Print میرے پاس ہے
Publication اس میں ہی ہے۔

مرزانا صراحتاً: ہاں، انگریزی تو نہیں۔

Mr. Yahya Bakhtiar: Ahmadis is to from a separate community from the outside Musalman.

(جناب یحییٰ بختیار: احمدیوں کو باقی مسلمانوں سے علیحدہ قوم/جماعت بنانا ہے)

دائرہ اسلام سے جو خارج مسلمان ہیں، ان سے.....

مرزانا صراحتاً: یہ تو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔

⁸⁴⁴ جناب یحییٰ بختیار: یہ اردو ہوگی کسی نے Translation (ترجمہ) کر دیا

ہوگا، تو "From outside Musalman." (باقی مسلمانوں سے)

مرزانا صراحتاً: یہ آپ کے پاس فوٹو سٹیٹ کا پی ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: فوٹو سٹیٹ ہے یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ دیکھ لیں آپ۔

"The Year 1901 was the year of the census. The Promised Masiah issued a notice to his followers asking them to get themselves recorded in the census papers under the name of 'Ahmadi Musalman'. This was, therefore, the year when, for the first time, he differentiated his followers from the other Musalman by the name of 'Ahmadi'."

(۱۹۰۱ء کا سال تھا۔ احمدیوں کو چاہئے کہ اپنے پیروکاروں سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو بطور "احمدی مسلمان" درج کرائیں۔ چنانچہ یہ وہ سال تھا جس میں اس نے پہلی مرتبہ اپنے ماننے والوں "احمدی" کا نام دے کر دوسرے مسلمان سے مختلف گردانا)

تو آپ کی توجہ اس طرف دلارہا ہوں تاکہ آپ اس کو.....

مرزانا صراحتاً: یہ جو آپ نے فقرہ پڑھا یہ عنوان کو Contradict (تردید)

کر رہا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! Contradict (تردید) کر رہا ہے یا

Support (تائید) کر رہا ہے۔ اس پر تو پھر Opinion کی بات آجاتی ہے۔ میرے خیال

۵۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

میں یہ تو پورا اس کو *Support* (تائید) کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ *Contradict* (تردید) کر رہا ہے۔ اس لئے میں آپ سے *Clarification* (وضاحت) کے لئے درخواست کر رہا ہوں۔ بہر حال دیکھ لیں آپ اس کو، پھر بعد میں آپ اس کو.....

مرزا ناصر احمد: ہاں۔ (Pause)

یہ تو بڑا ہی *Interesting* (دلچسپ) میرے لئے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔

مرزا ناصر احمد: ۱۹۲۳ء میں ایک لیکچر دیا، اور اس کا وہ لیکچر غالباً..... یقیناً گرمیوں میں تھا کسی وقت، گرمیوں کے موسم میں..... اور وہ لیکچر چھپا اور اس کی *Re-print* (دوبارہ چھپوائی) پھر ۱۹۲۳ء میں ہو گئی۔ یہ چیک کرنے والی بات ہے کہ ابھی سال، چند مہینے ختم نہیں ہوئے اور *Re-print* (دوبارہ چھپوائی) کی ضرورت پڑ گئی۔

845 جناب یحییٰ بختیار: تو زیادہ *Publication* (اشاعت) ہو گئی ہوگی۔ زیادہ *Demand* (مانگ) ہو گئی ہوگی اس کی.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں نے کہا یہ چیک کرنے والی بات ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے اوپر جو لگا ہوا ہے ناں یہ صفحہ یہ بڑا *Interesting* (دلچسپ) ہے۔

"Published by courtesy of Mr. G. Ahmad, LLB, B.A.

(Alig), Ex-Incom Tax Officer, up in Calcutta, Proprietor of Messrs G. Ahmad & Co., Incom- tex Adviser and Advocates, 17, writers' Chambers, Karachi."

(مسٹر جی، احمد، ایل، ایل، بی، بی، اے علیگ سابقہ انکم ٹیکس افسر یو پی، کلکتہ، پروپرائیٹر مسیرز جی، احمد اینڈ کمپنی انکم ٹیکس افسران مشیران وائیڈویٹ ۱۷ اراٹرز چیمبر کراچی کے توسط سے شائع ہوا) اور یہ جو کراچی کا بھی *Reference* (حوالہ) آ گیا، اور یو پی، کلکتہ کا بھی آ گیا اور یہاں یہ اس کی تاریخ کوئی نہیں دی اس کے اوپر کہ کراچی.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں یہ تو میرے خیال میں ان کے پاس *Front Page* (پہلا صفحہ) رہا نہیں ہے یا کوئی ایسی بات ہے۔ مگر میرے ایک احمدی دوست نے مجھے یہ کتاب دی

۵۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

تھی۔ ایک زمانے میں میرے خیال میں میری لائبریری میں بھی یہ موجود ہے۔

مرزانا صراحتاً: فوٹو سٹیٹ؟

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی اصل کتاب۔

مرزانا صراحتاً: اصل ہاں، تو وہی دیکھ کے پتہ لگے گا۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں تو آپ کی بھی لائبریری میں ہوگی یہ تو؟

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں یہ تو کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو چھپی ہو اور نہ ہو، تو یہ جو ہے

ناں *Front Page* (پہلا صفحہ).....

جناب یحییٰ بختیار: اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے، ممکن ہے یہ غلط ہو مجھے بھی یاد نہیں کہ کیا

Reading اس کا ہے۔ مگر جو فوٹو سٹیٹ *Page* (صفحہ) ہے.....

مرزانا صراحتاً: یہ تو دیکھ لیں گے۔

جناب یحییٰ بختیار: دیکھ لیں۔

⁸⁴⁶ مرزانا صراحتاً: کیونکہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اوپر کہ ”پیغمبر آخرا لزمان“ یہ نام

ہمارے ذہن میں نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: میں نے تو صرف ایک *Page:58, passage* سے دیا ہوا

ہے۔ میں نے صرف اس سے متعلق رکھا ہے کہ وہ آپ *Compare* (موازنہ) کر لیجئے۔ باقی

یہ اوپر سے میں نے توجہ ہی نہیں دلائی آپ کو.....

مرزانا صراحتاً: ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہے تو چیک کرنے والی۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، یہ چیک کر لیں۔

مرزانا صراحتاً: یہ چیز ایسی ہے جو چیک ہونی چاہئے۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب میں نے چار پانچ دن پہلے۔ ابھی کچھ معلوم نہیں

پڑتا کتنے دن سے چل رہا ہے یہ سلسلہ آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کیونکہ محض نامے کو جو میں سمجھ

سکا ہوں اس میں آپ نے ابھی یہ وہی *Separatist Tendency* چل رہی ہے جی میں

اس میں جا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ *Subject* (موضوع) میں نے *Change*

(تبدیل) کر لیا۔

۵۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: نہیں نہیں۔

(مسلمانوں کا چھوٹا بچہ مرجائے تو قادیانی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے)

جناب یحییٰ بختیار: اس Reference (حوالہ) میں جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اس میں آپ نے فرمایا کہ کیونکہ سب فرقوں نے آپ کے خلاف تقریباً سب..... میں نے کہا سب تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں سب نے آپ کے خلاف فتوے دیئے اور اگر چھوٹا بچہ بھی مرجاتا ہے تو ہم جنازہ نہیں پڑھتے کیونکہ باپ کا مذہب سمجھا جاتا ہے آپ نے کہا اس وجہ سے ان فتوؤں کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے ہمیں کا فر قرار دیا ہم مجبوراً ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے یہ وجہ دی آپ نے محض نامے میں یہی ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کوئی اور وجہ بھی ہے عقیدے کی؟ کہ محض یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کے خلاف فتوے دیئے؟

مرزا ناصر احمد: یہ آپ نے اس وقت پوچھا تھا۔

847 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، تو میں اس Reference (حوالہ) میں کیونکہ آپ اپنے آپ کو Separate (علحدہ) سمجھتے ہیں ان کے ساتھ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک نہیں، اس لئے نماز علیحدہ پڑھتے ہیں تاکہ میں پوزیشن بالکل Clear (واضح) کروں یہ نہ ہو کہ Mis-understanding (غلط فہمی) رہ جائے۔ آپ سے کوئی سوال پوچھا۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، نہیں۔ میں تو Separate (علحدہ) سمجھنے کے

Idea کے ہی خلاف ہوں ناں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں مرزا صاحب! میری ڈیوٹی ہے کہ.....

مرزا ناصر احمد: نہیں وہ ٹھیک ہے میرا مطلب ہے کہ میں اکٹھا جواب دے دوں گا۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں نہیں تاکہ میں پوزیشن Clear (واضح) کروں کہ

Impression (تأثر) یہ ہے جو مجھ سے سوال پوچھنے والے کا کہ میں آپ کے سامنے یہ

سوال پیش کروں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل علیحدہ سمجھتے ہیں آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ بالکل مسلمان

نہیں ہیں۔ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، ان کا جنازہ نہیں پڑھنا،

چھوٹا بچہ ہو جو بھی ہو، یہ کافر ہیں اور سو فیصدی یہ Impression (تأثر) دے کر میں یہ کہہ رہا

۵۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ہوں..... میں نے کوئی فتویٰ نہیں دینا اور نہ ہی میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں..... تاکہ آپ پوری اس کی وضاحت کر سکیں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں یہ تو بڑی وضاحت ہو گئی تھی ناں، جس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ چار Categories (قسمیں) بنتی ہیں اس میں آ گیا تھا کہ سو فیصدی نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ سب آپ نے بڑی تفصیل سے فرمایا جو Explain (واضح) کیا..... مگر میں نے کہا محض نام سے جو آپ نے دیکھا ہے۔

مرزا ناصر احمد: محض نام کو میں نے Explain (واضح) کر دیا۔

جناب یحییٰ بختیار: محض نام میں سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں کہ انہوں نے فتوے دیئے۔ آپ کے خلاف اس واسطے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ درست ہے یا نہیں؟

مرزا ناصر احمد: یہ محض نام دیکھ کے..... مجھے تو اپنا محض نام بھی نہیں یاد۔ کہاں ہے؟ اس وقت نہیں مجھے..... کس صفحہ پہ میں نے کہا؟

848 جناب یحییٰ بختیار: مجھے بھی یاد نہیں، مگر اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے.....

مرزا ناصر احمد: پھر تو مشکل پڑ گئی۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ پھر دیکھ لیجئے۔

مرزا ناصر احمد: نہ آپ کو یاد نہ مجھے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، جواب تو موجود ہے اس کا ریکارڈ کہاں ہے؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، ریکارڈ میں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ ریکارڈ جب بنے گا۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں وہ بڑا مشکل ہے، وہ میں سمجھتا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: تو یہ جو ہے یہ تو ابھی آپ کا محض نام موجود ہے۔ ممکن ہے میں غلط سمجھا ہوں اور مجھے جو Impression (تاثر) ہے۔ ویسے میں نے پڑھا بھی ایک مرتبہ

! ہائے یہ در ماندگی اپنا لکھا بھی یاد نہیں۔ پہلے باپ، دادا کے حوالوں سے لاعلمی کا اظہار کرتے رہے۔ اب اپنے حوالہ پر ہر اسان ہو گئے۔ پتہ تھا کہ اس پر سوال کتنا بھاری وارد ہوگا؟

۵۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

تین چار دن ہوئے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ انہوں نے فتوے دیئے، پھر میں نے آپ سے پوچھا بچہ اگر ہو دو مہینے کا ہو، چھ مہینے کا ہو، آپ یہ کہتے ہیں اس کا باپ کسی نہ کسی فرقے کا تھا اس فرقے نے فتویٰ دیا ہے۔ اس لئے اس میں آجاتا ہے۔ *Emphasis* (زور) ہی چلتا رہا۔ میں نے کہا اگر فتویٰ نہ ہو جو آپ نے کہا *Hypothetical discussing does not arise* یہ معاملہ ہے۔ اس میں میں نہیں جاتا۔

مرزا ناصر احمد: جنازے کے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک اپنا فتویٰ یہاں آپ کو دیا یعنی بتایا.....

جناب یحییٰ بختیار: وہ تو ڈنمارک کا آپ نے کہا.....

مرزا ناصر احمد: ہاں ڈنمارک کا۔

جناب یحییٰ بختیار: کہ کوئی لا وارث مر جائے.....

مرزا ناصر احمد: کوئی شخص نہیں میں نے یہ فتویٰ دیا کہ کوئی شخص جو خود کو نبی اکرم ﷺ

کی طرف منسوب کرتا ہے۔ وہ دنیا کی نگاہ میں لا وارث نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہمارے مخالف ہیں عیسائی وغیرہ اسلام کے۔

جناب یحییٰ بختیار: ⁸⁴⁹ آپ نے تو اتنی مہربانی کی اتنا *Concession*

(رعایت) دیا کہ ایک مسلمان مر گیا اور کوئی وارث نہیں ہے تو اس کا جنازہ پڑھ لو۔ اگر کوئی اس کا وارث ہو تو پھر مت پڑھو۔

مرزا ناصر احمد: اور میں نے یہ کہا کہ جب کچھ آدمی نماز پڑھ لیں تو فقہائے امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے اور نماز نہ پڑھنے والے گنہگار نہیں ہوتے۔ آخر میں اعتراض یہ بنتا ہے کہ آپ گنہگار کیوں نہیں ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں میرے سوال کا مطلب یہ تھا کہ وہ گنہگار ہیں یا نہیں ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے تو اس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس لئے پڑھتے ہیں۔ اپنے لئے تو علیحدہ بات ہے کہ ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کو کوئی *Respect pay* (بطور احترام) کرنے کے لئے..... یہ بھی میں کہتا ہوں، آپ نے کہا کہ بچے کا بھی ہم نہیں کریں گے، تو

۵۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

آپ نے کہا کہ نہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف فتوے دیئے ہیں۔ اس لئے..... تو اگر اس کی مزید کوئی وجہ ہے فتوؤں کی وہ میں پھر..... تاکہ بالکل پوزیشن Clear (واضح) ہو جائے، کہ اگر فتوے نہ بھیجے ناں ہوتے.....

مرزانا صراحتاً: میں سمجھتا ہوں جو میں کہہ چکا ہوں۔ وہ کافی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی جو محضر نامے میں ہے؟

مرزانا صراحتاً: جو محضر نامے میں، اور اس سلسلے میں سوال و جواب میں جو کچھ میں

اس وقت تک کہہ چکا ہوں وہ کافی ہے۔

(مرزا غلام احمد کا کوئی بیٹا تھا جو قادیانی نہیں ہوا؟)

جناب یحییٰ بختیار: اچھا جی! وہ میرا ہی تھا کہ میں اس کو یہ سمجھا ہوں، اب آپ یہ

فرمائیے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے کوئی صاحبزادے تھے جو احمدی نہیں ہوئے تھے؟

مرزانا صراحتاً: ہمارے بانی سلسلہ احمدیہ کے ایک صاحبزادے تھے جو آپ کی

زندگی میں فوت ہو گئے تھے۔

850 جناب یحییٰ بختیار: اور احمدی نہیں ہوئے؟

مرزانا صراحتاً: اور بیعت نہیں کی تھی۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، یہی میں نے کہا ہے تو ان کی وفات پر مرزا صاحب نے

ان کا جنازہ نہیں پڑھا؟

مرزانا صراحتاً: مجھے یاد نہیں (اپنے ایک ساتھی سے) کیوں؟

مرزانا صراحتاً: ایک ساتھی: نہیں پڑھا۔

مرزانا صراحتاً: نہیں پڑھا۔

جناب یحییٰ بختیار: اور اس واسطے کہا کہ میرا بڑا فرمانبردار بیٹا تھا، بڑا اچھا بیٹا تھا۔ پر

احمدی نہیں ہوا میں نے جنازہ نہیں پڑھا تو کیا اس نے بھی مرزا صاحب کے خلاف کوئی فتویٰ دیا تھا؟

مرزانا صراحتاً: نہیں!۔

۱۔ کوئی جواب؟ بالکل لا جواب، ایسی درگت، اف اللہ جی!

Mr. Yahya Bakhtiar: Thank you, Sir, now, Sir.

(جناب یحییٰ بختیار: جناب والا! شکریہ، جناب والا!)

**PROGRAMME FOR FURTHER SITTINGS OF
THE COMMITTEE**

(کمٹی کے اگلے اجلاس کا پروگرام)

Mr. Yahya Bakhtiar: (Addressing the Chair)

*Now Sir, the next subject is a heavy one, and if later it could
be taken, because I do not want to start.....*

(جناب یحییٰ بختیار: جناب والا! اگلا موضوع نہایت ہی اہم ہے۔ اسے بعد میں
لیں۔ (تو بہتر ہے) کیونکہ (اس میں موضوع کو) میں شروع نہیں کرنا چاہتا)

Mr. Chairman: I see. So, I think....

(جناب چیئرمین: میں سمجھ گیا، میرا خیال ہے.....)

مرزا ناصر احمد: شام کو ہو جائے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ *Speaker* صاحب ابھی
Explain (واضح) کریں گے کہ کل شروع کریں یا *Monday* (سوموار) کو کریں تو اس پر
وہ کچھ کہیں گے۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، جی، وہ تو ان کا..... حکم دیں، جو حکم کریں گے وہ ہو جائے گا۔

⁸⁵¹*Mr. Chairman: I think now....*

*Mr. Abdul Hafeez Pirzada: Sir, I think that
number of questions which have been asked in the cross-
examination ____ I was not here all along, I have been
going through the record also ____ notice has been claimed*

۵۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

or time has been claimed, because back references have to be made, and, therefore, we could break the cross-examination for a few days and then meet again so that it could be completed.

(جناب عبدالحفیظ پیرزادہ: جناب والا! جرح میں موجود سوالات پوچھے گئے۔ ان تمام کے دوران میں موجود نہ تھا میں ریکارڈ کا مطالعہ کرتا رہا ہوں۔ چونکہ گزشتہ حوالہ جات کے تعلق سے بات ہوگی۔ اس لئے مہلت اور وقت بھی مانگا جا رہا ہے۔ اس لئے جرح کے دوران چند دنوں کا وقفہ کیا جاسکتا ہے اور اس کے بعد اجلاس منعقد کر کے ہم جرح مکمل کر سکتے ہیں)

Mr. Chairman: I think now we have to break the examination of the witness, because for six days we have been sitting. It has been strenuous on the Attorney- General, it has been strenuous on the members of the Delegation, and also....

(جناب چیئرمین: میرا خیال ہے کہ اب گواہ پر جرح میں وقفہ کرنا ہوگا۔ چھ روز سے اجلاس ہو رہا ہے۔ جس کی وجہ سے اٹارنی جنرل اور وفد کے ممبران زیر بار رہے ہیں اور علاوہ ازیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: Sir, you informed me that the National Assembly is meeting on Monday the Tuesday, and then comes the Pakistan Day. Se we would not sit here for three days and then start. So, I would request, sir....

(جناب یحییٰ بختیار: جناب والا! آپ نے فرمایا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس سوموار اور منگل کو ہوگا۔ اس کے بعد یوم پاکستان آجاتا ہے۔ اس طرح تین دنوں تک اجلاس نہیں ہوگا اور اس کے بعد ہم کام شروع کریں گے)

Mr. Chairman: There is no likelihood of the examination being finished today?

۵۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

(جناب چیئرمین: گواہ کے بیان کے ختم ہونے کا آج امکان نہیں ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, that is not possible, not even tomorrow, because the subject is so vast.

(جناب یحییٰ بختیار: نہیں جناب والا! یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ کیونکہ موضوع بہت

وسیع ہے)

Mr. Chairman: And then so many things have to come. (جناب چیئرمین: اور تب تو کئی انواع کی باتیں ہوں گی)

Mr. Yahya Bakhtiar: Yes, and they also need time, because I have given some references, they have to look them up. So, instead of three or four days, we will have to after a week or ten days, if to Mirza Sahib it is convenient.

(جناب یحییٰ بختیار: چونکہ میں نے کچھ حوالے دیئے ہیں جو کہ (فند) کو تلاش

کرنے ہیں۔ اس لئے انہیں بھی وقت درکار ہوگا۔ اگر مرزا صاحب کو قبول ہو تو ہم ہفتہ عشرہ کے بعد دوبارہ کام کر سکتے ہیں)

Mr. Chairman: So the delegation is permitted to leave without fixing any date. The delegation will be informed two days earlier, It will around....

(جناب چیئرمین: بغیر آئندہ تاریخ مقرر کے۔ فند کو جانے کی اجازت دی جاتی

ہے۔ (آئندہ تاریخ سے) دو روز قبل فند کو اطلاع کر دی جائے گی۔ یہ قریب قریب.....)

Mr. Abdul Hafeez Pirzada: Two days before the actual date. (جناب عبدالحفیظ پیرزادہ: کئی تاریخ سے دو روز قبل)

⁸⁵²*Mr. Chairman: Yes, the next date shall be decided by the steering committee or by the House or by the chairman and the law Minister and the Attorney- General,*

as decided; and they will be informed two or three days earlier, Anyhow, it will be within ten days. But it will be after 14th.

(جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ کچی تاریخ یا تو سٹیئرنگ کمیٹی یا ایوان یا چیئرمین اور وزیر قانون اور اٹارنی جنرل مقرر کریں گے۔ جیسا کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وفد کو دو یا تین روز پہلے اطلاع کر دی جائے گی۔ تاہم یہ دس دن کے اندر اندر ہوگی۔ مگر ۱۴ تاریخ کے بعد)

Mr. Abdul Hafeedz Pirzada: In fairness we could say that there will be no possibility of meeting until 15th or 16th.

(جناب عبدالحفیظ پیرزادہ: صاف صاف بات یہ ہے کہ ۱۵ یا ۱۶ تاریخ تک اجلاس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے)

Mr. Chairman: 15th or 16th, yes.

(جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ ۱۵، ۱۶ تاریخ)

Mr. Yahya Bakhtiar: And a day after that.

(جناب یحییٰ بختیار: اور اس کے ایک دن بعد بھی ہو سکتی ہے)

Mr. Chairman: Yes, a day after.... because there are so many engagements.

(جناب چیئرمین: جی ہاں! ایک دن بعد..... کیونکہ بہت سی مصروفیات ہیں)

مرزا ناصر احمد: آٹھ دس دن کے بعد..... دو دن پہلے اطلاع کر دیں گے؟

جناب یحییٰ بختیار: یہی میں کہہ رہا ہوں۔

جناب چیئرمین: تقریباً اٹھارہ انیس، بیس، اکیس

Whatever is decided. (جو بھی فیصلہ ہو)

جناب یحییٰ بختیار: اگر آپ شام کو بھی *Meet* (اجلاس) کرتے ہیں تو

Sunday (اتوار) کو پھر نہیں۔ پھر اس کے بعد *Monday* (سوموار) کو نیشنل اسمبلی *Fix*

۶۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ہو چکی ہے۔ Thursday (جمعرات) کو بھی ہو چکی ہے۔ پھر Independence Day (آزادی کا دن) ہے۔

مرزا ناصر احمد: نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: چار دن اگر ہم ایسے بیٹھے رہیں یہاں تو اس سے بہتر ہے کہ ہفتہ ہو یا دس دن ہوں تاکہ آپ بھی جا کے دیکھ سکیں۔ میں بھی جا کے کچھ آرام کر سکوں۔

Mr. Chairman: No, no. It is too much on the nerves of the honourable members of committee....

(جناب چیئر مین: نہیں، نہیں۔ معزز اراکین کمیٹی کے اعصاب پر شدید دباؤ کا ہوگا)

Mr. Yahya Bakhtiar: Sir, it is a strain on me it is a strain on.....

(جناب یحییٰ بختیار: جناب والا! یہ میرے لئے بھی شدید اعصابی دباؤ کا باعث ہے)

⁸⁵³ Mr. Chairman: I know, on the Attorney-General, and on the witness also.

(جناب چیئر مین: مجھے معلوم ہے۔ گواہ اور اٹارنی جنرل دونوں کے لئے ہی)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، وہ Physical Strain تو ہوتا ہے۔

You are well- acquainted with the facts, with the Islamic law, I am not.

(آپ اسلامی قانون سے پوری پوری واقفیت رکھتے ہیں۔ جب کہ میں نہیں)

مرزا ناصر احمد: بہر حال، اب یہ ہوا کہ آٹھ دس دن کے بعد ہوگا، اور جو آخری

Final تاریخ مقرر کی جائے گی.....

جناب یحییٰ بختیار: کم از کم ایک ہفتہ تک نہیں ہوگا جی۔

مرزا ناصر احمد: ہاں وہ اس سے کوئی تین دن پہلے.....

جناب چیئر مین: تین دن پہلے آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔

Three days earlier the members of the delegation

will be informed. Thank you very much. And no proceedings have to be disclosed. The honourable members may keep sitting.

(تین روز قبل وفد کے اراکین کو مطلع کر دیا جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ! اجلاس کی کارروائی قطعاً افشاء نہیں کی جائے گی۔ معزز اراکین تشریف رکھیں)

(The delegation left the Chamber)

(وفد ہال سے باہر چلا گیا)

Mr. Chairman: Yes, any honourable member who would like to say?

(جناب چیئرمین: جی کوئی معزز رکن کچھ کہنا چاہتے ہیں.....)

یہاں ایک ہمارا Procedure ہے کہ آدھا گھنٹہ پھر تقریریں ہوتی ہیں بعد میں۔

The reporters are free, they can go, they can have recess.

(رپورٹرز (پریس والے) فارغ ہیں وہ جاسکتے ہیں)

Now we will meet as National Assembly on Monday at 6:00 pm.

(اب ہم قومی اسمبلی کا اجلاس سوموار کو شام چھ بجے کریں گے)

(The Special Committee adjourned sani die)

۶۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

No. 07



THE
NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

PROCEEDING
OF
THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE

OFFICIAL REPORT

Tuesday, the 20th August, 1974

(Contains Nos. 1 — 21)

CONTENTS

	Pages
1 Recitation from the Holy Qur'an	857
2 Cross-examination of the Qadiani Group Delegation — (Continued)	857-984

PRINTED BY THE MANAGER, PRINTING CORPORATION OF PAKISTAN PRESS, ISLAMABAD
PUBLISHED BY THE NATIONAL BOOK FOUNDATION ISLAMABAD

۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

No. 07



THE
NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

PROCEEDING
OF
THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE

OFFICIAL REPORT

Tuesday, the 20th August, 1974

(Contains No. 1 — 21)

۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے بازخواں ایں قصہء پارینہ را.....

⁸⁵⁷ **THE NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN**

(قومی اسمبلی پاکستان)

PROCEEDINGS

OF

**THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE.**

OFFICIAL REPORT

Tuesday, the 20th August, 1974.

(کل ایوانی خصوصی کمیٹی بند کرے کی کارروائی)

(۲۰ اگست ۱۹۷۴ء، بروز منگل)

*The Special Committee of the Whole House met in
Camera in the Assembly Chamber, (State Bank Building),
Islamabad, at ten of the clock, in the morning. Mr.
Chairman (Sahibzada Farooq Ali) in the Chair.*

(مکمل ایوان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس اسمبلی چیمبر (سٹیٹ بینک بلڈنگ) اسلام آباد

صبح دس بجے جناب چیئرمین (صاحبزادہ فاروق علی) کی زیر صدارت منعقد ہوا)

(Recitation from the Holy Quran)

(تلاوت قرآن شریف)

۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

Mr. Chairman: Are you prepared?

(جناب چیئرمین: آپ تیار ہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar (Attorney General of Pakistan): Yes.

(جناب یحییٰ بختیار (انارنی جنرل آف پاکستان): جی ہاں)

Mr. Chairman: They may be called.

(جناب چیئرمین: انہیں بلا لیں)

(The Delegation entered the Chamber)

(وفد ہال میں داخل ہوا)

Mr. Chairman: Yes, Mr. Attorney- General.

(جناب چیئرمین: جی، جناب انارنی جنرل صاحب)

CROSS- EXAMINATION OF THE QADIANI GROUP DELEGATION

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! کچھ جوابات آپ نے دینے تھے۔
مرزانا ناصر احمد (گواہ، سربراہ جماعت احمدیہ، ربوہ): جی ہیں وہ میرے پاس۔

(ہم فتح یاب ہوں گے، تم ابو جہل کی پیش ہو گے؟)

جناب یحییٰ بختیار: یاد ہی آپ پہلے وہ پڑھ کر سنا دیں گے؟
مرزانا ناصر احمد: ہاں جی۔⁸⁵⁸

ایک یہ سوال تھا کہ ”الفضل“ ۳ جولائی ۱۹۵۲ء میں ہے: ”ہم فتح یاب ہوں گے، تم ابو جہل کی طرح پیش ہو گے۔“ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پرچہ میں صرف ایسا کوئی فقرہ نہ لفظاً نہ معنیاً ہمیں ملا۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! آپ نے غور سے دیکھا ہے؟ کسی اور پرچہ میں.....
مرزانا ناصر احمد: ہاں میں نے یہ اس دن یہ کہا تھا کہ پانچ دس (۱۰) دن کے آگے یا پیچھے کے بھی دیکھ لیں گے۔

۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، بعض دفعہ سال کی غلطی ہو جاتی ہے، اس تاریخ کا یا قریب
سال کا.....

مرزا ناصر احمد: سارا ”الفضل“ کا فائل میں اس حوالے کے لئے تلاش کرتا، یہ تو
انسان نہیں کر سکتا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، میں..... یہ دیکھیں جی کہ جہاں ہو جاتا ہے کہ:
”۱۹۵۲ء، ۱۹۵۱ء یا ۱۹۵۳ء ہو سکتا ہے۔“ بعض دفعہ ”۱۳“ کی جگہ ”۲۳“ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو میں
نہیں کہتا کہ سارے کے سارے ایک ایک پرچہ دیکھیں۔ تو آپ کے پاس یہ نہیں ملا؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، ہمیں نہیں مل رہا۔
جناب یحییٰ بختیار: اس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کوئی یوتھ آرگنائزیشن کی
طرف سے بات آئی تھی۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، اس کے متعلق نہیں، وہ دوسرا تھا۔

(تمہیں دوسرے فرقوں کو بگلی ترک کرنا پڑے گا)

جناب یحییٰ بختیار: اچھا، وہ دوسرا حوالہ۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، اس کے متعلق نہیں۔ ضمیمہ ”تحفہ گولڈویہ“ صفحہ: ۲۷۔ سوال یہ تھا
کہ وہاں یہ ہے کہ: ”تمہیں دوسرے فرقوں کو بگلی ترک کرنا پڑے گا۔“

اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ علیحدہ آپ نے بالکل ملت اسلامیہ سے بالکل ممتاز چیز
بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اگر ہم (ضمیمہ تحفہ گولڈویہ ص ۲۷) کو دیکھیں تو خود اس جگہ اس کا جواب
موجود ہے۔ وہاں کی عبارت یہ ہے: ”جیسا خدا نے مجھے اطلاع دی ہے، تمہارے پر حرام ہے اور
قطعی حرام ہے کہ کسی مکلف اور مکذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو، بلکہ چاہئے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم
میں سے ہو۔ اسی کی طرف حدیث بخاری کے ایک پہلو میں اشارہ ہے کہ ”امامکم منکم“ یعنی

۱۔ اس پر پہلے فقیر نوٹ لکھ چکا ہے، یہ ۳ جولائی ۱۹۵۲ء کا پرچہ نہیں، یہ ۳ جنوری
۱۹۵۲ء کا پرچہ ہے اس کی مکمل عبارت فقیر نے پہلے نقل کر دی ہے، مرزا ناصر کو معلوم تھا کہ یہ ۳
جولائی کا پرچہ نہیں، ۳ جنوری ۱۹۵۲ء کا ہے، لیکن جان بوجھ کر غلط بیانی کی کہ ”ہمیں نہیں معلوم کہ
کونسا پرچہ ہے، ہمیں تو نہیں ملا۔“ حالانکہ یہی وہ پرچہ ہے جس کے متعلق مرزا محمود سے ۱۹۵۳ء
میں بھی پوچھا گیا تھا۔

۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جب مسیح نازل ہوگا تو تمہیں فرقوں کو، جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں، کلی ترک کرنا پڑے گا۔“

(ضمیمہ تحفہ گولڈ ویس ۱۸۱۸ حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۶۴)

نماز کی امامت کے سلسلے میں صرف ایک ہے (انوار الاسلام ص ۳۰، خزائن ج ۹ ص ۳۱) جو فقہ یہاں سوال میں پیش کیا گیا تھا، جہاں تک ہمیں یاد ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس کوئی ٹیپ تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جو نوٹ کیا ہے اس کے مطابق ”ولد الحرام بننے کا شوق ہے“ اس قسم کا فقرہ کہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے ”انوار الاسلام“ میں۔ یہ عبارت خود اپنے معانی کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہاں یہ لکھا ہوا ہے: ”اب اس سے زیادہ صاف اور کون فیصلہ ہوگا.....“ ”کونسا“ غالباً ہے، لفظ چھوٹا ہوا ہے۔ بہر حال:

”اس سے زیادہ صاف اور کون فیصلہ ہوگا۔ کہ ہم دو (۲) کلموں کے مول میں خود امرتسر میں جا کر دو (۲) ہزار روپیہ دیتے ہیں آتھم کو۔ مسٹر عبداللہ آتھم اگر درحقیقت مجھے کاذب سمجھتا ہے (عبداللہ آتھم کی بات ہو رہی ہے) مسٹر عبداللہ آتھم اگر درحقیقت مجھے کاذب سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ ایک ذرہ بھی اس نے اسلامی عظمت کی طرف رجوع نہیں کیا تو وہ ضرور بلا توقف عبارت مذکورہ کے موافق اقرار کر دے گا، کیونکہ اب تو وہ اپنے تجربہ سے جان چکا کہ میں جھوٹا ہوں۔ (اپنے متعلق ”میں جھوٹا ہوں“) اور مسیح کی حفاظت کو اس نے (یعنی عیسائی عبداللہ آتھم نے) مشاہدہ کر لیا، پھر اس مقابلہ سے اس کو کیا خوف ہے؟ کیا پہلے پندرہ مہینوں میں مسیح زندہ تھا اور مسٹر عبداللہ آتھم کی حفاظت کر سکتا تھا، اور اب مر گیا ہے، اس لئے نہیں کر سکتا، جبکہ عیسائیوں نے اپنے اشتہار میں یہ کہہ کے اعلان دیا ہے۔ کہ خداوند مسیح نے مسٹر عبداللہ آتھم کی جان بچائی۔ پھر اب بھی خداوند مسیح جان بچائے گا۔ کوئی وجہ معلوم نہیں ہوئی کہ اب مسیح کے خداوند قادر ہونے کی نسبت مسٹر عبداللہ آتھم کو کچھ شک اور ترڈ پیدا ہو جائے اور پہلے وہ شک نہ ہو، بلکہ اب تو بہت یقین چاہئے، کیونکہ اس کی خداوندی اور قدرت کا تجربہ ہو چکا اور نیز ہمارے جھوٹ کا تجربہ لیکن یاد رکھو کہ مسٹر عبداللہ آتھم اپنے دل میں خوب جانتا ہے کہ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں کہ اس کو مسیح نے بچایا۔ جو خود مر چکا وہ کس کو بچا سکتا ہے؟ اور جو مر گیا وہ قادر کیونکر اور خداوند کیسا؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ سچے اور کامل خدا کے خوف نے اس کو بچایا۔ اگر ایک نادان عیسائیوں کی تحریک سے بے باک ہو جائے گا تو پھر اس کامل خدا کی طرف سے بے باکی کا مزا چکھے گا۔ غرض اب ہم نے فیصلے کی صاف صاف راہ بتادی اور جھوٹے سچے کے لئے ایک معیار پیش کر دیا۔ اب جو شخص اس صاف فیصلے کے برخلاف شرارت اور عناد کی راہ سے بکواس کرے گا اور اپنی شرارت سے بار بار کہے گا کہ

۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

عیسائیوں کی فتح ہوگی اور کچھ شرم اور حیا کو کام میں نہیں لائے گا اور بغیر اس کے جو ہمارے اس فیصلے کا انصاف کی رو سے جواب دے سکے، انکار اور زبان درازی سے باز نہیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا۔ (اسلام کی فتح کا) تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں، پس حلال زادہ بننے کے لئے واجب یہ تھا کہ اگر وہ مجھے جھوٹا جانتا ہے (عبداللہ آتھم) اور عیسائیوں کو غالب اور فتح یاب قرار دیتا ہے تو میری حجت کو واقعی طور پر رفع کرے جو میں نے پیش کی ہے۔“

تو میرے نزدیک تو یہ عبارت بڑی واضح ہے کہ اس کا مخاطب عبداللہ آتھم اور اس کے ساتھی عیسائی ہیں اور اس سے اور بھی آگے اگر پڑھ لیا جائے تو زیادہ واضح ہو جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ واضح ہے اور زیادہ وقت نہیں کرنا چاہئے ضائع۔ لیکن اگر..... اس میں پھر آگے تشریح ہے کہ ”حرام زادہ“ کس وجہ سے اور کس کو کہا گیا۔ اگر کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں جی؟

(مرزا کی بیعت نہ کرنے والے جہنمی)

جناب بیگی بختیار: ضرورت نہیں۔

مرزا ناصر احمد: ہوں، اچھا جی! یہ ۳ جولائی کا میں نے کر دیا۔

میرے پاس کوئی ہیں بیس (۲۰) پچیس (۲۵) لکھے ہوئے۔ تو سب اس میں..... اگر کہیں آپ تو تین جو آپ نے..... میں..... اس میں جو دیئے ہوئے..... یہ ہے ”تشیخ الاذہان“ مارچ ۱۹۱۴ء ”بیعت نہ کرنے والے جہنمی۔“ یہ سوال کیا گیا تھا، یہ لکھا ہے۔ ”تشیخ الاذہان“ میں جو موضوع زیر بحث ہے، وہ یہ نہیں کہ کون فی النار ہے، کون نہیں۔ بلکہ موضوع زیر بحث یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو (۲) کلام ہوں، واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان میں تضاد پایا جائے۔ تو موضوع ہی دوسرا ہے۔ وہاں یہ لکھا ہے کہ:

”الہامات کا باہمی تناقض اور اختلافات اسلام کو سخت ضرر پہنچاتا ہے۔“ یعنی اگر یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دو (۲) الہام ہیں، واقعہ میں اور ان کے اندر تضاد پایا جاتا ہے تو یہ تو اسلام کو بڑا نقصان پہنچانے والا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی واضح ہدایت کے خلاف ہے یہ بات سورہ ملک میں، تفصیل میں نہیں جاتا۔۔۔ اس میں بڑی وضاحت سے یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات اور ان کے جو ظہور ہیں ان کے اندر کبھی کوئی اختلاف تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ بہر حال، یہاں یہ موضوع ہے زیر بحث:

۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

الہامات کا باہمی تناقض اور اختلافات اسلام کو سخت ضرر پہنچاتا ہے اور اسلام کے مخالفوں کو ہنسی اور اعتراض کا موقع ملتا ہے اور اس طرح پردین کا استخفاف ہوتا ہے، حالانکہ یہ کیونکر ہو سکے کہ ایک شخص کو خدا تعالیٰ یہ الہام کرے کہ تو خدا تعالیٰ کا برگزیدہ اور اس زمانہ کے تمام مومنوں سے بہتر اور افضل اور مسیح الانبیاء اور مسیح موعود اور مجدد چودھویں صدی اور خدا کا پیارا اور اپنے مرتبہ میں نبیوں کے مانند اور خدا کا مرسل اور اس کی درگاہ میں وجیہ اور مقرب اور مسیح ابن مریم کے مانند ہے اور دوسرے کو یہ الہام کرے کہ یہ شخص فرعون اور کذاب اور مسرف اور فاسق اور کافر ہے اور ایسا اور ایسا ہے، اس شخص کو تو یہ الہام کرے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور اس وجہ سے جہنمی ہے اور پھر دوسرے کو الہام کرے کہ جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ شقاوت کا طریق اختیار کرتے ہیں۔^۱

تو یہاں بات ہو رہی ہے الہاموں کی، اپنی طرف سے کسی اعلان کی بات نہیں اور اصل جو سوال ہے زیر بحث وہ یہ ہے کہ جو دو (۲) الہامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوں، ان کے اندر تضاد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ (تخیز الاذہان اگست، ۱۹۱۷ء ص ۵۸، ۵۷) اس میں، سوال میں --- جہاں تک ہم نے نوٹ کیا --- یہ تھا کہ یہاں یہ لکھا ہے کہ: ”صرف ایک ہی نبی ہوگا۔“ تو جہاں تک اس فقرے کا --- اگر نوٹ صحیح کیا گیا ہو --- تعلق ہے تو یہ فقرہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ جو لکھا ہوا ہے، وہ ایک دوسری بات ہے۔ وہ یہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں:

”وہ لوگ جو بار بار کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک ہی نبی کیوں ہوا؟ بہت سے نبی ہونے چاہئیں، ان کو چاہئے کہ ختم نبوت کے اس امتیازی نشان کو ذہن میں لاویں کہ آنحضرت ﷺ خدا کی مہر ہیں۔ خدا نے اپنی مہر کے ذریعہ جس کسی کے نبی ہونے کی تصدیق کی وہی نبی ثابت ہو سکتا ہے۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ کیوں خدا کی مہر نے صرف ایک ہی کو نبی قرار دیا۔ سو یہ اعتراض ہم پر نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت پر ہے۔ اگر ہماری حکومت خدا پر ہوتی یا اس کی مہر پر ہوتی تو بلاشبہ یہ سوال ہم پر پڑ سکتا تھا۔ خدا اپنی مہر کے ذریعہ بہت سے انبیاء ہونے کی پیش گوئی فرماتا --- تو ہمیں اس کو ماننے سے بھی کوئی چارہ نہ تھا۔ اب جب کہ خدائی مہر صرف

۱۔ مرزا ناصر احمد صاحب نے خود تسلیم کیا کہ قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزا پر الہام نازل ہوا کہ ”تیرا مخالف جہنمی ہے“ تمام مسلمان مرزا کو نہیں مانتے، لہذا تمام مسلمان، قادیانی عقیدہ کے مطابق جہنمی ہیں۔

۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ایک ہی کو نبی قرار دیتی ہے تو ہم کون ہیں جو کہیں کہ صرف ایک ہی نبی کیوں ہوا؟۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس سوال کا یہی جواب دیا ہے۔“
آگے وہ اقتباس ہے: ”ایک شخص نے سوال کیا کہ ”آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟“ فرمایا ”ہاں، کہ تمام اکابر اس بات کو مانتے چلے آئے ہیں کہ اس امت مرحومہ کے درمیان سلسلہ مکالمات الہیہ کا ہمیشہ جاری ہے۔ اس معنی سے (مکالمات الہیہ --- اس معنی سے) ہم نبی ہیں۔ ورنہ ہم اپنے آپ کو امتی کیوں کہتے؟ (یعنی امتی نبی، یعنی امتی کا پہلو بھاری ہے) ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو فیضان کسی کو پہنچ سکتا ہے --- جو فیضان کسی کو پہنچ سکتا ہے --- وہ صرف آنحضرت ﷺ کی پیروی سے پہنچ سکتا ہے۔ اس کے سوائے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ ایک اصطلاح کے جدید معنی اپنے پاس سے بنالینا درست نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ آنے والا مسیح نبی⁸⁶⁴ بھی ہوگا اور امتی بھی ہوگا۔ امتی تو وہ ہے کہ جو آنحضرت ﷺ سے فیض حاصل کر کے تمام کمال حاصل کرے --- آنحضرت ﷺ سے فیض حاصل کر کے تمام کمال حاصل کرے --- لیکن جو شخص پہلے ہی نبوت کا درجہ پا چکا ہے، وہ امتی کسی طرح سے بن سکتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی سے نبی ہے۔“ سائل نے سوال کیا:

”اگر اسلام میں اس قسم کا نبی ہو سکتا ہے تو آپ سے پہلے کون نبی ہوا ہے۔“ حضرت نے فرمایا: ”یہ سوال مجھ پر نہیں، بلکہ آنحضرت ﷺ پر ہے۔ انہوں نے صرف ایک کا نام نبی رکھا ہے۔ اس سے پہلے کسی آدمی کا نام نبی نہیں رکھا۔ اس سوال کا جواب دینے کا اس واسطے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔“

تو اس سے یہ بات ساری ہو گئی ہے۔ ”صرف ایک ہی نبی ہوگا“ یہ بحث ہی نہیں ہے۔ بحث دوسری ہے وہاں۔ ”الفضل“ ۱۳ نومبر، ۱۹۴۳ء کہ: ”پارسیوں کی طرح ---“ (اپنے وفد کے ایک رکن سے) نکالیں ”الفضل“

جناب یحییٰ بختیار: (سیکرٹری سے) کہاں ہے ”الفضل“؟
مرزا ناصر احمد: ”پارسیوں کی طرح علیحدہ اپنا مطالبہ کر لیا۔“

۱۔ گویا تسلیم کر لیا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد ایک نبی بننا تھا اور وہ مرزا قادیانی ہے۔ مرزا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ گویا نبوت آنحضرت ﷺ پر ختم نہ ہوئی، مرزا پر ختم ہوئی۔ مرزا قادیانی خاتم النبیین ہیں۔ یہ ہیں قادیانی کفریات جس کے باعث امت نے ان کو اپنے سے علیحدہ قرار دیا۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: ۱۳ نومبر، ۱۹۴۶ء۔

مرزا ناصر احمد: ۱۹۴۶ء یہ ہے، ۱۳ نومبر ۱۹۴۶ء یہ جو ہے، اگر یہ خطبہ سارا پڑھ لیا جاتا تو سوال آنا ہی نہ تھا سامنے۔ میں پہلے مختصر بتا دیتا ہوں۔

اس خطبے میں یہ ہے کہ جس وقت یہ بحث چلی کہ کون کون سے علاقے جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے اور کون سے دوسری طرف جائیں گے تو اس وقت ایک فتنہ یہ کھڑا ہوا کہ احمدی چونکہ اپنے آپ کو علیحدہ سمجھتے ہیں اس لئے ملت اسلامیہ کے دائرہ میں ان کو نہ سمجھا جائے اور تعداد کے لحاظ سے مسلمان کم ہو جاتے ہیں۔ پھر خصوصاً گورداسپور کا علاقہ جو ہے اس میں ۵۱ اور ۴۹ کی نسبت سے مسلم اور غیر مسلم تھے اور یہ ۵۱ کی نسبت، اس میں جماعت احمدیہ، جو گورداسپور میں بہت بڑی تعداد میں تھی، وہ بھی شامل تھا۔ تو یہ ہندوؤں نے ایک چال چلی تھی۔

اس وقت مسلم لیگ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے اس وقت کے خلیفہ جماعت احمدیہ جن کو ہم خلیفہ ثانی کہتے ہیں، انہوں نے مسلم لیگ سے سر جوڑا اور مسلم لیگ کے مؤقف کو مضبوط بنانے کے لئے ایک پلان تیار کیا اور یہ سارا اس خطبے کے اندر ہے سارا، اور مسلم لیگ کے مشورے کے ساتھ یہ سوال اٹھایا کہ ”تم پارسیوں کو علیحدہ حقوق دیتے ہو تو ہمیں کیوں نہیں دیتے؟“ یعنی مسلم لیگ نے کہا کہ ”ہمیں فائدہ پہنچے گا کہ تم یہ کرو۔“ تو *In collusion with Muslim League, he did what he did.* (اس نے جو کچھ کیا مسلم لیگ سے ساز باز کر کے کیا) اور میں کہیں تو سارا ”الفضل“ پڑھ دیتا ہوں اور کہیں تو اس کو یہ ریکارڈ کے لئے شامل کر دیتا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: اس کو فائل کر دیں۔

جناب چیئرمین: شامل کر دیں اس کو۔

مرزا ناصر احمد: ہاں! اس میں یہ شروع ہوتا ہے ”دہلی کا سفر اور اس کی غرض۔“ ”دہلی کا سفر اور اس کی غرض۔“ اس کے اوپر وہ سرخ نشان لگے ہوئے ہیں جہاں سے یہ اصل مضمون شروع ہوا ہے اور مسلم لیگ کی خدمت کے لئے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ صرف ایک فقرے سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

۸۶۶ ویسے ہماری تاریخ نے ۲۳ جنوری ۱۹۴۶ء میں اس چیز کو ریکارڈ کیا ہے۔ تاریخ *Sub-continent* (چھوٹا براعظم) کہ اہل حدیث کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کو جداگانہ حق ملنا چاہئے۔ یہ میں بیچ میں ہی رہنے دیتا ہوں۔

۱۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے)

ایک سوال تھا ”الفضل“ ۱۶ جولائی ۱۹۴۹ء: ”یہ گھبراتے ہیں.....“ یہ ہے، اس طرح آگے چلتا ہے اور پھر آخر میں ہے: ”ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے۔“

یہ سوال تھا کہ گویا کہ مسلمان فرقوں کو یہ کہا گیا ہے۔ ۱۶ جولائی ۱۹۴۹ء میں ایسا کوئی مضمون نہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آگے پیچھے دیکھیں گے، جہاں تک ممکن ہوا، ۲۵ جولائی ۱۹۴۹ء۔ میں ایک مضمون ہے۔ ممکن ہے اس کی وجہ سے --- یعنی ”۱۶“ کی بجائے ۲۵ جولائی، ۱۹۴۹ء۔ اگر اجازت ہو تو اس سوال کرنے پر میں شکر یہ بھی ادا کر دوں، کیونکہ بڑی اچھی چیز سامنے آئے گی، سب کے۔ یہ اس کے اقتباس ہیں، ۲۵ جولائی والے کے:

”اللہ کی طرف سے جب بھی دنیا میں کوئی آواز بلند کی جاتی ہے دنیا کے لوگ اس کی ضرور مخالفت کرتے ہیں۔ بغیر مخالفت کے خدائی تحریکیں دنیا میں کبھی جاری نہیں ہوتیں۔ خدائی تحریک جب بھی دنیا میں جاری کی جاتی ہے، اس کے متعلق بلاوجہ اور بلاسبب لوگوں میں بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اتنا بغض اور کینہ کہ اسے دیکھ کر حیرت آ جاتی ہے ایک مسلمان کو.....“

اب وہ جو ہے سوال: ”ایک مسلمان کو محمد رسول اللہ ﷺ سے جو محبت ہے اس کو الگ کر کے، اسے آپ ﷺ سے جو عقیدت ہے اسے بھلا کر، اگر صرف آپ ﷺ کی ذات با برکات کو دیکھا جائے تو آپ ﷺ کی ذات انتہائی بے شر، انتہائی بے نقص اور دنیا کے لئے نہایت ایثار اور قربانی کرنے والی معلوم ہوتی ہے۔ آپ ﷺ اپنی ساری زندگی میں کسی ایک شخص کا بھی حق مارتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آپ ﷺ کسی جگہ دنگ اور فساد میں مشغول نظر نہیں آتے۔ لیکن قریباً پونے چودہ سو سال کا عرصہ ہو چکا، دشمن آپ کی مخالفت کرنے اور آپ کے متعلق بغض اور کینہ رکھنے سے باز نہیں آتا۔ جو شخص بھی اٹھتا ہے اور مذہب پر کچھ لکھنا چاہتا ہے، وہ فوراً آپ ﷺ کی ذات پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اس کا بھی یا تو کوئی جسمانی سبب ہوگا یا روحانی سبب ہوگا۔ رسول کریم ﷺ کی مخالفت کا کوئی جسمانی سبب تو نظر نہیں آتا.....“

آگے جسمانی سبب کے اوپر کچھ نوٹ دیا ہوا ہے، اور وہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ: ”اس کی کوئی روحانی وجہ ہونی چاہئے، اس کی کوئی روحانی وجہ ہے اور وہ صرف یہی ہے کہ رسول کریم ﷺ کے مخالفین کے دل محسوس کرتے ہیں کہ اسلام ایک صداقت ہے، اگر اسے روکا

۱۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

نہ گیا تو یہ صداقت پھیل جائے گی اور انہیں مغلوب کر لے گی۔ یہی ایک چیز ہے۔ جس کی وجہ سے لوگوں کو محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات سے سخت دشمنی ہے۔ اس مخالفت کے باقی جتنے بھی وجوہ بیان کئے جاتے ہیں وہ آپ سے زیادہ شان کے ساتھ دوسرے نبیوں میں موجود ہیں۔ اس لئے یہ بات یقینی ہے کہ اس دشمنی کی وجہ لڑائی اور جھگڑا نہیں بلکہ ایک روحانی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ دشمنی پیدا ہو گئی ہے اور وہ یہی ہے کہ اسلام ایک حقیقت رکھنے والا مذہب ہے، اسلام غالب آ جانے والا مذہب ہے، اسلام دوسرے مذاہب کو کھا جانے والا مذہب ہے۔ اسے دیکھ کر مخالفین کے کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ مقابلہ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔“

868 ”تو کھا جانے والا“ اپنا نہیں کہا، بلکہ اسلام کے متعلق ساری بات ہو رہی ہے اور فرما یہ ہے کہ ”اسلام دوسرے مذاہب کو کھا جانے والا مذہب ہے۔“ اور سوال یہ پوچھا گیا کہ گویا کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے یہ کہا ہے کہ ”ہم تمہیں کھا جائیں گے۔“ آگے اور ایک اقتباس جو اس کو Complete (مکمل) کرتا ہے: ”یہ لوگ چونکہ محمد رسول اللہ ﷺ کا شکار ہیں۔ یہ لوگ چونکہ محمد رسول اللہ ﷺ کا شکار ہیں، اس لئے وہ آپ ﷺ کے مخالف ہو گئے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ ﷺ کے دشمن ہیں اور اگر یہی وجہ ہے تو یہ بات ہمارے لئے غم کا موجب نہیں ہونی چاہئے، بلکہ خوشی کا موجب ہونی چاہئے۔ لوگ گھبراتے ہیں کہ مخالفت کیوں کی جاتی ہے۔ لوگ جھنجھلاٹھتے ہیں کہ ان کی عداوت کیوں کی جاتی ہے۔ لوگ چڑتے ہیں کہ انہیں دکھ کیوں دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر گالیاں دینے اور دکھ دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ہمارا (یعنی اسلام کا) شکار ہیں تو پھر ہمیں گھبرانا نہیں چاہئے اور نہ کسی قسم کا فکر کرنا چاہئے، بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہئے کہ دشمن یہ محسوس کرتا ہے (دشمن اسلام) کہ اگر ہمیں کوئی نئی حرکت پیدا ہوئی تو اس کے مذہب کو کھا جائیں گے۔“

تو سارا یہ بیان جو ہے نبی ﷺ کے متعلق ہے۔

(۱۹۴۹ء میں یہ بات کیوں؟)

جناب بیگی، بختیار: مرزا صاحب! ۱۹۴۹ء میں کیوں؟ کوئی عیسائی مشنریوں نے کوئی انکوائری شروع کی تھی، اسلام کے خلاف جب انہوں نے یہ بات کہی؟
مرزا ناصر احمد: ۱۹۴۹ء میں؟
جناب بیگی، بختیار: ہاں جی۔

مرزا ناصر احمد: چودہ سو سال سے آج کے دن تک۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں نہیں.....
مرزا ناصر احمد: اس وقت تک وہ تو تحریک جاری ہے۔⁸⁶⁹

(دشمن کون تھے؟)

جناب یحییٰ بختیار: اس مضمون کا، جو وہ کہہ رہے ہیں ”دشمن“ کہہ رہے ہیں، میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ۱۹۴۹ء میں کون سا حادثہ تھا جو انہوں نے کہا ”دشمن“ کون تھے؟
مرزا ناصر احمد: نبی اکرم ﷺ کے دشمن۔ اتنی وضاحت سے یہ اس میں الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ اس میں تو کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔
جناب یحییٰ بختیار: وہ کچھ Confusion (ابہام) ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ: ”میں فنا فی الرسول ہوں۔ میں محمد ہوں۔“
مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، وہ تو بالکل.....
جناب یحییٰ بختیار: ”تو ہم دشمن سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ.....“ اپنی طرف سے ”محمد“ کہہ رہے ہیں۔
مرزا ناصر احمد: میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے اور نہ کہنے والے اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو خلیفہ ثانی ہیں۔

(کون اسلام کے دشمن تھے؟)

جناب یحییٰ بختیار: کون اسلام کے دشمن تھے؟ کون آنحضرت ﷺ پر حملہ کر رہے تھے، جن کی طرف یہ اشارہ ہے؟ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟
مرزا ناصر احمد: عیسائی۔
جناب یحییٰ بختیار: عیسائی کہاں کر رہے تھے؟
مرزا ناصر احمد: ہاں۔
جناب یحییٰ بختیار: کوئی Instance (مثال) بتا دیجئے آپ کہ کسی عیسائی نے کوئی مضمون لکھا، کوئی تقریر کی، پاکستان میں، دنیا میں، جس کی طرف اشارہ ہو؟
مرزا ناصر احمد: آپ مجھے دو گھنٹہ پڑھنے کی اجازت دیں تو میں ساری گالیاں

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

سنادوں گا۔ جو عیسائیوں نے نبی اکرم ﷺ کو دی ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: میرا سوال ہے ناں، مرزا صاحب! کہ ۱۹۴۹ء میں مرزا صاحب نے یہ خطبہ دیا اور کہتا ہے کہ ”دشمن گھبراتے ہیں۔ دشمن ہمارا شکار ہے۔“ وہ ”دشمن“ کون تھے؟ کیا ضرورت تھی اس کی کہ انہوں نے خطبے میں ذکر کیا؟ کیونکہ مرزا صاحب سوچ کر بات کرتے تھے۔ تو خاص پر اہم ہوگا، کوئی ایٹو ہوگا۔ میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: حضرت خلیفہ ثانی نے عیسائیوں کے خلاف ساری دنیا میں ایک مہم جاری کی ہوئی تھی اور جس وقت حضرت خلیفہ ثانی یا کوئی اور خلیفہ جماعت احمدیہ کا --- ہم ویسے ہی امام جماعت احمدیہ کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں ”نہیں، آپ اپنا ہی وہ لیا کریں Designation (لقب)“

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، میں نے صرف ایک سوال پوچھا ہے آپ سے.....
مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، میں بتاتا ہوں.....
جناب یحییٰ بختیار: کہ کوئی خاص Incident (واقعہ) بتا سکتے ہیں، کوئی Statement (بیان) عیسائیوں کا، کوئی تقریر، کوئی تحریر، اس زمانے میں، جس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ.....

مرزا ناصر احمد: ہر وقت وہ ہے۔ یعنی یہ کہ یہ ۲۵ جولائی کو کوئی واقعہ ہوا؟

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، دو مہینے پہلے، دو دن پہلے، دو ہفتے پہلے۔

مرزا ناصر احمد: ساری صدی میں ہوتا رہا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، صدی کی بات نہیں

مرزا ناصر احمد: وہ جو پہلی صدی میں باتیں ہوئی ہیں، جواب نہیں دینا چاہئے۔

۱۔ حد ہوگئی۔ کیا کہا؟ قادیانی توجہ فرمائیں؟ مرزا قادیانی یا کسی قادیانی کو کوئی گالی دے تو وہ گالی خوشی سے کوئی قادیانی نقل نہیں کرے گا، لیکن قادیانیوں کو دیکھیں کہ بلا تکلف ان کا سر براہ کہہ رہا ہے کہ ”عیسائیوں نے جو آنحضرت ﷺ کو گالیاں دیں وہ ساری گالیاں سنادوں گا۔“ مرزا ناصر کو یہ سبق اپنے دادا ملعون قادیان مرزا قادیانی سے ملا ہے۔ مرزا قادیانی نے (کتاب البریہ ص ۱۱۸ تا ۹۴، خزائن ج ۱۳ ص ۱۲۰ تا ۱۲۶) ۲۶ صفحات پر مسلسل آنحضرت ﷺ کے بارہ میں صریح بیہودہ اور کمینہ گالیاں جو عیسائیوں نے دیں وہ مرزا نے جمع کر دی ہیں۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) یہ ہے قادیانی کفر کی اندرونی کیفیت۔

۱۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: صدی کی بات نہیں ہے۔

Mr. Chairman: The question of Attorney- General

is. (جناب چیئر مین: انارنی جنرل صاحب کا سوال ہے)

جناب یحییٰ بختیار: میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی Incident (واقعہ) بتا سکتے ہیں؟

⁸⁷¹ *Mr. Chairman: The questin of the Attorney-*

General is. (جناب چیئر مین: انارنی جنرل صاحب کا سوال ہے)

جناب یحییٰ بختیار: یہ جنرل وہ ہو رہی ہے.....

Mr. Chairman: Just a minute. The question of the

Attorney- General is: the immediate cause for this, for delivery of this. The witness is requested to confine himself...

(جناب چیئر مین: صرف ایک منٹ۔ انارنی جنرل کا سوال ہے کہ یہ خطبہ دینے کی

فوری وجہ یا سبب کیا تھا۔ گواہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے (جواب کو) محدود رکھے.....)

جناب یحییٰ بختیار: آپ کوئی Incident (واقعہ) بتا سکتے ہیں.....

Mr. Chairman: to this question only.

(جناب چیئر مین: صرف اس سوال تک)

جناب یحییٰ بختیار: جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا؟

Mr. Chairman: ہاں Not a general reply but

regarding this specific question.

(جناب چیئر مین: جواب عام قسم کا نہ ہو، بلکہ خاص طور پر اس سوال کا جواب ہو)

مرزا ناصر احمد: وہ جو ہے ناں اس کا، وہ اسی میں وہ بھی موجود ہے، لیکن قریباً پونے

چودہ سو سال کا عرصہ ہو چکا دشمن آپ ﷺ کی مخالفت کرنے اور آپ کے متعلق بغض اور کینہ رکھنے

سے باز نہیں آتا، یہاں جو آپ کا سوال ہے، اس کا جواب یہ فقرہ ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: اس جگہ کوئی نہیں!

مرزا ناصر احمد: ہزاروں ہیں۔ لیکن میں اس وقت نہیں بتا سکتا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اس، اس واقعہ کے؟

مرزاناصر احمد: میں اس وقت نہیں بتا سکتا۔
 جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے۔
 مرزاناصر احمد: میں کل صبح بتاؤں گا آپ کو، اگر یہی کرنا ہے۔ یعنی ایک مضمون بالکل صاف ہے.....
 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! مضمون بالکل صاف آپ کو معلوم ہو رہا ہے۔
 مگر میری یہ ڈیوٹی ہے کہ..... مجھے صاف نہیں معلوم ہو رہا ہے.....
 مرزاناصر احمد: جی، ٹھیک ہے۔

(آپ دشمن کس کو سمجھتے ہیں؟)

جناب یحییٰ بختیار: کیونکہ ابھی جو ہماری Arguments (دلائل) ہو رہی ہیں، یا جو سوالات پوچھ کے جواب پوچھ رہا ہوں، اس کے مطابق جو میرا Conception (تصور) ہے اسلام کا، وہ مختلف ہو گیا۔ جو میرا Conception (تصور) تھا نبی کا، وہ مختلف ہو گیا۔ تو اس لئے میں پوچھ رہا ہوں آپ ”دشمن“ کس کو سمجھتے ہیں؟.....
 مرزاناصر احمد: اس Context (سیاق و سباق) میں.....
 جناب یحییٰ بختیار: آپ نے کہا ”عیسائی“ تو میں نے کہا ”کوئی عیسائیوں.....“
 مرزاناصر احمد: غیر مسلم، اصل میں حملہ آور یہ تھا ہندو اور آریہ خصوصاً ان میں سے اور عیسائی اور اس وقت دہریہ بھی بیچ میں اس حملے میں شامل ہو گئے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ آپ درست فرما رہے ہیں، مرزا صاحب! ۱۹۴۹ء میں پاکستان بن چکا تھا، نہ کسی ہندو کی ہمت تھی، نہ کسی عیسائی کی کہ آنحضرت ﷺ کی، پاکستان میں آپ ﷺ کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرتا.....
 مرزاناصر احمد: یہ یہ پراہلم ہے آپ کا؟
 جناب یحییٰ بختیار: تو اس واسطے میں.....
 مرزاناصر احمد: ہاں، ہاں، ہاں، نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان بن چکنے کے بعد بھی جو غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا جہاد تھا، وہ اسی طرح جاری تھا جس طرح پاکستان بننے سے پہلے۔

۱۔ چاروں شانے چت۔

۱۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(دشمنوں کو کھا جائیں گے؟)

جناب یحییٰ بختیار: کہ دشمنوں کو کھا جائیں گے؟

مرزا ناصر احمد: اسلام کھا جائے گا۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی ہم ہندوؤں کو کھا جائیں گے؟

873 مرزا ناصر احمد: اسلام..... اسلام اپنی روحانی برتری سے کھا جائے گا۔ یہ مطلب

نہیں ہے کہ وہ جو فقیروں کا ایک گروہ ہے۔ جو انسان کا گوشت کھاتا ہے، اس طرح کھا جائیں گے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، وہ میں نہیں کہہ رہا۔

مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: اچھا جی۔ اب اور کوئی جوابات ہیں؟

(۱۸۵۷ء غدر کے متعلق)

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، جوابات بہت ہیں۔ (Pause)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! یہ جو ۱۹۴۹ء کا خطبہ ہے اس کی ایک کاپی یہاں

فائل کرادیں گے جی؟

مرزا ناصر احمد: میں دیکھتا ہوں، اگر Spare (فالتو) ہوگی تو ضرور۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں، بعد میں کرادیں جی۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔ ایک سوال تھا ۱۸۵۷ء کے غدر کے متعلق۔ تو وہ اس میں

جو نوٹ ہم نے کہا ہے..... اس میں یہ تو صرف لفظ نوٹ ہو سکتے ہیں: ”چوروں اور قزاقوں کی طرح

غدر کرنے والوں نے غدر کیا۔“

تو اگر آپ پھر آپ..... سوال ہو یہاں تو دہرا دیں۔ میرے پاس جواب ویسے ہے۔ یہ

میں پوچھ اس لئے رہا ہوں کہ جو حوالہ دیا گیا تھا اس میں ”چوروں اور قزاقوں کی طرح“ کے الفاظ نہیں

ہیں۔ تو ویسے، ویسے میں جواب دے دیتا ہوں۔ (اپنے وفد کے ایک رکن سے) مجھے دے دو۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! آپ کے پاس کیا ہے؟

874 مرزا ناصر احمد: یہاں انہوں نے جو لکھا ہے ”چوروں اور قزاقوں.....“

جناب یحییٰ بختیار: ”..... اور حرامیوں.....“

مرزا ناصر احمد: ”..... قزاقوں کی طرح، حرامیوں کی طرح۔“ (Pause)

۱۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

غدر یا *later on* (بعد ازاں) تحریک آزادی کے نام سے ایک واقعہ ۱۸۵۸ء میں ہوا، ۱۸۵۷ء میں ہوا۔ یہ واقعہ اس سال سے کہیں پہلے کا ہے جس سال جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی، اس کے متعلق اس زمانہ کے لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے، وہ ہمارے سامنے ہو تب ہم صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ سنئے: سید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں رسالہ ”اشاعت السنۃ“ جلد: ۶، نمبر: ۷، ۲۸۸ صفحے پر اہل حدیث عالم مولوی محمد حسین بنالوی نے اپنے اس میں لکھا ہے۔۔۔ کہ: ”مولانا سید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی نے اصل معنی جہاد کے لحاظ سے۔۔۔ اصل معنی جہاد کے لحاظ سے بغاوت ۱۸۵۷ء کو شرعی جہاد نہیں سمجھا (بلکہ اس کو کیا، سمجھا) بلکہ اس کو بے ایمانی، عہد شکنی، فساد، عناد خیال کر کے اس میں شمولیت اور اس کی معاونت کو معصیت۔۔۔ گناہ قرار دیا۔“

یہ مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی۔

خواجہ حسن نظامی صاحب معروف ایک ہستی ہیں، وہ فرماتے ہیں: ”یہ اقرار کرنا قرین انصاف ہے کہ ہندوستانی فوج والوں اور دیسی باشندوں نے بھی غدر کے شروع میں سفاکی اور بے رحمی کو حد سے بڑھا دیا تھا اور ان کے ستم ایسے ہولناک تھے کہ ہر قسم کی سزا ان کے لئے جائز کہی جاسکتی ہے۔ انہوں نے بے کس عورتوں کو قتل کیا۔ انہوں نے حاملہ عورتوں کو ذبح کرنے سے دریغ نہ کیا۔ انہوں نے دودھ پیتے بچوں کو اچھالا اور سنگینوں کی نوکوں پر روک کر بے زبان معصوموں کو چھید ڈالا۔ وہ حاملہ عورتوں کے پیٹ میں تلواریں گھونپ دیتے تھے۔ غرض کوئی ظلم و ستم ایسا نہ تھا جو ان کے ہاتھ سے انگریزوں اور ان کے بیوی بچوں پر نہ ٹوٹا ہو۔ ان کے شرمناک افعال نے تمام ہندوستان کو ہمیشہ کے لئے رحم و انصاف کی نظروں میں ذلیل کر دیا۔ میرا سر شرم و ندامت سے (یہ حسن نظامی صاحب ہیں) میرا سر شرم و ندامت سے اونچا نہیں ہوتا جب میں اپنی قوم کی اس دردناک سفاکی کا حال پڑھتا ہوں جو اس نے دہلی شہر کے اندر ۱۱ مئی ۱۸۵۷ء اور اس کے بعد کے زمانہ میں روا رکھی۔“

انہوں نے خود لکھا ہے یہ۔

بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر نے ۹ مارچ ۱۸۵۸ء کو دیوان خاص قلعہ دہلی میں عدالت کے سامنے جو تحریری بیان دیا اس میں لکھا کہ: ”میں نے دوپالکیاں روانہ کیں اور حکم دے دیا کہ توہیں بھی بھیج دی جائیں۔ اس کے بعد میں نے سنا پاکلیاں بھیجے بھی نہ پائی تھیں کہ مسٹر

۱۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

فیئر، قلعہ دار اور لیڈیاں سب کے سب قتل کر دیئے گئے۔ (اس سے) زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ باغی سپاہ دیوان خاص میں گھس آئی، عبادت خانہ میں بھی ہر طرف پھیل گئی اور مجھے چاروں طرف سے گھیر کر پہرہ متعین کر دیا۔ یہ نمک حرام۔ یہ نمک حرام۔ کئی انگریز مرد اور عورت کو گرفتار کر کے لائے۔ ان کو انہوں نے میگزین میں پکڑا تھا اور ان کے قتل کا قصد کرنے لگے۔ آخری وقت اگرچہ میں مفسد بلوائیوں کو حتی المقدور باز رکھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر انہوں نے میری طرف مطلق التفات نہیں کیا اور ان بے چاروں کو قتل کرنے باہر لے گئے۔ احکام کی نسبت معاملہ کی اصل حالت یہ ہے کہ جس روز سپاہ آئی، انگریزی افسروں کو قتل کیا اور مجھے قید کر لیا، میں ان کے اختیار میں رہا، میرا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا۔“

یہ لکھنے والے ہیں ”بہادر شاہ کا مقدمہ“ از خواجہ حسن نظامی اور اس کے اوپر خواجہ حسن نظامی صاحب فرماتے ہیں کہ بہادر شاہ بادشاہ کے اپنے دستخط ہیں۔

سر سید احمد خاں: ”غور کرنا چاہئے کہ اس زمانہ میں جن لوگوں نے جہاد کا جھنڈا بلند کیا، ایسے خراب اور بد رویہ اور بد اطوار آدمی تھے کہ بجز شراب خوری کے اور تماش بینی اور ناچ اور رنگ دیکھنے کے کچھ وظیفہ ان کا نہ تھا۔ بھلا یہ کیوں کر پیشوا اور مقتدا جہاد..... کے گئے جاسکتے تھے؟ اس ہنگامے میں کوئی بات بھی مذہب کے مطابق نہیں ہوئی..... سب جانتے ہیں کہ سرکاری خزانہ اور اسباب، جو امانت تھا، اس میں خیانت کرنا، ملازمین کو نمک حرامی کرنا مذہب کی رو سے درست نہ تھی۔ صریح ظاہر ہے کہ بے گناہوں کا قتل، علی الخصوص عورتوں اور بچوں اور بڑھوں کا، مذہب کے بموجب گناہ عظیم تھا۔ پھر کیوں کر یہ ہنگامہ غدر جہاد ہو سکتا تھا؟ ہاں، البتہ چند بدذاتوں نے دنیا کی طمع، اپنی منفعت اور اپنے خیالات کو پورا کرنے اور جاہلوں کے بہکانے کو، اپنے ساتھ جمعیت کو جمع کرنے کو جہاد کا نام دے لیا۔ پھر یہ بات بھی مفسدوں کی حرام زندگیوں میں سے ایک حرام زندگی تھی، نہ واقعہ میں جہاد۔ مگر جب بریلی کی فوج دہلی پہنچی اور دوبارہ فتویٰ ہوا، جو مشہور ہوا اور جس میں جہاد کرنا واجب لکھا ہے، بلاشبہ اصلی نہیں۔ چھاپنے والے اس فتویٰ نے جو ایک مفسد اور نہایت قدیمی بدذات آدمی تھا..... جاہلوں کے بہکانے اور ورغلانے کو لوگوں کے نام لکھ کر اور چھاپ کر اس کو رونق دی تھی، بلکہ ایک آدھ مہر ایسے شخص کی چھاپ دی تھی، جو قبل غدر مرچکا تھا۔“

یہ ”اسباب بغاوت ہند“ صفحہ ایک ہی ہے۔

مولوی محمد حسین صاحب بنالوی لکھتے ہیں: ”عہد و ایمان والوں سے لڑنا ہرگز شرعی“

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جہاد..... ملکی ہو خواہ مذہبی..... نہیں ہو سکتا..... عہد و ایمان والوں سے لڑنا ہرگز شرعی جہاد نہیں ہو سکتا، بلکہ عناد و فساد کہلاتا ہے۔ مفسدہ ۱۸۵۷ء میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گنہگار اور مجکم قرآن و حدیث وہ مفسد و باغی کردار تھے..... بدر کردار تھے..... اکثر ان میں عوام کا لانعام تھے۔ بعض جو خواص و علماء کہلاتے تھے..... وہ بھی اصل علوم دین قرآن و حدیث سے بے بہرہ تھے یا نافرہم و بے سمجھ۔“ (رسالہ اشاعت السنہ ج ۹، نمبر ۱۰ ص ۳۰۹-۳۱۰، ۱۸۸۶ء)

پھر نواب صدیق حسن خاں صاحب جو فرماتے ہیں وہ بھی سنئے۔ نواب صدیق حسن خاں صاحب نے کتاب ”ہدایت السائل“ اور دوسری متعدد کتابوں میں یہ لکھا ہے: ”ہندوستان کے بلاد دار السلام ہیں، نہ دار الحرب۔ برٹش گورنمنٹ سے ہندوستان کے تمام رؤساء، رعایا کا ہمیشہ کے لئے معاہدہ دوستی ہو چکا ہے۔ لہذا ہندوستان کے کسی شخص کا برٹش گورنمنٹ سے جہاد کرنا اور اس معاہدہ کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ جو غدر ۱۸۵۷ء میں برٹش گورنمنٹ سے مفسدوں نے سلوک کیا وہ فساد تھا، نہ جہاد۔“

پھر شمس العلماء مولانا ذکاء اللہ خان صاحب فرماتے ہیں: ”جب تک دہلی میں بخت خان نہیں آیا جہاد کے فتویٰ کا چرچہ شہر میں بہت کم تھا۔ یہ کام لپے شہدے مسلمانوں کا تھا کہ وہ ”جہاد جہاد“ پکارتے پھرتے تھے۔ مگر جب بخت خان، جس کا نام اہل شہر نے کم بخت خان رکھا..... دہلی میں آیا تو اُس نے یہ فتویٰ لکھایا۔ اس نے جامعہ مسجد میں مولویوں کو جمع کر کے جہاد کے فتویٰ پر دستخط و مہر میں ان کی کرائیں اور مفتی صدر الدین نے بھی ان کے جبر سے..... اپنی جعلی مہر کر دی۔ لیکن مولوی محبوب علی و خواجہ ضیاء الدین نے فتویٰ پر مہر نہیں دیں اور بے باکانہ کہہ دیا کہ شرائط جہاد موافقت مذاہب اسلام موجود نہیں۔ جن مولویوں نے فتویٰ پر مہر کی تھیں وہ کبھی پہاڑی پرائگریزوں سے لڑنے نہیں گئے۔ مولوی نذیر حسین، جو دہلیوں کے مقتدا اور پیشوا تھے، ان کے گھر میں تو ایک میم چھپی بیٹھی تھی۔“

یہ ”تاریخ عروج عہد سلطنت انگلستان در ہند“ حصہ سوم ۱۶۷۵ اور ۱۶۷۶ء۔ یہ مولانا خان بہادر شمس العلماء محمد ذکاء اللہ صاحب کی تحریر ہے۔ اس..... پس..... ہاں، ایک اور رہ گیا۔

شیخ عبدالقادر صاحب، بڑی معروف ہستی ہیں، شیخ عبدالقادر صاحب، بی۔ اے۔ پیرسٹریٹ لاء، سیکرٹری شرافت کمیٹی، سیالکوٹ، اپنے رسالہ ”ترکوں کے اپنوں پر فرضی مظالم“ میں تسلیم کرتے ہیں کہ: ”۱۸۵۷ء میں ہندوستان میں غدر چلا۔ اس غدر کو فرو کرنے کے لئے انگریزوں کی افواج کو مصر سے گزر کر ہندوستان پہنچنے کی اجازت۔ حضور خلیفہ المسلمین سلطان المعظم نے ہی

۲۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

دی تھی۔ جنوبی افریقہ میں جنگ بوزرز ہوئی۔ ترکوں نے انگلستان کا ساتھ دیا۔ ہزار ہا ترکوں نے انگریزی جھنڈے کے نیچے لڑنے مرنے کے لئے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ مساجد میں انگریزوں کی فتح اور نصرت کے لئے دعائیں کی گئیں۔“

اس پس منظر میں اس تحریر پر اعتراض کوئی وزن نہیں رکھتا، جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کی حالت یہ ہوگئی تھی کہ بجز بدچلنی اور فسق و فجور اسلام کے رئیسوں کو اور کچھ یاد نہ تھا، جس کا اثر عوام پر بھی بہت پڑ گیا تھا۔ انہی ایام میں انہوں نے ایک ناجائز اور ناگوار طریقہ سے سرکار انگریزی سے باوجود نمک خوار اور رعیت ہونے کے مقابلہ کیا، حالانکہ ایسا مقابلہ اور ایسا جہاد ان کے لئے شرعاً جائز نہیں تھا۔“

جو میں نے پہلے حوالے پڑھے ہیں، اس کے مقابلہ میں یہ بہت ہی نرم حوالہ ہے، اور کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں (اپنے وفد کے ایک رکن سے) اور بھی ہیں؟

جناب یحییٰ بختیار: آپ کے پاس اور ہیں ابھی؟
مرزانا صراحت: جی، جی۔

جناب یحییٰ بختیار: میں بعد میں سوال کروں گا آپ سے۔
مرزانا صراحت: جی، جی۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ صرف وہ پڑھ لیجئے۔
مرزانا صراحت: جی۔

ایک یہ ایک سوال تھا ”تبلیغ رسالت“ جلد نہم۔ وہ، وہ ”جہنمیوں“ کے متعلق۔ وہ صرف ایک ہی سوال ہے، ایک ہی عبارت کے متعلق۔ وہ دوبارہ آ گیا تھا۔ پہلے میں اس کا جواب دے چکا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔

ایک سوال ہے ”سیرت الابدال“ ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ: ۱۵۳ پر ۹۳ پر Hundred and ninty three (۱۹۳) پر اس صفحے پر کوئی عبارت کے متعلق ایک اعتراض ہے۔ تو اگر وہ عبارت وہ نوٹ نہیں ہم کر سکے وہ عبارت اگر پڑھ دی جائے، صفحہ: ۱۹۳ کی، تو زیادہ اچھا ہے۔ ورنہ میں اس کے بغیر جواب دے دیتا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ کونسی کتاب ہے؟⁸⁸⁰

مرزانا صراحت: (سیرت الابدال ص ۱۹۳) پر کوئی عبارت ہے، جس کے متعلق سوال کیا

گیا تھا۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ اگلے سوال کا جواب دے دیں۔
مرزانا ناصر احمد: نہیں، میں اسی کا جواب دے دیتا ہوں۔ پھر اور کوئی ضرورت پڑے
تو آپ سپلیمنٹری میں کر دیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ”سیرت الابدال“ جو کتاب ہے اس کے صرف سولہ صفحے ہیں تو
ان سولہ صفحوں میں سے وہ کون سا ۱۹۳ تلاش کیا گیا ہے جس پر اعتراض کیا گیا ہے؟ کتاب کے
سارے صفحے ہی سولہ ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ کسی دوسرے Volume (جلد) کا ہوگا۔

[At this stage Mr. Chairman vacated the Chair
which was occupied by Madam Deputy Speaker (Dr. Mrs.
Ashraf Khatoon Abbasi)]

(اس موقع پر جناب چیئر مین نے کرسی صدارت چھوڑ دی جسے مسز اشرف خاتون
عباسی نے سنبھال لیا)

مرزانا ناصر احمد: کسی Volume (جلد) میں بھی..... ہم نے وہ چیک کیا۔ جو
اکٹھے چھپی ہیں کئی کتابیں اکٹھی، اس Volume (جلد) میں بھی ۱۴۸ پر ختم ہو جاتی ہے، ایک سو
چوالیس کے اوپر یہ ختم ہو جاتی ہے یہ کتاب۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ حوالہ ہے ہی نہیں؟

مرزانا ناصر احمد: یہ صفحہ ہی کوئی نہیں۔ میں اب آتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں اسے۔
۱۹۳ صفحہ ہی موجود نہیں کسی ایڈیشن میں بھی۔ یعنی جہاں اکٹھی کتابیں چھپی ہیں، یہ ہے۔ اکٹھی جو
چھپی ہیں۔ ہمارے ”روحانی خزائن“ کے نام سے، اس میں ۱۲۹ سے یہ شروع ہوئی ہے کتاب، اور
یہ یہاں ختم ہو گئی ۱۴۲ پر۔ یہ وہ میں نے..... یہ جلد ۲۰، اس میں بھی نہیں ہے۔ اچھا! رہے وہ ۱۶ صفحے
جو کتاب میں ہیں تو اس میں وہ حوالہ نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں ہے بالکل؟

۲۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

مرزانا صراحمہ: نہیں ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیں گے۔
 مرزانا صراحمہ: ہاں، وہ دیکھ لیں۔ (Pause)
 ایک سوال تھا قاضی محمد اکمل صاحب کی ایک نظم کے ایک شعر پر.....
 جناب یحییٰ بختیار: یہ سوال ختم ہو گیا ہے۔
 مرزانا صراحمہ: وہ پہلا جو ہے ”دافع البلاء“ والا، وہ ختم ہو گیا؟
 جناب یحییٰ بختیار: کونسا؟ نہیں جی، یہ اس پر آپ نے کہا کہ ”نہیں، یہ بات کبھی تھی
 کہ وہ..... ان کو جماعت سے نکال دیتے۔“ پھر آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، یہ تو ختم ہو گیا تھا،
 اس کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔
 مرزانا صراحمہ: ہاں، اس میں کچھ حوالے اور ملے ہیں۔

(محمد پھر آئے ہیں ہم میں، معاذ اللہ)

جناب یحییٰ بختیار: اچھا، آپ اس کو آگے Elaborate (واضح) کرتے ہیں؟
 مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں، ہاں نہیں، Elaborate (واضح)
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، کر لیجئے۔
 مرزانا صراحمہ: Elaborate (واضح) یہ کر رہے ہیں کہ جس وقت..... یہ ایک تو
 جو نظم ہے، اس میں یہ شعر بھی موجود ہے:
 ”غلام احمد مختار ہو کر یہ رتبہ تو نے پایا ہے جہاں میں“
 882 نبی اکرم ﷺ کا غلام ہو کے، جو بھی آپ کا مقام ہے وہ ہے۔
 اسی نظم میں وہ ہے یہ شعر:
 ”محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں“

۱۔ چونکہ پوری بحث میں مرزانا صراحمہ نے عبارت نہیں پڑھی کہ یہ پوچھے جانے والی عبارت
 اس کتاب میں نہیں۔ تو ہمیں بھی کیسے معلوم ہو کہ کون سا حوالہ تھا جسے مرزانا صراحمہ کے چکر میں
 چھپا رہے ہیں۔ حوالہ کی عبارت ہوتی تو ہم اس عبارت کو مرزا کی جس کتاب میں ہوتی نکال لاتے۔
 مطلق حوالہ کا انکار نہیں کیا۔ اس کتاب کے صفحات میں وہ عبارت نہیں یہ کہہ کر گول کر گئے۔

۲۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

”آگے سے بھی بڑھ کر“ کا مفہوم غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے۔ انہوں نے ۱۳ اگست ”الفضل“ میں یہ مضمون لکھا کہ: ”میرا ہرگز مطلب نہیں تھا جو میری طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ حدیث کی رو سے امت محمدیہ میں ہر صدی کے سر پر مجدد آتے ہیں اور ان مجددین کا اپنا کچھ نہیں ہوتا اور نبی اکرم ﷺ کا ہی نور جو ہے وہ ان کے وجودوں میں چمکتا ہے اور آپ ﷺ ہی کا ظہور ہے۔ تو میرا مطلب یہ کہنے کا تھا کہ جو اس سے قبل مجددین میں نبی اکرم ﷺ کا ظہور ہوا تھا، مسیح موعود میں اس سے زیادہ ظہور ہوا۔“

یہ انہوں نے اپنا بیان دیا۔ میں آگے ابھی ان کا..... جواب ابھی نہیں ختم ہوا..... انہوں نے پھر یہ لکھا ہے کہ: ”لیکن اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی اور مجھے بڑی سخت تہنید ہوئی اور میں نے جب اپنا کلام کتاب کی شکل میں ۱۹۱۱ء میں شائع کیا تو اس وقت لوگوں کی اس..... جو میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ تم نے کیا حرکت کی ہے.....“

یہ ہے ان کا دیوان ۱۹۱۱ء کا، پہلی دفعہ یعنی پانچ سال کے بعد چھپا ہے: ”..... اس میں یہ شعر میں نے لوگوں کے، جو میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے نکال دیا۔ میں ان کو کہتا رہا، میں قسمیں کھاتا رہا، (اسی میں ملحق ہے) کہ یہ میرا مطلب نہیں ہے۔ خدا کی قسمیں کھا کے کہتا ہوں کہ میرا مطلب یہ ہے کہ پہلے مجددین کے مقابلہ میں زیادہ بلند شان والا ظہور ہوا ہے۔ تم میری قسمیں..... میں اوروں کو تو چھوڑتا ہوں، خود جماعت کے لوگ میری قسموں پر اعتبار نہیں کر رہے اور میں قسمیں کھا کھا کے تھک گیا ہوں۔“

اس کا تو جو شخص شاعر ہے، کہتا ہے کہ ”میرا یہ مطلب ہے۔“ اس مطلب پر اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ پچھلے مجددین کی نسبت نبی اکرم ﷺ کا اس صدی میں ظہور زیادہ شان والا ہے۔ مقابلہ مجددین سے ہے، آنحضرت ﷺ سے نہیں۔ دوسرے یہ وہ کہتا ہے کہ ماننا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے..... وہی جو اس وقت سوال ہوا ہے..... یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے گی، اور ”انہوں نے مجھے شروع سے ہی تنگ کرنا شروع کر دیا، اور ۱۹۱۱ء میں میں نے اپنی نظم سے یہ نکال دیا، اور ۱۹۰۶ء کے بعد کسی رسالے یا کسی اخبار یا کسی کتاب میں اپنے اس شعر کو میں نے شائع نہیں کروایا۔“ اور پھر ۳۸ سال کے بعد..... سمجھے ناں..... ۱۹۴۴ء میں ۱۳ اگست کے اخبار میں لکھتے ہیں کہ: ”میں قسمیں کھا کھا کے تھک گیا ہوں اور تو نہیں، جماعت والے بھی میرے پر اعتبار نہیں کرتے۔ میرا یہ مطلب نہیں۔“

۲۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

تو یہ نئے حوالے جو آئے تھے، یہ اس میں Add (اضافہ) ہو جاتے ہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: اس پر ایک دو سوال ہیں آپ سے.....
مرزانا صراحمہ: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ یہاں کہتے ہیں، یا جو میں کہتا ہوں، یا جو اسمبلی کہتی ہے، جو قانون یہ پاس کرتی ہے، پھر ان کو یہ اختیار نہیں ہوتا..... بعد میں..... کہ ”میرا مطلب کیا تھا۔“ یہ پھر عدالت کو یا پھر کوئی اور ہی ادارہ ہوتا ہے۔ اکمل صاحب کے الفاظ جو انہوں نے کہے ہیں، وہ خواہ لاکھ کہیں کہ ”میرا مطلب یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا“ وہ جو ہے، وہ پھر پبلک جج کرتی ہے کہ مطلب کیا تھا۔ ایک اصولاً میں کہہ رہا ہوں کہ Interpretation (صراحت) کا جو Right (حق) ہوتا ہے، وہ Author (مصنف) کو نہیں ہوتا۔

Mirza Nasir Ahmad: That is a legal question....

(مرزانا صراحمہ: وہ ایک قانونی سوال ہے)

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، میں وہی بتا رہا ہوں۔

مرزانا صراحمہ:..... ادب میں، شعروں میں نہیں۔ میری بات سن لیں پوری۔ شعر میں یہ نہیں چلتا۔ شعر میں ہمارا محاورہ ہے: ”صاحب البیت ادری بما فیہ“ جو کہنے والا ہے وہی مطلب بتائے گا۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ ٹھیک ہے۔ میں دوسری بات یہ کر رہا تھا کہ جب سوال آپ کے سامنے آیا تھا، اس وقت یہ تھا کہ ”قصیدہ مرزا غلام احمد صاحب کی موجودگی میں پڑھا گیا؟“ آپ نے کہا: ”نہیں“

مرزانا صراحمہ: میں، میں اب بھی کہتا ہوں: ”نہیں“

جناب یحییٰ بختیار: پھر اس کے بعد سوال یہ آیا کہ ”ان کی موجودگی میں یہ ”الہدٰر“ میں چھپا؟“.....

مرزانا صراحمہ: ہم نے کہا: ”ہاں“

جناب یحییٰ بختیار: آپ نے..... سبھی نے کہا: ایک نے نہیں کہا۔

مرزانا صراحمہ: اب میں کہتا ہوں ”ہاں“

جناب یحییٰ بختیار: اب کہتے ہیں!
 مرزا ناصر احمد: ۱۹۰۶ء میں چھپا، لیکن.....
 جناب یحییٰ بختیار: میں نے..... آپ نے کہا کہ: ”اگر ان کو معلوم ہوتا اور ان کے سامنے ہوتا تو اس کو جماعت سے باہر نکال دیتے“.....
 مرزا ناصر احمد: بالکل۔
 جناب یحییٰ بختیار: چونکہ اگر..... میرا سوال پورا ہونے دیں۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: آپ کا بھی یہ *Impression* (تاثر) تھا کہ بڑی غلط بات کی ہے، آپ کے خیال کے مطابق، مرزا صاحب کا بھی یہ *Impression* (تاثر) تھا کہ بڑی غلط بات ہے، ان کو جماعت سے نکال دیتے۔ پھر اس نے خود کہا کہ ”نہیں جی، انہوں نے تو ”جزاک اللہ“ کہا“ اور یہ ثابت ہوا۔ ان کی موجودگی میں چھپا۔ اتنا ہی سوال تھا کہ وہ بڑے خوش ہو گئے اس قصیدے کو سن کے، کہ جس میں ان کو کہا کہ ان کی شان محمد ﷺ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہم بتانا چاہتے ہیں۔
 مرزا ناصر احمد: جی، بات یہ ہے، یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں نا اب، یہ ”البدز“ میں بالکل نہیں چھپیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں نہیں کہتا کہ یہ ”البدز“ میں چھپیں۔ میں نے اتنا ہی کہا کہ ”البدز“ میں یہ چھپا جب مرزا صاحب زندہ تھے، حیات تھے اور انہوں نے کوئی اس پرائیکشن نہیں لیا، کوئی ہمارے پاس ریکارڈ نہیں کہ انہوں نے اس کو *Disapprove* (ناپسند) کیا ہو۔ اس کے دوسری طرف ہمارے پاس یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اکمل صاحب کا قول ہے..... کہ انہوں نے اس کو سراہا ”جزاک اللہ“ کہا اور خوش ہوئے۔
 مرزا ناصر احمد: اور نتیجتاً ۱۹۱۱ء میں اپنی نظم میں سے نکال دیا!
 جناب یحییٰ بختیار: وہ ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب کی حیات کے بعد انہوں نے کر دیا، پبلک کو بڑا غصہ آیا اس پر۔ مگر یہ *Fact* (حقیقت) ہے کہ مرزا صاحب نے اس کو *Approve* (پسند) کیا اور خوش ہوئے۔
 مرزا ناصر احمد: ہماری، ہماری تاریخ میں، ہماری تاریخ نے یہ ریکارڈ ہی نہیں کیا کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے اس نظم کو پڑھا۔

۲۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.comwww.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.compopalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

886 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔

مرزا ناصر احمد: یہ جو ہے نا سچ.....

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! ابھی میں اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا۔ ”الفضل“ آپ کا اخبار ہے۔ اس میں اکل یہ کہتا ہے کہ ان کی موجودگی میں پڑھا اور انہوں نے اس کو پسند کیا۔ (میرے نقطہ نظر سے یہ کافی ہے) *That is enough from my point of view.* اگر ”الفضل“ میرا اخبار ہے یا جماعت اسلامی کا اخبار ہے، تب تو میں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے، غلط بات ہے۔

مرزا ناصر احمد: تو آپ کے اپنے اصول کے مطابق، جو آپ نے ابھی کہا ”الفضل“ میرا اخبار نہیں، ”الفضل“ خلیفہ..... جماعت احمدیہ کے کسی خلیفہ کا اخبار نہیں۔

(الفضل جماعت احمدیہ کا اخبار ہے؟)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ”آپ“ سے مطلب ”جماعت احمدیہ کا اخبار“ ہے ان کا۔ مرزا ناصر احمد: جماعت احمدیہ کا بھی اخبار نہیں، جماعت احمدیہ کی ایک تنظیم کا اخبار ہے۔ جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ان کی آواز ہے یہ.....

مرزا ناصر احمد: جی.....

جناب یحییٰ بختیار: ان کی رائے دیتا ہے، ان کی طرف سے..... مرزا ناصر احمد: ان کی آواز بالکل نہیں ہے، یہ تو بالکل، بالکل نہیں ہے، جماعت کی آواز نہیں ہے ”الفضل“

جناب یحییٰ بختیار: یہ بڑا اچھا ہے! آپ اگر یہ کہہ دیں تو بڑی اچھی بات ہے! ہم تو سارے جھگڑے ”الفضل“ سے کر رہے ہیں یہاں۔

مرزا ناصر احمد: بالکل نہیں جماعت کا۔

جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے۔

887 مرزا ناصر احمد: یہ تو پھر سارے جھگڑے ختم ہو گئے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: کس جماعت کا ہے یہ؟

۱۔ افضل اخبار قادیانی جماعت کا اخبار نہیں اتنا بڑا سچ قادیانی جماعت کو خلیفہ قادیانی مرزا ناصر کی طرف سے مبارک ہو؟

۲۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: ہیں؟
 جناب یحییٰ بختیار: کس جماعت کا ہے یہ؟
 مرزا ناصر احمد: کسی جماعت کا نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: دیکھیں، مرزا صاحب.....
 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں!.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ”ڈان“ اخبار تھا، ۱۹۴۱ء میں شروع ہوا دہلی میں، ساری دنیا کہتی تھی کہ مسلم لیگ کی آواز ہے۔ وہ بھی آفیشل آرگن تو نہیں تھا کوئی مسلم لیگ کا۔ آج ”مساوات“ ہے۔ سب کہتے ہیں جی کہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ پیپلز پارٹی کا آفیشل اخبار تو نہیں ہے۔
 مرزا ناصر احمد: اور سارے کہتے ہیں کہ ”ٹرسٹ“ کے اخبار آج کی گورنمنٹ کے ہیں.....
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔
 مرزا ناصر احمد: اور ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کے نزدیک حکومت پر وہ اعتراض درست ہے؟
 جناب یحییٰ بختیار: میں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ Officially (سرکاری ترجمان) جو ہے ناں ”ٹرسٹ“ اور بات ہے۔۔۔ ”مساوات“ اخبار کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا ہے۔ ”جسارت“ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ہے، حالانکہ جماعت اسلامی کا کوئی نہیں ہے، ان سے ہمدردی رکھنے والوں کا ہوگا، ان کی آواز بلند کرتا ہوگا۔
 ”الفضل“⁸⁸⁸ جو ہے، اس کو آپ، فانس آپ کرتے ہیں، آپ کی جماعت کرتی ہے۔ اس کو نکالتے ہی آپ ہیں۔ آپ کی رائے اور آپ کے خطبے سب اس میں آتے ہیں، سب اس میں آئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ”نہیں ہے، آپ کا اخبار بالکل نہیں“، تو بالکل ٹھیک بات ہے!
 مرزا ناصر احمد: میرا نہیں ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: خلیفہ کا ذاتی میں نہیں کہہ رہا۔
 مرزا ناصر احمد: نہ جماعت احمدیہ کا ہے۔

۱۔ دنیا والو! دیکھو قادیانی سربراہ کیسے کیسے جھوٹ بول رہا ہے؟
 ۲۔ جھوٹ پے جھوٹ، نبی جھوٹا، خلیفہ جھوٹا، خود جھوٹا، باپ جھوٹا، دادا جھوٹا، پہلے تین تھیں، اب چوتھی نسل جھوٹ پر چل نہیں رہی، جھوٹ پر چل بھی رہی ہے۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: آپ کی آواز ہے، وہ آپ کی جماعت کی آواز۔
 مرزا ناصر احمد: نہ میری آواز ہے، میری آواز کے کچھ کو اس کا نقل کر دینا..... وہ
 اخبار میری آواز نہیں بنتا۔
 جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے، آپ کے حصے ہی نقل کر رہا ہے وہ۔
 مرزا ناصر احمد: میری آواز کے کچھ حصوں کو وہ نقل کرتا ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔
 مرزا ناصر احمد: اور سارا کچھ جو وہ کہتا ہے، وہ میری طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔
 جناب یحییٰ بختیار: موڑ توڑ کر تو نہیں نقل کرتا وہ، موڑ توڑ تو اخبار کرتا ہے۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، اتنی غلطیاں کاتب صاحب کر جاتے ہیں کہ آپ حیران
 ہو جائیں، اگر آپ کو دکھاؤں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، کاتب کی اور بات ہوتی ہے، موڑ توڑ کر نا اور بات
 ہوتی ہے۔

مرزا ناصر احمد: وہ موڑ توڑ معنوی موڑ توڑ بن جاتا ہے اس کے بعد۔
 جناب یحییٰ بختیار: اچھا جی اب اور کوئی حوالہ ہے؟
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، سب حوالے ہیں۔ (Pause)
 یہ میں نے یہاں ریکارڈ کروایا کہ قاضی اکمل صاحب کا یہ کہنا کہ حضرت مسیح موعود
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو سنا اور ”جزاک اللہ“ کہا، ۳۸ سال کے بعد، ہماری تاریخ میں یہ
 واقعہ کہیں ریکارڈ نہیں۔ اس طرح میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: جھوٹ کہا انہوں نے؟
 مرزا ناصر احمد: جھوٹ کہا، جو آپ مرضی کہہ لیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: اکمل نے جھوٹ کہا، ”الفضل“ نے جھوٹ رپورٹ کیا، بس ٹھیک ہے۔
 مرزا ناصر احمد: قاضی اکمل صاحب نے جھوٹ کہا، جھوٹ اس معنی میں کہ ہماری
 تاریخ نے اس واقعہ کو ریکارڈ ہی نہیں کیا کہیں بھی اور ۳۸ سال کے بعد ایک شخص ایک چیز ۳۸ سال
 پہلے کی کہہ رہا ہے، اور حافظے کا یہ حال ہے کہ اپنے اس شعر کو، جو آخری نہیں، اور لکھ رہا ہے کہ یہ
 آخری شعر ہے میرا۔ اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ کر جب اپنے ہی شعر یاد نہیں، ان کے، جو انہوں
 نے کسی اور کے متعلق بات کی ہو، وہ کیسے قابل قبول ہو جائے گی؟

۲۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: بس جی، ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب! ایک شعر ایک آدمی کو یاد نہیں رہتا۔ اتنا بڑا واقعہ کہ مرزا صاحب وہاں موجود ہوں، وہ ان کی تعریف کرے، کوئی احمدی بھولتا نہیں۔
مرزا ناصر احمد: کسی احمدی نے کسی جگہ کسی تحریر میں، کسی لیکچر میں، کسی کتاب میں، کسی مضمون میں اس واقعہ کی طرف کبھی اشارہ نہیں کیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ (Pause)
اور یہ اس کے برعکس یہ روایت ہے ہماری ریکارڈ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے اپنے شعر شور سناتا رہتا تھا اور آپ کہتے تھے کہ ”میں اپنے کام میں مشغول تھا، سوچ میں لگا ہوا تھا، میں نے کوئی نہیں سنا۔“ یہ روایت ریکارڈ ہے اور وہ روایت کہ ”سنا اور یہ کیا“ یہ ۳۸ سال تک کسی شخص نے اس کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا۔ اس کو میں کیسے own کر لوں؟

(البدرا آپ کا اخبار تھا؟)

890 جناب یحییٰ بختیار: ”البدرا“ آپ کا اخبار تھا، جماعت کا، کہ نہیں تھا وہ بھی؟
مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا۔ یہ، یہ بھی میں یہ ”الحکم“ ۷ فروری ۱۹۲۳ء میں، جب کہ یہ کوئی بھگڑا قاضی اکمل صاحب وغیرہ کے شعر کا نہیں تھا، یہ ایک یہ، یہ چھپا ہے، حضور کے انہماک کے متعلق روایت: ”حافظ معین الدین صاحب کی یہ شعر خوانی کا سلسلہ جاری تھا.....“

ایک منشی ظفر احمد صاحب، بڑے بزرگ ہمارے، صحابی ہیں، ان کی یہ روایت ہے:
”منشی ظفر احمد صاحب بلوائے ہوئے قادیان میں موجود تھے اور حضرت صاحب کے قریب ہی رہتے تھے۔ چند روز تک تو یہ سلسلہ رہا۔ ایک دن منشی جی نے عرض کیا کہ ”حضور کیا سنتے رہتے ہیں، حافظ صاحب سونے ہی نہیں دیتے، (حافظ صاحب شعر سنایا کرتے تھے) نہ یہ کوئی خوش آواز ہیں، سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کس طرح سنتے رہتے ہیں“ (یہ مفہوم منشی صاحب کے کلام کا تھا) آپ نے ہنس کر فرمایا: ”مجھے تو کچھ معلوم نہیں کہ یہ کیا سنتے ہیں اور نہ میں اس خیال سے سنتا ہوں کہ یہ کوئی خوش آواز ہیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے دماغ میں اسلام کی حالت اور عیسائیوں کے حملوں کو دیکھ کر جوش اٹھتا ہے، اور بعض وقت مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ دماغ پھٹ جائے گا اس جوش میں..... کیونکہ حافظ صاحب بڑے اخلاص سے کمر دبانے کے لئے آجاتے ہیں، میں نے دینی توجہ کو دوسری طرف بدلنے کے لئے ان کو کہہ دیا کہ کوئی شعر یاد ہو تو سناؤ، اب یہ بے چارہ نہایت اخلاص

۳۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

سے سناتا ہے، اور میں ہر چند کوشش کرتا ہوں کہ میرا خیال ادھر متوجہ ہو اور ہجوم افکار جو دماغ میں موجودہ حالت کو دیکھ دیکھ کر ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لئے کم ہو جائے، مگر وہ کم ہونے میں نہیں آتا، اور مجھے پتہ بھی نہیں لگتا کہ کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ناپسند ہو تو ان کو منع کر دیا جائے۔“

891 جس شخص کی یہ حالت تھی کہ اسلام کے غم اور فکر میں ہر وقت اپنی توجہ کو اس خاص مضمون کی طرف مرکوز رکھتا تھا، *Concentrate his mind was concentrated on that one subject.* (صرف ایک ہی موضوع پر توجہ مرکوز رکھتے) اس کے سامنے شعر سنانے والے شعر سناتے تھے، بچے اپنی کہانیاں سناتے تھے، وہ ان کی طرف مشغول ہوتا ہے؟ اس کی طرف ایک ایسی بات منسوب کرنا، جو ۳۸ سال کے بعد منسوب کی گئی ہو، جس کا ذکر ۳۸ سال تک کسی ایک حوالے میں موجود نہ ہو، میرے نزدیک بڑا ظلم ہے۔ باقی جو دنیا مرضی کہے اور ”جزاک اللہ“ کے بعد گیارہ کو نکال دیا۔

اچھا، یہ ایک.....

(”الفضل“ آپ کی جماعت کے کس شعبے کا ہے؟)

جناب یحییٰ بختیار: ”الفضل“ جو ہے، جس شعبے کا ہے، آپ کی جماعت میں اس کا نام کیا ہے؟ ریکارڈ پر آ جائے۔

مرزانا صرا احمد: جی؟

جناب یحییٰ بختیار: آپ نے کہا یہ آپ کی جماعت کے کسی شعبے کے نیچے ہے۔ وہ شعبہ کونسا ہے؟

مرزانا صرا احمد: اس کی جزل نگرانی یہ صدر انجمن احمدیہ کرتی ہے۔ لیکن جس طرح یہ Independent (خود مختار) ہوتے ہیں ناں آپ کے تھل اتھارٹی، وغیرہ، وغیرہ، اس طرح یہ Independent (خود مختار) ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نگرانی صدر انجمن احمدیہ؟

مرزانا صرا احمد: عام، عام نگرانی، اور جو اس کے نیچے اور ایڈیٹر ہیں وہ بالکل آزاد ہیں۔

۱۔ صدر انجمن احمدیہ اس کی نگرانی کرتی ہے، مگر وہ جماعت کا اخبار نہیں، خوب استدلال ہے۔ گویا جماعت احمدیہ اس اخبار کی نگرانی کرتی ہے جو اس کا اپنا اخبار ہی نہیں۔

۳۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: یعنی ان کو Financially (مالی طور پر) کون
Support (مدد) کرتا ہے؟

مرزا ناصر احمد: اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، قریباً۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یعنی شروع کوئی بھی تو اس کا ہوگا نا۔

مرزا ناصر احمد: ⁸⁹² ہیں جی؟

جناب یحییٰ بختیار: کوئی بھی Financially Support (مالی مدد) کرنے
والے ہیں؟ کچھ نہیں ہے؟

مرزا ناصر احمد: نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: فرم ہے؟

مرزا ناصر احمد: وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ پاؤں پر تو کھڑا ہو گیا تھا جی.....

مرزا ناصر احمد: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ کون مگر Invest (لگایا) کس نے کیا ہے پیسہ؟

مرزا ناصر احمد: ہیں جی؟

جناب یحییٰ بختیار: پیسہ کس نے Invest (لگایا) کیا؟

مرزا ناصر احمد: وہ جتنا اس کی آمدن ہے اتنا ہی اس کا خرچ ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، کون ہے.....

مرزا ناصر احمد: نہیں؟

جناب یحییٰ بختیار: کون، کس نے Invest (لگایا) کیا؟

*Mirza Nasir Ahmad: Those who contribute and
purchase the paper.*

۱۔ اب تک یہ تو رونا تھا کہ افضل خسارے میں چل رہا ہے، ہر قادیانی کو اس کا پتہ ہے
کہ اسی نام سے چندے مانگے جاتے ہیں، آج یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ سچ ہے کہ ایک جھوٹ
کو سچ ثابت کرنے کے لئے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔

۳۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(مرزانا صراحمہ: جو لوگ اخبار خریدتے ہیں وہی سرمایہ مہیا کرتے ہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: Who are those people?

(جناب یحییٰ بختیار: انارنی جنرل: وہ کون لوگ ہیں؟)

Mirza Nasir Ahmad: Those who purchase the

paper.

(مرزانا صراحمہ: جو لوگ اخبار خریدتے ہیں)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، کون ہیں؟

مرزانا صراحمہ: احمدی بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں۔

⁸⁹³**Mr. Yahya Bakhtiar: Mirza Sahib, you don't**

answer my question.۔ نہیں

(جناب یحییٰ بختیار: آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے)

مرزانا صراحمہ: نہیں، میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔

جناب یحییٰ بختیار: میرا سوال یہ ہے کہ کوئی کہتی ہے، کوئی اخبار ہے ”پاکستان

نامتاز“ ہے.....

مرزانا صراحمہ: کوئی کہتی نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: کاروبار کہتی کے بغیر چل نہیں سکتا، جی، کوئی اس کا مالک ہوگا۔

جب ڈیکلیریشن فائل کریں گے۔ کس نے ڈیکلیریشن فائل کیا اس کا؟

مرزانا صراحمہ: اپنے وفد کے ایک رکن سے کیوں جی؟

جناب یحییٰ بختیار: اس کے ڈائریکٹرز کون ہیں؟ اس کا نیجنگ بورڈ کون ہے؟

مرزانا صراحمہ: جی! (اپنے وفد کے ایک رکن سے) نہیں نہیں، ڈیکلیریشن کس کے

نام ہے؟ (انارنی جنرل سے) گیانی عبید اللہ اس کے نیچر ہیں، گیانی عبید اللہ صاحب ہیں جو، ہر

ایک ان سے واقف ہوں گے، یہ جو ”پنجابی دربار“ میں قریباً روزانہ آتے رہے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: سر! نہیں، اس سے.....

مرزانا صراحمہ: ہاں!

۱۔ قارئین! آپ فیصلہ کریں کہ مرزانا صراحمہ سمجھا نہیں یا جان بوجھ کر دجل کر رہا ہے، چکر

دے رہا ہے؟

۳۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: یعنی وہ تو انہوں نے ڈیکلریشن فائل کیا۔

مرزاناصر احمد: ہاں، ہاں!

جناب یحییٰ بختیار: پھر *Financially Invest* پیسہ کس نے کیا؟ جماعت

کی طرف سے ہوا ہے کوئی پیسہ اس میں۔

مرزاناصر احمد: جی، یہ، یہ پرانی ہسٹری ہے۔ میں بتا دیتا ہوں۔ اب میں بات سمجھ

گیا ہوں آپ کی۔ اس کو شروع میں دو تین سال بڑی دیر کی بات ہے۔ یہ سمجھیں کوئی.....

ہاں! ۵۵، ۵۶ سال پہلے کی بات ہے، حضرت خلیفہ ثانی نے اس کو شروع کیا اور اس وقت.....

یعنی حضرت خلیفہ ثانی جو بنے۔ انہوں نے اسے شروع کیا۔ یہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ

عنه، کے زمانے کی بات ہے۔ نوجوان تھے۔ یہ انہوں نے ایک یہ پرچہ شروع کیا اور اس میں

ابتدائی اخراجات اپنے ذاتی لگائے، اور اس کے بعد یہ آپ نے صدر انجمن احمدیہ کے حوالے

کر دیا۔ اس وقت ”صدر انجمن احمدیہ“ قریباً ”جماعت احمدیہ“ کے ہم معنی تھی۔ لیکن آج کی جب

ہم بات کر رہے ہیں تو جماعت احمدیہ وہ جماعت ہے جو دنیا کے قریباً ہر خطے میں پھیلی ہوئی ہے اور

اس واسطے اس اخبار کو جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے، بلکہ جماعت احمدیہ کی

طرف یہ منسوب نہیں ہوتا۔ ایک احمدی ہے، جنرل نگرانی کرتے ہیں، صدر انجمن احمدیہ اس کی

جنرل نگرانی کرتی ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: کیوں.....

مرزاناصر احمد: ایک فرد کا وہ ڈیکلریشن ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: کیوں کرتا ہے؟ *Investment* (سرمایہ کاری) کی ہے،

انہوں نے یا.....؟

مرزاناصر احمد: نہیں، نہیں، نہیں، *Investment* (سرمایہ کاری) کوئی نہیں کی.....

جناب یحییٰ بختیار: تو کس واسطے کر رہا ہے وہ؟

مرزاناصر احمد: جنرل نگرانی اس واسطے کر رہا ہے کہ وہ زیادہ جو اس قسم کی چیز آ جائے

جو جماعت کے مفاد کے حق میں نہ ہو تو وہ اپنے یہ دیکھ لے۔ یہ دیکھیں، مثلاً، مثلاً.....

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب!.....

مرزاناصر احمد: میں ایک مثال دیتا ہوں۔

۳۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: میرا سوال Simple (سادہ) ہے کہ نگرانی وہی کر سکتا ہے جسے کوئی حق ہو۔ ان کا حق کہاں سے آ گیا نگرانی کا؟ ابھی میں ”پاکستان ٹائمز“ کی نگرانی نہیں کر سکتا، چاہتا ہوں کروں۔

Mirza Nasir Ahmd: Very unfortunate

(مرزا ناصر احمد: بڑی بد قسمتی کی بات ہے)

⁸⁹⁵ *Mr. Yahya Bakhtiar: I know how have they got this power to supervise when they have nothing to do with it financially and other wise?*

مرزا ناصر احمد: وہ ایک تو وہ کافی اخبار خریدتے ہیں اور اس کے پیسے دیتے ہیں۔ دوسرے جن کا اخبار ہے، پہلے اس کی ابتدا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب..... جو اس وقت خلیفہ نہیں تھے..... ان سے ہوئی اور ہم..... سارے اخبار کی عام ایک نگرانی کرتی ہے..... جماعت پوری نہیں کر سکتی، انسان ہیں، غلطی کر جاتے ہیں، مثلاً ہمارا ایک اخبار ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: ”نگرانی“ سے مطلب سپرویزن اور کنٹرول دونوں ہیں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں ”عام نگرانی“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی آدمی بیٹھا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، سپرویزن ہے، یا کنٹرول ہے؟

مرزا ناصر احمد: نہیں، کوئی کنٹرول نہیں، اور سپرویزن بھی.....

جناب یحییٰ بختیار: آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے خلاف کچھ ہو تو پھر اس پر آپ.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، اس کے اوپر ان کو کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، تو.....

مرزا ناصر احمد: جماعت کو بدنامی.....

جناب یحییٰ بختیار: وہ پھر کنٹرول ہو گیا۔

مرزا ناصر احمد: ہیں؟

۱ اتنے بھولے بھی تو نہ بنو۔

۳۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، پھر وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔

Mirza Nasir Ahmad: If that is the technical term, i am not familiar with it.

(مرزا ناصر احمد: چونکہ یہ ایک تکنیکی اصطلاح ہے اس لئے میں کچھ نہیں کہہ سکتا)

Mr. Yahya Bakhtiar: Supervision is more or less passive interest.

(جناب یحییٰ بختیار: نگرانی سے قریب قریب مراد خاموش دلچسپی ہوتا ہے)

مرزا ناصر احمد: ہیں جی؟

896 جناب یحییٰ بختیار: ”سپر ویزن“ جو ہوتا ہے..... آپ اس میں نوٹ کر لیں کہ

یہ چیز اس میں آگئی ہے۔ *But you cannot give directions but control*

means that you give directions. (جس میں آپ ہدایات نہیں دے سکتے، جبکہ

اختیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایات بھی دے سکتے ہیں)

بھی یہ ٹھیک کریں آپ..... کہ یہ جماعت کے مفاد کے خلاف کر رہے ہیں۔

مرزا ناصر احمد: یا ٹھیک کریں یا جماعت لینا چھوڑ دے گی۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں! یہ *Injunction* ہونا۔

مرزا ناصر احمد: اور..... یعنی *Moral Pressure* (اخلاقی دباؤ) ہے، میرا

مطلب یہ ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: *Financial* (فنانسل) کوئی نہیں؟

مرزا ناصر احمد: نہیں، *Financial* (فنانسل) نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: بس ٹھیک ہے جی۔

مرزا ناصر احمد: *Financial* (فنانسل) بالکل نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ نہیں بتا سکتے کہ کونسی فرم ہے؟

مرزا ناصر احمد: فرم ہے ہی نہیں جی۔

جناب یحییٰ بختیار: کمپنی بھی کوئی نہیں ہے؟

مرزا ناصر احمد: کوئی کمپنی نہیں، *No limited company, no private*

limited company. (نہیں، لمیٹڈ کمپنی نہ کہ پرائیویٹ کمپنی)

۳۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

Mr. Yahya Bakhtiar: Is it a trust ?

(جناب یحییٰ بختیار: کیا یہ ٹرسٹ ہے؟ ویسے، ویسے دے دیا)

Mirza Nasir Ahmad: No trust.

(مرزا ناصر احمد: کوئی ٹرسٹ نہیں)

[At this stage Mr. Chairman (Sahibzada Farooq Ali)

occupied the chair.]

(اس مرحلہ پر چیئرمین (صاحبزادہ فاروق علی) نے کرسی صدارت سنبھالی)

897 مرزا ناصر احمد: یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جماعت کو دے دیا، لیکن جماعت نے جس رنگ میں لیا ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ، یہ کافی ہے جی، جماعت کو انہوں نے..... انہوں نے پیسے

Investment (سرمایہ کاری) کی ہوئی..... جماعت کو.....

مرزا ناصر احمد: جماعت کو دے دیا، لیکن جماعت نے جو طریقہ اس کا اختیار کیا، وہ

یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، کہ ایک شخص ہے، وہ اس کا مینجنگ ڈائریکٹر ہے، ایک وہ ہے۔ جماعت کی

جزل گرانٹی ہے۔ وہ جوان کی جوان کی جو Pays ہیں مثلاً.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ ٹھیک ہے، جماعت کو دے دیا.....

مرزا ناصر احمد: وہ، وہ خود اپنا کرتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: جماعت نے ان کو ایک گفٹ دے دیا کہ یہ آپ کا ہو گیا،

ہمارا ابھی کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم تو صرف Supervision (نگرانی) کریں گے، مطلب یہ ہوا۔

مرزا ناصر احمد: اصل میں جو ہمارے احمد یوں کا آپس میں جو ہے نا تعلق، وہ کچھ

نرالا سا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہی تو مرزا صاحب! رونا ہے جی۔

مرزا ناصر احمد: اس میں قانون جو ہے وہ سمجھنا مشکل ہے۔ اس میں قانونی کیفیت

مشکل ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: سارا رونا یہی ہے جی۔

اور کوئی سوال ہے جی؟

(لہ خسف القمر المنیر وان لی)

مرزانا صراحمہ: ہاں جی، اور ہیں۔

ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ: ”لہ خسف القمر المنیر وان لی خسف القمران المشرکان اُتُنکرو“ اس کے..... یعنی چاند اور سورج کے گرہن ہونے کے دو (۲) نشانوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں ⁸⁹⁸ Confusion (ابہام) پیدا کرنے والی بات ہے۔ وہ صرف عدد کی ہے۔ لیکن ایک ہے معجزہ اور ایک ہے نبی اکرم ﷺ کی پیشین گوئی۔ وہ بھی آنحضرت ﷺ کی ہے۔ لیکن معجزہ اور چیز ہے، اپنی اہمیت کے لحاظ سے اور آنحضرت ﷺ کی پیش گوئی، آئندہ کے متعلق، یہ بالکل اور چیز ہے۔ یہ جو ہے چاند اور سورج کا گرہن ہونا، یہ آنحضرت ﷺ کی ایک زبردست پیشین گوئی کا پورا ہونا ہے۔ لیکن چاند، شق قمر کا جو معجزہ ہے، وہ تو اتنا زبردست ہے کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں لاسکتا۔ لیکن مسلمانوں میں سے بعض نے اس کا انکار کر دیا۔ آج کل کے جو مفسرین ہیں کہ نہیں، اس معنی میں نہیں تھا، تو یہاں.....

جناب یحییٰ بختیار: یہ تو شعر نہیں ہے، مرزا صاحب! جو کہ خود ہی آ کر کہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ تو شعر نہیں ہے۔

مرزانا صراحمہ: یہ، یہ حدیث ہے، جس کا ذکر اپنے، آپ کے شعر میں ہے۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے، وہ شعر ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: میں اس واسطے Clarify (واضح) کر رہا تھا۔

مرزانا صراحمہ: جی! (اپنے وفد کے ایک رکن سے) وہ کہاں ہے؟

إن لسماء الدنيا آیتین (اثارنی جنزل سے) یہ دارقطنی کی حدیث ہے:

”إن لسماء الدنيا آیتین لم تکن منذ خلق السموات والأرض“

اس شعر میں ایک پیشین گوئی کا ذکر ہے، وہ شعر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہے، اور ایک معجزے کا ذکر ہے، اور وہ دونوں حضور نبی اکرم ﷺ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک معجزہ آپ نے شق القمر دکھایا اور ایک پیشین گوئی چاند اور سورج کے گرہن ہونے کی کی، تو اپنا تو یہاں کچھ بھی نہیں۔ آپ یہاں فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے شق قمر کا ایک عظیم معجزہ دکھایا اور آپ نے ایک پیش گوئی میرے متعلق کی جن میں چاند اور سورج کے گرہن ہونے کا ذکر ہے۔ اب شق قمر

۱۔ یہ حدیث نہیں، جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے مرزانا صراحمہ، یہ حدیث نہیں بلکہ امام جعفر کی طرف منسوب ایک قول ہے جس کی سند بھی صحیح نہیں۔ لیکن اسے مرزانا صراحمہ نے حدیث بنا دیا ہے۔

۳۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جب دنیا کو۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس پر بڑی بحثیں ہو چکی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جب دنیا نے چاند کو دو ٹکڑوں میں دیکھا۔ دنیا نے چاند کو آنحضرت ﷺ کے اس معجزہ کے نتیجہ میں دو ٹکڑوں میں دیکھا۔ اتنا زبردست یہ معجزہ ہے اور اس شعر میں دوسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے آخر الغلمان کے لئے، اپنے ماضی کے لئے یہ ایک نشان بتایا کہ اس کے زمانہ میں فلاں فلاں دن جو ہیں اس میں چاند اور سورج گرہن ہوگا۔ تو چاند کا اور سورج کا گرہن ہونا خود معجزہ نہیں، نہ پیشین گوئی ہے۔ لیکن معینہ دنوں اور خاص زمانہ میں پیشین گوئی کے مطابق گرہن ہونا، وہ پیشین گوئی کا پورا ہونا ہے اور شتی قرآن کے مقابلہ میں معجزہ ہے، زبردست معجزہ ہے۔ اس سے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی سوال کرنے والوں کو؟

جناب یحییٰ مختیار: نہیں، اس سے صرف یہ بتانا چاہتے تھے مرزا صاحب! کیونکہ ایک چیز جو ہوتی ہے نا، مرزا صاحب ایک حوالہ بذات خود ہیں، بعض دفعہ Misunderstanding (غلط فہمی) بھی تو پیدا کر دیتا ہے، مگر کئی حوالے جب اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، جیسے کسی آدمی کو آپ ایک زخم پہنچادیں تو Minor Injury (معمولی چوٹ) ہو جائے گی، اسی طرح کے سوزن لگادیں آپ تو مر جاتا ہے آدمی۔ اب بذات خود چھوٹی چھوٹی Injuries (چوٹیں) ہیں۔ تو جب مرزا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ: ”پہلے سے بھی بڑھ کر اپنی شان میں“ اور پھر کہتے ہیں: ”ان کے لئے ایک اور میرے لئے چودہ ہوں کا چاند۔“

(رسول کریم کے معجزات تین ہزار تھے اور میرے تیس لاکھ)

پھر ایک اور ایسے ہے کہ: ”رسول کریم کے معجزات تین ہزار تھے، میرے لئے تیس لاکھ۔“ ایسی باتیں جب سب پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے اور علامہ اقبال۔ یہ میں آپ کو صاف بتا دوں تاکہ آپ کے دماغ میں چیز clear (واضح) ہو کہ میں سوال کیوں پوچھ رہا ہوں..... علامہ کہتے ہیں کہ: ”جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ آنحضرت ﷺ سے بھی اپنے آپ کو Superior (بہتر) سمجھتے ہیں.....“

تو آخر یہی چیزیں تھیں جو عام مسلمانوں کو دے رہی ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا پہلے امتی نبی Inferior Type (کمتر قسم کا) نبی پھر اس کے بعد ایک مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ مجھے ساتھ کھڑا کیا، پھر کہتے ہیں کہ ”میں ان سے Superior (بہتر) ہو گیا۔“ یہ Impression (تأثر) ہے جس کی میں Clarification

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

(وضاحت) چاہتا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: جی! جس وقت میری باری آئے گی تو میں جواب دیتا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں! آپ کی باری ہی چل رہی ہے، *That is way* میں

نے یہ بتایا ہے کہ *There should be no misunderstanding.*

مرزا ناصر احمد: جی، وہ میں سمجھ گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ہے استدلال.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ.....

مرزا ناصر احمد: وزنی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ضعف ہے، وہ یہ ہے کہ سوال کرتے

ہوئے دس، پندرہ، بیس، پچیس، تیس، پچاس ایسے سوال ہو گئے اور یہ سمجھا گیا کہ صرف ان چالیس

یا پچاس سوالات کے نتیجے میں جو عام ایک *Impression* (تاثر) پڑتا ہے وہ پڑ جانا چاہئے۔

اس کا اصل جواب یہ ہے کہ اگر ان پچاس کے مقابلہ میں پچاس ہزار ایسی عبارتیں اور حوالے ہوں

- پچاس کے مقابلہ میں پچاس ہزار۔ جو اپنے آپ کو نبی اکرم ﷺ کا ایک ادنیٰ خادم اور جو کچھ

حاصل کیا وہ آنحضرت ﷺ سے حاصل کرنے والا ہو تو جب پچاس کے مقابلہ میں پچاس ہزار

آئیں گی تو ہر شخص جس نے پچاس پہلے سن کے ایک *Impression* (تاثر) لیا ہوگا تو اس کا

Impression (تاثر) بدل جائے گا۔ تو اب پچاس کا تو آپ نے سوال کر دیا، تو پچاس ہزار

پیش کرنے کی مجھے اجازت دیں.....

جناب یحییٰ بختیار: تو مرزا صاحب.....

مرزا ناصر احمد: تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا *Impression*

(تاثر) بھی بدل جائے گا۔

901 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! گستاخی معاف، گستاخی معاف، آپ

Mind (محسوس) نہ کریں.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، بالکل نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ پچاس ہزار کا اور ایک کا سوال نہیں ہوتا۔ پچاس ہزار

سجدے کے بعد بھی۔ کیا شیطان مارا، ایک سجدے کے نہ کرنے سے۔ اس نے اگر ہزاروں سال

سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ سو سال آدمی عبادت کرتا رہے، اللہ کو مانتا رہے، رسول ﷺ کو

مانتا رہے، پھر کہے کہ: ”نہیں، میں نہیں مانتا۔“ تو کافر ہو جاتا ہے، ایک دفعہ بھی اگر کہہ دے۔

۴۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحتاً: جی، بالکل، اور اگر ایک سجدے کے بعد پچاس ہزار تکبیر کی سجدے ہوں؟
جناب یحییٰ بختیار: وہ بات اور ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
Clarification (وضاحت) اسی واسطے ہم چاہ رہے ہیں۔
مرزانا صراحتاً: تو یہی میں کہتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں، میں پچاس ہزار تاریخیں
دے کے تو ان کے مقابلے میں وہ کر دیتا ہوں۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنا مختصر ہو۔
مرزانا صراحتاً: Clear (واضح)، ہاں۔
جناب یحییٰ بختیار: میں تو صرف آپ کی توجہ Clarification (وضاحت)
کے لئے.....

مرزانا صراحتاً: مختصر اور حقیقت کی وضاحت کرنے والے۔
جناب یحییٰ بختیار: دیکھیں ناں، مرزا صاحب! اسمبلی خود بھی ان حوالوں کو پڑھ کے
کسی نتیجہ پر پہنچ سکتی ہے۔ مگر آپ کو جو تکلیف دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
Clarification (وضاحت) ہو۔
مرزانا صراحتاً: میں بڑا ممنون ہوں۔ (Pause)
جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! ”چاند“ اور آپ نے ذکر جو کیا.....
مرزانا صراحتاً: اس کے آگے جو شعر ہے، اسی کے آگے.....

(چاند اور سورج کا گرہن)

جناب یحییٰ بختیار: ”چاند اور سورج“۔ یہ آپ کا جو جھنڈا ہے، اس کے بھی یہی
نشان ہیں۔ دو چاند۔ پہلی کا اور چودھویں کا؟ ایک سوال تھا، مجھ سے پوچھا گیا۔ میں نے کہا میں
اس وجہ سے پوچھ لیتا ہوں۔

مرزانا صراحتاً: جھنڈے سے ہمارے.....
جناب یحییٰ بختیار: پہلی کا اور چودھویں کا.....
مرزانا صراحتاً: ہاں، چودھویں کا.....
جناب یحییٰ بختیار: یہی، یہی ہے، یہ آنحضرت ﷺ کے لئے پہلی کا گرہن ہوا.....
مرزانا صراحتاً: نہ، نہ، نہ، انا للہ وانا الیہ راجعون.....

جناب یحییٰ بختیار: اور ان کے لئے چودہویں کا گرہن؟..... نہیں، نہیں، یہی اس

وقت.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، نہیں، ٹھیک ہے، یہ بات نہیں، بلکہ.....

(آحضرت کے لئے پہلی کا گرہن میرے لئے چودہویں کا)

جناب یحییٰ بختیار: انہوں نے کہا ہے کہ اس کو Clarify (واضح) کریں کہ:

”آحضرت کے لئے پہلی کا گرہن ہوا تھا، میرے لئے چودہویں کا۔“ پہلی اور چودہویں کا.....

مرزا ناصر احمد: آحضرت ﷺ کے متعلق ”گرہن ہونے“ کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا۔

جناب یحییٰ بختیار: جو بھی کہا گیا ہو جی.....

903 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: پہلی کا.....

مرزا ناصر احمد: شق القمر اور ”شق القمر“ پہلی کے اوپر اس کا کوئی اطلاق ہی نہیں

ہو سکتا، صرف چودہویں کے چاند یا تیرہویں، چودہویں، پندرہویں، جب وہ پورا اس کا دائرہ جو ہو، وہ مکمل ہو، صرف اسی کے متعلق شق القمر کا مجزہ ہے۔

(آپ کے جھنڈے پر یہی نشان ہے)

جناب یحییٰ بختیار: پھر آپ سے چاند پآپ کے..... جھنڈے کے اوپر یہی نشان ہے؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، جھنڈے پر ہمارا نشان ہے۔ جھنڈے پر دراصل نشان۔ اگر

آپ مجھے اجازت دیں۔ تو ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ اس وقت دنیا میں اسلام پر سخت حملہ ہو رہا

۱۔ یہی مرزا قادیانی نے کہا جو انٹرنی جنرل فرما رہے ہیں، مثلاً مرزا قادیانی (اعجاز احمدی

ص ۷۰، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳) پر کہا خود مرزا نے جو ترجمہ کیا یہ ہے: ”آحضرت ﷺ کے لئے چاند

کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا۔ کیا تو اب انکار کرے گا۔“

مقصد یہ کہ میں آحضرت ﷺ سے افضل ہوں (معاذ اللہ) اسی طرح (خطبہ الہامیہ ص ۲۷۵، خزائن

ج ۱۶ ص ۱۶۶) پر لکھا کہ: ”اسلام ہلال (پہلی رات کے چاند) کی طرح شروع ہوا (آحضرت ﷺ

کا زمانہ مراد لے رہا ہے) اور اب اس صدی (مرزا کے زمانہ میں) بدرکامل ہو گیا، یعنی اسلام کو

حضور علیہ السلام کے زمانہ میں چاند کی پہلی رات کی مانند قرار دیا اور اپنے زمانہ میں اس کو چودہویں

رات کا چاند قرار دیا، اس سے آحضرت ﷺ پر اپنی افضلیت ثابت کی۔ (معاذ اللہ)

۴۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ہے اور دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، حکومتیں آزادی بھی نہیں رہیں، دوسروں کا پریشاں پر ہے، وغیرہ، وغیرہ۔ تو اس وقت ایک ایسی مہم، ہمارے ایمان کے نزدیک، ہمارے ایمان میں، اللہ تعالیٰ نے جاری کی ہے جو اس وقت حالت اسلام کی..... اس وقت کی، چودہ سو سال پہلے کی نہیں..... اس وقت کی جو ہلال کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا ہے امت مسلمہ کو کہ یہ پھر اپنے پورے عروج، چودہویں کے چاند تک پہنچے گا۔ ہمارے دماغ میں یہ ہے۔ دیکھنے والا جو مرضی سمجھ لے۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، اس کو.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، یہ جو وہ ہے شق قمر معجزہ اور گرہن، دونوں کا اس کے ساتھ کے شعر جو ہیں اسی نظم میں۔ (عربی)

(میں نبی اکرم ﷺ کے مال کا وارث ہوں) (عربی)

(میں نبی اکرم ﷺ کی برگزیدہ اولاد میں سے ایک ہوں) (عربی)

⁹⁰⁴ کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ”کس طرح وارث بن گیا؟ آپ تو انبیاء میں سے نہیں ہیں؟“ لیکن روحانی طور کے اوپر اس شعر میں آپ نے کہا ہے کہ ”میں آپ کا وارث ہوں“ اور وارث ہو کے۔ (عربی)

(کہ ہم نے روحانی اولاد بن کر آپ کے فیوض کا ورثہ حاصل کیا) (Pause)

ایک میں.....

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! اسی جگہ پر جو کہ یہ سوال تھا، آپ جواب دے رہے ہیں.....

مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار:..... تو اس لئے Interrupt (بات کاٹ رہا ہوں) کر رہا ہوں، کیونکہ جو سوال میرا تھا وہ یہ کہ: ”آنحضرت ﷺ کے وقت دین کی حالت پہلی شب کے چاند کی طرح تھی، مگر مرزا صاحب کے وقت چودہویں رات کے بدر کمال جیسی ہوگی..... بدر کمال جیسی ہوگی۔“

(خطبہ الہامیہ میں ۲۷۵، جزآن ج ۱۶ ص ۱۶۶ ایضاً)

مرزا ناصر احمد: یہ کہاں کا حوالہ ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: یہ جی ابھی دکھا رہا ہوں۔ یہ ”خطبہ الہامیہ“..... (Pause)

⁹⁰⁵ مرزا ناصر احمد: ہوں، یہ ”خطبہ الہامیہ“ (اپنے وفد کے ایک رکن سے)

دکھائیے جی ذرا۔

۴۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: ص ۷۸ اور ۲۰- دو (۲) Pages (صفحات) دیئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کا Page (صفحہ) پر ہے یہ..... اب نکال.....

مرزا ناصر احمد: یہاں.....

جناب یحییٰ بختیار: تو اسی کے.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، یہاں آنحضرت ﷺ کا اپنے ساتھ مقابلہ نہیں کیا ہوا، بلکہ اسلام کی اس وقت کی حالت کا آخری غلبہ کے ساتھ مقابلہ کیا گیا ہے۔ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، بس میں یہی کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے.....

مرزا ناصر احمد: اپنے متعلق نہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: ”ان کے وقت میں پہلی کا چاند تھا اور.....“

مرزا ناصر احمد: اسلام.....

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب کے وقت.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، نہیں،.....

جناب یحییٰ بختیار: ”..... مکمل.....“

مرزا ناصر احمد: یہ بات اسلام کی ہو رہی ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں کہتا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: نبی اکرم ﷺ.....

(مرزا قادیانی کے وقت میں اسلام کا چاند مکمل ہو گیا؟)

جناب یحییٰ بختیار: اسلام کا چاند مکمل ہو گیا مرزا صاحب کے وقت؟

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، نہیں، نبی اکرم ﷺ کے ذریعہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی اور خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ تمام مخلوق خدا اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے۔ اچھا۔ وہ حرکت اس وقت شروع ہوئی اور اگر آپ تاریخ میں، اختصار کے ساتھ تفصیل میں تھوڑا سا جائیں تو اس وقت کی Known دنیا کے اکثر حصے میں اسلام غالب آیا۔ امریکہ اس وقت Known, Semi- Populated (غیر آباد معلوم) بھی تھا Unknown, Semi- Populated (تھوڑی بہت آباد نامعلوم) آسٹریلیا ہے، یاد دوسرے ہیں۔ تو وعدہ یہ دیا گیا نبی اکرم ﷺ کو کہ ساری دنیا کا انسان اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے۔ اس کی ابتداء کمزوری کے ساتھ..... خود

۴۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

آنحضرت ﷺ کی زندگی میں عرب سے باہر بہت کم اسلام نکلا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں اسلام افریقہ میں پھیل گیا، چین میں پھیل گیا، اور اس کے بعد اس وقت تو خیر نہیں پھیلا تھا۔ خیر، اسے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ادھر کسریٰ اور قیصر کی جو مملکتیں تھیں، وہ خلافت راشدہ کے ماتحت آئیں۔ ہم اس کی جب بات کریں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ نبی اکرم ﷺ کے اوپر، نعوذ باللہ.....

جناب یحییٰ بختیار: میں یہ پوچھ رہا تھا کہ مکمل جو ہے نا، بدرکامل بن گیا ہے.....
مرزانا صراحتاً: اسلام۔

جناب یحییٰ بختیار: اسلام بن گیا ہے مرزا صاحب کی موجودگی میں؟
مرزانا صراحتاً: ”بن جائے گا۔“

جناب یحییٰ بختیار: موجودگی تو ختم ہوگئی نا ابھی تو.....
مرزانا صراحتاً: ہیں؟

جناب یحییٰ بختیار: اب تو مرزا صاحب نہیں ہیں نا جی۔
مرزانا صراحتاً: نہیں، یہ، یہ آخری زمانے کی پیشین گوئی ہے کہ آخری زمانہ میں تمام نوع انسانی امت واحدہ بن کر نبی اکرم ﷺ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گی۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہاں جو کہتے ہیں: ”میرے ذمہ ہو جائے گا۔“ وہ مکمل ہو گیا مسئلہ؟ چاند پورا ہو گیا؟ اسلام پھیل گیا ان کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں؟

مرزانا صراحتاً: نہیں ”میرے زمانہ میں“.....

جناب یحییٰ بختیار: زمانہ تو آنحضرت ﷺ کا چلا آ رہا ہے جی۔ پھر تو وہ جی.....
مرزانا صراحتاً: وہی نا۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب!.....

مرزانا صراحتاً: اوہ خواہ پھر وہی بات.....

جناب یحییٰ بختیار: پیغام تو وہی چل رہا ہے، قرآن تو وہی ہے جو.....

مرزانا صراحتاً: زمانہ تو آنحضرت ﷺ کا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ”حضرت ابو بکر کے زمانہ میں“.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، تو میں کہتا ہوں.....

۴۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: تو آپ کفر کہتے ہیں؟
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، یعنی ان کی زندگی میں، مرزا صاحب کی زندگی میں.....
 مرزا ناصر احمد: نہیں، زندگی نہیں.....
 جناب یحییٰ بختیار:..... مرزا صاحب کی زندگی میں مکمل چاند ہو گیا چاند؟
 مرزا ناصر احمد: آپ، آپ کی تحریک ہے ایک۔
 جناب یحییٰ بختیار: تحریک تو آنحضرت ﷺ کی ہے۔
 مرزا ناصر احمد: اُوہ خو! آنحضرت ﷺ کی تحریک کے دائرہ کے اندر خلافت راشدہ
 کی ایک تحریک تھی، مجددین کی تحریکیں تھیں، اور جو اولیاء تھے ان کی تحریکیں تھیں، ہمارے بڑے
 بزرگ جو گئے ہیں افریقہ میں، صحرا کو عبور کر کے، وہ ہر چیز محمد ﷺ کی طرف عود کرتی ہے اور رجوع
 کرتی ہے۔

908 جناب یحییٰ بختیار: مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کے بعد بھی چلے گا؟ یہ سلسلہ جو
 ہے نا، یہ جو ہے یہ مطلب ہے کہ ہو جائے گا، یہ زمانہ چلتا رہے گا؟
 مرزا ناصر احمد: امام مہدی اور مسیح کے جو ہیں ناں مقام، وہ نبی اکرم ﷺ کے ایک
 روحانی وہ جو ہے روحانی کمانڈر، جس طرح سپریم کمانڈر کے نیچے بہت سارے ہوتے ہیں ناں
 کمانڈر، ڈیوٹی وغیرہ کو کر رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام (مرزا قادیانی) کی
 پوزیشن، زمانی لحاظ سے، آنحضرت ﷺ کے جو بہت سے روحانی فرزند آئے اور انہوں نے آپ
 کی خدمت کی، ان میں سے ایک کی ہے۔ لیکن پہلے سلف صالحین کو خدا تعالیٰ نے یہ بتایا، قرآن
 کریم سے انہوں نے استدلال کیا کہ مہدی کے سپرد جو کام ہے، وہ تین صدیوں پر پھیلا ہوا ہے،
 صرف اس کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! جہاں تک آنحضرت ﷺ کی ذات کا تعلق
 تھا وہ.....

مرزا ناصر احمد: قیامت تک.....
 جناب یحییٰ بختیار: ہیں۔ جی۔ آپ نے کہا کہ ”ان کے زمانے میں عرب سے باہر
 اسلام نہیں پھیلا“.....

۱۔ خبر لیجئے۔ لہن بگڑا، زبان بگڑی، دہن بگڑا۔

۴۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں.....

Mr. Yahya Bakhtiar: I ask a straight question please give me a straight answer.

(جناب یحییٰ بختیار: جناب میں آپ سے سیدھا سوال کرتا ہوں آپ سیدھا جواب دیں) اب ان کا جو کام ہے، ان کی حیات تک قائم رکھتے ہیں.....
مرزا ناصر احمد: میں نہیں کہتا وہ۔

جناب یحییٰ بختیار: عرب سے باہر نہیں نکلا۔“

مرزا ناصر احمد: استغفر اللہ۔ میں نے جو بات کی ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: میں وہ نہیں کہتا.....

⁹⁰⁹مرزا ناصر احمد: جس کا نتیجہ میں نے پیدا کر دیا، میں گنہگار.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، گناہ گار..... میں Clarification (وضاحت)

چاہتا ہوں۔ آپ نے خود ہی کہا کہ ”ان کے زمانہ میں، ان کی زندگی میں۔“

مرزا ناصر احمد: میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنحضرت ﷺ کے مشن کا آپ کی اس دنیاوی

زندگی سے تعلق ہی کوئی نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں.....

جناب یحییٰ بختیار: تو پھر یہاں.....

مرزا ناصر احمد: اور قیامت تک.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! پھر اس کے بعد..... آپ نے بجا فرمایا

..... اس کی پھر کیا Explanation (وضاحت) بنتی ہے کہ: ”آنحضرت ﷺ کے وقت دین

کی حالت پہلی شب کے چاند کی طرح تھی۔ مگر (Very Big) مرزا صاحب کے وقت چودھویں

رات کے بدر کامل جیسی ہوگی۔“

There are two personalities, two distinct personalities.

(یہ دو ہستیاں ہیں۔ دو مختلف ہستیاں)

مرزا ناصر احمد: وہ ”خطبہ الہامیہ“ میں نے دیا تھا۔ ”خطبہ الہامیہ“ نہیں دیا مجھے۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ اس لئے Clarify (واضح) کریں (مولانا محمد ظفر

احمد انصاری سے) پڑھیں۔

۴۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: لیجئے ”خطبہ الہامیہ“ کی عبارت یہ ہے..... اردو ترجمہ

پڑھ دوں یا عربی؟

مرزا ناصر احمد: عربی۔

مولانا ظفر احمد انصاری: (عربی)

⁹¹⁰ مرزا ناصر احمد: جی.....

مولانا ظفر احمد انصاری: اردو ترجمہ.....

مرزا ناصر احمد: دو (۲) بدر ہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: ہمیں نہیں سمجھ آئی۔

مرزا ناصر احمد: اچھا، اچھا، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دو (۲) بدر نہیں، پہلی رات کا

چاند نہیں۔ یہ کتاب اگردے دیں۔ یہ سنادیں۔

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: ابھی بھیج دیتا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔ تو پھر Explanation (وضاحت) میں دے دوں گا۔

(دو بدر سے مراد؟)

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: ”بلکہ حق یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی روحانیت، چھٹے

ہزار کے آخر میں (یعنی ان دنوں میں) بہ نسبت ان سالوں کے (جس کا پہلے ذکر ہے، یعنی

پانچویں) اکمل اور اشد ہے، بلکہ چودہویں رات کے چاند کی طرح ہے اور اس لئے ہم اس تلوار اور

لڑنے والے گروہ کے محتاج نہیں اور اسی لئے خدا تعالیٰ نے مسیح موعود کی بعثت کے لئے صدیوں

کے شمار کو رسول کریم ﷺ کی ہجرت کے بدر کی راتوں کے شمار کے مانند اختیار فرمایا، تاکہ وہ شمار اس

مرتبے پر، جو ترقیات کے تمام مرتبوں سے کمال تام رکھتا ہے، دلالت کرے، اور وہ ۴۰۰ چار سو کا

شمار..... (اور وہ ۴۰۰ کا..... کچھ ترجمہ بھول گئے ہیں..... ۱۰۰۴ ایک ہزار چار سو کا شمار) خاتم

التیسین ﷺ کی ہجرت کے بعد ہے۔“

فارسی میں ترجمہ ٹھیک ہے: (فارسی)

⁹¹¹ ”صاحب! دین کے غلبے کا وعدہ جو کتاب مبین میں پہلے ہو چکا تھا، پورا ہو جائے۔

یعنی خدا تعالیٰ کا یہ قول کہ: ”لقد نصرکم اللہ بیدر وأنتم أذلة“ پس بیٹاؤں کی طرح اس آیت

میں نگاہ کر۔ کیونکہ یہ آیت یقیناً وہ بدر پر دلالت کرتی ہے۔ اول وہ بدر جو پہلوں کی نصرت کے لئے

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

گزر۔ دوسرا وہ بدرجو پچھلوں کے لئے ایک نشانی ہے.....
 مرزا ناصر احمد: یہاں پر تو پہلی ہلال کا کوئی ذکر ہی نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں.....
 مولانا محمد ظفر احمد انصاری: اب یہ ”روح انسانیت کی حقیقت ہے“
 ”Review of Religions“ (ریویو آف ریلیجنز) میں.....
 مرزا ناصر احمد: یہ اس کے متعلق اگر آپ ہمیں یہ لکھادیں تو دوسری سنگ میں شام کو
 آپ کو بتا کے..... نکال کے دے دیں گے۔

Mr. Chairman: Yes. (جناب چیئر مین: جی ہاں)

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: یہ ذرا.....
 جناب یحییٰ بختیار: میں نے لکھا دیا ہے جی۔

Mr. Chairman: The answer the answer.

(جناب چیئر مین: جواب۔ جواب)
 جناب یحییٰ بختیار: یہ حوالہ تھا، میں نے پہلے بھی لکھوا دیا تھا، یہ میں نے نوٹ کیا ہے۔

Mr. Chairman: yes. (جناب چیئر مین: جی ہاں)

جناب یحییٰ بختیار: یہ میں نے نوٹ کیا، یہ میں نے لکھا تھا۔
 مرزا ناصر احمد: پہلے اگر آپ نے لکھا تھا.....

جناب یحییٰ بختیار: تو پھر آپ verify (تصدیق) کریں گے؟

⁹¹²*Mr. Chairman: The reference should be given to*

the witness. (جناب چیئر مین: گواہ کو حوالہ دیا جائے)

جناب یحییٰ بختیار: آپ نے کہا کہ verify (تصدیق) کریں گے؟
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: اور میں نے یہاں نوٹ کیا ”to verify“ (تصدیق)

Mr. Chairman: The reference.

(جناب چیئر مین: حوالہ)

۱۔ مرزا قادیانی کی کفریات جب سامنے آئیں، جواب نہ بن سکا تو پیشی لے لی۔
 ہائے اس زد و پشیمان کا پشیمان ہونا۔

مرزانا صرا احمد: تو وہ جو شعر تھا، اس کے متعلق آپ نے حوالہ لکھوایا تھا ”اعجاز المسیح“ کا.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب.....
مرزانا صرا احمد: ”خطبہ الہامیہ“ کا نہیں۔

(آپ ﷺ کے وقت دین کی حالت پہلی کے چاند کی طرح تھی، معاذ اللہ)
جناب یحییٰ بختیار: ”آنحضرت ﷺ کے وقت دین کی حالت پہلی شب کے چاند کی طرح تھی.....“ یہ جو میرے پاس ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ ”To be verified“ (تصدیق ہونا باقی ہے) آپ..... نشان لگا ہوا ہے۔

مرزانا صرا احمد: ہاں، پھر یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے نوٹ کیا تھا کہ ”اعجاز المسیح“ کا ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: ہاں، نہیں، وہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔

Mr. Chairman: It may be replied in the evening session.

(جناب چیئرمین: اس کا جواب شام کو دیا جائے)
مرزانا صرا احمد: ”اعجاز المسیح“ جو ہے، اس کے متعلق.....
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، دو علیحدہ ہیں۔
مرزانا صرا احمد: ہاں، وہ، وہ جو ہے دوسرا۔ ٹھیک ہے۔

Mr. Chairman: The references may be given to the witness.

(جناب چیئرمین: گواہ کو حوالہ دیا جائے)
مرزانا صرا احمد: وہ، پھر وہ.....

⁹¹³*Mr. Chairman: In the evening session.*

(جناب چیئرمین: شام کے اجلاس میں)

The delegation is permitted to leave after maghrib prayers that is at 7.30 pm-7.30pm.

(دفعہ کو جانے کی اجازت ہے، مغرب کی نماز کے بعد ساڑھے سات بجے واپس آئے)

۱ غلطی پے غلطی۔ مجموعہ اغلاط کا نام ہی قادیانیت ہے۔

۵۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ہاں، پانچ بجے سینٹ کا سیشن ہے۔ وہ انہوں نے پہلے رکھا ہوا تھا۔ At 7:30 pm

(The delegation is permitted to leave)

(دفند کو جانے کی اجازت ہے)

ہاں جی، At 7:30

مرزا ناصر احمد: اور حوالے لکھواد دیجئے۔

جناب چیئر مین: حوالے لکھوادیں گے، ابھی

The librarian will hand over the books.

(لائبریرین کتابیں (دفند کے) سپرد کرے گا)

ابھی آپ کو لکھوادیتے ہیں۔

(The delegation left the chamber)

(دفند ہال سے باہر چلا گیا)

Mr. Chairman: The Committee of the whole house is adjourned to meet at 7:30 p.m. But the members - at 7:15 p.m.

(جناب چیئر مین: پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی کا اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے، ساڑھے سات بجے تک، لیکن اراکین سوا سات بجے تک) مغرب کا وقت سات بجے ہو جاتا ہے۔ سوا سات آئیں۔

ایک رکن: سات ہی ہوتا ہے۔

جناب چیئر مین: سات بجے ”سوا سات، سوا سات“ کر رہے ہیں۔ نہیں جی! اور ساڑھے سات تک، ان کو ساڑھے سات کا ٹائم دیا، آپ کو سوا سات دیا ہے، کیونکہ It took us two hours to collect together. (ہمیں اکٹھا ہونے میں دو گھنٹے صرف ہوئے)

ہاں، ہاں، I am sorry. It is all right. (مجھے افسوس ہے، یہ بہت اچھا ہے)

کوئی بات نہیں ہے۔ شام کو کورم کا خیال کریں جی۔ اب بھی نہیں رہا کورم۔

Thank you very much. (آپ کا بہت بہت شکریہ)

⁹¹⁴ [The Special Committee adjourned for maghrib

prayers to re- assemble at 7:30 p.m.]

۵۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(خصوصی کمیٹی کا اجلاس مغرب کی نماز کے لئے ملتوی ہوا، ساڑھے سات بجے دوبارہ ہوگا)

[The special committee re-assembled after maghrib prayers Mr. Chairman (Sahibzada Farooq Ali) in the chair.]

(خصوصی کمیٹی کا اجلاس مغرب کی نماز کے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ جناب چیئرمین

(صاحبزادہ فاروق علی) نے صدارت کی)

Mr. Chairman: They may be called.

(جناب چیئرمین: انہیں بلا لیں)

(The delegation entered the chamber)

(وفد ہال میں داخل ہوا)

Mr. Chairman: Yes, the Attorney- General.

(جناب چیئرمین: جی! اتارنی جنرل صاحب)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! کچھ جوابات رہ گئے ہیں؟
مرزانا صراحمہ: جی۔ ایک تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہجری شمسی جو اسلامی کیلنڈر ہے،
اس کے مہینوں کے ناموں..... نام کیوں وہ رکھے گئے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ تو آپ نے Explain (واضح) کر دیا تھا۔

مرزانا صراحمہ: ہاں، یہ میں نے کہا تھا کہ میں لکھ کے دے دوں گا۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، رکھ دیجئے فائل۔

مرزانا صراحمہ: ”خطبہ الہامیہ“..... (Pause) ”خطبہ الہامیہ“ کے متعلق کہا گیا

تھا کہ نبی اکرم ﷺ کو ”ہلال“ اور خود کو ”بدر“ کہا ہے۔ تو وہ دو (۲) تین (۳) صفحے آگے پیچھے جی
دیکھے ہیں، کہیں ایسا فقرہ نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مل گیا، ہمیں مل گیا ہے۔

مرزانا صراحمہ: ایسا نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہمیں مل گیا۔ (مولانا ظفر احمد انصاری سے) نہیں، وہ

مولانا! سنا دیجئے آپ، ریفرنس ہمارا تھا۔ (مرزانا صراحمہ سے) ممکن ہے، وہ اور چیز ہو۔ وہ

آپ کو سنا دیں گے۔

۵۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صرا احمد: جی۔⁹¹⁵

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: اس کا مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے بھی ذکر کیا ہے،
(الفضل قادیان، ج ۳ نمبر ۷۶، مورخہ یکم جنوری ۱۹۱۶ء) میں ہے.....
مرزانا صرا احمد: یہ تو ”خطبہ الہامیہ“ کی بات ہو رہی تھی۔

(مرزا قادیانی نے نبی کریم ﷺ کو ہلال اور خود کو بدر کہا)

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: اس کے متعلق، یعنی انہوں نے بھی اس کو کہا ہے کہ:
”آپ نے ہلال و بدر کی مثال سے یہ دقیق مسئلہ کمال خوبی کے ساتھ ہر کس و نا کس کے اچھی طرح
ذہن نشین کر دیا کہ چودہویں کا چاند مسیح موعود ہی تو ہے۔ جو چاند رات کے وقت تھا، یعنی رسول
کریم، پس اس کا پہلی حالت سے بڑھ چڑھ کر شاندار ہونا محل اعتراض کیوں کر ہو سکتا ہے۔“
باقی جو.....

مرزانا صرا احمد: یہ تو چونکہ ہم نے کتاب نہیں دیکھی، اس کے متعلق تو میں کچھ
نہیں کہہ سکتا۔

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: جی ہاں، یہ میں نے وہ نوٹ کر دیا۔

مرزانا صرا احمد: ہاں، بالکل نہیں، ”الفضل“ میں ایک وقت میں انتظام ہی کوئی نہیں
تھا کہ سارے وہ الفاظ صحیح لکھے جائیں..... ہاں، نہیں، یہ اصل ”خطبہ الہامیہ“ کتاب ہے۔ اس
میں سے نہیں..... ہاں، وہ سنا دیں، بس۔

(Pause)

Maulana Muhammad Zafar Ahmad Ansari:

Yes, page 275.

(مولانا محمد ظفر احمد انصاری: جی صفحہ: ۲۷۵ ہے)

مرزانا صرا احمد: صفحہ: ۲۷۳ کہہ رہے تھے؟

۱ یہاں اس حوالہ پر غذر کر دیا کہ کتاب نہیں دیکھی، معلوم نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتا۔
۲ اگلے سانس میں کہ افضل نہیں، خطبہ الہامیہ میں دکھاؤ، باپ سے داد کے پاس چلا
گیا، یہ چکر پے چکر اس کو چکری کی چال کہتے ہیں۔
۳ اُف، تو بہ، چکر پے چکر چکری چوک ہو گیا؟

۵۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: ۲۷۵ دوسو پچھتر۔

⁹¹⁶ مرزانا صرا احمد: ہاں۔

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: (عربی)

وہ آگے بہت لمبا ہے یہ۔ لیکن.....

جناب یحییٰ بختیار: ترجمہ سنادیں۔

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: ہاں۔ ”اور اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر

تھا کہ انجام کار آخر زمانہ میں بدر ہو جائے، خدا تعالیٰ کے حکم سے۔ بس خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا

کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے جو شمار کی رو سے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ پس ان

ہی معنوں کی طرف اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے اس قول میں: ”لقد نصرکم اللہ بیدر وأنتم اذلّہ“

پس اس امر میں باریک نظر سے غور کرو اور غافلوں سے نہ ہو۔

مرزانا صرا احمد: یہ جو ابھی حوالہ سنایا گیا ہے، اس میں اسلام کا ذکر ہے، نبی اکرم ﷺ

یابانی سلسلہ کا ذکر نہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نبی اکرم ﷺ کی مکی زندگی پہلے دن کے ہلال

سے مشابہ تھی، جو بعض لوگوں کو نظر بھی نہیں آتا اور پھر تدریجاً اسلام ترقی کرتے ہوئے بدر کی شکل

میں دنیا پر ظاہر ہوا اور اس کی ابتدا: (عربی)

قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں ہے۔ لیکن یہاں ان دو فقروں کی بجائے میں

پوری عبارت پڑھتا ہوں، اس سے پتہ لگے گا کہ یہاں کیا مضمون بیان ہوا ہے۔ ہم ۲۷۵ کی

بجائے ۲۷۱ صفحہ پر آتے ہیں: (عربی)

حق یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی روحانیت: (عربی)

کہ دو (۲) بدر کی پیش گوئی اس کے اندر کی گئی ہے: (عربی)

ایک نبی اکرم ﷺ کی وہ بدری..... آپ ﷺ کا وہ بدری ظہور تھا، جو پہلے زمانہ سے

تعلق رکھتا ہے: (عربی)

اور ایک آپ ﷺ کا وہ بدری ظہور ہے، جس کا تعلق آخری زمانہ کے ساتھ ہے۔ یہ

روحانیت نبی اکرم ﷺ کی بات ہو رہی ہے: (عربی)

⁹¹⁸ پھر آپ فرماتے ہیں: (عربی)

کہ اس آیت کے دو بطون ہیں: (عربی)

اور جس، اس میں: (عربی)

۵۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس میں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جس نصرت کا ذکر ہے، وہ دونصرتیں ہیں: (عربی)
 اور نبی اکرم ﷺ کے بدری ظہور کے متعلق جو کہا گیا ہے، وہ دو ظہور ہیں۔
 آنحضرت ﷺ کے متعلق ہے، سارا یہ: (عربی)
 جو انہوں نے پڑھا ہے، ایک وہ بدر ہے جس کا تعلق آج دیکھ رہے ہیں اس زمانہ
 میں۔ وہ اس زمانہ کے ساتھ تھا جو گزر چکا اور ایک وہ بدر ہے جس کا تعلق آخری زمانہ کے ساتھ ہے
 اور وہ جو پہلا زمانہ تھا، اس میں یہ جو پورا بدر کا ایک ظہور ہے، وہ جنگ بدر کے ساتھ شروع ہوا ہے،
 اور پھر وہ آپ ﷺ کی زندگی میں، اور آپ کے بعد صحابہ کی زندگی میں وہ اپنے کمال کو پہنچا، اور
 اس وقت کی Known معروف دنیا میں اسلام طاقتور ہو گیا، سب سے بڑی طاقت بن گیا۔
 کسری اور قیصر کی دو طاقتیں، جو اس وقت مانی ہوئی تھیں، ان کو اس بدر کی روشنی نے
 چندھیا دیا: (عربی)

اسلام کی حالت ہلال کی تھی، جیسا کہ میں نے بتایا، کئی زندگی میں اسلام کی حالت ہلال
 کی تھی: (عربی)

اور یہ مقدر تھا کہ اسلام کی یہ جو..... ہلال سے مشابہ تھی، وہ ترقی کرتے کرتے آخر
 ایک زمانہ میں پہنچے جس میں اسلام ساری دنیا پر غالب آئے اور وہ، جس طرح وہ چودھویں کا چاند
 جو ہے، پوری شان سے چمکتا ہے، اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا بدری ظہور جو ہے، وہ
 اس زمانہ میں تمام دنیا کو منور کرنے والا ہو تو یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے اسلام اور ایک ہے نبی
 اکرم ﷺ کی ذات پاک۔ نبی پاک ﷺ کی ذات پاک کے متعلق یہاں یہ بتایا گیا ہے.....

⁹²⁰ [At this stage Mr. Chairman vacated the chair
 which was occupied by madam deputy speaker (Dr. Mrs.
 Ashraf Khatoon Abbasi)]

(اس موقع پر چیئرمین صاحب نے کرسی صدارت چھوڑ دی۔ ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر مسز
 اشرف عباسی نے کرسی صدارت سنبھال لی) کہ دو بدر، دو بدر بن کر آپ دنیا پر ظاہر ہوں گے، دو
 بدری ظہور ہوں گے، ایک کا تعلق پہلے زمانہ سے ہے اور ایک کا تعلق آخری زمانہ سے اور اسلام
 کے متعلق یہ بتایا کہ اسلام ہلال کی ہیئت میں پہلے شروع میں ہوگا۔ پھر ترقی کرتا چلا جائے گا، یہاں
 تک کہ آخری زمانہ میں وہ ساری دنیا پر غالب آئے گا، اور بدر کی حالت اسلام کی ہوگی۔ یہ دوسری
 مثال ہے، یعنی ایک آنحضرت ﷺ کی مثال..... دو بدر..... اور ایک اسلام کی مثال جس کی

۵۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ابتدائی ہیئت ہلال کی، اور ترقی کرتے کرتے آخری زمانہ میں یہ مقدر ہے کہ وہ بدر بن جائے۔
جناب یحییٰ بختیار: آپ نے فرمایا، مرزا صاحب! کہ اس میں مرزا غلام احمد
صاحب کی طرف کوئی اشارہ نہیں؟

مرزانا صراحتاً: نہیں، اس میں یہ میں نے نہیں کہا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، تو وہ آپ Clarify (واضح) کر دیں۔

مرزانا صراحتاً: ہاں، اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ بدر..... جو یہ دو بدروں کا ذکر
ہے، آپ نے فرمایا: ”بدر..... بدر..... بدران“ دو بدر نہیں اور دونوں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ
نہیں۔ پہلے بدر کا ظہور آپ ﷺ کی زندگی میں نہیں ہوا۔ جو بدر بن کر آپ ﷺ چمکے ہیں نا، تو
صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ بدر کامل بنا۔ آپ ﷺ کا بدری ظہور آپ کی زندگی میں نہیں بنا۔
آپ ﷺ کی زندگی کے وصال کے بعد..... جو ایک انتہائی صدے والی بات تھی، اس وقت بھی،
اب بھی ہم ہمارے لئے ہے..... کسریٰ اور قیصر، جو اس وقت سب سے بڑی طاقتیں تھیں، ان کو
شکست دے کر، اور ان کی زیادہ اچھی تلواروں کو غیر بیاناہ تلواروں سے خدا تعالیٰ کے معجزہ نے تڑوا
کے، وہاں یہ جو سختی کے ساتھ اسلام کے پھیلانے میں روک بن رہی تھیں، اس کو مٹا کر، نبی
اکرم ﷺ اپنی روحانیت کے وجود میں، روحانی وجود میں..... اسی واسطے میں نے: (عربی)

921 سے شروع کیا تھا۔ نبی اکرم ﷺ اپنے روحانی وجود میں دنیا میں بدر کی شکل میں،
صحابہ کی زندگیوں میں جو آپ ﷺ کے روحانی اثرات تھے، اس کے ذریعے سے وہ ظاہر ہوا ہے
اور اسی طرح آپ ﷺ کی روحانیت جس طرح پہلے صحابہ کے دور میں، صحابہ کی زندگیوں میں، بدر
بن کر چمکے، آپ نبی اکرم ﷺ، اس طرح آخری زمانہ میں نبی اکرم ﷺ بدر بن کے، مہدی اور
اس کی جماعت..... یعنی یہ پیشین گوئی ہے۔ اختلاف ہیں ہزار لیکن، ہم یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ کہ اسی
طرح نبی اکرم ﷺ مہدی موعود اور ان کی جماعت کی زندگیوں اور ان کی Efforts
(کاوشوں) اور قربانیوں میں بدر بن کر چمکیں گے، آنحضرت ﷺ چمکیں گے۔ اور اسی واسطے
یہاں یہ ہے ذکر کہ نبی اکرم ﷺ بروزی طور پر مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ تو اصل میں وہی دو (۲)
بدر ہیں۔

۱۔ گویا مرزا قادیانی کا آنا آنحضرت ﷺ کا آنا ہے، کیا کفر بک رہا ہے؟ وہی جو
ساری زندگی مرزا قادیانی سکھاتا رہا کہ میں محمد ہوں، آپ ﷺ سے افضل ہوں، وہی کفر آج
مرزانا صراحتاً پر مجبور ہو گیا۔

جناب یحییٰ بختیاری: نہیں، میں اس واسطے کہتا ہوں کہ آپ کی تفسیر ہے۔
مرزانا صراحتاً: جی۔

جناب یحییٰ بختیاری: وہ بجا۔ مگر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی جو تفسیر ہے، اسی بات پہ ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں..... شاید یہ غلط حوالہ ہو یا نہ ہو مگر جو میرے پاس ہے یہاں.....
مرزانا صراحتاً: جی، اس کا صفحہ لکھو اور بتیجئے، کیونکہ آگے پیچھے دیکھ کر پتہ لگتا ہے۔
جناب یحییٰ بختیاری: ”الفضل“ سے یہ ہے۔

مرزانا صراحتاً: ہاں ”الفضل“ کون سا؟

جناب یحییٰ بختیاری: یکم جنوری ۱۹۱۶ء، ج ۳، نمبر ۷۔

مرزانا صراحتاً: ⁹²² یکم جنوری ۱۹۱۶ء، بس یہ کافی ہے۔

جناب یحییٰ بختیاری: ”آپ نے ہلال و بدر کی مثال دی.....“

مرزانا صراحتاً: ہاں، یہ میں نے وہ سن لیا، وہ نوٹ کر لیا۔

جناب یحییٰ بختیاری: ”..... یہ دقیق مسئلہ تمام خوبی کے ساتھ ہر کس و ناکس نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا کہ چودھویں کا چاند مسیح موعود ہی تو ہے۔ جو چاند رات کے وقت تھا، یعنی رسول کریم ﷺ، پس آپ کی پہلی حالت سے بڑھ کر شاندار ہونا محل اعتراض کیوں کر ہو سکتا ہے..... محل اعتراض کیوں کر ہو سکتا ہے۔“

مرزانا صراحتاً: ہاں، یہ چیک کرنے والا ہے۔

جناب یحییٰ بختیاری: یہ آپ چیک کر لیجئے۔

مرزانا صراحتاً: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیاری: یہ بالکل مختلف Interpretation (تصریح) ہے جو آپ

کر رہے ہیں اس سے۔

مرزانا صراحتاً: ہاں، یہ چیک کرنے والا ہے۔

جناب یحییٰ بختیاری: یہ آپ چیک کر لیجئے۔

مرزانا صراحتاً: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیاری: یہ بالکل مختلف Interpretation (تصریح) ہے جو آپ

کر رہے ہیں اس سے۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، نہیں، میں، میں نے Interpretation
(تصریح) کی نسبت قریباً ترجمہ میں نے کیا ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یعنی اس کے ساتھ ہمیں کچھ تفصیل لکھ دی کہ اس کا
مطلب یہ ہے۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، اور میں نے جو ابھی اس کا ترجمہ کیا۔
جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! میں..... اسی سلسلہ میں آپ مزید وضاحت
کریں گے.....
مرزا ناصر احمد: جی۔

(چودھویں کا چاند، کیا مرزا صاحب کا زمانہ آخری زمانہ تھا؟)
جناب یحییٰ بختیار: ⁹²³ کہ ”یہ ایک چودھویں کا چاند آخری زمانہ میں ہوا“ کیا یہ
مرزا صاحب کا زمانہ آخری زمانہ تھا یا اس کے بعد کوئی اور زمانہ بھی آرہا ہے؟ تو اس پر آپ کچھ
Clarify (واضح) کریں۔
مرزا ناصر احمد: جی۔

(مرزا صاحب کے زمانہ میں کتنا اسلام پھیلا؟)
جناب یحییٰ بختیار: دوسری یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ”چودھویں کا چاند بنا“ ہندوستان
میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوگئی، انگریز آ کے بیٹھ گیا، مل ایسٹ میں مسلمانوں کی حکومتیں ختم
ہو گئیں، آپ کہتے ہیں کہ ”یہ پورا بدر بن گئے“ اس کو بھی ذرا آپ Explain (واضح)
کردیں کہ کتنا اسلام مرزا صاحب کے زمانہ میں پھیلا۔

مرزا ناصر احمد: یہ جو پہلا ہی بدر بنانا، پہلا بدر، اس کی وسعت بھی تین صدیوں پر
ہے، جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”سب سے اچھی صدی میری پہلی صدی، اس کے بعد
دوسری صدی، اس کے بعد تیسری صدی، اور اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی اور اسلام کی جو
شان و شوکت روحانی ہے، اس میں فرق پڑ جائے گا۔“ تو جس طرح وہاں تین (۳) صدیوں میں،
محمد ﷺ کا پہلا بدری ظہور تین (۳) صدیوں میں پھیل کر ہوا، اسی طرح تین صدیوں میں پھیل کر
اس زمانے میں، جس کو پہلوں نے بھی آخری زمانہ کہا ہے، یہ ظہور ہوگا۔ ابتدائی جو اس کے دور
ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، تین (۳) سو سال اگر آخری زمانہ ہے تو ٹھیک ہے۔
 مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک۔
 مرزانا صراحمہ: اور اس میں جو بنیادی.....
 جناب یحییٰ بختیار: یہ مجدد یہاں وہ ایک صدی کے لئے آتے ہیں؟ آپ نے یہ بھی
 کہا کہ ”چودہویں صدی میں یہ آئے۔“

(مرزا قادیانی صرف مجدد نہیں)

924 مرزانا صراحمہ: نہیں، ہم، ہم، ہم مجدد نہیں صرف مانتے۔
 جناب یحییٰ بختیار: میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ ”ہر ایک صدی میں.....“
 مرزانا صراحمہ: ہر ایک صدی میں پہلے آتے رہے ہیں۔ اس سلسلہ کے آخری مجدد
 مہدی موعود ہیں، جیسا کہ ہماری کتب میں ہے.....
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، تو یہ ان کا جو ہے، ان کا اثر.....
 مرزانا صراحمہ: ان کا زمانہ صدی نہیں ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: صدی تک نہیں ہے؟
 مرزانا صراحمہ: نہیں.....
 جناب یحییٰ بختیار: یہ ہمیں شک یہ ہے.....
 مرزانا صراحمہ: بلکہ جیسا کہ میں نے..... وہ اگر کہیں تو میں حوالے آپ کو دے
 دوں یہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں صرف.....
 مرزانا صراحمہ: پہلے تو نہیں..... پہلے سلف صالحین نے یہ کہا ہے کہ ”مہدی کا نور
 قیامت تک مہند ہوگا۔“
 جناب یحییٰ بختیار: مطلب یہ.....
 مرزانا صراحمہ: یہ پہلوں نے کہا ہے۔

۱۔ مجدد چودہویں صدی؟ لیکن اب مرزا قادیانی تین صدیوں کے مجدد ہوں گے؟
 ۲۔ پہلے قول میں قیامت تک۔

۵۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
 کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
 اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
 یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
 گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: پھر تو تین (۳) سال (سو) کی بھی بندش نہیں جی۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، تین (۳) سال (سو) کی بندش ہے!..... الہامی..... خدا تعالیٰ
 نے یہ بشارت دی ہے کہ اس..... ان تین صدیوں کے مقابلہ میں ان تین صدیوں میں اسلام ساری
 دنیا میں غالب آجائے گا اور یہ بشارت میں پورے وثوق کے ساتھ یہاں بیان کر رہا ہوں اور زمین
 و آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تین صدیوں کے اندر اندر اسلام ساری دنیا
 پر غالب نہ آجائے، اشتراکی، روس سمیت اور سوشلسٹ چائنا سمیت، اور کپٹلسٹ اور دھریہ امریکہ
 سمیت، ساری دنیا پر اسلام کا غلبہ مقتدر ہے، ہمارے ایمان کے مطابق۔
 جناب یحییٰ بختیار: ایمان کے مطابق۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہمارے ایمان کے مطابق۔ بنیادی طور اس قسم کے جو
 اقتباسات ہیں، ان کے سمجھنے کے لئے یہ بانی سلسلہ کا یہ حوالہ، ایک حوالہ ہے کیونکہ میں نے صبح،
 مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں واضح نہیں کر سکا..... نبی اکرم ﷺ کی بعثت سے لے کر قیامت تک
 اصل زمانہ ہمارے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کا ہے۔ یہ بنیادی حقیقت ہے امت محمدیہ کی، لیکن جو
 ہمارا یہ محاورہ ہے، اور ہماری ساری کتابیں، تاریخ کی بھی اور احادیث کی بھی، بھری ہوئی ہیں اس
 محاورہ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ ”خلافت راشدہ کا زمانہ۔“ ہم کہتے ہیں: ”حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کا زمانہ“ وغیرہ، وغیرہ، ہم کہتے ہیں کہ ”بنو امیہ کا زمانہ۔“ ہم لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں
 ”بنو عباس کا زمانہ۔“ ہم یہاں ہندوستان کے متعلق، مختلف جو خاندان حکومت کرتے رہے ہیں،
 ان کا زمانہ، مسلمان ہم لکھتے ہیں، تیور، جو اپنے وقت کے مجدد کہلاتے تھے، ان کا زمانہ.....
 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب!.....

مرزا ناصر احمد: تو اصل زمانہ محمد ﷺ.....
 جناب یحییٰ بختیار: معاف کیجئے، یہی تین جو صبح سے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ
 نے کہا: ”آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں اسلام پہلی کا چاند، اور مرزا صاحب کے زمانے میں اسلام
 چودھویں کا چاند“.....

۱۔ دوسرے قول میں تین سو سال۔ صرف مرزا ناصر نہیں، جو بھی جھوٹ کو سچ ثابت کرنا
 چاہے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جھوٹ کی لعنت سے بچائے۔ آمین!

۶۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(مرزاناصر نے معافی مانگ لی)

مرزاناصر احمد: نہیں، نہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: یہی میں پوچھ رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں ”اس زمانے سے مطلب

.....“ نہیں

⁹²⁶مرزاناصر احمد: نہیں، نہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: ویسے تو یزید کے زمانے میں بھی اسلام پھیلتا رہا، ہمیں اس سے

کوئی تعلق نہیں۔

مرزاناصر احمد: ہاں، نہیں، اصل زمانہ محمد ﷺ کا ہے۔ صبح اگر میں نے اپنی.....

وضاحت نہیں کر سکا تو میں معافی مانگتا ہوں۔ تو اصل زمانہ بعثت نبوی ﷺ سے قیامت تک محمد ﷺ

کا زمانہ ہے۔ لیکن جو بیچ میں مختلف آپ کے روحانی فرزند، مجددین وغیرہ آئے۔ ہمارا وہ محاورہ

ہے۔ کوئی چیز ان کی طرف نہیں جاتی۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

”میری تمام تر خوشی اسی میں ہے اور میری بعثت کی اصل غرض یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور

رسول کریم ﷺ کی عزت دنیا میں قائم ہو۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر تعریفی

کلمات پہلی پیشین گوئیوں میں اور تجیدی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، یہ بھی درحقیقت

آنحضرت ﷺ ہی کی طرف راجع ہیں، اس لئے کہ میں آپ ہی کا غلام ہوں اور آپ ہی کے

مکھوۃ نبوت سے نور حاصل کرنے والا ہوں اور مستقل طور پر ہمارا کچھ نہیں۔“

اصلی وہی ہے جو چل رہا ہے اور غلبہ دین کے متعلق مہدی اور مسیح موعود کے وقت کے

متعلق سارے پہلوؤں نے یہ لکھا ہے، تفسیر میں بھی اور دوسری ہماری جو مذہبی کتب ہیں ان میں، جو

قرآن کریم میں آیا ہے: (عربی)

⁹²⁷تو اس کے معنی ہیں: (عربی)

کہ مسیح اور مہدی کے آنے کا زمانہ ہے: (عربی)

سارے ادیان جو ہیں، اسلام کے ہو جائیں گے تابع..... یہ جو ”تفسیر ابن جریر“ ہے،

اور ص ۷۲، تفسیر سورہ صاف، یہ ہے ”تفسیر حسین“.....

جناب یحییٰ بختیار: اس کی مرزا صاحب! ضرورت ہے اس پوائنٹ کی!

مرزاناصر احمد: اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔

۶۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، نہیں، نہیں، اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو بے شک آپ پڑھ لیجئے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ فائل کر لیجئے آپ۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، میں..... اس میں صرف یہ پوائنٹ ہے..... میں ایک فقرے میں کہہ دیتا ہوں کہ سلف صالحین نے بھی مہدی کے زمانہ کو آخری زمانہ قرار دیا، اور قرآن کریم کی اس آیت کو: (عربی)

928 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، جی، وہ تو سب کا ایمان ہے کہ مہدی صاحب کا زمانہ آخری ہوگا.....

مرزا ناصر احمد: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: لیکن فرق صرف یہ ہے.....

مرزا ناصر احمد: لیکن فرق صرف یہ ہے کہ آیا.....

جناب یحییٰ بختیار: کہ آنحضرت ﷺ کا زمانہ آخر میں ہوا۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، لیکن وہ زمانے سارے آنحضرت ﷺ کے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ تو Dispute (تنازعہ) نہیں ہے۔

مرزا ناصر احمد: پھر میں داخل کرادوں کہ صاف ہے؟ (اپنے وفد کے ایک رکن

سے) اس کو صاف کرادو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ صاف نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، بعد میں کروادیں۔

مرزا ناصر احمد: اس میں ایک یہ ذیلی بات ہے، کل آپ نے فرمایا تھا کہ ۱۹۴۹ء میں

کوئی ہوا تھا یا نہیں، حملہ ہو رہا تھا یا نہیں، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ وہاں خود اس مضمون میں لکھا ہوا

ہے کہ چودہ سو سال سے غیر مسلم اسلام پر حملہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ۱۸۵۰ء کے بعد کی، یعنی

انیسویں صدی نصف آخر کی بعض کتابوں کے حوالے میں فوٹو سٹیٹ لے آیا ہوں۔ یہ حضرت

علامہ ہمارے بڑے بزرگ سمجھتے جاتے تھے، عیسائی ہونے سے پہلے، عماد الدین صاحب، یہ اجمیر

کے تھے۔ نہیں، نہیں (اپنے وفد کے ایک رکن سے) کس مسجد کے؟ جامع مسجد کے؟ (انارنی جنرل

سے) جامع مسجد آگرہ کے خطیب تھے اور وہ بعد میں عیسائی ہو گیا۔ انہوں نے اپنے اس بیان میں

سو سے زیادہ ان علماء کے نام لکھے ہیں جنہوں نے عیسائیت کو قبول کیا اور عناد بنے۔

۶۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: ۱۹۴۹ء کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ایسا کوئی Incident (واقعہ) ہو جو جہاں تک میرا خیال ہے۔ I may be wrong Mirza - Sahib (ہوسکتا ہے میں غلطی پر ہوں) میں پوزیشن کو Clarify (واضح) کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ میں جب یہ مرزا صاحب نے خطبہ دیا ہے، ممکن ہے کسی مولویوں کی جماعت نے، علماء کی جماعت نے، جماعت اسلامی نے، کسی نے کوئی بات کی ہو۔

اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہوں.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، یہ نہیں بات۔

جناب یحییٰ بختیار: کیونکہ یہ، یہ Clarify کرنا چاہتا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: ہاں۔ یہ بات اس لئے نہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: کیونکہ میرے خیال میں پاکستان میں عیسائی نہیں تھے، آری یہ سماجی نہیں تھے۔

مرزا ناصر احمد: عیسائی تو اب بھی ہو رہے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یعنی وہ حملے کرنے کے لئے۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں تو ویسے بات کرتا ہوں۔ جماعت احمدیہ کا خلیفہ صرف پاکستان کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، وہ ٹھیک ہے۔

مرزا ناصر احمد: اور اگر دنیا میں کسی جگہ، مثلاً امریکہ میں، مثلاً نائیجیریا میں، مثلاً گھانا گیمبیا وغیرہ میں، کسی جگہ حملہ ہو تو وہ اپنے خطبوں میں ان کے متعلق کہے گا اور ساری جماعت کو بتائے گا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، تو اس خطبے سے پتہ چل جائے کہ عیسائی ان کا شکار ہو رہے ہیں اور عیسائی ان سے ناراض ہیں..... ٹھیک ہے؟

مرزا ناصر احمد: ۹۳۰ عیسائیوں سے بڑی سخت جنگ آج بھی ہو رہی ہے ہماری، ویسٹ افریقہ میں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، عیسائیوں سے تو آپ ہمیشہ جنگ کرتے رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ۱۹۴۹ء میں جو ہے.....

۶۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحمہ: ۱۹۴۹ء میں بھی جنگ تھی، ابھی ختم تو نہیں ہوئی۔
 جناب یحییٰ بختیار: میں، میں پاکستان میں پوچھ رہا تھا، آپ کہتے ہیں باہر ہے۔
 مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں، میں..... یہ خطبہ تو ساری دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی اور کوئی جواب ہے، مرزا صاحب؟
 مرزانا صراحمہ: ہاں، اور ہے۔ ابھی تو بہت سے رہتے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: یہاں ایک کمیٹی کے ممبر کہہ رہے ہیں مجھے کہ ابھی آپ جلدی ختم کریں، ایک دن میں۔ تو میرے لئے مشکل یہ ہے۔ پھر انہوں نے ساتھ Debate (بحث) بھی کرنی ہوگی اس پر۔ پھر لاہوری گروپ آنا ہے۔ تو اس لئے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا مختصر کر سکیں اس پر.....
 مرزانا صراحمہ: نہیں، یعنی اگر آپ آج ختم کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے.....
 جناب یحییٰ بختیار: میرے بس کی بات نہیں ہے.....
 مرزانا صراحمہ: جی۔
 جناب یحییٰ بختیار: میرے بس کی بات نہیں ہے.....
 مرزانا صراحمہ: جی۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جو سوالات ہیں، مجھ سے پوچھے گئے ہیں.....
 مرزانا صراحمہ: جی، جی۔
 جناب یحییٰ بختیار: ⁹³¹ تاکہ میں آپ سے پوچھوں..... میں آپ سے Request (درخواست) کر رہا ہوں۔
 مرزانا صراحمہ: جو، جو پہلے پوچھے جا چکے ہیں.....
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔
 مرزانا صراحمہ: میرا خیال تھا کہ وہ پہلے ختم ہو جائیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، جتنے Brief کر سکیں آپ.....
 مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں، میں انشاء اللہ.....
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، یہ..... تاکہ کوئی چیز نہ جائے بیچ میں ایسی وہ.....

۶۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: جی، جی۔ (Pause)

یہ ایک سوال کی بنیاد رکھی گئی تھی ”نہج المصیٰلی“ حضرت خلیفہ ثانی کی کتاب کے اوپر: کہ ”فرق آپ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ“ یعنی اپنی علیحدگی پسند طبیعت ہے۔ تو وہاں فقرہ یہ ہے: ”دنیا کے معاملات میں ہم دوسروں کے ساتھ ایک ہیں۔ لیکن دین کے معاملہ میں فرق ہے۔“ تو وہ تو فرق فرتے فرقے کا فرق ہے۔ یہ ہے حوالہ۔ تو اس پر کوئی اعتراض والی بات مجھے نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد ایک ہے ”الفضل“ ۱۳ جنوری ۱۹۴۴ء اس میں ہمیں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ملی۔

(دین کے معاملہ میں باقی مسلمانوں سے مختلف ہیں)

جناب یحییٰ بختیار: یہ ایک آپ کو جو اس میں کوئی نظر نہیں آیا: ”دین کے معاملے میں تو آپ باقی مسلمانوں سے مختلف ہیں“ آپ کہتے ہیں۔ ”دنیا کے معاملے میں ہندو، پارسی جیسے ہیں، ویسے مسلمان ہوئے؟“

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، دین کے معاملہ میں، اسلام کے اندر رہتے ہوئے، جو بہتر (۷۲) (تہتر (۷۳) فرقے ہیں، ان کا جو آپس کا اختلاف ہے، اسی طرح کا اختلاف ہمارا دوسروں کے ساتھ ہے۔ اسلام کے اندر رہتے ہوئے۔

یہ ایک سوال تھا ”مکتوبات احمدیہ“ صفحہ ۲۴ کا جو کہا گیا تھا کہ وہاں ایسی ہی کوئی عبارت ہے۔ ہمیں ایسا کوئی حوالہ نہیں ملا۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب ”البدر“ تو آپ نے سارے ۱۹۰۶ء سے دیکھے اور بڑے وثوق سے کہا کہ کسی جگہ اس کی Interpretation (تصریح) نہیں مل رہی۔ اس واسطے میں آپ سے گزارش کروں گا، جب آپ انکار کر دیتے ہیں تو اس سے اگر بعد میں کوئی چیز مل گئی تو بڑا Inference (قیاس) ہوتا ہے.....

مرزا ناصر احمد: میں یہ یہاں.....
جناب یحییٰ بختیار: چونکہ یہ تو ہم آپ سے Witness (گواہ) والی بات نہیں کر رہے.....

۱ (مکتوبات احمدیہ ج ۳، نمبر ۴۳ ص ۲۴) ”مسح کا چال چلن کیا تھا، ایک کھاؤ پیو، شرابی، نہ عابد، نہ زاہد، نہ حق کا پرستار، متکبر، خود میں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔“

۶۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: جی۔

Mr. Yahya Bakhtiar: You are holding very important position.

(جناب یحییٰ بختیار: آپ ایک نہایت ہی اہم منصب پر فائز ہیں)

مرزا ناصر احمد: تو میں اس کا جواب دوں؟

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، تو میں اس واسطے کہہ رہا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ”ہمیں اس صفحہ پر نہیں مل

رہا، فلاں جگہ پر نہیں ملا۔“ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو بالکل ٹھیک ہے، ہاں، ہم Accept

(قبول) کر رہے ہیں آپ کا لفظ۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں جب یہ کہتا ہوں..... ایک جگہ میں نے خود کہا تھا کہ اس

جگہ نہیں ہے، فلاں جگہ ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہ، یہی..... ہماری توقع یہ ہے کہ جو آپ کہیں گے ”نہیں ہے“

تو نہیں ہے.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، جو ہمیں ملے گا۔

⁹³³ جناب یحییٰ بختیار: مگر اس کا جو Inference (قیاس) ہوگا کہ اگر تھا.....

یہ Presume (فرض) کیا جاتا ہے کہ احمدیت کے بارے میں جتنی بھی Important

(اہم) چیزیں ہیں وہ آپ کے علم میں ضرور ہوں گی۔

مرزا ناصر احمد: یہ Inference (قیاس) جو ہے، میرے نزدیک درست نہیں،

اس لئے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ وہ لاکھوں صفحات کی کتب جو..... جس کا..... جس کی اشاعت قریباً ۹۰

سال پر پھیلی ہوئی ہے، میں اس کا حافظ ہوں، اور ہر حوالہ مجھے یاد ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: لیکن میں..... میری ابھی بات ختم نہیں ہوئی..... لیکن جب میں کہتا

ہوں کہ ”میرے علم میں نہیں ہے“ تو آپ کو یقین رکھنا چاہئے کہ میرے علم میں نہیں ہے۔

۶۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(مرزانا صرحوالہ دینے میں دیانت.....)

جناب یحییٰ بختیار: مجھے یقین ہے۔ مگر ایک دو دفعہ ایسی باتیں ہوئی ہیں جس سے اسمبلی کے ممبران کو یہ شک ہوتا ہے کہ جو جواب آپ کے حق میں ہوتا ہے، اس کے حوالے آپ ضرور لے آتے ہیں، پورا جواب دیتے ہیں۔ جو جواب آپ کے حق میں نہیں ہوتا، آپ ان کو ٹالتے ہیں۔ معاف کیجئے، میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ ”کیا، یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے یہ بات کہی یا مرزا غلام احمد صاحب نے یہ بات کہی؟“ آپ نے کہا: ”نہ میں تردید کرتا ہوں اور نہ میں تائید کرتا ہوں“.....

مرزانا صرح احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: پھر میں نے آپ کو حوالہ پڑھ کے.....

مرزانا صرح احمد: میں نے کہا: ”جب تک میں نہ دیکھ لوں۔“

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، ہاں، میں.....

مرزانا صرح احمد: ٹھیک۔

⁹³⁴ جناب یحییٰ بختیار: پھر میں نے کہا: ”مرزا صاحب! یہ ہے حوالہ“ آپ نے کہا:

”ہاں، یہ جواب ہم سے پوچھا گیا تھا، منیر کمیٹی میں بھی، ہم نے یہی جواب دیا۔“ You have

prepared answer, but still you say. (آپ نے جواب پہلے سے تیار کر رکھا

ہے، مگر پھر بھی آپ کہتے ہیں) ”میں تردید بھی نہیں کرتا، میں تائید بھی نہیں کرتا۔“

Mirza Nasir Ahmad: No. (نہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: This is on the record.

(جناب یحییٰ بختیار: یہ تو ریکارڈ پر موجود ہے)

Mirza Nasir Ahmad: This is on record. but the

inference is not on the record, and this is not true.

(مرزانا صرح احمد: یہ تو ریکارڈ پر موجود ہے، مگر نتیجہ ریکارڈ پر موجود نہیں ہے اور یہ

درست بھی نہیں ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, but this is the only

۶۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

inference that could be drawn from it that you had the answer prepared.

(جناب یحییٰ بختیار: نہیں، لیکن اس سے صرف یہی نتیجہ نکالا گیا جاسکتا ہے کہ آپ نے جواب تیار کر رکھا تھا)
مرزا ناصر احمد: بالکل نہیں۔

Mr. Yahya Bakhtiar: You said you cannot verify and you cannot deny.

(جناب یحییٰ بختیار: آپ کہتے ہیں آپ تصدیق نہیں کر سکتے اور نہ آپ تردید کر سکتے ہیں)

مرزا ناصر احمد: بات یہ ہے..... میں واضح کر دیتا ہوں، ماننا یا نہ ماننا آپ کی بات ہے..... بات یہ ہے کہ میں نے کہا: ”میرے علم میں نہیں“.....

جناب یحییٰ بختیار: اور آپ کے پاس جواب تیار تھا!
مرزا ناصر احمد: اور میرے پاس جواب تیار نہیں تھا۔ (دفعہ کے ایک رکن کی طرف اشارہ کر کے) ان کے پاس جواب تیار تھا، انہوں نے کہا: ”یہ ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔“
جناب یحییٰ بختیار: آپ نے یہ کہا: ”منبر کمیٹی کے سامنے بھی پوچھا گیا تھا۔ منبر کمیٹی کی رپورٹ.....“

مرزا ناصر احمد: منبر کمیٹی کی کتاب یہاں تھی (دفعہ کے ایک رکن کی طرف اشارہ کر کے) ان کے پاس تھی۔ انہوں نے منبر کمیٹی کی کتاب مجھے دی اور پھر میں نے اسی وقت..... اگر میں نے غلط بات.....

⁹³⁵ جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے، آپ نے Clarify (واضح) کر دیا۔ مرزا صاحب! میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی چیز جو ہو تو اس کے Inference (نتیجہ) کی وجہ سے، میری ڈیوٹی ہے.....

مرزا ناصر احمد: اور جو یہاں غلط حوالے پیش ہو گئے ہیں، اور کتاب ہی کوئی نہ تھی!
جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، ہم تو جب ہی آپ سے Clarify (واضح) کر رہے ہیں آج کل۔ اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو میں نے صبح عرض کیا، جہاں تک اسپیشل کمیٹی کا

تعلق ہے، ان کے لئے کوئی پابندی نہیں کہ کسی کو بلائیں، کسی سے بات کریں، اور پھر بعد میں کوئی قانون بنائیں۔ نیشنل اسمبلی ہو، کوئی لیجسلیٹر دنیا میں نہیں..... عدالتوں میں بلایا جاتا ہے۔ نہ آپ ملزم ہیں اور نہ کوئی اور ملزم ہے جو بلانے کا.....

مرزانا صراحتاً: یہ تو بڑی مہربانی ہے آپ کی!

جناب یحییٰ بختیار: مگر یہ چاہتے تھے کہ جو بھی حوالے ہوں، اگر وہ انحصار کریں تو وہ Verify (تصدیق) کریں۔ اس پر Clarification (وضاحت) ہونی چاہئے۔ جب ہی آپ نے آنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا: ”ٹھیک ہے، ہونا چاہئے“ اس وجہ سے ہم Clarify (واضح) کر رہے ہیں۔ کئی حوالے غلط ہو سکتے ہیں۔ میں خود دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں، باوجود اس کے پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے غلط ہو۔ آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے علم میں ہو.....

مرزانا صراحتاً: اس وقت میں نے بتایا کہ اگر میرے علم میں ہو.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! علم کے علاوہ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس Documents (دستاویزات) ہیں وہ اور کہیں نہیں ہیں۔ بعض.....

مرزانا صراحتاً: نہیں، نہیں، بات سنیں نا، آپ شام کو کہتے ہیں کہ یہ پانچ چیزوں کو Verify کرو.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ میں ٹھیک کہتا ہوں.....

³⁶مرزانا صراحتاً: اور میں صبح نہیں کرتا.....

جناب یحییٰ بختیار: بعض دفعہ ٹائم نہیں ہوتا وہ اور بات ہے۔ ابھی اس دفعہ تو دس دن کا ٹائم بھی تھا بیچ میں۔ کئی حوالے آپ نے ڈھونڈ لئے.....

مرزانا صراحتاً: بہت سارے۔

جناب یحییٰ بختیار: اگر میں نے..... یہی عرض کر رہا ہوں، اگر بیچ میں کوئی چیز ایسی ہوئی اور آپ کہتے ہیں کہ: ”نہیں، نہیں ہے بالکل۔“

مرزانا صراحتاً: میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ ”یہ نہیں ہے“ میں پھر کہتا ہوں کہ ”میرے علم میں نہیں ہے“ اور جو چیز میرے علم میں نہیں ہے، اس کے متعلق میں یہ کیسے کہوں کہ میرے علم میں ہے؟ وہ آپ مجھے مشورہ دے دیں۔

جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
مرزا ناصر احمد: ہاں، میرے علم میں نہیں ہے۔ وہ میرے علم میں نہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں میں نے پوزیشن Clarify (واضح) اس لئے کرانی

چاہی.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں تو پوزیشن یہ میری ہوئی یہاں کہ جو میرے علم میں نہیں ہے، میں اتنا ذمہ دار ہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے، اور..... اس کے لئے میں نے اس دن بات کی اور آپ نے اس وقت یہ اتفاق کیا کہ پانچ دس دن پہلے پانچ دس دن بعد کے جو ہیں اخبار، وہ بھی دیکھ لئے جائیں اور میں نے کہا یہ درست ہے اور ان سب کو میں نے تاکید کی کہ اس طرح دیکھیں اور ایک حوالہ مل گیا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! میں پھر عرض کروں، میں Interrupt (دخل اندازی) نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جلدی کام ہو، اور آپ پورا Explain (واضح) کریں۔ آج صبح آپ نے فرمایا کہ: "۱۹۰۶ء سے لے کر ۲۲ء تک، ۲۳ سے لے کر ۲۴ء تک ان سارے میں کسی جگہ ہمارے لٹریچر میں اس چیز کا سوال ہی نہیں اٹھا، تو اس غرض سے آپ نے کہا کہ پورا سٹڈی کیا آپ نے سب....."

مرزا ناصر احمد: پورا سٹڈی نہیں، پورا مشورہ کیا۔⁹³⁷

جناب یحییٰ بختیار: پوائنٹ پر سٹڈی نہیں کر سکتے.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: یا نہیں کرتے؟

مرزا ناصر احمد: دیکھیں ناں، جو چیز میں صاف کہتا ہوں، اس کو بھی آپ محل

اعتراض بنالیں.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، کوئی Imputation نہیں ہے، مرزا صاحب! Imputation نہیں ہے، آپ کی Integrity نہ کریکٹر پر: میں..... صرف یہ Clarification (وضاحت) ضرور ہونی چاہئے تاکہ آپ کے دماغ میں یہ خیال نہ ہو.....

مرزا ناصر احمد: جس کا مجھے..... ہاں، بالکل صحیح ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: کہ انارنی جنرل نے مجھے دھوکہ دے کے سوال دلویا۔

۷۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحتاً: نہیں، یہ ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ.....

مرزانا صراحتاً: ۱۹۰۶ء کا وہ جو تھا مسئلہ، وہ یہ تھا کہ ۱۹۰۶ء میں ایک نظم چھپی۔ ۱۹۱۱ء میں دیوان چھپا، جس میں وہ شعر نہیں تھا اور ۱۹۳۷ء..... ہیں؟..... ۱۹۳۳ء میں اس کا ایک..... اس کے متعلق چھپا۔ پھر ۱۹۴۴ء..... پھر ۱۹۳۵ء..... پھر ۱۹۴۴ء میں چھپا۔ پھر وہ..... ہاں، ہاں، وہ سارا چھپا۔ میں نے یہ کہا، پہلے دن، اگر ہم نے صحیح سمجھا ہے..... میں بھی انسان ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے آپ کو کوئی سپر مین سمجھتا ہوں..... جو میں نے، ہم نے سمجھ لیا تھا پہلے دن، وہ یہ تھا ”بدر“ ۱۹۰۶ء میں یہ چھپا کہ ”یہ سنایا گیا اور جزاک اللہ، کہی گئی۔“ لیکن ”بدر“ میں یہ ہے ہی نہیں کوئی، صرف نظم ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی نظم ہے، بالکل، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا۔

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، وہ تو اس دن ہو گیا معاملہ۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی میں نے تو یہ کہا، مرزا صاحب! ہماری ³⁸ *Presumption* (گمان) یہ ہے..... اور یہ *Presumption* (گمان) بالکل صحیح ہوگی، *Unless you rebut it* (تا وقتیکہ آپ اس کو رد نہ کریں) کہ مرزا صاحب نے ”بدر“ ضرور پڑھا ہوگا اور اس میں یہ نظم انہوں نے ضرور پڑھی ہوگی۔ اگر ان کی موجودگی میں نہیں ہوا تو پھر یہ ہوا تھا کہ کیا مرزا صاحب نے کسی اور ”بدر“ کے پرچہ میں اس کو *Contradict* (تردید) کر لیا اور اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ یہ *Inferences* (نتائج) کیسٹی.....

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، وہ ٹھیک ہے تو میں نے اس پر یہ جو دثوق کے ساتھ کہا، اور اب بھی کہتا ہوں، کہ اس معاملہ کے متعلق ایک اور چیز ہے، جس کو میں یہاں ذکر نہیں کروں گا۔ وہ میری کچھ ہو جائے گی ذوق سی، سمجھ لیں کچھ۔ علیحدہ میں اگر کہیں تو میں کچھ بتا دوں گا۔ ہم نے..... یہ وقت، ہمیں تو لوگوں سے پوچھا..... ہمارے علماء جو ہیں ناں، وہ مناظرے کرتے رہے ہیں..... جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں۔

۱۔ علیحدگی میں ذوق کی تسکین کیا معنی؟ یحییٰ بختیار صاحب اللہ رب العزت کے حضور اب چل دیئے، ورنہ ان سے پوچھ لیتے۔ اب تو وہ چانس بھی نہیں رہا۔ اف! علیحدگی میں ناک رگڑنا، یہ ہر اس شخص کا مقدر ہوگا جو جھوٹ کی وکالت کرے گا۔

۷۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: ان سے دریافت کیا، تلاش کیا، پوچھ پوچھ کے، ہم نے وہ بھی نکالے ہیں حوالے، اور اس وقت تک تو پوری دیانت دارانہ تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں..... اور اس کو پھر دہراتا ہوں..... کہ یہ ہمارے کسی لٹریچر میں..... ان مشوروں اور علماء سے، جو اس میں پچاس سال سے مناظرہ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بڑے اعتراض ہوئے ہیں پہلے، یہ کوئی نیا اعتراض نہیں، فرسودہ اعتراض ہے۔ تو اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ”ہم نے اپنے اپنے وقتوں میں جب بھی کی، کسی جگہ بھی یہ نہیں آتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ سنائی گئی اور آپ نے جزاک اللہ کہا۔“ ۳۸ سال کے بعد وہ نظم لکھنے والا کہتا ہے..... یہ میں نے آج صبح یہاں بیان دیا تھا اور اس پر قائم ہوں۔

(آپ کی جماعت کے کسی راہنما نے اس نظم کی مذمت کی؟)

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے صبح کہہ دیا تھا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، ہم نے Accept (قبول) کر لیا کہ ان کی موجودگی میں نہیں پڑھا گیا۔ مگر ابھی کیونکہ آپ نے تذکرہ کر دیا، میں نے بعد میں یہ سوال پوچھنا تھا، کیا اس ۳۴ سال کے زمانے میں..... ۱۹۰۶ء سے لے کر ۱۹۴۴ء تک..... آج تک ”الفضل“ میں کسی آپ کی جماعت کے راہنما نے اس نظم کو Condemn (مذمت) کیا، اس کے خلاف کوئی لفظ لکھا؟

مرزا ناصر احمد: جی کیا۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ بھی آپ بتا دیجئے۔

مرزا ناصر احمد: ۱۹۳۴ء میں۔

جناب یحییٰ بختیار: ۱۹۳۴ء میں یہ نہیں ہوا کہ پڑھا گیا ان کے سامنے۔ یہ Controversy (تنازعہ) آئی، یہ، یہ مولانا محمد علی صاحب لاہوری پارٹی نے، میرا خیال ہے، اعتراض کیا تھا۔ آپ کی جماعت کا میں پوچھ رہا ہوں، کسی نے نظم کو Condemn (مذمت) کیا؟ ۱۹۴۴ء میں تو آپ ان کو Support (مدد) کر رہے ہیں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، ۱۹۳۴ء میں Condemn (مذمت) کیا، اس میں..... ۱۹۴۴ء میں، پھر انہوں نے کہا کہ ”یہ میرا مطلب نہیں تھا اور باوجود اس کے کہ یہ میرا مطلب نہیں تھا، لوگوں کے تنگ کرنے پر میں نے اپنے دیوان میں سے اس کو نکال دیا شعر کو، اور قسمیں کھا کر میں کہہ رہا ہوں اور پھر بھی جماعت میرا کہنا نہیں مانتی۔“

۷۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: سر! وہ جو ۱۹۴۴ء میں ہے، وہ تو آپ نے پڑھ کر سنا دیا۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، ۱۹۴۴ء میں دو ہیں.....
 جناب یحییٰ بختیار: یہ جو ہمارے سامنے ہے.....
 مرزا ناصر احمد: ۱۳ اگست، ۱۹۴۴ء اور ۲۳ اگست (اپنے وفد کے ایک رکن سے)
 کہاں ہے؟ نکالو۔ (انارنی جنرل سے) تو دو علیحدہ علیحدہ حوالے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ فائل کر دیجئے، کیونکہ یہ تو آ گیا۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، Verify (تصدیق) کرنے کے بعد میں بتا رہا ہوں۔
⁹⁴⁰ جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، فائل کر دیجئے وہ بھی، تاکہ اس کے ساتھ.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، وہ فائل کر دیں گے.....
 جناب یحییٰ بختیار: یہ سنا دیا گیا ہے، اور آ گیا ہے ریکارڈ پر.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، وہ ٹھیک ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: کیوں کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔ وہ ٹھیک ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار:..... کیوں کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں!
 جناب یحییٰ بختیار: کہ ان کی موجودگی میں پڑھا گیا اور انہوں نے.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، نہیں، وہ، وہ کر دیں گے، ۱۹۴۴ء اور ۱۹۴۴ء کا پہلا جو ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: یعنی وہ بعد کا ہے جو آپ کے پاس ہے؟
 مرزا ناصر احمد: ۱۹۴۴ء ----- دیکھیں ناں ----- ۱۹۴۴ء اور یہ
 ۱۹۴۴ء، ۱۳ اگست، اور پھر ۱۹۴۴ء اگست کا، یہ آخر میں، اور پھر ۱۹۶۲ء میں.....
 جناب یحییٰ بختیار: آخری تو یہ معلوم ہوتا ہے پھر۔
 مرزا ناصر احمد: کون سا؟
 جناب یحییٰ بختیار: ۲۳ اگست۔
 مرزا ناصر احمد: ہیں جی؟
 جناب یحییٰ بختیار: ۲۳ اگست۔

۷۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: ہاں، ۲۳ اگست۔ بات سنیں ناں، ایک موٹی بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے شبہ۔ ایک شخص دس دن پہلے ایک مضمون لکھتا ہے اور اخبار میں چھپ جاتا ہے۔ دس دن کے بعد وہ اس سے متضاد نہیں لکھ سکتا۔ اس لئے جو ۲۳ مضمون چھپا ہے..... دس دن کے بعد..... اس کو اس ۱۳ اگست والے کی روشنی میں ہم نے پڑھنا ہوگا۔

۹۴۱ جناب یحییٰ بختیار: وہ تو ٹھیک ہے، مرزا صاحب! وہ تو ہم دیکھ لیں گے۔ یہ جو ہے ناں، یہ آخری ہے یا وہ؟ دیکھیں گے اس میں، کیونکہ ہمارا.....
مرزا ناصر احمد: پھر ۶۲ء میں آیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ہمارا یہ ہے کہ ایک دفعہ جو قانون آتا ہے تو بعد کا جو قانون آیا تو..... اس سے متضاد کرے تو پہلا کینسل *That hold the period* (وہی نافذ العمل ہوگا)

Mirza Nasir Ahmad: This is not a legal clause.

(مرزا ناصر احمد: یہ کوئی قانونی شق نہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: This may not be.

(جناب یحییٰ بختیار: نہیں)

Mirza Nasir Ahmad: We are talking of a fact.

(مرزا ناصر احمد: ہم حقائق کی بات کر رہے ہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: He may have clarified the position finally.

(جناب یحییٰ بختیار: اس سے بات حتمی طور پر واضح ہو جاتی ہے)
مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، ۱۹۶۲ء میں پھر وہ آیا، ۶۳ء میں، تو یہ سارے فائل کرادیں گے۔

(ان کو جماعت سے کبھی خارج کیا؟)

جناب یحییٰ بختیار: ان کو جماعت سے تو کبھی *Expell* (خارج) نہیں کیا؟
مرزا ناصر احمد: نہیں، جماعت سے *Expell* (خارج) اس لئے نہیں کیا کہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ”وہ میرا مطلب ہی نہیں ہے جو میری طرف منسوب کیا جاتا ہے“

۷۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: ”مطلب نہیں“ اور موجودگی میں پڑھا ہے!
 مرزا ناصر احمد: نہیں، ”موجودگی میں پڑھا گیا“ وہ ایک شخص کہتا ہے کہ ”میں نے
 صرف پہلے مجددین کے مقابلے میں یہ شعر کہا تھا۔“
 جناب یحییٰ بختیار: یعنی ان کی موجودگی میں؟
 مرزا ناصر احمد: وہ یہ کہہ رہا ہے.....
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں جی.....
 مرزا ناصر احمد: کہ ان کی موجودگی میں.....⁹⁴²
 جناب یحییٰ بختیار: آپ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔
 مرزا ناصر احمد: میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے مجددوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا
 اور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کیا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور کافر ہے.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں نہیں.....
 مرزا ناصر احمد: لیکن وہ قسمیں کھا کے یہ کہہ رہا ہے.....
 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب!.....
 مرزا ناصر احمد: میری بات تو ختم ہو لینے دیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، Interrupt نہیں، میں آپ سے..... میری
 تو صرف ایک گزارش تھی کہ ”ان کی موجودگی میں“ وہ کہتا ہے کہ ”میں نے پڑھا۔“ آپ نے کہا کہ
 ”جھوٹا ہے۔“ اگر یہ، اس بات سے جھوٹا نہیں کہتے اس کو، بلکہ Interpretation (تعبیر)
 پر کہہ رہے ہیں تو اور بات ہے۔

مرزا ناصر احمد: میں Interpretation (تعبیر) پر کہہ رہا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، یہ Clarify (واضح) ہو جائے ناں جی۔ میں تو یہ سمجھا
 کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، ان کی موجودگی میں نہیں پڑھا گیا۔

۱۔ اب پہلے موقف سے مرزا ناصر سلپ ہو گیا۔

۲۔ جھوٹا بھی ہے کافر بھی ہے، اور مرزا قادیانی کا صحابی بھی ہے، مرزا محمود کا استاذ بھی
 ہے؟ اور مرزا ناصر کے نزدیک مفہوم اس کا اور لیتا ہے اور جماعت سے خارج بھی نہیں کیا۔ اگر
 رہے تو کافر۔ کیا سمجھیں کہ قادیانیوں کا کیا موقف ہے؟ اس گورکھ دھندے کا نام قادیانیت ہے۔

۷۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: اس معنی میں بھی جھوٹا ہے بالکل کہ پڑھا گیا، اس لئے کہ ہمارے ہاں کہیں یہ ریکارڈ نہیں ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: تو وہ بھی جھوٹا ہو گیا۔ اس زمانے میں؟

مرزا ناصر احمد: اور..... لیکن اگر وہ مجددین پہلے جو ہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، خیر وہ تو اور بات ہے، آپ نے Explain (واضح) کر دیا۔

⁹⁴³ مرزا ناصر احمد: اس کی Interpretation (تعبیر)

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ تو اور بات ہے۔

مرزا ناصر احمد: تو وہ ٹھیک ہے۔ (Pause) یہ آخری جو ہے، آخری کے لحاظ سے وہ ۱۹۶۳ء کا ہے اور اس میں انہوں نے پھر اسی کو کہا ہے کہ ظہور ہر صدی..... آنحضرت ﷺ کا ظہور ہر صدی کے سر پر مجددین کے رنگ میں ہوتا رہا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: لیکن..... ٹھیک ہے، یہ بھی آپ فائل کر دیں، چونکہ پھر تینوں اکٹھے رہیں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، وہ سارے کر رہے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: اچھا۔

مرزا ناصر احمد: اور پھر یہ ہے کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جو تحریریں، میں نے کہا تھا، پچاس ہزار دوں گا، تیس چالیس کے مقابلے میں، تو پچاس ہزار کے لئے تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وقت لوں۔

(پچاس الماریاں صرف انگریزوں کی تعریف میں)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں نے تو ایک جگہ پڑھا کہ پچاس الماریاں تو صرف انگریزوں کی تعریف میں انہوں نے لکھیں، تو وہ آپ کے پاس ضرور ہوں گی یہ؟

مرزا ناصر احمد: بالکل، وہ میں جہاد کے متعلق کہہ چکا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، وہ.....

مرزا ناصر احمد: اگر آپ نے پہلوں کے حوالے پھر سننے ہیں تو میں دوہرا دیتا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، وہ میں پھر اس پر آؤں گا۔

۷۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: اگر آپ سوال کرتے ہیں تو میں دوہرا دیتا ہوں جواب کو۔
 جناب یحییٰ بختیار: کون سا جی؟⁹⁴⁴
 مرزا ناصر احمد: یہی انگریزوں کے متعلق۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ تو میں بعد میں سوال پوچھوں گا آپ سے۔ یہ سوال
 میں پوچھوں گا کیونکہ ہر ایک پوائنٹ پر Clarification (وضاحت) ضروری ہے۔
 مرزا ناصر احمد: جی۔
 جناب یحییٰ بختیار: میرے پاس سوال آیا تھا ”پچاس الماریوں“ کا تو اس واسطے
 ذکر کیا اس میں۔

(پچاس الماریوں کا سائز؟)

مرزا ناصر احمد: جی۔ الماریوں کا سائز بھی آیا ہوا ہے۔ اس سوال میں؟
 جناب یحییٰ بختیار: مجھے نہیں پتہ جی اس کا۔
 مرزا ناصر احمد: نہیں، سوال میں، میں پوچھ رہا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو آپ بتائیں گے ناں جی، آپ کے پاس.....
 مرزا ناصر احمد: نہیں، میں کیوں بتاؤں گا؟
 جناب یحییٰ بختیار: یعنی آپ کو علم ہوگا کیونکہ گھر میں آپ کے پڑی ہوں گی۔
 مرزا ناصر احمد: اچھا جی!۔ یہ چند نمونے.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ابھی اس کی کیا ضرورت ہے، مرزا صاحب؟
 مرزا ناصر احمد: حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ”میں نے سب کچھ
 نبی اکرم ﷺ.....“

(لاہوری محضر نامہ کے متعلق سوال)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں چیئرمین صاحب
 سے Request (درخواست) کروں گا کہ..... پتہ نہیں یہ رول کے مطابق ہے یا نہیں۔ کہ
 لاہور سے جو پارٹی آئی ہے، انہوں نے اپنا ایک Statement (بیان) فائل کیا ہے۔ اس
 لے خیر سے بدھو گھر کو لوٹ آئے۔ نہ تیزی دکھاتے تو نہ یہاں نوبت پہنچتی۔ نہ کہتے راز
 سر بستہ نہ یہ رسوائیاں ہوتیں۔

۷۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

میں بعض چیزیں ایسی ہیں، جن کی میں آپ سے Clarification (وضاحت) چاہتا ہوں۔
 وہ کہتے ہیں کہ: ”مرزا صاحب نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔“ اب یہ کتنی⁹⁴⁵
 Important (اہم) چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ”متی نبی تھے“ وہ کہتے ہیں کہ ”نہیں تھے،
 انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا“ تو اس لئے ان سے Request (درخواست) کروں گا کہ آپ کو
 ایک کاپی دے دی جائے، اس کے بعد پھر یہ سارے سوال آسکتے ہیں۔

مرزا ناصر احمد: جو ان کا ”محرر نامہ“ ہے اس کی Clarification (وضاحت)
 سوائے ان کے اور کسی کا حق نہیں ہے کہ کرے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، ان کی..... انہوں نے مرزا صاحب کے کچھ حوالے
 دیئے۔ مرزا صاحب کے کچھ اقوال کے حوالے دیئے ہیں جن کے لئے میں کہہ رہا ہوں، وہ تو وہی
 کریں گے۔

مرزا ناصر احمد: Clarification تو وہی کریں گے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، نہیں، وہ حوالے جو ہیں، اس لئے، میں ان کا ذکر نہیں کرنا
 چاہتا تھا۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، ہاں، ٹھیک ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: اس لئے میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے، اسے، پھر میں ان میں
 سے آپ سے سوال کروں گا۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، جو میں سمجھا ہوں آپ سے، میں اس کی وضاحت
 کروالوں، شاید میں غلط سمجھا ہوں۔ یہ خواہش ہے آپ کی کہ اگر ہمارے محترم چیئرمین صاحب
 اجازت دیں تو وہ ”محرر نامہ“ ہمیں دے دیئے جائیں، تو ہم جواب ”محرر نامہ“ تیار کر کے وہ آپ
 کو دے دیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، میرا وہ بالکل مطلب نہیں،.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، نہیں، میں اسی واسطے یہ کہہ.....

جناب یحییٰ بختیار: میرا وہ مطلب نہیں۔ میں نے کہا اس میں کچھ حوالے ایسے ہیں
 جو کہ..... کیونکہ یہ اس میں بھی ذکر آچکا ہے، آپ بھی ذکر کر چکے ہیں، اس لئے انہوں نے جو
 دیئے ہوئے ہیں، Certain Points (چند نکات) ہیں، کمیٹی کو Clarify (واضح) کرنے کی
 ضرورت ہے اس کی۔

۷۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس میں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا اس دم
 کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا اس دم
 اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
 یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
 گاہے گاہے باز خواں اس قصہء پارینہ را.....

946 مرزا ناصر احمد: اس کمیٹی کو لاہوری جماعت احمدیہ اور ہمارے درمیان جو اختلاف ہے، عقیدے کے متعلق یا مسئلے کے متعلق، اس کو Clarification (وضاحت) کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، یہ ہے کہ ایک ریزولوشن ہے، ایک موٹن ہے، ایک ریزولوشن میں دونوں کو..... آپ اور ان کو..... بریکٹ کیا گیا ہے۔ آپ نے وہ نوٹ کیا ہوا ہے۔

مرزا ناصر احمد: یعنی جو ایک تو ہے ناں گورنمنٹ کارپوریشن.....

جناب یحییٰ بختیار: موٹن میں کسی کا ذکر نہیں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، اس میں ذکر نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: دوسرا جو ریزولوشن ہے اس میں دونوں کے متعلق ذکر ہے۔

مرزا ناصر احمد: جو ان کا ذکر ہے، وہ خود کریں گے۔

محترمہ ڈپٹی اسپیکر: وہ ہم دے دیتے ہیں، انارنی جنرل!

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب نے کچھ حوالے دیئے ہیں۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو میں نہیں کروں گا۔ میں تو صرف چاہتا ہوں کہ Clarification (وضاحت) ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم کہیں گے کہ نہ دیں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں، میں یہ چاہتا ہوں! میں یہ صرف واضح کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو مجھے۔

[At this stage Dr. Mrs. Ashraf Khatoon Abbasi vacated the chair which was occupied by Mr. Chairman (Sahibzada Farooq Ali).]

(اس مرحلہ پر ڈپٹی چیئر مین ڈاکٹر مسز اشرف خاتون عباسی کی جگہ چیئر مین صاحبزادہ فاروق علی نے کرسی صدارت سنبھالی)

Mirza Nasir Ahmad: It will be fair to me to explain in detail and that might be 200 pages and something.

اے لڑے کیوں تھے، کیوں دوگروپ بنائے، اب شرماتے کیوں ہو؟

۷۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(مرزا ناصر احمد: یہ بالکل مناسب ہوگا کہ میں تفصیل سے وضاحت کروں، جو کم و بیش دو صفحات پر محیط ہو سکتی ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: Mirza Sahib. I don't want to file a rejoinder to what they have said.

(جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے (لاہوری پارٹی) نے کہا ہے، اس کا جوابی بیان داخل کیا جائے)

⁹⁴⁷ *Mirza Nasir Ahmad: No? What do you want then?* (مرزا ناصر احمد: نہیں، تو پھر آپ کا کیا مطلب ہے؟)

Mr. Yahya Bakhtiar: I want certain points that they have raised that Mirza Sahib never claimed to be a nabi.

(مرزا صاحب نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا؟)

(جناب یحییٰ بختیار: میں چند ایک نکات چاہتا ہوں، جو کہ انہوں نے اٹھائے ہیں، مثلاً یہ کہ مرزا صاحب نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا) ”مسج موعود“ وہ بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔

مرزا ناصر احمد: ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، اور یہ جو احمدی ہیں، قادیان کے یار بوہ کے، یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے، اس کی *Support* (تائید) میں انہوں نے مرزا صاحب کے کچھ حوالے دیئے ہیں۔ میں آپ کی توجہ ان کی طرف مبذول کرانا چاہتا تھا کہ وہ صحیح ہیں، غلط ہیں، کیا *Interpretation* (تصریح) ہے، کیا *Text* (سیاق و سباق) ہے ان کا؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو میں نہیں کروں گا۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، میں نے کب کہا کہ میں نہیں چاہتا؟

۱۔ ابھی تو آپ نے فرمایا: ”جو ان کا ذکر ہے وہ خود کریں گے۔“ اب کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا؟ اس کو کہتے ہیں: ”کہہ مکرنی“

۸۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، آپ نے کہا: جواب دینا چاہیں..... مگر نہیں، نہ ہم.....
آپ ان کو کہتے ہیں آپ جواب دیں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، ٹھیک ہے، یعنی چاہتے آپ یہ نہیں کہ جہاں تک ان حوالوں کا تعلق ہے، نبوت کے متعلق، جو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے دیئے.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔

مرزا ناصر احمد: ہم اپنا جواب صرف وہاں تک رکھیں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔ باقی جو ہے.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: کیونکہ باقی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر صرف انہوں نے

Affidavit (بیان حلفی) فائل کیا ہے۔ ۷۰ آدمیوں کا.....

(مرزا ناصر جی، جی سے ہوں، ہوں تک)

مرزا ناصر احمد: جی۔⁹⁴⁸

جناب یحییٰ بختیار: ۱۹۰۱ء میں، مرزا صاحب نے ایسے کوئی نہیں کہا۔ مرزا بشیر

الدین محمود صاحب نے کچھ کہا ہے، اس کا..... وہ انکار نبوت کے حوالہ جات ۱۹۰۱ء سے وہ شروع کرتے ہیں، ضمیمہ ”ج“ ہے۔

مرزا ناصر احمد: ہوں، ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: صرف آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: ہوں، ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار:..... کہ یہ حوالے جو ہیں، ۱۹۰۱ء کے بعد، پھر ۱۹۰۷ء، ۱۹۰۸ء

تک، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو اس پر میں چاہتا ہوں شاید آپ سے کچھ ان میں سے پوچھ لوں۔ تو اگر میں ابھی پوچھتا ہوں آپ سے تو پھر آپ کو بھی وہاں ضرورت ہوگی۔ تو میرا خیال ہے ایڈوائس کا پی آپ کو دے دیں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں۔

۱۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔

جناب یحییٰ بختیار: پھر! بھی کل کسی وقت ہو سکا تو.....

مرزانا صراحتاً: ہاں ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: تو صرف یہ جو ہے ناں، ضمیمہ ”ج“ جو ہے.....

مرزانا صراحتاً: اس کا جو ایک فقرے کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت بانی سلسلہ

احمد نے بڑی وضاحت سے یہ بیان کیا کہ: ”اگر نبی کے معنی شرعی نبی کے ہوں تو میں بالکل نبی

نہیں۔“ آپ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا وہ ہمارے ”مضمون نامہ“ میں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ نے Explain (واضح) کر دیا ہے.....

مرزانا صراحتاً: ہاں۔

⁹⁴⁹ جناب یحییٰ بختیار: مگر اس کے باوجود وہ ”امتی نبی“ تک بھی نہیں کہتے تو اس

لئے یہاں ان کے جو حوالے ہیں، مرزا صاحب کے جو دیئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں تک کہ

۱۹۰۷ء کا حوالہ بھی دیا انہوں نے، تو آپ ان کو دیکھ لیجئے۔

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: اسی واسطے میں کہتا ہوں آپ جو جواب دیں گے تو کہیں گے

”ضمیمہ ج جب تک ہم یہاں نہیں دیکھیں کہ کیا ریفرنس ہے، ہم پورا اس کو نہیں سمجھ سکتے۔“ تو اس

لئے میں Request (درخواست) کی تھی، چیئر مین صاحب کو کہ ایک کاپی دے دیجئے۔

مرزانا صراحتاً: تو اب تک جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر محترم چیئر مین صاحب

اس کی اجازت دیں تو یہ ہمیں مل جائے تو جو حوالے نبوت کے متعلق ہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں، وہ انہیں.....

مرزانا صراحتاً: صرف وہاں تک.....

جناب یحییٰ بختیار: وہاں تک.....

مرزانا صراحتاً: باقی کوئی بحث نہ کرے، یہی، میں صحیح سمجھا ہوں ناں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔

جناب چیئر مین: ٹھیک ہے۔ It is allowed the copy may be

given and...

جناب یحییٰ بختیار: وہ آپ دے دیجئے، ضمیمہ ”ج“ ہے۔

۸۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Mr. Chairman: It is up to the witness.

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ٹھیک ہے، Affidavit دیا ہوا ہے انہوں نے۔
جناب چیئر مین: ٹھیک ہے، بعد میں دے دیں گے۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں،

Because they have to refer to the main point.

950 جناب چیئر مین: ہاں، تو اس کے ساتھ ضمیمہ جات جو ہیں وہ بھی دینے ہیں یا نہیں؟ نہیں، *This is reference of the book* (یہ کتاب کا حوالہ ہے) جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ایک ضمیمہ تھا، میں نے کہا جو Main body میں دیکھیں گے کہ کیا اشارہ ہے.....

جناب چیئر مین: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ اس Clause کو Clarify (واضح) کرنے کے لئے.....

جناب چیئر مین: یہ تو کتابوں کی ہیں لٹیں۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! آپ نے سب حوالے پورے کر لئے جی،

کہ، ہیں کچھ؟

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں جی۔ انہوں نے نوٹ کئے ہوئے تھے، لیکن جب جا کے

دیکھا تو کافی تھے، دوسو کے قریب۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، میں بتا رہا ہوں، پندرہ بیس ہوں گے۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔ ”مکتوبات احمدیہ“ کے ایک اقتباس پر بنیاد رکھی گئی تھی

ایک سوال کی ہمیں ”مکتوبات احمدیہ“ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں مل سکا۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ کون سا سوال تھا جی؟

مرزا ناصر احمد: یہ ”مکتوبات احمدیہ“..... مسیح محمدی، مسیح موسوی..... اس قسم کی کوئی

عبارت تھی (اپنے وفد کے ایک رکن کی طرف اشارہ کر کے) انہوں نے بڑا مختصر نوٹ کیا ہے، تو

یہاں اگر آپ.....

جناب یحییٰ بختیار: وہ نوٹ آپ کو یاد ہے؟ تاکہ میں اس سے سوال نکال سکوں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔ مسیح محمدی اور مسیح ناصر کا مقابلہ ایسے رنگ میں جس کی

وجہ سے کوئی اعتراض وہاں پیدا ہوا۔

۸۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

951 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں پھر پڑھ کے سنا تا ہوں، تو.....
 مرزانا صراحمہ: ”مکتوبات احمدیہ“ کا ہے یہ؟
 جناب یحییٰ بختیار: میں دیکھتا ہوں۔ ایک ”الفضل“ کا ہے۔
 مرزانا صراحمہ: نہیں، یہ ”مکتوبات احمدیہ“ تو رسالہ نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: دو ہیں ناں جی، وہ میں دیکھتا ہوں کہ دونوں..... دوسرا بھی آپ
 کو ملا ہے یا نہیں۔ (Pause) ایک مرزا صاحب! یہ تھا ”الفضل“ ج ۵، ش ۶۹، ۷۰۔
 مرزانا صراحمہ: جی۔

(کیا مسیح ناصری نے اپنے پیروؤں کو یہودیوں سے الگ نہیں کیا؟)
 جناب یحییٰ بختیار: اس میں وہ کہتے ہیں کہ: ”کیا مسیح ناصری نے اپنے پیروؤں کو
 یہودیوں سے الگ نہیں کیا.....“

مرزانا صراحمہ: ہاں، یہ اس سے مختلف ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، یہ ہے آپ کے پاس؟
 مرزانا صراحمہ: یہ وہ ہے؟
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، دوسرا جو ہے۔
 مرزانا صراحمہ: وہ ہم نے بعد میں لکھا ہوا ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔ دوسرا ہے ”ملائکۃ اللہ.....“
 مرزانا صراحمہ: وہ تو ”ملائکۃ اللہ“ والی، میں جواب دے چکا ہوں، یہاں ہم نے
 نوٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب مل گیا؟
 جناب یحییٰ بختیار: اچھا، اس کا جواب دے چکے ہیں؟
 مرزانا صراحمہ: ہاں۔
 952 جناب یحییٰ بختیار: تو یہ مجھے نہیں پتہ کہ کون سا تھا۔ اگر آپ مجھے اس کا تھوڑا سا
 مضمون بتادیں..... نہیں، وہ تو ہو چکا۔
 مرزانا صراحمہ: ”مکتوبات احمدیہ“ میں۔
 جناب یحییٰ بختیار: فقرہ کیا تھا؟
 مرزانا صراحمہ: یہ، ان کو خود یاد نہیں رہا جی۔

۸۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: یہ بیچ میں دس دن گزر گئے ناں۔ جی، اس لئے تو.....
 مرزانا صرا احمد: ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: مجھے بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہیں۔
 مرزانا صرا احمد: ہاں، یہ پھر آپ دیکھ لیں، بیچ میں سے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں۔ آپ کا *Referance* (حوالہ) کیا تھا؟ یہ دیا ہم
 نے آپ کو؟

مرزانا صرا احمد: ”مکتوبات احمدیہ“ ص ۲۲۔ (Pause)
 جناب یحییٰ بختیار: یہ ہے جی: ”مسح علیہ السلام کا چال چلن کیا تھا کہ کھا ڈپیو، نہ عابد،
 نہ زاہد، نہ حق پرست، منکر، خود بین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔“
 (مکتوبات احمدیہ ج ۳ نمبر ۴، ص ۲۳، ۲۴)

مرزانا صرا احمد: یہ تو ہو چکا ہے۔ (Pause)
 جناب یحییٰ بختیار: مکتوبات احمدیہ کے صفحہ ۲۱ اور ۲۲ پر یہی تو ہے اور اس کے علاوہ
 کون سا ہے؟
 مرزانا صرا احمد: یہ تو ہو چکا ہے۔

*Mr. Chairman: Mr. Attorney- General, can we get
 the reply to hawalajat filed?*

(جناب چیئر مین: مسٹر انارنی جنرل صاحب! کیا ہم ان حوالہ جات کا جواب لے
 سکتے ہیں؟)

⁹⁵³ *Mr. yahya Bakhtiar: Sir?*

(جناب یحییٰ بختیار: جناب!)

*Mr. Chairman: Can we get the reply to Hawalajat
 filed with the evidence?*

(جناب چیئر مین: کیا ہم ان حوالہ جات کا جواب لے سکتے ہیں جن کو شہادت کے
 ہمراہ لف کیا گیا ہے؟)

Mr. Yahya Bakhtiar: With....?

! دودن سے مرزانا صرا کہتا ہے کہ حوالہ نہیں ہے۔ اب کہتا ہے ہو گیا ہے؟

۸۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
 کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
 اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
 یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
 گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

(جناب یحییٰ بختیار: ساتھ.....؟)

Mr. Chairman: With the evidence? These may not be read in order to save the time.

(جناب چیئرمین: شہادت کے ساتھ؟ پوری شہادت نہ پڑھی جائے، تاکہ وقت بچ سکے)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, I requested Mirza Sahib that wherever he feels it necessary....

(جناب یحییٰ بختیار: میں نے مرزا صاحب سے گزارش کی ہے جہاں وہ ضروری سمجھیں)
جناب چیئرمین: ہاں۔

Mr. Yahya Bakhtiar: He will explain it briefly and then file it that.... otherwise he will read it out....

(جناب یحییٰ بختیار: اختصار کے ساتھ وضاحت کر دیں اور لف کر دیں۔ بصورت دیگر وہ (شہادت) کو پڑھ کر سنا دیں.....)

Mr. Chairman: If, if the reply....

(جناب چیئرمین: اگر، اگر جواب.....)

Mr. Yahya Bakhtiar: read the Hawalajat.

(جناب یحییٰ بختیار: حوالہ جات پڑھیں)

Mr. Chairman: of the Hawalajat is prepared in a written form, it can be filed. It may be read as part of the evidence.

(جناب چیئرمین: حوالہ جات کا جواب تحریری طور پر تیار کیا گیا ہے تو پھر اسے پیش کیا جاسکتا ہے۔ یہ تحریری جواب شہادت کا حصہ شمار ہوگا)

Mr. Yahya Bakhtiar: Sir, when you were out of the Hall for a little while.....

(جناب یحییٰ بختیار: جناب والا! جب آپ تھوڑی دیر کے لئے ہال سے باہر تھے.....)
جناب چیئرمین: جی۔

Mr. Yahya Bakhtiar: No, I requested Mirza Sahib.....

۸۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

(جناب یحییٰ بختیار: تو میں نے مرزا صاحب سے گزارش کی تھی.....)
جناب چیئر مین: جی۔

Mr. Yahya Bakhtiar: That the Committee is sitting very anxious....

Mr. Chairman: It will

(جناب چیئر مین: یہ بہتر ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: therefore, he said he will file the main....

(جناب یحییٰ بختیار: اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ.....)

⁹⁵⁴*Mr. Chairman: Yes, it will save a lot of time of the House and of the witness also.*

(جناب چیئر مین: جی ہاں۔ اس طرح ایوان اور گواہ دونوں کا کافی وقت بچ جائے گا)

Mr. Yahya Bakhtiar: Yes, I know, his valubale time. (جناب یحییٰ بختیار: جی ہاں۔ مجھے ان کے قیمتی وقت کا احساس ہے)

Mr. Chairman: Then, if it can be agreed between the witness and the.....

(جناب چیئر مین: تو پھر اگر گواہ اور..... کے مابین کوئی سمجھوتہ طے پا جائے)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, I requested Mirza Sahib wherever he considered neccessary, he will speak in detail; otherwise he will just briefly say something about it and file it.

(جناب یحییٰ بختیار: جی نہیں۔ میں نے مرزا صاحب سے گزارش کی ہے کہ جہاں ضروری خیال کریں وہ پوری وضاحت کر دیں، بصورت دیگر وہ مختصراً جو کہنا چاہیں کہیں اور تحریری جواب پیش کر دیں)

Mr. Chairman: And then we can cross over to the examination. rest of the examination.

۸۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

(جناب چیئرمین: اور پھر ہم گواہ کے بیان اور جرح کی جانب بڑھ سکتے ہیں)

Mr. Yahya Baktiar: No, I know the difficulty, but I want Mriza Sahib....

(جناب یحییٰ بختیار: جی نہیں۔ مجھے مشکل کا احساس ہے، لیکن میں مرزا صاحب سے کہوں گا.....)

Mr. Chairman: Yes, it is upto the witness.

(جناب چیئرمین: ہاں اس بات کا انحصار گواہ پر ہے.....)

Mr. Yahya Baktiar:if the thinks necessary,...

(جناب یحییٰ بختیار: اگر وہ ضروری سمجھیں.....)

جناب چیئرمین: ہاں۔

Mr. Yahya Baktiar: then he will give in detail, otherwise he will briefly mention it.

(تو تفصیل میں جائیں گے، ورنہ اختصار کے ساتھ ذکر کریں)

Mr. Chairman: Yes. I may ask the witness, if he likes, he can file all the, all the written.....

(جناب چیئرمین: ٹھیک ہے، میں گواہ سے کہوں گا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ تمام تحریری..... پیش کریں)

Mr. Yahya Baktiar: No, but the thing is, Sir, the Committee members.....

(جناب یحییٰ بختیار: جی نہیں! جناب والا بات یہ ہے کہ کمیٹی کے اراکین.....)

Mr. Chairman: Yes. (جناب چیئرمین: جی ہاں)

Mr. Yahya Baktiar: will not be able to read every document because the debate time is short. That is why I said that Mirza Sahib should briefly explain....

(جناب یحییٰ بختیار: ہر ایک دستاویز کا مطالعہ نہ کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے مرزا صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ اختصار کے ساتھ وضاحت کرتے جائیں)

۸۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

مرزا ناصر احمد: ہاں جی۔

⁹⁵⁵ Mr. Yahya Baktiar: and then file.

(جناب یحییٰ بختیار: اور (تحریری جواب) پیش کر دیں)

Mr. Chairman: But if all the.....

(جناب چیئرمین: لیکن اگر سارا.....)

Mr. Yahya Baktiar: Wherever he thinks, you know, that it.....

(جناب یحییٰ بختیار: البتہ جہاں وہ ضروری خیال کریں، آپ اس کو جانتے ہیں.....)

Mr. Chairman: But, Mr. Attorney-General, if all the time is consumed in reading the Hawalajat then....

(جناب چیئرمین: لیکن مسٹر انارنی جنرل صاحب! اگر سارا وقت حوالہ جات کے

پڑھنے میں ہی صرف ہو گیا تو پھر؟)

Mr. Yahya Baktiar: Thank you.

(جناب یحییٰ بختیار: مہربانی؟)

Mr. Chairman: If all the time is consumed in reading the Hawalajat then....

(جناب چیئرمین: اگر سارا وقت حوالہ جات کے پڑھنے میں ہی صرف ہو گیا تو پھر؟)

Mr. Yahya Baktiar: No, Sir, the thing is that we ask certain questions....

(جناب یحییٰ بختیار: نہیں جناب والا! ہم نے کچھ سوالات پوچھے ہیں.....)

Mr. Chairman: then then....

(جناب چیئرمین: پھر، پھر)

Mr. Yahya Baktiar: ... and to those questions, after verification, he is giving reply. Most of them have been over now. I think, one or two are left.

(جناب یحییٰ بختیار: جن کے جوابات ضروری تصدیق کے بعد (گواہ) دے رہا

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ہے، زیادہ تر سوالات، جوابات ختم ہو چکے ہیں، میرے خیال میں ایک یا دو سوال باقی ہیں)

مرزا ناصر احمد: ہاں، تو If you
جناب یحییٰ بختیار: ہاں، نہیں، نہیں، certainly.....

Mr. Chairman: Because, for all Hawalajat, there were two questions: one, that the particular statement, which was made, is admitted? If not admitted, then no second questions. If made, then explanation by the witness that it was given in such and such context.

(جناب چیئرمین: تمام حوالہ جات کے بارے میں دو سوالات ہیں، پہلا یہ کہ کیا وہ اس بیان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر تسلیم نہیں کرتے تو پھر دوسرا سوال نہیں، اگر ایسا بیان تھا تو پھر گواہ کی طرف سے طرف سے وضاحت کہ کس سیاق و سباق میں دیا گیا تھا)

Mr. Yahya Baktiar: Sir, I pointed out to Mirza Sahib before that if I am charged with an offence and I am taken to court and the Mjistrate asked me, I say: "Others have also committed the some offence". Now, if Mirza Sahib goes on giving Sir. Syed's Hawalajat and other Hawalajat because Mirza Sahib said the same thing⁹⁵⁶..... I mean that may be relevant from his point of view.... but it will not justify this, nor will it expalin it, because Mirza Sahib, accroding to them, held a very different positon.

(مرزا قادیانی نے انگریز کی مدح کی)

(جناب یحییٰ بختیار: جناب والا! میں نے مرزا صاحب کے گوش گزار کیا تھا، فرض کریں کہ مجھ پر کوئی الزام عائد ہوتا ہے، اور میں عدالت میں جوابدہ ہوں، میں (عدالت میں) یہ کہتا ہوں کہ اوروں نے بھی ویسا ہی جرم کیا ہے، اب مرزا صاحب سرسید کے حوالہ جات اور دیگر حوالہ جات دے رہے ہیں، اور اسی قسم کا موقف لے رہے ہیں، یہ بات مرزا صاحب کے نقطہ نظر

۹۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

سے درست ہو سکتی ہے، مگر میرے نزدیک یہ موقف مناسب نہیں، نہ ہی اس سے کوئی بات واضح ہوگی، کیونکہ مرزا صاحب کی حیثیت بہت ہی مختلف ہے)
 مرزا ناصر احمد: یہ Criminal Offence کے متعلق تو درست ہے.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ نہیں.....

Mirza Nasir Ahmad: ...But, I think, I have not committed any criminal offence.

(مرزا ناصر احمد: لیکن تو فوجداری جرم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میں نے کوئی فوجداری جرم نہیں کیا)
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں،

Mr. Yahya Bakhtiar: No, no, no, insinuation. I have just given an example, and I brought myself in, I don't want to insinuate and hurt your feeling. I was giving an example that, for anything, you cannot say that "because others have done" That will not justify, that will not explain it.

(جناب یحییٰ بختیار: نہیں، کوئی الزام تراشی کی بات نہیں، میں نے تو اپنا مدعا سمجھانے کے لئے ایک مثال دی ہے۔ میں آپ (مرزا صاحب!) کے احساسات کو قطعاً مجروح کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے تو صرف مثال دی ہے کہ آپ محض اس لئے کوئی کام نہیں کر سکتے کہ وہی کام اوروں نے کیا ہے، یہ کوئی جواز نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی بات واضح ہوگی)

Mr. Chairman: That is a question of argument.

(جناب چیئر مین: یہ تو دلائل کا سوال ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: I say I have pointed out onething.... (جناب یحییٰ بختیار: میں نے تو ایک نقطہ بیان کیا ہے.....)

Mr. Chairman: we are talking of the procedure. (جناب چیئر مین: ہم ضابطے کی بات کر رہے ہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: Mirza Sahib says, no that

was the background, this was the history, from his point of view....

(جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ تھا، ان کے نقطہ نظر سے یہ تاریخی حقیقت تھی.....)

مرزا ناصر احمد: ہاں، ایک ماحول جو ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ٹھیک ہے جی، میں نے کہا.....

مرزا ناصر احمد: زمانے کا ایک ماحول جو ہے، پچاس،.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں،.....

مرزا ناصر احمد: ایک، سو اصدی پہلے کی اگر بات کریں.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، ٹھیک ہے۔

مرزا ناصر احمد: تو اس صدی کے ماحول کے بغیر.....

⁹⁵⁷ جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں نے کہا آپ اس کی ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ

ضروری سمجھتے تھے۔

مرزا ناصر احمد: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، پڑھ لیں۔

Mr. Chairman: No, my only idea was to save the time of the House....

(جناب چیئرمین: نہیں میرا خیال تو صرف ایوان کا وقت بچانے کا تھا)

Mr. Yahya Bakhtiar: I know.

(جناب یحییٰ بختیار: میں جانتا ہوں)

Mr. Chairman: we do not want to tax the patience of the honourable members, the witness and everybody concerned.

(جناب چیئرمین: ہم معزز اراکین، گواہ یا اور لوگوں کے صبر کو آزمانا نہیں چاہتے)

Mr. Yahya Bakhtiar: I am aware of the valuable time of the House valuable time of Mirza Sahib, and I am

also getting tired, but this is a very important thing....

(جناب یحییٰ بختیار: مجھے ایوان اور گواہ کے قیمتی وقت کا پورا احساس ہے، میں خود

بھی تھکا ہوا ہوں، مگر یہ بات بھی بہت اہم ہے)

Mr. Chairman: If, if we can minimise....

(جناب چیئرمین: اگر اس کو کم سے کم کر سکیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: I want every clarification so that the committee should come to a very fair decision.

(جناب یحییٰ بختیار: میں ہر قسم کی وضاحت چاہتا ہوں، تاکہ کمیٹی کسی صحیح نتیجے پر پہنچ سکے)

Mr. Chairman: My only, my only point was that if the written reply to Hawalajat can be filed, it will be read in evidence, and the copies will be cyclostyled and given to all the members. That is my point.

(جناب چیئرمین: میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حوالہ جات کا تحریری جواب ہو

تو اسے بطور شہادت شمار کیا جائے اور اس کی نقول تمام اراکین کو مہیا کی جائیں، بس صرف اسی قدر میرا مقصد ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, that we doing, Sir, But if, alongwith the reply, he can give a brief clarification, I think that is better, because this is not evidence, and it is not interrogatory.

(جناب یحییٰ بختیار: نہیں، جناب والا! یہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال کہ تحریری

جواب کے ساتھ اگر کچھ وضاحت بھی ہو جائے تو یہ بہتر ہوگا، یہ نہ تو شہادت ہوگی نہ سوال نامہ)

Mr. Chairman: No, But if the witness says that this reply...

(جناب چیئرمین: نہیں، لیکن اگر گواہ کہے کہ یہ ایک جواب ہے.....)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, if it is a written reply...

(جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اگر یہ تحریری جواب ہو.....)

۹۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

Mr. Chairman: Yes, it is a written reply.

(جناب چیئر مین: جی ہاں یہ تحریری جواب ہے)

Mr. Yahya Bakhtiar: It will be pointed out. That it will be explained.

(جناب یحییٰ بختیار: تو پھر گواہ سے وضاحت طلب کی جائے گی)

⁹⁵⁸*Mr. Chairman: That will be a part of evidence.*

(جناب چیئر مین: یہ شہادت کا حصہ ہوگا)

Mr. Yahya Bakhtiar: The time was consumed mostly because of the Hawalajat.... what other Muslims have said about....

(جناب یحییٰ بختیار: زیادہ وقت ان حوالہ جات میں صرف ہوا جو کہ ”عذر“ کے

بارے میں دوسرے مسلمانوں سے متعلقہ تھے)

مرزا ناصر احمد: عذر۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔

Mr. Chairman: Yes if now we are able to cut it short....

(جناب چیئر مین: اگر ہم اس بحث کو سمیٹ سکیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: Yes, I, I, I....

(جناب یحییٰ بختیار: جی ہاں، میں.....)

Mr. Chairman: it may be beneficial to all of us... to the honourable members, to the witness to everyone of us.

(جناب چیئر مین: تو یہ بات معزز اراکین، گواہ اور ہم سب کے حق میں بہتر ہوگی)

Dr. Mohammad Shafi: Sir, may I say a word?

(ڈاکٹر محمد شفیع: جناب والا! کیا مجھے کچھ گزارش کرنے کی اجازت ہے؟)

Mr. Chairman: No. After this.

(جناب چیئر مین: جی نہیں، اس کے بعد) (Pause)

۹۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: next جواب پڑھ لیجئے۔ (Pause)
 مرزا ناصر احمد: یہ ایک سیاسی سوال تھا: ”اکھنڈ ہندوستان کی ہم تائید کرتے رہے ہیں۔“ یہ ہے آپ کے..... یا ہو گیا؟
 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! مجھے یاد نہیں۔ اس پر میں نے بعد میں تین سوال اور پوچھے تھے، میں نے لکھے ہوئے ہیں.....
 مرزا ناصر احمد: جی۔
 جناب یحییٰ بختیار: ان میں سے شاید میں نے کوئی اور پوچھا ہو۔ لیکن چار سوال مجھے لکھ کے آئے تھے۔ یہ جو لٹیکل سائیز تھی.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں۔⁹⁵⁹

Mr. Yahya Bakhtiar: we don't attach much importance with it. Just because you opposed pakistan, that is no reason to condemd anybody.

(جناب یحییٰ بختیار: ہم اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ آپ نے پاکستان (بننے کی) مخالفت کی، (اس وجہ سے) کسی کو ملامت کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ کئی لوگوں نے.....)
 مرزا ناصر احمد: کیا.....? But we did not..... (لیکن ہم نے (مخالفت) نہیں کی)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, but I say... supposing you did... that was not the reason. The reason was.... I wanted to point out.... that you treated yourself different from the rest of Muslims.... separate. In that context....

(قادیانی اپنے آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ شمار کرتے تھے؟)
 (جناب یحییٰ بختیار: نہیں، فرض کریں کہ آپ نے مخالفت کی، یہ کوئی وجہ نہیں، اصل سبب یہ ہے کہ میں نے آپ پر یہ واضح کیا کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ شمار کرتے تھے، اس حوالہ سے.....)
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔

Mr. Yahya Bakhtiar: ... I asked the question.

(جناب یحییٰ بختیار: میں نے سوال پوچھا تھا)
 مرزاناصر احمد: تو وہ، وہ میں پھر اس کا جواب دے دوں؟
 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! میں جب آپ سے دوسرے سوال پوچھ لوں.....
 مرزاناصر احمد: ہاں، وہ تفصیلی ذرا جواب ہے، ممکن ہے آدھ پون گھنٹہ لگ جائے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، تاکہ دوسرے بھی آپ کے سامنے ہوں گے.....
 مرزاناصر احمد: ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار:..... تو پھر آپ دے دیجئے اس کا.....
 مرزاناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار:..... کیونکہ اس میں دو تین حوالے ہیں.....
 مرزاناصر احمد: ہاں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ان کے ساتھ یہ آجائے گا۔
⁹⁶⁰ مرزاناصر احمد: ان کے ساتھ ملا کے آپ کا مطلب ہے، ان کو بھی ساتھ ملا لیا جائے؟
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔
 مرزاناصر احمد: آپ کا مطلب ہے کہ ان کو بھی ساتھ ملا لیا جائے، تاکہ وہ چھوٹے
 چھوٹے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ وقت ضائع نہ کریں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، پھر اس کے لئے تفصیلی جواب دینا پڑے گا۔
 مرزاناصر احمد: جی، جی، پوچھ لیجئے۔
 جناب یحییٰ بختیار: اب ختم ہو گیا جی؟
 مرزاناصر احمد: نہیں،.....
 جناب چیئرمین: آپ Question put (سوال پوچھیں)، آپ
 Question (سوال) شارٹ کریں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ایک اور جواب رہ گیا جی، جو پہلے پوچھے گئے ہیں۔
 Mr. Chairman: And, for my enquiry, the member
 of the delegation can consult each other and can adopt
 whatever course they choose.
 (جناب چیئرمین: اور میری انکوائری کے لئے، وفد کے اراکین ایک دوسرے سے

مشورہ کر سکتے ہیں اور جو بھی طریقہ وہ پسند کریں)

(دروود شریف کے متعلق سوال)

مرزا ناصر احمد: یہ وہ ایک فوٹو سٹیٹ کی کاپی رسالہ ”دروود شریف“ کے متعلق یہاں دی گئی تھی، میرا خیال ہے فوٹو سٹیٹ کاپی تھی۔

جناب یحییٰ بختیار: دو فوٹو سٹیٹ۔ ایک یہ تھی.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ایک یہ تھا، ایک اور تھا، ایک وہ تھا۔ وہ دونوں ایسے ہیں جن کا ہے یہ نہیں..... یہ جو چھپا ہے، وہ بھی غلط۔ یعنی ہے ہی نہیں وہ صفحہ اور جو مضمون ہے وہ بھی غلط، ہماری..... ہمارے پاس کئی ایڈیشن ہیں اس رسالے کے، اور سارے ہم نے دیکھے ہیں، اور اس میں کہیں یہ عبارت نہیں جو اس دن یہاں اس دن پڑھ کے سنائی گئی۔ فوٹو سٹیٹ کاپی، اس..... جو پڑھ کے سنایا گیا..... اس میں تھا کہ..... یہ ایک اندرونی شہادت ہوتی ہے جو اس کے خلاف ہے..... اس میں یہ ہے کہ حافظ محمد صاحب کے پیچھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت..... انہوں نے کہا ہے کہ پڑھی..... اور کوئی ثبوت سلسلہ احمدیہ کے مطبوعہ لٹریچر سے نہیں ملتا۔ حافظ محمد صاحب ایک نامعلوم شخصیت ہے جس کا تحریک احمدیت میں کوئی ذکر تک نہیں ملتا۔ جن احباب کے پیچھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے اور جن کا ذکر سلسلہ کے لٹریچر میں موجود ہے، وہ حسب ذیل ہے: حضرت مولوی نور الدین صاحب.....

جناب یحییٰ بختیار: یہ سوال آپ سے نہیں پوچھا۔

مرزا ناصر احمد: ہیں جی؟

جناب یحییٰ بختیار: یہ سوال نہیں پوچھا۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، یہ پوچھا۔ وہ جو پڑھا تھا ناں پورا، یعنی درود کے متعلق، لیکن.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔

مرزا ناصر احمد: اس ساری عبارت میں یہ بھی ذکر تھا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ جو صرف درود کا پارٹ تھا.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، لیکن یہ ذکر تھا کہ حافظ محمد صاحب نے یہ روایت کی ہے۔ اب

جماعت اس نام کو ہی نہیں جانتی۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، تو آپ کے پاس ایسا کوئی درود ہے ہی نہیں، چھپا ہی

۹۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

نہیں؟ جو کتاب چھپی ہوئی ہے وہ دکھادیں گے۔
 مرزانا صراحتاً: ہاں، وہ اگر دکھادیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ لے آئیں گے۔
 962 مرزانا صراحتاً: اور میرا خیال ہے کہ وہ مشکل سے ملے گی کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں۔

Mr. Chairman: When, I think, the denial comes, there is no need of explanation.

(جناب چیئرمین: میرے خیال میں جب انکار کر دیا جائے تو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی)

جناب یحییٰ بختیار: ہاں If (اگر)

Mr. Chairman: When, when a fact is denied that it never existed....

(جناب چیئرمین: جب کسی واقعہ کا سرے سے انکار کر دیا جائے.....)
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، میں یہ.....

Mr. Chairman: There is no need of explanation.

(جناب چیئرمین: تو پھر وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی)
 مرزانا صراحتاً: جی، میں یہ Deny کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے ایڈیشن ہیں، ان میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں، اس درود کا۔ نمبر ایک۔ میں یہ Deny کرتا ہوں کہ..... میں احمدیت کی گود میں پلا ہوں..... میں نے ساری عمر میں کبھی ایک دفعہ بھی اس درود کے الفاظ، درود کے نہیں سنے، یہ میں Deny کر رہا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، آپ نے پہلے بھی کہا *You dont believe of it* (آپ اس پر یقین نہیں رکھتے) تو آچکا۔
 مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں۔ پس پھر اس کو چھوڑتے ہیں۔

Mr. Chairman: This is sufficient. Now we go on to the next.

(جناب چیئرمین: یہ کافی ہے، اگلی بات کریں)

(Pause)

مرزانا صراحتاً: اچھا، رسالہ ”ختم نبوت“ از مودودی صاحب اور اس کے جواب پر

دوبارہ غور کرنے کا آپ نے کہا تھا وہ کر لیں..... (اپنے وفد کے ایک رکن سے) ہیں؟ اچھا، وہ بھی۔ ”یہ بھی جواب ہو گیا“ تو یہاں لکھ نہیں رہا۔ اچھا، یہ ہے۔

⁹⁶³ (اثارنی جنرل سے) ”جماعت الگ بنانا“ *Ahmad, a Messenger*
of later days (احمد، بعد میں آنے والا رسول)

جناب یحییٰ بختیار: وہ Page (صفحہ) پر کیا کچھ تھا؟
 مرزا ناصر احمد: وہ بھی یہاں فوٹو سنٹیٹ ایک کاپی یہاں پیش کی گئی۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ کا خطاب نہیں ہوا؟
 مرزا ناصر احمد: میں بتاتا ہوں۔ (اپنے وفد کے ایک رکن سے) اس کتاب کا کیا نام

ہے؟ (اثارنی جنرل سے) ”سیرت مسیح موعود“ کے نام سے ایک کتاب چھپی ہے.....
 جناب یحییٰ بختیار: اس کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں۔

مرزا ناصر احمد: اردو میں وہ الفاظ یہ نہیں جو وہ انگریزی ترجمہ جو محمد ہاشم صاحب
 بنگالی نے کیا، ابوالہاشم صاحب بنگالی..... ۱۹۲۳ء کی یہ کتاب نہیں، یہ ۱۹۱۶ء، ۱۹۱۷ء کی کتاب

ہے، یہ اس وقت کی کتاب نہیں آپ کے ذہن میں تھا، یعنی.....
 جناب یحییٰ بختیار: وہ اور ہے۔

مرزا ناصر احمد: وہ ۱۹۲۳ء والی..... *Ahmadayat or the true Islam*
 (احمدیت یا سچا اسلام)

جناب یحییٰ بختیار: وہ لیکچر اور تھا۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، وہ لیکچر اور ہے۔ یہ وہ نہیں ہے۔ اس کا جو اردو کے الفاظ

ہیں..... (Pause)

(مرزا قادیانی نے اپنے مریدوں سے کہا اپنے کو احمدی مسلمان لکھو اور)

دیکھیں ناں، کتنا فرق ہے۔ یہ جو اردو کے الفاظ ہیں یہ *Self- Explanatory*

(خود اپنی وضاحت کرنے والا) ہیں۔ اس میں ہے: ”۱۹۰۱ء میں مردم شماری ہونے والی تھی۔ اس

لئے ۱۹۰۱ء کے اواخر میں آپ نے اپنی جماعت کے نام ایک اعلان شائع کیا کہ ہماری جماعت

کے لوگ کاغذات مردم شماری میں اپنے آپ کو ”احمدی مسلمان“ لکھوائیں..... ”احمدی مسلمان“

لکھوائیں..... گویا اس سال آپ نے اپنی جماعت کو ”احمدی“ کے نام سے مخصوص کر کے

جناب یحییٰ بختیار: کہ یہ شیعہ مسلمان اتنے ہیں.....
مرزا ناصر احمد: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ اپنی رپورٹ میں لکھتے تھے کہ شیعہ اتنے ہیں، اندازاً اور سنی اتنے ہیں۔ مگر یہ کہ شیعہ نے کبھی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں لکھوایا کہ ”میں شیعہ ہوں“ نہ کوئی Instructions دی ہیں، نہ سنیوں نے، نہ بریلویوں نے، نہ دیوبندیوں نے، یہ، یہ پوائنٹ جو تھا، میں اس کی Clarification (وضاحت) چاہتا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، اگر انہوں نے لکھوایا نہیں تو Census (مردم شماری) کے نتائج میں ”شیعہ اتنے ہیں“ کیسے آ گیا؟
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ اپنا..... رپورٹ میں دے رہے ہیں۔
مرزا ناصر احمد: ہیں جی؟

جناب یحییٰ بختیار: رپورٹ میں دے رہے ہیں کہ *The shias are estimated to be so many out of them.* (ان میں سے شیعہ کی تعداد کا اندازہ کر لیا گیا)

Mirza Nasir Ahmad: In the census report ?

(مرزا ناصر احمد: مردم شماری کی رپورٹ سے؟)
966 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، پرانی جو جی ناں، اس میں۔
مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، میرا مطلب یہ ہے کہ آخر انہوں نے ”شیعہ“ لکھوایا ہوگا تو Census (مردم شماری) کی رپورٹ میں آیا ہوگا۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، *Estimated* (اندازہ)
مرزا ناصر احمد: ہاں۔
جناب یحییٰ بختیار: وہ ایسے علیحدہ لکھے نہیں گئے۔

Mirza Nasir Ahmad: I wonder. How do you, how can you estimate without there being any statistics to base your estimation?

(مرزا ناصر احمد: میں حیران ہوں کہ شماریات کے مواد کے بغیر آپ نے ان کی تعداد کا کیسے اندازہ کر لیا؟)

Mr. Yahya Bakhtiar: You have estimated, Sir, that the Ahmadis are four million; they can estimate.

(جناب یحییٰ بختیار: جس طرح آپ نے احمدیوں کے بارے میں اندازہ کر لیا کہ چالیس لاکھ (اسی طرح) وہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں!)

مرزاناصر احمد: اچھا، اس Sense (معنی) میں! وہاں کوئی شیعہ مجاہد ہوں گے!

Mr. Yahya Bakhtiar: I don't remember- I may be wrong.

(جناب یحییٰ بختیار: مجھے یاد نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں)۔

..... میرا امپریشن یہ ہے کہ پہلی دفعہ.....

مرزاناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: ۱۹۲۱ء میں..... لکھتے ہیں کہ.....

مرزاناصر احمد: بہر حال اس کا مطلب یہ ہے کہ ”احمدی مسلمان“ اور فرقے کا

جماعت کا امتیاز، ممتاز ان کو کرنے کے لئے۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ انگریزی کتاب جو ہے، وہ آپ کے.....

مرزاناصر احمد: یہ ہماری جماعت کی طرف سے شائع نہیں ہوئی، ایک

Individual (فرد) نے کیا ہے۔

⁹⁶⁷ جناب یحییٰ بختیار: قادیان سے۔ آپ دیکھ لیجئے۔ آپ کتاب مجھے دکھا دیجئے۔

مرزاناصر احمد: ہاں، دیکھ لیں اور یہ سمجھ نہیں آیا ہمیں کہ یہ کتاب موجود تھی تو فوٹو

سٹیٹ کا پی یہاں پیش کی گئی!.....؟

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، وہ ان کے پاس نہیں تھی کتاب اس وقت۔

مرزاناصر احمد: ہیں جی؟

جناب یحییٰ بختیار: ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ آپ دیکھ لیں۔

مرزاناصر احمد: اچھا اس میں عنوان ہے ”Outside.....“.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔

مرزاناصر احمد: جو آپ نے یہ کہا،.....

۱۔ استاذ ہاتھ لا، کیسے کہی جناب انارنی جنرل نے کہ مرزاناصر کی لکھی بند ہو گئی؟

۲۔ کتنا، ہم سوال ہے مرزاناصر کا؟ اس کو کہتے ہیں: خوئے بدر ابہانہ بسیار!

۱۰۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔
 مرزا ناصر احمد: یہاں یہ عنوان ہی کوئی نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: دکھائیے مجھے۔
 مرزا ناصر احمد: یہ، یہ عنوان اس میں جو ہے نا، ترجمے میں، اصل میں جو اردو کا ہے، یہ ہے ہی نہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: اردو میں نہیں؟ اس میں، انگلش میں تو ہے۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، انگلش میں ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔
 مرزا ناصر احمد: کافی عنوان لگائے ہیں اس شخص نے۔ یعنی یہ دیکھیں نا.....
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، وہ ٹھیک ہے۔ وہ پبلش آپ کے.....
 مرزا ناصر احمد: آپ سمجھ جائیں گے آپ، یہ ہیں.....
 جناب یحییٰ بختیار: ⁹⁶⁸ قادیان کی طرف سے Officially پبلش ہوا ہے۔
 مرزا ناصر احمد: اس میں کوئی Heading نہیں ہے۔ Heading
 (عنوان) ترجمہ کرنے والے نے اپنے لگا دیئے..... ابوالہاشم بنگالی نے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ.....
 مرزا ناصر احمد: ان کو Heading لگانے کا شاید شوق ہوگا، شوق ہوگا۔

(Pause)

جناب یحییٰ بختیار: یہ اس کا وہ جو ہے، ۱۹۲۴ء کا ایڈیشن تھا، میرے خیال میں۔
 مرزا ناصر احمد: اردو میں تو کہیں بھی نہیں..... وہ تو ایک ہی چل رہا ہے نا..... نہ
 عنوان ہیں۔ عنوان بھی مترجم نے لگائے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! یہ ہے

"Ahmad, Messenger of the Later Days Part I, by
 Mirza Bashir-ud-din Mahmud Ahmad, reproduced from the
 "Review of Religions" volume...."

اس کے دیئے ہوئے ہیں:

۱۰۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
 کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
 اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
 یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
 گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

"... Published by Sadar Anjuman-i-Ahmadiyya,
Qadian, Punjab, India."

(یہ مرزا بشیر الدین محمود کی کتاب ریویو آف ریلیجنز کا حصہ اول ہے جسے انجمن احمدیہ
قادیان (پنجاب، انڈیا) نے شائع کیا)

I don't consider to be more authoritative document.

They never said this is wrong.

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو عنوان لگے ہیں وہ اصل
کتاب میں نہیں ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ ان کو، غلط ہیں اگر تو ان کو ٹھیک کرنا چاہتے تھاکہ یہ ہم
مسلمانوں سے باہر نہیں ہیں۔

⁹⁶⁹ مرزا ناصر احمد: اس سے پہلے آپ نے یاد دہانی.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں.....

مرزا ناصر احمد: اب کر دیں گے۔

Mr. Yahya Bakhtiar: "Ahmadis to from"

(جناب یحییٰ بختیار: احمدی.....)

مرزا ناصر احمد: ہاں، وہ میں سمجھ گیا، وہ تو میں نے دیکھا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، *"Separate Community from the*

outside Musalmans." (دوسرے مسلمانوں سے الگ ایک جماعت (قوم) ہے)

میں سمجھا وہ جو دو دائرے آپ نے بنائے ہوئے ہیں، وہ *"Outside*

Musalmans" (مسلمانوں سے باہر) ہیں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، ہاں، وہ تو جو کتاب ہے اصل ہمارے سامنے، اس سے مختلف

یہ ترجمہ کیسے ہوتا.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہ یہ

جو کتاب ایسے غلط طریقے سے، آپ کہتے ہیں.....

مرزا ناصر احمد: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: کہ پہلش ہوئی ہے، اور آپ کی اتھارٹی کے نیچے۔

۱۰۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ترجمہ کرنے والے ابوالہاشم صاحب بنگالی ہیں، اور اصل کتاب میں کوئی عنوان نہیں ہے، ہے ہی نہیں عنوان۔
جناب یحییٰ بختیار: باقی نیچے کے مضمون کا ترجمہ ٹھیک ہے؟
مرزا ناصر احمد: ممتاز کرنے والا؟

Mr. Chairman: When the original is available, translation has no value.

(جناب چیئر مین: جب اصل موجود ہے تو ترجمہ کی کوئی اہمیت نہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: No, Sir, even the translation is published under their authority.

(جناب یحییٰ بختیار: جی نہیں، جناب والا! ترجمہ بھی ان ہی کے حکم سے شائع ہوا ہے)

⁹⁷⁰ *Mr. Chairman: Yes.*

(جناب چیئر مین: جی ہاں) (Pause)

جناب یحییٰ بختیار: اور کوئی حوالہ رہ گیا ہے جی کہ نہیں؟

مرزا ناصر احمد: وہ "اکھنڈ ہندوستان" کے متعلق.....

جناب یحییٰ بختیار: وہ تو میں نے کہا: وہ میں آپ سے پوچھ لوں گا۔

مرزا ناصر احمد: اور ایک ہے یہ "جماعت الگ بنانا" یہ ایک Tendency

(رحمان) کہ یہ ایک علیحدہ ہو جائے From main body of Millat-i-Islamia

اس کا میں تفصیلی جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑا سخت.....

(ملت اسلامیہ کا ایک عظیم عنصر)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، This is Important (یہ بہت اہم ہے)

کیونکہ مجھے..... بہت سے سوال تھے.....

۱ اپنے باپ مرزا محمود کی ایک کتاب کی عبارت سے جان خلاصی کے لئے کیا کیا پاپڑ
بیلنے پڑے مرزا ناصر کو۔ لیکن چیئر مین صاحب کے سامنے حقیقت آگئی کہ اصل میں بھی حوالہ موجود
ہے۔ ترجمہ میں بھی موجود ہے۔ وہ ترجمہ بھی ان کی جماعت کا ہے۔ اصل مشکل مرزا ناصر کے لئے
یہ تھی کہ وہ کبیل سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ مگر کبیل جان نہیں چھوڑتا۔

۱۰۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: اور میں نے آپ کو شروع سے Clear (واضح) کیا کہ
مرزانا صراحتاً: یہ میں نے اپنی ساری تاریخ پر طائرانہ نظر ڈالی ہے اور اس پر لگیں
گے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ۔ تو اگر اس وقت ہو سکتا ہے تو.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ ٹھیک ہے، مرزا صاحب! اس وقت جو ہے ناں اس پر.....
مرزانا صراحتاً: لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ سارا پڑھنے کی بجائے ہر عنوان
کے نیچے مثلاً ایک حوالہ پڑھ دوں۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ حوالہ ایک پڑھ لیجئے، باقی خود Explain (واضح)
کردیتے ہیں اس پر.....

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، وہ.....

جناب یحییٰ بختیار: مگر اس "Separatism" (علیحدگی) پر.....
971 مرزانا صراحتاً: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: کئی سوال اور بھی میں نے پوچھنے ہیں آپ سے.....
مرزانا صراحتاً: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: تو اس کے بعد اگر آپ اس پر آجائیں تو بہتر ہوگا.....
مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: کیونکہ ایک دو حوالے تھے۔ ابھی، آپ نے کہا، کہ وہ ان
کے جواب نہیں ہیں آپ کے پاس.....
مرزانا صراحتاً: ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: جو کہ آپ کو ملے ہی نہیں۔ اس لئے ہمیں پھر Verify
(تصدیق) کرنے پڑیں گے۔

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: اور تو کوئی نہیں رہ گیا آپ کے پاس؟
مرزانا صراحتاً: نہیں، اور نہیں کوئی۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! ایک دو حوالے اور تھے.....
مرزانا صراحتاً: جی فرمائیے۔

۱۰۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: یا تو آپ جواب دے چکے ہیں مگر میں نے نوٹ نہیں کیا۔ میرے نوٹ میں تو یہ ہے کہ ان کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ کیونکہ آج..... (Pause) اس میں سے کئی حوالے میں نے آپ کو لکھوائے تھے۔ کچھ آپ نے اس دن جواب دیا۔ پھر آپ نے آج جواب دیئے۔

(میرا مخالف عیسائی، یہودی، مشرک اور جہنمی ہے)

آپ نے وہ جو ”جہنمی“ کا تھا وہ آج آپ نے جواب دیا۔ ”وہ جہنمی ہے“ اسی کے ساتھ ایک حوالہ تھا: ”جو شخص میرا مخالف ہے وہ عیسائی، یہودی، مشرک اور جہنمی ہے۔“ ”نزول مسیح“ میں سے ص ۴۲ ”تذکرہ“.....

مرزا ناصر احمد: یہ اس کا حوالہ..... وہ دے دیا تھا.....

جناب یحییٰ بختیار: جواب دے دیا تھا؟

مرزا ناصر احمد: ہاں جی، جواب دیا جا چکا ہے۔

(کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا)

جناب یحییٰ بختیار: اچھا اور پھر ایک تہاجی کہ: ”کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا اور میری دعوت کی تصدیق کی مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔“ (آئینہ کمالات اسلام، ص ۵۴۷، ۵۴۸) آپ نے کہا کہ یہ اس کا مطلب اور ہے، عربی میں ”کنجریوں اور بدکاروں“ کا.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: اور آپ اس کو Explain (واضح) کریں گے۔

مرزا ناصر احمد: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: تو ایک تو یہ چیز ہے کہ حوالہ ہے اس قسم کا.....
مرزا ناصر احمد: اس معنوں میں نہیں ہے..... ”نہیں مانیں گے“..... نہیں مستقبل کے متعلق نہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! پہلی بات یہ ہے کہ یہ حوالہ ہے یا نہیں؟

مرزا ناصر احمد: ان الفاظ میں نہیں ہے۔

۱۰۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: اگر..... جن الفاظ میں ہے پہلے آپ وہ سنا دیجئے، پھر اس کے بعد.....

973 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار:..... پوزیشن Clear (واضح) ہو جائے گی۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، وہ ٹھیک ہے۔ (Pause)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! یہ جو آپ ”علحدہ جماعت“ کا کہہ رہے تھے، وہ ”مسحِ ناصری“ والا حوالہ کہہ رہے ہیں آپ؟

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، میں علیحدہ..... آپ نے فرمایا تھا کہ

Impression (تاثیر) ہے ایک دنیا میں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں میں..... ایک حوالہ تھا جو ان کا (ایک رکن کی طرف اشارہ

کر کے) آپ بتائیں گے؟ (مرزا ناصر احمد سے) میں نے کہا: وہ اسی Context میں آرہا ہے: ”کیا مسحِ ناصری نے اپنی امت پر ایسا نہیں کیا“..... مرزا بشیر الدین محمود نے.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، وہ اسی میں.....

جناب یحییٰ بختیار: وہ اسی میں اکٹھا آپ سنائیں گے؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، اکٹھا ہی۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔ میں سمجھا کہ Separate (علحدہ) ہے تو وہ.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، نہیں۔ (Pause)

یہ حوالہ ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں: (عربی)

974 یہ ”آئینہ کمالات اسلام“ ۱۸۹۳ء میں ہے۔ اس میں آپ نے بہت سی کتب کا حوالہ دیا اور اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ نے ان کتب میں حسن اسلام کے بیان کی مجھے توفیق عطا کی اور ہر مسلمان محبت و موڈت کی آنکھ سے ان کتب کی طرف دیکھے گا اور ان سے فائدہ اٹھائے گا اور مجھے قبول کرے گا اور میری دعوت کی تصدیق کرے گا، سوائے ان لوگوں کے جو ہدایت سے دور ہیں، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔“

اس مضمون کو دوسری جگہ آپ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ: ”مجھے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لئے بھیجا ہے اور مجھے بشارت دی گئی ہے کہ تمام نوع انسانی اسلام کو قبول کر لے گی اور صرف وہی باقی رہ جائیں گے جن کی حالت چوہڑوں چماروں کی

۱۰۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

”طرح ہوگی۔“

اور بھی بعض جگہ آیا ہے تو ایک مؤلف کے حوالوں کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس قسم کے جو اس نے مضمون بیان کئے ہوں ان سب کو اپنے سامنے رکھا جائے۔
یہ جو عربی کا صیغہ ہے، یہ حال اور مستقبل ہر دو کے لئے استعمال ہوتا ہے..... حال اور مستقبل ہر دو کے لئے اور دوسرا حوالے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں مستقبل کے لئے ہے، حال کے لئے نہیں۔ معنی یہ نہیں کہ ”قبول کرتے ہیں۔“ جب یہ لکھا گیا تھا اس کے بعد لاکھوں آدمیوں نے قبول کر لیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ”ساری دنیا اسلام کو قبول کرے گی۔“ اور جب میں نے کہا ”قبول کر لیا لاکھوں نے“ تو میری مراد غیر مسلموں کا اسلام قبول کرنا ہے۔ ہماری تبلیغ جو ہو رہی ہے اس وقت افریقہ میں اور یورپ میں اور امریکہ میں، اس کے بعد لاکھوں نے قبول کیا اسلام کو اور⁹⁷⁵ بت پرستوں نے اپنے بت جلائے۔ ہمیں تصویریں آتی رہتی ہیں، وقفے وقفے کے بعد، ان لوگوں کی جو بت جلاتے ہیں۔ تو یہاں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری زمانہ میں یہ مقدر کر رکھا ہے کہ تمام نوع انسانی اسلام کو قبول کر لے گی اور صرف وہ باقی رہ جائیں گے جن کی حالت چوہڑوں چماروں کی طرح ہوگی اور ”ذریۃ البغایا“..... ایسے گمراہ..... آگے اس کی تشریح کی ہے: ”ایسے گمراہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی“.....
صرف وہ اسلام کو قبول کرنے سے پیچھے رہ جائیں گے، باقی سارے قبول کر لیں گے۔
مستقبل کی بات ہے، حال کو کیوں لگائی جاتی ہے؟ (Pause)

(بغایا کا مطلب ”گمراہ“)

جناب یحییٰ بختیار: ”بغایا“ کا مطلب ”گمراہ“ آپ نے کہا؟
مرزا ناصر احمد: ہاں جی، ”سرکش“ خود حضرت مسیح موعود نے اس کے معنی ”سرکش“ کئے ہیں۔ (Pause)
جناب یحییٰ بختیار: یہاں یہ.....
مرزا ناصر احمد: یہ ”الحکم“ میں اس کے معنی..... جو آپ نے دیکھنا شروع کر دیا.....
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مجھے بتایا گیا ہے جی کہ یہاں جو بھی، جہاں بھی ”بغایا“ کا وہ آیا ہے مطلب..... ”زنان فاسقہ، زنان بازاری،..... می آئند زنان فاحشہ، زنان فاحشہ۔“
مرزا ناصر احمد: کس کے معنی ہیں؟ ”ذریۃ البغایا“ کے؟

۱۰۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: ”بغایہ“ کے جی۔

مرزا ناصر احمد: یہ کہاں سے آپ پڑھے جارہے ہیں؟
⁹⁷⁶ جناب یحییٰ بختیار: ”بحنة النور“ میں۔

مرزا ناصر احمد: جی؟

جناب یحییٰ بختیار: ”بحنة النور“ میں۔

مرزا ناصر احمد: ”بحنة النور“ میں اور یہاں یہ ترجمہ ہے۔ ”سرکش انسان“ اور

لغت میں بھی ”سرکش انسان“ مراد ہیں اور میں نے اس دن عرض کی تھی کہ ”بغایہ“.....

جناب یحییٰ بختیار: اسی لفظ پر ہی میں کہہ رہا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: یہ آئندہ کے متعلق ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کے

انسان محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت کو قبول کر لیں گے، اور تھوڑے سے رہ جائیں گے جن کی حالت چوہڑوں چماروں کی طرح ہوگی۔ (Pause) اور ”بغایہ“ جو ہے ”بغیہ“ کی جمع ہے اور ”بغیہ“ کی بھی جمع ہے اور ”بغیہ“ کے معنی ہیں ”زانیہ“، ”بغیہ“ کے معنی ہیں ”ہر اول دتے فوج کے“ اور اس کے یہ معنی کیوں نہیں لئے جاتے؟

(بغایا کا یہ ترجمہ کہاں پرنٹ ہے؟)

جناب یحییٰ بختیار: یہ کسی جگہ بھی آپ نے ”بغایہ“ کا یہ ترجمہ پرنٹ کیا ہوا ہے جو

آپ نے بتایا ہے؟

مرزا ناصر احمد: یہ لغت میں پرنٹ ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، آپ.....

مرزا ناصر احمد: لغت عربی میں۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ نے اسی کا جو.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، یہ جو ”سرکش“ ہے یہ پرنٹ ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، یہ ہاں وہ آپ.....

⁹⁷⁷ مرزا ناصر احمد: وہ پرنٹ ہے، (اپنے وفد کے ایک رکن سے) کہیں اور بھی ہے؟

(اثارنی جنرل سے) دو تین جگہ تھا ”سرکش“۔

جناب یحییٰ بختیار: یہاں تو سب ”بدکار عورت“ ہی چل رہا ہے۔

۱۱۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، ٹھیک ہے۔ میں پرنٹ ہی بتا رہا ہوں آپ کو۔
جناب یحییٰ بختیار: ہاں، تو اس طرح وہ، وہ.....
مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے۔ (Pause) ”الحکم“ جلد گیارہ، نمبر سات۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ مرزا صاحب! یہ جو آپ نے کہا ہے کہ: ”کل مسلمانوں نے
قبول کر لیا“.....

مرزا ناصر احمد: نہ، نہ.....
جناب یحییٰ بختیار: یہ ہے مطلب، کہ نہیں ہے؟
مرزا ناصر احمد: نہیں ”کل دنیا قبول کر لے گی۔“
جناب یحییٰ بختیار: Future (مستقبل) کی بات کر رہے ہیں؟
مرزا ناصر احمد: ہاں، Future (مستقبل) کی بات کر رہے ہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: اچھا۔

مرزا ناصر احمد: ”ساری دنیا“..... دوسری جگہ بڑی وضاحت سے اردو کے بھی
حوالے ہیں، دوسرے بھی ہیں، ان ساروں کو سامنے رکھ کے پھر ترجمہ اس عربی کا ہو سکتا ہے اور جو
عربی کا یہاں صیغہ ہے وہ مستقبل کو بھی..... کے معنی کو جائز قرار دیتا ہے، اور ہمارے نزدیک یہی
معنی ہیں اس کے.....

جناب یحییٰ بختیار: تو..... ہمارا دیجئے پھر۔
مرزا ناصر احمد: ⁹⁷⁸ ”ساری دنیا قبول کر لے گی، سوائے تھوڑے سے انسانوں کے
جن کی حالت جو ہے وہ جو ہڑوں چماروں کی طرح ہوگی“ اور یہاں ”سرکشوں کے طرح ہوگی۔“
جناب یحییٰ بختیار: ”آئینہ کمالات“ دیجئے۔ یہ نہیں ہے ”آئینہ کمالات“ کہہ رہا
ہوں۔ (Pause) یہ آپ نے کس صفحہ سے پڑھا، مرزا صاحب؟

مرزا ناصر احمد: کونسا؟
جناب یحییٰ بختیار: یہ جو ٹرانسلیشن ہے کس Page (صفحہ) سے پڑھا آپ نے؟
مرزا ناصر احمد: ”آئینہ کمالات اسلام“ کا یہ عربی جو ہے، وہ؟

۱۔ قادیانی حضرات خدا کے لئے توجہ فرمائیں کہ مرزا قادیانی کی عبارت ”کل مسلم“
ہر مسلمان مجھے مانتا ہے مگر ذریعہ البغایا نہیں مانتے۔ کل مسلم ہر مسلمان سے نکر کر مرزا ناصر کہتا ہے
”کل دنیا“ اتنا جھوٹ الامان۔ تو یہ کیا قادیانیوں میں رجل رشید نہیں جو اس پر غور کرے؟

۱۱۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، وہ جو ہے، وہ..... نمبر.....
 جناب یحییٰ بختیار: یہ ہیں جی؟
 مرزا ناصر احمد: یہ ”آئینہ کمالات اسلام“ مشمولہ ”روحانی خزائن“.....
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔
 مرزا ناصر احمد: جلد پنجم، ۵۴۷ تا ۵۴۸، طبع ۱۹۷۲ء۔
 جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے، یہی ہے۔ (Pause)
 مرزا ناصر احمد: اس میں تو بڑا واضح ہے: (عربی)
 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! اس کے ساتھ ایک حوالہ تھا.....
 مرزا ناصر احمد: جی۔

(جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا.....)
 ۹۷ جناب یحییٰ بختیار: ”تبلیغ رسالت“: ”جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا، تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے۔“
 مرزا ناصر احمد: اس کا جواب تو دیا جا چکا تھا۔
 جناب یحییٰ بختیار: جی؟
 مرزا ناصر احمد: کہیں تو دوبارہ دے دیتے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، میں نے اپنے اس میں مارک نہیں کیا۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، ٹھیک ہے۔ (Pause)
 (مسلمانوں سے رشتہ ناطہ حرام اور ناجائز ہے)
 جناب یحییٰ بختیار: ایک یہ تھا جی کہ: ”مسلمانوں سے رشتہ ناطہ حرام اور ناجائز ہے۔“
 مرزا ناصر احمد: جی۔
 جناب یحییٰ بختیار: ”انوارِ خلافت“ صفحہ:.....
 مرزا ناصر احمد: اس کا میں نے جواب نہیں دیا پہلے؟ جواب دے دیا۔ اگر چاہتے ہیں میں ابھی بھجوا دیتا ہوں۔

۱۔ بعینہ یہی حوالہ مرزا قادیانی کی مجموعہ وحی کی کتاب (تذکرہ ص ۳۳۶، طبع ۳) میں بھی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، دے چکے ہیں جواب؟
مرزا ناصر احمد: ہاں جی۔ (اپنے وفد کے ایک رکن سے) کیوں جی؟ (انٹرنی جنرل سے) یاد ہے مجھے۔

جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے جی، ویسے میرے وہ پورا ہو جائے ناں، یہاں میں نے.....

مرزا ناصر احمد: اصل میں تو میرے تو بھی اتنے..... اوپر نیچے آپ نے سوالوں کی بھرمار کر دی ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں۔

980 جناب یحییٰ بختیار: میں تو مرزا صاحب!.....
مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، میں..... میری بات تو سن لیجئے، تو اس واسطے ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں نہ حاضر نہ رہا ہو۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مجھے.....
مرزا ناصر احمد: میں صرف یہ بات کر رہا ہوں۔

جناب یحییٰ بختیار: کمیٹی کے ممبروں نے سوال بھیجے ہیں۔
مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔ کیونکہ میں ڈھونڈ نہیں سکتا ہوں، اس لئے ان کی تائید

کروالیتا ہوں، یہ نہ ہو میرا حافظہ جو ہے وہ کام نہ دے اور مجھ پر کل اعتراض آ جائے۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ نہیں، یہ ان شاء اللہ نہیں ہوگا۔ ایسی بات کہ.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، یہ تسلی میں اپنی کرنا چاہتا ہوں۔ (Pause)
Mirza Nasir Ahmad: Mr. Chairman, Sir, I am

feeling tired. (مرزا ناصر احمد: جناب صدر میں تھک چکا ہوں)

Mr. Chairman: Can the witness come after 10 minutes of recess, or 15 minutes of recess?

(جناب چیئر مین: کیا گواہ دس یا پندرہ منٹ کے وقفہ کے بعد آ سکتے ہیں؟)
جناب یحییٰ بختیار: میری یہ Request (گزارش) تھی کہ..... کمیٹی والے کہتے ہیں کہ جلدی ختم کریں کہ دیر ہو رہی ہے۔

۱۔ ”فہت الذی کفر (القرآن)“

۲۔ عاجزی و در ماندگی کو تھکاوٹ کے پردوں میں چھپا کر ہاتھ دکھایا، تیرے کیا کہنے؟

۱۱۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Mr. Chairman: We want to. This is....

(جناب چیئرمین: ہم یہ چاہتے ہیں.....)

Mirza Nasir Ahmad: We meet tomorrow at 10:00 am?

(مرزا ناصر احمد: ہم کل دس بجے اجلاس کر لیں؟)

Mr. Yahya Bakhtiar: Tomorrow, there is a meeting, Speaker is going.... Cabinet.

(جناب یحییٰ بختیار: کل صبح ایک میٹنگ بھی ہے، سپیکر صاحب جا رہے ہیں)

Mr. Chairman: If, if we... either we.... if.... no, we have to give allowance to the witness....

(جناب چیئرمین: نہیں، ہمیں گواہ کا خیال کرنا ہے.....)

⁹⁸¹*Mr. Yahya Bakhtiar: No, because he is tired, we can't....*

(جناب یحییٰ بختیار: جی نہیں، چونکہ وہ تھک گئے ہیں، ہم نہیں کر سکتے.....)

Mr. Chairman: No, no question of continuing, though.... there are two proposals: Either we sit up to 10:00 or we give recess, after 15 minutes to start, and sit up to 10:30 or, if....

(جناب چیئرمین: تو پھر کارروائی جاری رکھنے کا سوال ہی نہیں۔ دو تجاویز ہیں یا تو

ہم دس بجے تک بیٹھیں یا پندرہ منٹ کا وقفہ کر لیں اور پھر ۱۰:۳۰ بجے تک بیٹھیں.....)

Mr. Yahya Bakhtiar: If, if Mirza Sahib....

(جناب یحییٰ بختیار: اگر مرزا صاحب.....)

Mr. Chairman: if the witness feels that he....

(جناب چیئرمین: اگر گواہ خیال کرتے ہیں.....)

جناب یحییٰ بختیار: تھوڑا بیک کر کے.....

Mr. Chairman: he will be unable to, then we can break. (جناب چیئرمین: کہ وہ اس قابل نہیں تو پھر ہم وقفہ کر سکتے ہیں)

۱۱۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں، آج کچھ کام نہیں ہوا، مرزا صاحب! آج صرف پرانے حوالہ جات کے جوابات آئے ہیں۔

Mr. Chairman: It is up to the witness, because witness has the....

(جناب چیئر مین: یہ سب گواہ پر منحصر ہے، کیونکہ گواہ.....)
مرزا ناصر احمد: یہ صحیح ہے آپ کی بات۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم دو گھنٹے انتظار میں بیٹھے رہے اور یہاں نہیں آئے۔

جناب یحییٰ بختیار: آج صبح پلین (Plane) سے ممبروں نے آنا تھا.....
مرزا ناصر احمد: جی۔
جناب یحییٰ بختیار: وہ Delay ہو گیا۔ پھر شام کو اس طرح کورم کی وجہ سے۔ ورنہ.....

Mr. Chairman: It was.....

(جناب چیئر مین: وہ.....)
مرزا ناصر احمد: مطلب یہ ہے کہ آن ڈیوٹی (On Duty) رہے۔

Mr. Chairman: No, no....

(جناب چیئر مین: نہیں، نہیں.....)
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، کوئی آپ کو، Nobody
⁹⁸²*Mr. Chairman: Nobody, nobody is to be blamed.*
(جناب چیئر مین: کسی کا کوئی قصور نہیں)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ایک منٹ کے لئے بھی نہیں ہوتا کہ کورم پورا نہیں آیا.....

Mr. Chairman: Mr. Attorney- General....

(جناب چیئر مین: اٹارنی جنرل صاحب.....)
مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ ٹھیک ہے۔

Mr. Chairman: It was the weather in the morning in Pindi which is responsible.

(جناب چیئر مین: یہ سب صبح کے موسم کی وجہ سے ہے)

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں، *Weather was responsible this morning and....* (صبح کے موسم کی وجہ سے ہے)

Mr. Chairman: It is up to the witness. If the witness likes, he can sit up....

(جناب چیئر مین: گواہ کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بیٹھ سکتے ہیں.....)

جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے، *Tomorrow* (کل)

Mr. Chairman: ... he can, he can be asked; we can, we can adjourn just now, if he likes.

(جناب چیئر مین: اگر وہ چاہیں تو ہم اجلاس ملتوی کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: He is tired, Sir, so.....

(جناب یحییٰ بختیار: جناب والا! وہ تھکا ہوا ہے.....)

Mr. Chairman: Then tomorrow....

(جناب چیئر مین: پھر کل.....)

Mr. Yahya Bakhtiar: Tomorrow evening.

(جناب یحییٰ بختیار: کل شام.....)

Mr. Chairman: at 5:30.

(جناب چیئر مین: ساڑھے پانچ بجے)

Mr. Yahya Bakhtiar: 5:30.

(جناب یحییٰ بختیار: ساڑھے پانچ بجے)

Mr. Chairman: At 5:30, because then we will be having from 5:30 to 7:00 break for Maghrib from 7:30 to 8:30, and from 9:00 to 10:00, because morning.... these are three shifts because we have been doing four.... two in the morning, two in the evening. Tomorrow, we will be having three.

(جناب چیئر مین: کل ۵:۳۰ بجے سے ۷:۰۰ بجے تک، مغرب کی نماز کے وقفہ)

کے بعد اجلاس ۳۰:۷ بجے تا ۸:۳۰ بجے اور اس کے بعد ۹:۰۰ بجے تا ۱۰:۰۰ تک ہوگا، کل ہم تین اجلاس کریں گے)

مرزانا صرا احمد: ⁹⁸³ یہ کیا پھر فیصلہ ہوا؟

Mr. Chairman: The witness is allowed to....

(جناب چیئر مین: گواہ کو واپس جانے کی اجازت ہے)

جناب یحییٰ بختیار: شام کو جی، ساڑھے پانچ بجے۔

جناب چیئر مین: ساڑھے پانچ بجے۔

مرزانا صرا احمد: کل شام ساڑھے پانچ بجے؟

جناب چیئر مین: ہاں جی۔

مرزانا صرا احمد: بس ٹھیک ہے پھر۔

جناب یحییٰ بختیار: سر! دو بریک کر کے وہ کریں گے۔

مرزانا صرا احمد: ہاں، ہاں، ٹھیک ہے۔

Mr. Chairman: The Delegation is allowed to withdraw.

The honourable members may keep sitting.

(جناب چیئر مین: وفد کو واپس جانے کی اجازت ہے، معزز اراکین بدستور

تشریف رکھیں)

جناب یحییٰ بختیار: میں چاہتا ہوں یہ سوال جتنے پورے ہو سکیں جی، ورنہ.....

مرزانا صرا احمد: ہاں، ہاں، ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہم آپ کو تکلیف نہ دیتے۔

Mr. Chairman: And the witness can consider that proposal also about the Hawalajat... the members of the Delegation can discuss it... that it will be read in evidence. That is up to the witness.

(جناب چیئر مین: گواہ بھی حوالہ جات والی تجویز پر غور کر سکتا ہے، وفد کے اراکین

مشورہ کر سکتے ہیں، کہ یہ شہادت کے طور پر پڑھی جائے گی۔ یہ گواہ پر منحصر ہے)

۱۱۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ ٹھیک ہے، میں نے کہا جو ضروری ہوگا وہ.....
 جناب چیئر مین: ٹھیک ہے، جو ضروری ہو وہ پڑھیں، جو ضروری نہ ہو وہ فائل کر دیں۔
 مرزانا صراحمہ: وہ باقی فائل کروادیں۔

⁹⁸⁴ Mr. Chairman: The honourable members may
 keep sitting. (جناب چیئر مین: معزز اراکین تشریف رکھیں)

(Pause)

مرزانا صراحمہ: السلام علیکم!
 جناب یحییٰ بختیار: وعلیکم!

(The delegation left the chamber)

(دفند چیئر سے چلا گیا)

Mr. Chairman: The Reporters can leave also, they
 are free. No tape.

(جناب چیئر مین: رپورٹروں کو بھی چھٹی ہے، وہ آزاد ہیں)

Tomorrow, at 5:30 pm. (کل ساڑھے پانچ بجے)

Thank you very much. (آپ کا بہت بہت شکریہ)

[The Special Committee of the whole house
 subsequently adjourned to meet at half past five of the clock,
 in the afternoon, on Wednesday, the 21st August, 1974.]

(کل ایوانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ۲۱ اگست ۱۹۷۴ء بروز بدھ شام ساڑھے پانچ بجے

تک کے لئے ملتوی ہوتا ہے)

[The Special Committee adjourned to meet at half
 past five of the clock in the afternoon, on Friday, the 21st
 August, 1974.]

۱۱۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

No. 8



THE
NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

PROCEEDINGS
OF
THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE

OFFICIAL REPORT

Wednesday, the 21st August, 1974

(Contain Nos. 1—21)

CONTENTS

	<i>Pages</i>
1 Letters from Qadian Groups Re: Supply of Tapes and Advance Notices of Question in Cross-examination	988-999
2 Procedure Re: Verification of Quotations	990-992
3 Suggestion Re: Meeting of the Steering Committee	992
4 Secretary of the Proceedings	992-993
5 Cross-examination of the Qadian Group Delegation	993-1028
6 Time for Cross-examination	1028
7 Attendance in the Committee	1028-1030
8 Cross-examination of the Qadian Group Delegation—(Continued)	1030-1100

PRINTED BY THE MANAGER, PRINTING CORPORATION OF PAKISTAN PRESS, ISLAMABAD.
PUBLISHED BY THE NATIONAL BOOK FOUNDATION, ISLAMABAD

۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

No. 8



THE
NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

PROCEEDINGS
OF
THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE

OFFICIAL REPORT

Wednesday, the 21st August, 1974

(Contains Nos. 1—21)

۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

⁹⁸⁷ **THE NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN**

(قومی اسمبلی پاکستان)

PROCEEDINGS
OF
THE SPECIAL COMMITTEE OF THE
WHOLE HOUSE HELD IN CAMERA
TO CONSIDER THE QADIANI ISSUE.

OFFICIAL REPORT

Wednesday, the 21th August, 1974.

(کل ایوانی خصوصی کمیٹی بند کرے کی کارروائی)

(۲۱ اگست ۱۹۷۴ء، بروز بدھ)

The Special Committee of the Whole House met in Camera in the Assembly Chamber, (State Bank Building), Islamabad, at half past five of the clock in the after noon.

Mr. Chairman (Sahibzada Farooq Ali) in the Chair.

(مکمل ایوان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس اسمبلی چیمبر (سٹیٹ بینک بلڈنگ) اسلام آباد

شام ساڑھے پانچ بجے جناب چیئرمین (صاحبزادہ فاروق علی) کی زیر صدارت منعقد ہوا)

(Recitation from the Holy Quran)

(تلاوت قرآن شریف)

 ۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم
 کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
 اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
 یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
 گاہے گاہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

988
**LETTERS FROM QADIANI GROUPS RE:
SUPPLY OF TAPES AND ADVANCE NOTICES
OF QUESTIONS IN CROSS EXAMINATION**

(قادیانی گروہوں کے خطوط، ٹیپس کی فراہمی اور جرح کے سوالات کا پیشگی نوٹس)

Mr. Chairman: Before they are called, two letters have been addressed to the secretary, National Assembly, by Mirza Mansur Ahmed, Nazir-e-Aala, Sadar Anjumane, Ahmadiyyas Pakistan, Rabwah. One for the supply of the tape, and the other. I will read it.

Of the tape, that. I have refused in any Chamber. At present it cannot be granted to any person because our proceedings are confidential. The House agree with me?

(جناب چیئرمین: ان (وفد) کے بلانے سے قبل میں بتانا چاہتا ہوں کہ سیکرٹری نیشنل اسمبلی کو مرزا منصور احمد ناظم اعلیٰ جماعت احمدیہ کی طرف سے دو خطوط موصول ہوئے ہیں جن میں سے ایک اجلاس کی کارروائی کی نقل حاصل کرنے کے متعلق تھا جسے میں نے اپنے چیئرمین نامنظور کر دیا ہے۔ اس اجلاس کی کارروائی خفیہ ہے، اس لئے فی الحال اس کی نقل نہیں دی جاسکتی۔ کیا ایوان مجھ سے اتفاق کر رہا ہے؟)

Members: Yes. (اراکین: جی ہاں!)

Mr. Mohammad Haneef Khan: Sir, you used the words "at present". I think, not at present, the tape of the Assembly cannot be granted at any time.

(جناب محمد حفیظ خان: آپ نے لفظ فی الحال استعمال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کی کارروائی کا ٹیپ کسی مرحلہ پر نہیں دیا جاسکتا ہے)

Mr. Chairman: At any time. The order is that this time this request cannot be conceded.

(چیئرمین صاحب: کسی وقت بھی۔ فیصلہ یہ ہے کہ جو درخواست اب کی گئی ہے

۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

منظور نہیں کی جاسکتی)

Prof Ghafoor Ahmed: Even proceedings should not be given. Not only the tapes.

(پروفیسر غفور احمد: نہ صرف ٹیپ بلکہ کارروائی (کی نقل) بھی نہیں دینا چاہئے)

Mr. Chairman: The proceedings shall be given only to the honourable members, which are ready, which yesterday, I said that they can collect the proceedings.

The Second letter, the operation portion. I read in the House:

"in any opinion, to facilitate the matter and to assist the Committee in reaching a just conclusion, which the Committee so earnestly desires and also in order to be fair to the parties concerned, it would be advisable if the written questions are given in advance and their answers submitted in writing. As a result of our experience in the first session in the Committee, we sincerely believe that had this procedure been adopted earlier, it would have saved a lot of valuable time of the House. After all, it is not a criminal proceedings or an ordinary legal cross examination of an accused, an individual or a praty. The Committee is studying a very serious matter involving religious beliefs of millions of people in a grave moment and not only in the history of Pakistan but also in the history of Islam. I would, therefore, be grateful if you please convey our request to the Steering Committee. I am sure, the Committee, realizing the gravity and the seriousness of the issue, would grant our request.

۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

I would love to hear the Attorney- General.

(جناب چیئرمین: کارروائی کی نقول صرف معزز اراکین کو دی جائیں گی۔ یہ نقول تیار ہیں، کل میں نے کہا تھا کہ نقول لے سکتے ہیں، دوسرا خط میں پڑھ دیتا ہوں۔ ”میری رائے میں کمیٹی کی سہولت کی خاطر اور مسئلہ زیر بحث میں کسی مناسب نتیجہ پر پہنچنے کے لئے جس پے کمیٹی دل و جان سے خواہش مند ہے، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سوالات پیشگی طور پر تحریر آدیے جائیں اور ان کے جواب بھی تحریر پیش ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ضابطہ پہلے اپنایا جاتا تو ایوان کا بہت سا قیمتی وقت بچایا جاسکتا تھا۔ یہ کسی فوجداری مقدمہ کی کارروائی تو نہیں نہ ہی کسی ملزم یا فرد یا فریق پر قانونی جرح ہو رہی ہے بلکہ کمیٹی لاکھوں انسانوں کے مذہبی اعتقادات جیسے اہم معاملہ پر غور کر رہی ہے۔ یہ ایک نہ صرف تاریخ پاکستان بلکہ تاریخ اسلام میں بہت ہی نازک مرحلہ ہے اس لئے میں شکر گزار ہوں گا اگر آپ ہماری درخواست سٹیئرنگ کمیٹی کو پہنچادیں۔ مجھے یقین ہے کہ معاملہ کی اہمیت اور نزاکت کے پیش نظر کمیٹی ہماری گزارش کو منظور کرے گی۔ اب میں اٹارنی جنرل کے خیالات معلوم کرنا چاہتا ہوں)

Mr. Yahya Bakhtiar (Attorney Genral of Pakistan): Sir, the Delegation has come to the Assembly at their own request. They wanted to be heard. If they wanted to be heard, then they will have be present and we will question to elaborate certain points. Now, it is impossible to send questions in advance because, whenever we ask a question there are five, six, ten supplementaries for clarification. That would mean that whatever supplementary question I ask, that have to be given to them in writing. You will give time after that and they will sbmit written reply. If the written replies were to be taken from then, them they would not have come at all. We could have sent a number of questions as interrogatory which they could have answered from Rabwah. But the point was than that thay should

۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

clarify the position. And it is not possible, it is physically impossible. Point as far as the hearing in concerned, Sir, I am the first person to give them as much time as they wanted.

Now we are at the fag end of this examination. Whenever they wanted more to answer any question, they have been given the time by you and by the house. There was a break of Days. About fifteen questions they prepared, and answered those yesterday. So I think, this is not a reasonable question nor is it practicable.

(جناب یحییٰ بخٹیا: جناب والا، وفد خود اپنی درخواست پر اسمبلی میں آیا ہے۔ وہ اپنا موقف (اسمبلی میں) پیش کرنا چاہتے ہیں، جب وہ ایسا کریں گے یا کرتے ہیں تو پھر ہم ضروری نکات کی وضاحت کے لئے سوالات کریں گے۔ تاہم سوالات پیچیدگی دینا ممکن نہیں، کیونکہ جب ایک سوال ہوتا ہے تو اس کی وضاحت میں ۵، ۶ یا ۱۰ ضمنی سوالات کرنے پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ضمنی سوال بھی مجھے لکھ کر دینا ہوں گے۔ تو پھر ان کو تحریری جواب کے لئے وقت دیں گے۔ اگر صرف تحریری جوابات ہی لینا مقصود تھا تو پھر وفد کو یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہم انہیں سوال، سوالنامہ کی شکل میں بھیج دیتے ہیں اور وہ ربوہ سے جواب ارسال کر دیتے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ معاملہ کی وضاحت کریں اور یہ تحریری سوال و جواب کی صورت میں ناممکن ہے۔ جہاں تک سماعت کا تعلق ہے، میں پہلا شخص ہوں جو ان (وفد) کو جتنا وقت درکار ہو دینے کو تیار ہوں۔ اب ہم بیان دینے والے اختتام کے قریب ہیں۔ جب بھی انہوں نے کسی جواب کے لئے مہلت کی خواہش کا اظہار کیا ہے تو آپ نے اور ایوان نے ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا ہے۔ ابھی دس یوم کی تعطیل تھی، انہوں نے قریباً پندرہ سوالوں کے جواب تیار کر کے کل پیش کئے تھے، چنانچہ میرے خیال میں (تحریری سوال و جواب والی) درخواست قابل عمل نہیں)

Mr. Chairman: Now, I think, most of the questions are over and the supplementaries are going on.

(جناب چیئرمین: میرے خیال میں بہت سے سوال ہو چکے ہیں.....)

۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

Mr. Yahya Bakhtiar: Only on three subjects. And, about every subject, I tell them in advance. That about Akhand Bharat, I am going to ask a few questions; about "their Separatism" I am going to ask a few questions; About "Jehad" I am going to ask a few questions; about "Khatme-Nabooat" I am going to ask a few questions and they know the subject.

(جناب یحییٰ بختیار: صرف تین عنوانات کے متعلق اور ہر عنوان کے متعلق میں نے انہیں قبل از وقت آگاہ کر دیا تھا۔ یہ (عنوان) اکھنڈ بھارت، علیحدگی پسندی، جہاد اور ختم نبوت ہیں۔ ان عنوانات کے سلسلہ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، ان کو عنوانات کا علم ہے)

Mr. Chairman: So, is the House of the opinion that request also cannot be granted?

(جناب چیئر مین: کیا ایوان اس درخواست کو منظور کرنے کے حق میں ہے؟)

Members: Yes. (ممبران: جی ہاں)

Mr. Chairman: Unanimous. Any thing else? They may be called. Yes, they may be called.

Just a minute.

(جناب چیئر مین: یہ منفقہ طور پر منظور کیا اور بات، اچھا نہیں (وفد کو) بلا لیں) مولانا ظفر احمد انصاری: جناب والا! ایک چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں..... جناب چیئر مین: اوپر باہر بٹھادیں۔ جی۔ مولانا ظفر احمد انصاری!

PROCEDURE RE: VERIFICATION OF QUOTATIONS

(اقتباسات کی تصدیق کا طریقہ کار)

جناب محمد ظفر احمد انصاری: بہت سے ممبر صاحبان بار بار یہ کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو

۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

رہی ہے، دیر یقیناً ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ جب ہم نے ایک دفعہ یہ کام شروع کر دیا ہے تو پھر اس کو کسی ایسے مرحلے پر چھوڑنا بہت غلط ہوگا اور ہمارے مقصد کے لئے مضر ہوگا۔ ایک تجویز یہ میرے ذہن میں ہے کہ ہم کسی موضوع پر چار، پانچ، چھ "Quotations" (اقتباسات) ان کے ایک دفعہ پڑھ دیں اور ان سے یہ کہیں کہ وہ اس کو "Admit" (تسلیم) کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس وقت کوئی "Explanation" (وضاحت) وغیرہ نہ لیں۔ اگر وہ "Admit" (اقرار) نہیں کرتے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اور بجٹل پروڈیوس کریں بہر حال، ہماری کوشش.....

991 جناب چیئر مین: اگر آپ اور بجٹل پروڈیوس کریں تو بڑا Easy (آسان) ہوتا ہے۔ جب آپ حوالہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں: "ہم دیکھیں گے، چیک کریں گے، Verify (تصدیق) کریں گے۔" Because this is good.

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیزیں ہمارے پاس ہیں موجود ہیں ان کو تو، پہلے تو ہم یہ سوال انہی سے کریں کہ: "آپ اس کو Admit کرتے ہیں یا نہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ جیسے "جہاد" کے موضوع پر اگر سات آٹھ تحریریں ان کو پڑھ کر کے بتادیں کہ "یہ ہے، آیا انہوں نے لکھا ہے یا نہیں لکھا؟" اور اگر وہ Admit کر لیں۔ پھر Explanation کے لئے اور سپلیمنٹری کے لئے وہ وقت لے سکتے ہیں۔"

Mr. Chairman: Yesterday, I observed in the House. (جناب چیئر مین: کل میں نے ایوان کے اندر معلوم کیا تھا)

مولانا صاحب! آپ سن لیں ذرا۔ یہ بھی میں نے آبرویشن کی تھی Not on I consulted the Attorney- General, Now almost the ہلکہ this ہawalajat are over. اب جو حوالہ جات ہیں، ان کا جواب اگر وہ فائل کر دیں گے تو That will be read as part of the evidence (وہ شہادت کا حصہ تصور ہوں گے) اگر Explanation (وضاحت) ہے، مختصر دے دیں۔ And now very few ہawalajat have remained. (اور اب تو بہت ہی کم حوالہ جات باقی رہ گئے ہیں)

مولانا محمد ظفر احمد انصاری: جناب والا! ابھی کئی موضوع ایسے ہیں، جیسا کہ انارنی جنرل نے فرمایا ہے کہ "اکھنڈ بھارت" کے متعلق کچھ پوچھنا ہے، مسلم ممالک کے متعلق ان کا جو Attitude ہے، جہاد کے متعلق جو کچھ ہے، اور مسلمانوں سے ہر چیز میں جو مختلف ہیں، اس کے سارے میں.....

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب چیئر مین: نہیں، آپ سوال پوچھتے جائیں، ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو
یہ جتنی جلدی ختم ہو سکے۔ Definitely, now the object is- we are meeting
in the morning, the objects to expedite the matter and finish⁹⁹²
(صبح و شام اجلاس کر کے اس کارروائی کو جلد مکمل کر لیں) it as early as we can.
اچھا جی!

**SUGGESTION RE: MEETING OF THE
STEERING COMMITTEE**

(سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس)

پروفیسر غفور احمد: جناب والا! میرا ایک "Suggestion" (مشورہ) یہ ہے کہ ہم،
سٹیئرنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی اب بلا لیں تاکہ پروگرام "Finalize" (حتمی شکل) کر دیں۔

Mr. Chairman: That is very necessary. I think let
the law Minister come. He promised to come at 7:30 after
Maghrib prayers. Then we can fix a time.

میں چاہتا ہوں کہ کل "Full day utilize" (سارا دن استعمال) ہو۔ مارٹنگ،
ایوننگ..... This is my کل شام کو جب نوبے ختم کریں، ساڑھے نو،

"Then Steering Committee should go into session
and review the progress and give a decision. and...."

(جناب چیئر مین: یہ بہت ضروری ہے کہ وزیر قانون کو آ لینے دیں۔ انہوں نے
ساڑھے سات بجے شام آنے کا وعدہ کیا۔ پھر ہم مقرر کر لیں گے۔ سٹیئرنگ کمیٹی پورا جائزہ لے کر
فیصلہ کرے)

(Interruption)

جناب چیئر مین: جی، بیٹھیں گے جی۔ لانسٹر صاحب آ جائیں تو پروفیسر صاحب!
آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ "and decide the matter and tell me" (اور)
اس معاملے میں فیصلہ کریں اور مجھے بتائیں)

They may be called. (ایک منٹ ٹھہر جائیں)

۱۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ڈاکٹر محمد شفیع!

SECURITY OF THE PROCEEDING

(کارروائی کا خفیہ ہونا)

ڈاکٹر محمد شفیع: یہ *Proceedings* جو ہیں یہ *Secret* ہیں ہاں جی؟

93 جناب چیئرمین: جی، *Secret* ہیں۔

ڈاکٹر محمد شفیع: وہ دروازہ کھلا رہتا ہے، اور وہاں کوئی سنتا رہتا ہے، *Constantly*

جناب چیئرمین: سیکرٹری سے یہ چیک کر کے بتائیں *Who is the*

Messenger Clerks person? ہیں۔ *He is either* یہ غلط طریقہ ہے۔

Malik Mohammad Akhtar: Wanted to say something. اچھا

Yes, they may be called.

ملک محمد اختر: گے آں، دیکھو کتھے پہنچانے نہیں۔

جناب چیئرمین: ملک صاحب دیر سے آئے ہیں آج، کافی دیر سے۔ بلائیں،

بلائیں۔ سارجنٹ ایٹ آمرز کو کہیں کہ یہاں، وہاں، ان دروازوں پر، ان دروازوں پر، کسی

دروازے پر بھی نہیں ہونا چاہئے۔

(The Delegation entered the Chamber)

(وفد ہال میں داخل ہوتا ہے)

Mr. Chairman: Yes, Mr. Attorney General.

(جناب چیئرمین: جی! اٹارنی جنرل صاحب)

CROSS- EXAMINATION OF THE QADIANI

GROUP DELEGATION

||

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے بازخواں ایس قصہء پارینہ را.....

(قادیانی وفد پر جرح)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ کوئی بات رہ گئی ہو؟
مرزا ناصر احمد (گواہ سربراہ جماعت احمدیہ ربوہ): ایک تو کل آپ نے فرمایا تھا
وہ کون سا اخبار ہے..... یہ ”الفضل“ کے متعلق کچھ چیک کرنا تھا.....

جناب یحییٰ بختیار: جی ہاں۔

مرزا ناصر احمد: ۱۹۱۶ء کا ہے۔ وہ اگر..... میں اس واسطے صرف تکلیف
دے رہا ہوں کہ پوری طرح یاد نہیں ناں رہتا۔ جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ ۱۹۱۶ء میں حضرت خلیفہ
ثانی نے جو تفسیر کی ہے یا جو مطلب بیان کیا ہے ”خطبہ الہامیہ“ کی اس عبارت کا، وہ اس سے
مختلف ہے یا اس کے مطابق ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا؟ تو اس اخبار میں حضرت خلیفہ ثانی کا
کوئی بیان نہیں، کوئی خطبہ یا تحریر نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، وہ پھر میں آپ کو لادوں گا، بعد
میں اور تو کوئی نہیں۔

(حوالوں کو چھپانے کا حربہ)

مرزا ناصر احمد: اس کے علاوہ؟

جناب یحییٰ بختیار: کسی اور پرچے میں نہیں ہے کسی اور تاریخ میں؟ کوئی ایسا آئیڈیا
نہیں ہے آپ کا؟

مرزا ناصر احمد: یہ بڑے ادب کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو مجھ پر الزام
لگایا گیا.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! میں نے کوئی الزام نہیں لگایا۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، میری بات تو سن لیں۔ اس لئے جو سوالوں کے متعلق حوالے
چاہئیں اسے معزز اراکین، جو چاہیں، خود تلاش کریں اور ہمیں آپ صرف یہ پوچھیں ”یہ حوالہ ہے، اس کا
مطلب کیا ہے؟ ہماری طرف سے..... ہم پر یہ بوجھ نہ ڈالیں کہ آپ کے لئے ہم حوالے تلاش کریں۔“

۱ خوبصورت فرار کا جواز، ارے مرزا ناصر احمد۔ آپ کی کتابیں آپ کے اخبارات اگر
ان میں صداقت ہے تو چھپاتے کیوں ہیں؟ لائیں تاکہ آپ کو تبلیغ کا موقع ملے۔ پھر آپ خود تو
درخواست کر کے یہاں آئے تھے جتنے شوق سے آئے اتنے زور سے اب راہ فرار؟

۱۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب بیگیٰ بختیار: نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ میں ابھی یہی کروں گا کہ اگر آپ کہیں کہ اس حوالے کا آپ کو علم نہیں ہے تو کافی ہے۔

مرزا ناصر احمد: ⁹⁹⁵ صرف جو حوالہ آپ کہیں کہ ”فلاں کتاب میں ہے“ اسی تاریخ کے متعلق میں بات کروں گا، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کی بھی بات نہیں کروں گا۔ آپ.....

جناب بیگیٰ بختیار: نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب! بات یہ ہے، یہ جو حوالہ جات ہیں، کچھ اخباروں میں، کچھ رسالوں میں، کچھ کتابوں میں *Re-produce* کر کے کتابت کی غلطی ہو جاتی ہے، اور ممبر صاحب کہیں سے اٹھا کے مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، تو وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ بعض دفعہ کی تاریخ میں فرق دس دن کا۔ ”21“ کی جگہ ”31“ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات سال کا فرق ہو جاتا ہے ”51“ کی جگہ..... تو ایسا ہو جاتا ہے۔

مرزا ناصر احمد: تو جو پوچھنے والے ہیں، وہ ذرا محنت کر لیا کریں۔

جناب بیگیٰ بختیار: نہیں جی، پھر وہ ان کے پاس نہیں ”افضل“ آپ کے پاس ہے، ساری فائل، اور باقی ممبروں کے پاس ایسی فائل ہے ہی نہیں اور زیادہ حوالہ جات ”افضل“ کے ہیں۔ تو یہ ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ باقی یہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں مل رہا تو.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں نے تو صرف یہ عرض کی ہے کہ میں نے اپنی طرف سے نہایت دیانت داری کے ساتھ خود ہی اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ ہم تلاش کریں گے۔ لیکن اس کا بدلہ مجھے یہ دیا گیا کہ بڑا نامناسب ایک اعتراض مجھ پر کر دیا گیا.....

جناب بیگیٰ بختیار: مرزا صاحب! مرزا صاحب!.....

مرزا ناصر احمد: تو اس واسطے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بوجھ آپ کا ہے وہ آپ اٹھائیں، جو ہمارا ہے وہ ہم اٹھانے کی کوشش کریں گے۔

جناب بیگیٰ بختیار: ⁹⁹⁶ مرزا صاحب! میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کی دیانت پر شک نہیں کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے، آپ نے وہ الفاظ سنے تھے۔ میں نے دو دفعہ یہ کہا کہ ”مرزا صاحب“ میں آپ کی دیانت پر شک نہیں کرتا۔“ سوال یہ تھا کہ میں نے ایک سوال پوچھا اور آپ نے کہا کہ: ”آپ اس کی تائید کرتے ہیں، نہ تردید کرتے ہیں۔“ اس کے بعد جب میں نے حوالہ

۱ تاکہ دہل کامل اور تلمیس ابلیس میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔

۲ مرزا ناصر احمد! بس کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ جان چھڑانے کے لئے اتنے ہاتھ پاؤں مارنے مستحسن نہیں۔

۱۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

دکھایا تو آپ نے کہا کہ ”ہاں، ہم سے یہ منیر کمیٹی میں بھی پوچھا گیا تھا، ہم نے یہی جواب دیا“ تو میں نے اتنا عرض کیا کہ ”آپ کو یہ جواب معلوم تھا، حوالہ بھی معلوم ہونا چاہئے“ پھر آپ کیوں Avoid کر رہے تھے؟

مرزانا صراحتاً: نہیں، مجھے..... میں نے یہ بتایا تھا کہ مجھے میرے ساتھی نے کہا.....
جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے، وہ Clarify ہو گیا، تو وہ بات تو ٹھیک ہو گئی کہ بات ریکارڈ میں اس قسم کی آئی تھی، آپ نے Clarify کر دیا کہ ان کو معلوم تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا۔

مرزانا صراحتاً: یہ ایک وہ لمبا ایک جواب ہے۔ وہ بھی ایک گزارش ہے ایک یہ جب ہم چھ دن کے بعد..... جب یہاں ہو رہی تھی..... التوا ہو رہا تھا، Recess جب ہو رہی تھی، تو اس دن شام کو آپ نے فرمایا تھا کہ میں کچھ سوال کروں گا کہ Tendency ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں Separatist.....

مرزانا صراحتاً: Separatist اس سلسلے میں ایک طائرانہ نظر گزشتہ 90 سال پر ڈالنا چاہتا ہوں اور وہ بڑی ایک مضبوط بیک گراؤنڈ ایک پس منظر ہو جائے گا۔ تو وہ ایک..... صرف سنگ میل جہاں ہیں، موتی موٹی اہم باتیں..... تو اس کے بعد جو آدھا فقرہ، ایک فقرہ لے کے ایک سوال ہوتا ہے، اس کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔

997 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! آپ درست فرما رہے ہیں۔ ایک مشکل یہ ہے کہ اگر آپ Written Reply پڑھ کے سنائیں گے اور آپ نے.....

مرزانا صراحتاً: میں Written، میں Written Reply پڑھ کے نہیں سناؤں گا، آپ نے مجھے منع فرما دیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں نے کہا کہ وہ طریقہ نہیں ہے۔ کوئی حوالہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔

مرزانا صراحتاً: حوالہ ہی پڑھوں گا، باقی میں زبانی کہوں گا۔

جناب یحییٰ بختیار: بات یہ ہے کہ میں نے کچھ حوالہ جات کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی، ان کی Basis پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ Impression ہے کہ آپ کے ہاں Separatism یا Separatist Tendency موجود ہے اور آپ نے کہا تھا کہ اس کا جواب دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ایک دو باتیں اور بھی پوچھ لیتا ہوں آپ سے.....

مرزانا صراحتاً: جی، ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: کیونکہ اگر اسی پوائنٹ پر اب آنا ہے، تو پیشتر کہ آپ جواب دیں، آپ نے فرمایا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ اس کی اپنی وجوہات ہیں..... باقی مسلمانوں سے..... تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ آپ Separatist ہیں۔ وہ ہو چکا ہے، اس لئے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں.....
مرزانا صراحتاً: نہیں، وہ نہیں.....

(غیر احمدیوں سے شادی؟)

جناب یحییٰ بختیار: Repeat نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیوں احمدی لڑکی کی شادی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ آپ نے کہا: ”یہ پالیسی ہے، عقیدہ نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خوش نہیں رہتے۔“
98 مرزانا صراحتاً: یہ فقرہ میں نے پورا سنا نہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: میں پھر Repeat کرتا ہوں۔
مرزانا صراحتاً: یعنی احمدی کسی احمدی لڑکی کی.....
جناب یحییٰ بختیار: شادی کس مسلمان سے یا غیر احمدی سے.....؟
مرزانا صراحتاً: ہاں، کسی احمدی لڑکی کی شادی کسی دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والے سے نہیں کی جاتی۔

جناب یحییٰ بختیار: ”ہم اجازت نہیں دیتے“.....
مرزانا صراحتاً: لفظی چیز ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ نے وجہ اس کی یہ بتائی۔ میں نے پھر کہا کہ ”آپ کا عقیدہ ہے، کیا آپ نے اس پر کوئی آرڈر پاس کیا ہوا ہے؟ جو کہ عقیدہ کہیں، رول کہیں۔“ تو آپ نے کہا کہ ”نہیں، ہمارا تجربہ ایسا ہے کہ جس کی بنا پر وہ خوش نہیں رہتے۔“ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ آپ کسی مسلمان پر یہ توقع نہیں رکھتے کہ شرع کے مطابق وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے کرے گا جو ایک احمدی کر سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ Repeat کر رہا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ رہے تو اس پر بھی زیادہ مزید بحث کی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ ایک حوالہ دکھاؤں گا جس کے مطابق، میری رائے میں، یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ کوئی آپ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ کیونکہ آپ کا تجربہ تلخ ہے، بلکہ آپ کا آرڈر ہے، ایک قسم کا عقیدہ ہے، رول ہے، اس کی طرف توجہ دلاؤں گا اور یہ بہت عرصے سے ہے یہ۔ اس پر بھی۔ تاکہ جب Deal کریں اس سے۔ اس Aspect پر ضرور کچھ کہیں۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

مرزانا صراحتاً: ہاں جی، میں پھر اس سے بھی زیادہ عرصے سے جو وہی چیز کا جواب میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ.....

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: سو بانی جو ہیں وہ تو میں نے بتا دیئے آپ کو، جس Sense میں آپ نے اپنے کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی.....

مرزانا صراحتاً: نہیں، بالکل نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، وہ جو چیزیں.....

مرزانا صراحتاً: ہاں ہاں، یعنی آگیا، جواب آگیا۔

جناب یحییٰ بختیار: جواب آگیا ہے، میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کی Separatist Tendency کس وجہ سے تھی، اتنے حوالے ہیں کہ ”وہ اور قوم ہے، تم اور قوم ہو، کیوں اس میں گھسنا چاہتے ہو؟“ وہ میں پھر نہیں Repeat کروں گا جو ریکارڈ پر آچکا ہے۔ آپ پھر بے شک تفصیل سے جواب دے دیں اس کا۔

مرزانا صراحتاً: نہیں، میں نے تو جواب دے دیا تھا۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں ہاں، ٹھیک ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں۔

(ہمیں پارسیوں اور عیسائیوں کی طرح علیحدہ نمائندگی دی جائے)

جناب یحییٰ بختیار: اب مرزا صاحب! پیشتر اس کے کہ میں اس مسئلہ پر کچھ اور سوالات آپ سے پوچھوں، ایک چھوٹا پوائنٹ تھا۔ کل آپ نے ”مفضل ۱۹۴۶ء“ ایک پرچہ ۱۳ نومبر کا یہاں فائل کیا۔ اگر میں غلط نہیں سمجھا، تو آپ نے فرمایا تھا۔ کیونکہ سوال یہ تھا کہ: ”کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے ایک نمائندے کو ایک بہت بڑے انگریز آفیسر کے پاس بھیجا تھا اور ان کو کہا تھا کہ پارسیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح ہمیں بھی علیحدہ نمائندگی دی جائے۔“ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کل کہ: ”یہ اخبار موجود ہے، خطبہ موجود ہے، اس میں۔“ آپ نے کہا کہ ”ان دونوں میں.....“

مرزانا صراحتاً: میں نے بعد میں وضاحت کی تھی کہ دہلی کا سفر جہاں لکھا ہوا ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ: ”ان دونوں

پارٹیشن کی باتیں ہو رہی تھیں کہ کون سا ڈسٹرکٹ آئے گا، کون سا ڈسٹرکٹ جائے گا۔ گورداسپور میں ۵۱ فیصد پاپولیشن مسلمانوں کی، جس میں بہت زیادہ تعداد احمدیوں کی تھی اور سوال یہ تھا کہ یہ یہاں جائے گا یا وہاں جائے احمدی کیا رول Play کریں گے۔ ان حالات میں یہ خطبہ دیا گیا۔ پھر دہلی کا سفر ہوا اور وہ مسلم لیگ کی تائید سے وہ مطالبہ پیش کیا گیا، 'ایک تو مرزا صاحب! اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کہ پارٹیشن کی بات ہو رہی تھی، ڈسٹرکٹ کی بات ہو رہی تھی کہ پاپولیشن ۵۱ فیصد ہے ۲۹ فیصد تھی، جس سے پتہ لگے کہ یہ بیگ گراؤنڈ تھا۔ میں آپ کو.....'

مرزانا صراحتاً: نہیں، نہیں، Interim گورنمنٹ، وہ اسی کا تو ذکر ہو رہا ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میرا خیال تھا کہ آپ اس میں کہتے ہیں کہ مضمون میں یہ

چیز موجود ہے۔

مرزانا صراحتاً: نہیں، نہیں، مضمون نہیں جی، میں پس منظر بتا رہا تھا۔
جناب یحییٰ بختیار: ہاں وہ ٹھیک ہے، پس منظر ہوگا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پس منظر نہیں تھا، یہ بعد کی بات تھی، نومبر ۱۹۴۹ء میں، مسلم لیگ اسی وقت شامل ہوئی تھی Interim گورنمنٹ میں، مگر گورنمنٹ کا ارادہ.....

مرزانا صراحتاً: نومبر ۱۹۴۹ء نہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، ۱۹۴۶ء۔

مرزانا صراحتاً: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: مگر گورنمنٹ کا اس وقت کا ارادہ، صاف معلوم نہیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اس وقت یہی کوشش کی کہ اگر انگریز کوئی فیصلہ مسلمانوں کے خلاف، مسلم لیگ کے خلاف دے گا تو وہ اسے اپنے خلاف سمجھیں¹⁰⁰¹ گے، قوم کے خلاف سمجھیں گے، بڑی واضح چیز ہے سامنے۔ جو چیز واضح ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے اور اس غرض کے لئے وہ وہاں سے چلے کہ وہ مسلمان جو مسلم لیگ میں نہیں۔ احمدی۔ جن کے بارے میں یہاں لکھا گیا کہ مسلم لیگ ان کو اپنے میں شامل نہیں کرتی تعصب کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے، اور کانگریس میں یہ شامل نہیں ہونا چاہتے۔ باقی بھی کچھ مسلمان تھے جو کہ مسلم لیگ میں نہیں تھے، بڑی بڑی پوزیشن کے لوگ تھے، آغا خان جیسے تھے۔ باقی آپ نے ذکر کیا اس میں، ان کو Contact کیا تا کہ وہ برٹش گورنمنٹ پر واضح کریں کہ ان کا سب کا تعاون لیگ کے ساتھ ہے۔ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں پوزیشن؟
مرزانا صراحتاً: جی، جی۔

۱۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(مسلم لیگ پرا حسان نہ دھریں، آپ کے اپنے مفادات تھے)

جناب یحییٰ بختیار: اس بارے میں آپ نے مشورہ کیا مسلم لیگ سے، اس بارے میں، مسلم لیگ نے کہا کہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال آیا تھا۔ مرزا صاحب سے کسی نے پوچھا۔ یہ تو ٹھیک ہے آپ سفر پر گئے تھے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں: ”دوستوں نے لکھا ہے کہ وائسرائے پنڈت جواہر لال نہرو مسٹر جناح کے مشوروں کا ذکر تو اخباروں میں آتا ہے، آپ کا کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ تو سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں۔ وہ تو ان سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں جنہوں نے باہمی فیصلہ کرنا تھا اور ہم کسی سیاسی جماعت کے نمائندے نہیں بلکہ ہم اپنا اثر ڈال کر انہیں نیک راہ بتانے کے لئے گئے تھے۔ سیاسی جماعتوں کی نمائندگی نہ ہمارا کام ہے نہ گورنمنٹ یا کوئی اور یا کسی رنگ میں ہمیں بلا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ ہم سے بھی مشورہ لے.....“

¹⁰⁰² I think this is different subject Muslim League had nothing to do with this part.

(میرا خیال ہے یہ ایک الگ موضوع ہے مسلم لیگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں)

”..... ہم سے بھی مشورہ لے، ہمارے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ ہماری جماعت ہندوستان میں سات آٹھ لاکھ کے قریب ہے۔ مگر ہماری جماعت کے افراد اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کی آواز کی کوئی قیمت نہیں سمجھی جاتی۔ لیگ ہمیں اپنے اندر شامل نہیں کرتی، کانگریس میں ہم شامل نہیں ہونا چاہتے۔ اس کے مقابلے میں پارسی ہندوستان میں تین لاکھ کے قریب ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ایک پارسی وزیر سینٹر میں مقرر کر دیا گیا ہے اور ان کی جماعت کو قانونی جماعت تسلیم کر لیا گیا ہے، حالانکہ ہماری جماعت ان سے دگنی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔“

Sir, what I wanted to show you was that a separate demand is agitated have. And then after this, away from Muslims

(جناب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک الگ جماعت کا وجود موجود ہے کیا یہ جماعت مسلمانوں سے جدا ہے؟)

(علیحدہ نہیں، جدا؟)

Mirza Nasir Ahmad: No. Not away from the

۱۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

Muslims, apart from the Muslims.

(مرزانا صراحتاً: نہیں، مسلمانوں سے جدا نہیں، بلکہ مسلمانوں سے علیحدہ)

Mr. Yahya Bakhtiar: Apart from the Muslims.

Apart from the Muslims.

ممتاز کر لیں آپ ان کو، جیسے.....

مرزانا صراحتاً: نہیں، نہیں، اگر..... جب آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اس کو

Explain کر دوں گا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اس واسطے میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ پھر وہ کہتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نمائندہ بھیجا اور ان سے یہ Request کی، گاندھی جی سے بات کرتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ چیز آئی تھی کہ جماعت احمدیہ کا یہ خیال تھا کیونکہ ان کے نمائندے اسمبلی میں اس لئے نہیں آسکتے کہ وہ پھیلے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو خود توجہ دینی چاہئے¹⁰⁰³ اور ”ہمارا حق ہے کہ جیسے پارسی لے سکتے ہیں، اگر وہ ایک پارسی کو لیتے ہیں تو ہم دو احمدیوں کو پیش کر سکتے ہیں۔“ تو کیونکہ اس زمانے میں آپ لیگ کی تائید کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں مرزا صاحب! صاحب وہ ظاہر ہے۔ مگر کوشش یہ بھی تھی کہ ساتھ اگر آپ کو علیحدہ نمائندگی مل جائے As a separate body جیسے پارسیوں کو، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔

مرزانا صراحتاً: اجازت ہے مجھے؟

جناب یحییٰ بختیار: میں ایک اور حوالہ بھی کر دوں تاکہ پھر آپ دونوں.....

مرزانا صراحتاً: اگر دونوں اکٹھے ہیں تو ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: اس کے بعد مرزا صاحب! آپ کے ”الفضل“ یا پتہ نہیں

”الفضل“ آپ کا اخبار ہے یا کس کا اخبار ہے۔ بہر حال.....

مرزانا صراحتاً: یہ ”الفضل“ جو ہے ہاں، یہ میں بتا دیتا ہوں کس کا اخبار ہے۔ دنیا

نے بڑے بڑے تجربے کے بعد اور بڑی سوچ بچار کے بعد ہر ملک نے یہ قانون بنایا کہ اخبار کے

اندر جو باتیں لکھی جاتی ہیں، ان کی قانونی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے گی.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو ٹھیک ہے۔

مرزانا صراحتاً: اور انہوں نے ”مدیر مسئول“ کا ایک محاورہ ایجاد کیا اور۔ یا پھر اس

کے متعلق میں Clear نہیں، اگر آپ میری مدد کریں تو میرا علم بڑھ جائے گا میرا یہ حال ہے کہ جو

پریس کی ذمہ داری ہے یہ *Colonial Necessity* (نوآبادیاتی نظام کی ضرورت) ہے اور یہ آزاد ملکوں میں نہیں بہر حال، ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ قانون یہ ہے.....
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، مرزا صاحب! بات یہ نہیں.....
(الفضل کی ذمہ داری سے انکار؟)

¹⁰⁰⁴ مرزا ناصر احمد: قانون یہ ہے کہ مندرجات اخبار کا مسئول سوائے ایڈیٹر کے یا اگر وہ گروپ ہو تو ان کے اگر لکھا ہوا ہو اور پرنٹنگ پریس کے، اور کوئی نہیں۔ اس واسطے اخبار میں جو کچھ لکھا جائے، اس کے متعلق آپ صرف اتنا پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ میں اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں کہ نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: تو مرزا صاحب! بات یہ ہے کہ آپ *Repudiate* کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا۔ مگر یہ ہے کہ اخبار ایسا ہے جو کہ آپ کے نقطہ نظر کو پیش کرتا ہے، جیسا، میں نے کہا کہ ”ڈان“ تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ لیگ کا نقطہ نظر ہے، مگر *League was not bound by it* اس طرح آپ *Bound* نہیں ہیں جب تک کہ آپ خود نہ لکھیں اخبار پر کہ ”یہ ساری جماعت کی آواز ہے۔“ ”*This is our organ, official organ*“ بعض لکھتے ہیں۔
مرزا ناصر احمد: ہاں بعض لکھ دیتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ نے نہیں لکھا ہوا تو ٹھیک ہے وہ، میں سمجھتا ہوں اس کو۔ مگر یہ کہ بہر حال یہ آپ کی پارٹی کا اخبار سمجھا جاتا ہے۔
مرزا ناصر احمد: نہیں اگر کوئی حوالہ ہے تو وہ پڑھ دیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں اس کو *Own* کرتا ہوں یا نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ جی کچھ حوالے ہیں جن پر منیر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ: ”پاکستان سے کچھ پہلے احمدی جماعت کی طرف سے ایسی تحریریں و بیانات شائع ہوئے.....“
مرزا ناصر احمد: اس کا *Page* (صفحہ) کیا جی ہے؟

(اگر پاکستان بن بھی گیا تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ تقسیم ختم ہو؟)
¹⁰⁰⁵ جناب یحییٰ بختیار: وہ میں بتا دیتا ہوں کہ: ”ماحصل ان کا یہ تھا کہ اگر پاکستان بن بھی گیا تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ تقسیم ختم ہو، تقسیم ہند ختم ہو۔“ *Page 10* آپ دیکھ لیجئے۔
”یہ تقسیم ختم ہو۔“ ”پھر اٹھتے بھارت ہو جائے۔“ اس مضمون کی تحریریں وغیرہ، تو اس میں کچھ

”الفضل“ کے میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں.....
 مرزا ناصر احمد: ”یہ اکھنڈ ہندوستان“ والا سوال تو ایک مشکل میں ہو چکا ہے اور اس کا جواب ہمارے پاس ہے.....
 جناب یحییٰ مختیار: میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میں نے کچھ سوال کرنے تھے اس واسطے تا کہ آپ وہ کر لیں.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ تو پہلے آچکا ہے، جو کہ آپ اب فرما چکے ہیں۔
 جناب یحییٰ مختیار: ہاں، جی، یہ منیر کیمٹی کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا: ”یہ اندازہ ہوتا ہے۔“
 یہ ”الفضل“ ہے جی، ۱۵ اپریل ۱۹۴۷ء، ۱۷ مئی ۱۹۴۷ء، ۱۲ اپریل ۱۹۴۷ء، ۱۷ جون ۱۹۴۷ء۔

۱ (الفضل قادیان ج ۵ نمبر ۱۱۶، مورخہ ۱۶ مئی ۱۹۴۷ء ص ۲۵ نمبر ۸ ص ۳) ”پر تقسیم نہ ہو۔ اگر ہو عارضی ہو اور ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ یہ جلد دور ہو جائے۔“ اسی اخبار کے صفحہ ۲ کالم ۴ پر ہے: ”ہمیں ہندوؤں اور عیسائیوں سے مشارکت رکھنی چاہئے۔“
 ۲ (الفضل قادیان ج ۵ نمبر ۱۱۶، مورخہ ۱۶ مئی ۱۹۴۷ء ص ۲ کالم ۱) پر ہے: ”میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے..... اگر عارضی طور پر الگ بھی کرنا پڑے تو یہ اور بات ہے۔ بسا اوقات عضو ماؤف کو ڈاکٹر کاٹ دینے کا بھی مشورہ دیتے ہیں لیکن یہ خوشی سے نہیں ہوتا۔ بلکہ مجبوری اور معذوری کے عالم میں اور صرف اسی وقت جب اس کے بغیر چارہ نہ ہو اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ماؤف عضو کی جگہ نیا لگ سکتا ہے تو کون جاہل انسان اس کے لئے کوشش نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ یہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جائے۔“
 ۳ (اخبار الفضل قادیان ۱۲ اپریل ۱۹۴۷ء، ج ۳۵ نمبر ۷ ص ۵ کالم ۲) پر مرزا محمود نے ایک اخباری نمائندہ کے سوال کے جواب میں کہا: ”سوال! کیا پاکستان عملاً ممکن ہے، جواب! سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان ممکن ہے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ملک کے حصے بخرے کرنے کی ضرورت نہیں (یعنی تقسیم نہ ہو، تا کہ پاکستان نہ بنے)..... (دنیا متحد ہو رہی ہے) کیا وجہ ہے کہ اس موقع پر ہندوستان دو علیحدہ علیحدہ حصوں میں بٹ جائے اور دو بڑی قومیں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔“

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۸ اگست تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۲۹ اگست تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

مرزا ناصر احمد: جی لکھ لیا ہے انہوں نے (وند کے ایک رکن کی طرف اشارہ کر کے)
جناب یحییٰ بختیاری: ایک ۱۸ اگست کا ہے۔ یہ ابھی دیکھیں، یہ چھوٹی سی بات ہے،
جو کہ ۱۷ جون کا ہے، مرزا محمود احمد امام جماعت احمدیہ.....

مرزا ناصر احمد: ۱۷ جون ۱۹۴۷ء

1006 جناب یحییٰ بختیاری: ہاں جی۔ ”آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب!
میرے اہل ملک کو تو سمجھ دے اور اول تو یہ ملک بے نہیں اور اگر بے تو اس طرح بے کہ پھر مل
جانے کے راستے رکھ رہے ہیں۔“

Now, Sir, I....

مرزا ناصر احمد: جب تک میں یہ دیکھوں نہ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔

*Mr. Yahya Bakhtiar: This is an address After 3rd
june when Pakistan was accepted. Muslim Leagus had
achieved a victory, you are not sharing that victory; you are
not sharing that hope. You say:*

So, you have to clarify this that you “اللہ کرے پھر مل جائے”

Are not keeping yourself as a part of the Muslim

Nation.

(جناب یحییٰ بختیاری: یہ تین جون کے بعد کا بیان ہے جبکہ پاکستان کا مطالبہ تسلیم کیا
جا چکا تھا۔ مسلم لیگ فتح سے ہمکنار ہو چکی تھی مگر آپ اس فتح میں شریک نہ تھے اس لئے آپ کو واضح
کرنا ہوگا کہ آپ تصور وار نہیں تھے یا کہ آپ مسلم لیگ کے ہمنوا تھے)

مرزا ناصر احمد: نہیں، یہ آپ کا جو استدلال ہے، میرے نزدیک غلط ہے۔

جناب یحییٰ بختیاری: ہاں۔ یہ Impression میرا ہے۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، یہ میرے نزدیک غلط ہے۔

جناب یحییٰ بختیاری: اس واسطے میں Clarify کر رہا ہوں۔ تو مرزا صاحب!
آپ یہ حوالے دیکھ کر میرے خیال میں پھر اس کا جواب دے دیں۔ اس واسطے میں نے آپ کو یہ
پیش کر دیئے ہیں۔ میں پڑھ.....

مرزا ناصر احمد: یہ ایک جواب تو ویسے تیار ہے.....

۲۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: تو پھر وہ پارٹ.....
 مرزا ناصر احمد: اصولی.....
 جناب یحییٰ بختیار: تو پھر وہ پارٹ ہو جائے گا۔
 1007 مرزا ناصر احمد: آخر میں اس کو شامل کر لیں، آپ کا مطلب ہے؟
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں.....
 مرزا ناصر احمد: (اپنے وفد کے ایک رکن سے): ان کو بھی شامل کر لیں، چلیں جی،
 یہ لکھ لیں۔

جناب یحییٰ بختیار: چونکہ Subject Divide (مضمون تقسیم) ہو جاتا ہے۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے۔

(قادیانیوں کا ایک مشن اسرائیل میں ہے، کیا یہ درست ہے؟)
 جناب یحییٰ بختیار: اب ایک دوا ایسے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ مرزا صاحب!
 آپ کا ایک مشن اسرائیل میں ہے، یہ درست ہے نا جی؟
 مرزا ناصر احمد: اسرائیل میں کئی لاکھ مسلمان بستے ہیں.....
 جناب یحییٰ بختیار: میں پہلے آپ سے..... دیکھیں نا، میرے سوال کا پہلے یہ جواب
 دیں کہ ”ہاں“ یا ”نہیں“۔ میں پھر آگے چلتا ہی نہیں۔ پھر آپ Explain (واضح) کریں۔

Mirza Nasir Ahmad: Now, now we come to this!

Let us grapple with this problem.....

(مرزا ناصر احمد: اب ہمیں اس مسئلہ سے نمٹنا ہوگا.....)

*Mr. Yahya Bakhtiar: is there any Mission
 of.....*

*Mirza Nasir Ahmad: what does English
 Language mean by this "Mission"*

(مرزا ناصر احمد: دیکھنا ہوگا کہ انگلش میں مشن کا معنی کیا ہے؟)

*Mr. Yahya Bakhtiar: What you have got in your
 conflation of foreign Missions. That contains.....*

۲۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
 کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
 اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
 یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
 گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

(جناب یحییٰ بختیار: آپ کے جو بہت سارے فارن مشنرز ہیں، وہ.....)
مرزانا صرا احمد: ہاں، ہاں، مشن

Mr. Yahya Bakhtiar: That means

Mirza Nasir Ahmad: Mission; in the English language, means "Field of missionary activity".
(مرزانا صرا احمد: انگریزی زبان میں "مشن" کا مطلب مشنری سرگرمیوں کا مرکزی جگہ ہی ہوتا ہے)

¹⁰⁰⁸ *Mr. Yahya Bakhtiar: Yes, that, is what I mean;*

I don't mean political activity; I never suggested that.

(جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے۔ میرا بھی یہی مطلب ہے۔ میرا مدعا سیاسی کارگزاری نہیں تھا)

مرزانا صرا احمد: نہیں، نہیں، نہیں۔ "Field of missionary activity" (فیلڈ آف مشنری Activity) کے لئے وہاں جماعت احمدیہ کے افراد کا ہونا کافی ہے۔

(آپ کا مشن ہے کہ نہیں؟)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، آپ کا مشن ہے کہ نہیں؟ "احمدیہ جماعت" میں نہیں کہہ رہا ہوں۔

مرزانا صرا احمد: جماعت احمدیہ ہے وہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: بس ٹھیک ہے۔

مرزانا صرا احمد: جماعت احمدیہ ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔

مرزانا صرا احمد: اور وہ میرے خیال میں پانچ فیصد ہوں گے کل۔ ٹوٹل مسلم

آبادی کا ۵ فیصد احمدی ہے۔ احمدی ہیں وہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مشن وہاں ہے؟

مرزانا صرا احمد: ہاں، احمدی جماعت ہے۔

۲۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(اسرائیل میں احمدیہ جماعت ہے؟)

جناب یحییٰ بختیار: ”احمدیہ جماعت ہے“ کیونکہ آپ کہتے ہیں ناں کہ ”Our foreign mission اس میں آپ ان کا ذکر کریں.....“
مرزا ناصر احمد: ہاں، وہ اس واسطے میں نے ”مشن“ کا ترجمہ کیا ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے۔

Mirza Nasie Ahmad: This is from the concise Oxford Dictionary: The field of missionary activity".
(مرزا ناصر احمد: یہ آکسفورڈ کنسائز ڈکشنری سے ہے۔ جماعت کی کارگزاریوں کی جگہ.....)

جناب یحییٰ بختیار: تو آپ، آپ کی کتاب میں جو ”فارن مشن“ ہیں، اس کے Page 79 میں آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو میں پڑھتا ہوں یہ مضمون وہاں ہے یا نہیں؟ میں سارا نہیں پڑھوں گا۔ جہاں تک:

¹⁰⁰⁹ "Ahmadiyya Mission in Israel" because I said:
"The mission in Israel because you said this....."
مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، ہاں، جماعت احمدیہ ہے وہاں۔

Mr. Yahya Bakhtiar: Ahmadiyya Mission in Israel is situated in Haifa at Mount Karmal we have a mosque there, a Mission House, a library, a Book Depot, a School. The Mission also brings out a Monthly entitled All-Bushra, which is sent out to thirteen different countries accessible through the medium of Arabic many works of prophet Messiah have been translated into Arabic through this Mission".
پھر اس میں آگے کہتے ہیں:

Some time ago, our missionary had an interview with the mayor of Haifa, when, during the discussion on

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

many points he offered to build us a school at Kababeer a village neae Haifa, where we have a strong and well established Ahmadiyy Community of Palestinian Arabs. He also promised that he would come to see our Mission at Ka babeer, which he did later, accompanied by our notables from Haifa, He was duly received by the members of the community and by the students of our. Before his return, he entered his impressions in the Visitors' Book.

Another small incident, which would give readers some idea of the position the Mission in Israel occupies, is that in 1956 when our missionary, Chaudhry Mohammad /sharif, Returned to Headquarters

(جناب یحییٰ بختیار: یہ میں نہیں کہتا بلکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اسرائیل میں مشن ہے۔ جو کہ مونٹ کارل حیفہ میں واقع ہے۔ وہاں آپ کی ایک مسجد ایک مشن خانہ ایک لائبریری، کتب خانہ اور ایک سکول ہے۔ مشن ایک ماہنامہ بنام ”البشری“ شائع کرتا ہے۔ جو کہ عربی زبان میں تیرہ ممالک کو بھجوا یا جاتا ہے۔ اسی مشن نے احمدیہ جماعت کی بہت سی کتابوں کے عربی تراجم کئے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا ہمارے مشن کے سربراہ کی حیفہ کے میسر سے ملاقات ہوئی تھی۔ جس کے دوران میسر نے ہمارے لئے کبائیر میں ایک سکول تعمیر کرنے کی پیشکش کی۔ کبائیر میں فلسطینی عربوں پر مشتمل احمدیہ جماعت کی ایک مضبوط تنظیم موجود ہے۔ میسر نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ کبائیر میں ہمارا مشن دیکھنے آئے گا اور اس نے یہ وعدہ بعد میں پورا کیا۔ اس موقع پر حیفہ میں احمدی معززین میسر کے ہمراہ تھے۔ احمدیہ جماعت کے افراد اور سکول کے طلباء نے میسر کا استقبال کیا۔ میسر کے لئے ایک استقبالیہ دیا گیا۔ واپس جاتے ہوئے میسر نے وزیر بک میں اپنے تاثرات تحریر کئے ایک اور چھوٹی سی مثال جس سے پڑھنے والوں کو ہمارے اسرائیلی مشن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ۱۹۵۶ء میں جب ہمارے مشن کے سربراہ چوہدری محمد شریف واپس آئے.....)

مرزا ناصر احمد: یہ سن کون سا ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: یہ پہلی کیشن ہے ۱۹۶۵ء کی۔

۲۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

مرزانا صراحمہ: نہیں، نہیں، نہیں۔ یہ آپ نے جواب بھی پڑھا۔

¹⁰¹⁰ Mr. Yahya Bahhtiar: 1956.

Mirza Nasir Ahmad: 1956.

Mr. Yahya Bakhtiar: "That, in 1956 when our missionary, Chaudhry Mohammad Sharif returned to the Headquarters of the movement in Pakistan, the President of Israel sent word that he (our missionary) should see him before embarking on the journey back. Ch. Mohammad Sharif utilized the opportunity to present a copy of the German translation of Holy Quran to the President, which he gladly accepted. This interview and what transpired at it was widely reported in the Israel press and a brief account was also broadcast on the Radio".

ایک تو میں آپ سے simple سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے مشنری وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے پاکستان آتے ہیں تو کس پاسپورٹ پر جاتے ہیں؟
مرزانا صراحمہ: غیر ملکی۔

جناب یحییٰ بختیار: ہیں جی؟

مرزانا صراحمہ: غیر ملکی احمدی وہاں جاتے ہیں، پاکستان.....

Mr. Yahya Bakhtiar: No, Sir, I very carefully read it Chaudhry Mohammad Sharif in a Pakistan:

"When he returned to the Headquarters of the Movement in Pakistan".

Mirza Nasir Ahmad: He is not Pakistani.

(مرزانا صراحمہ: وہ پاکستانی نہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: He is not a Pakistani?

(جناب یحییٰ بختیار: وہ پاکستانی نہیں ہے؟)

۲۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

مرزانا صراحمہ: ہاں ان کے پاس غیر ملکی ٹیشنٹی ہے، وہ باہر رہتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں۔

1011 جناب یحییٰ بختیار: پاکستانی ٹیشنٹی بھی ہے؟ وہ بھی ہے یا پاکستان کی نہیں ہے ان کے پاس؟

مرزانا صراحمہ: یہ مجھے علم نہیں ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔
مرزانا صراحمہ: لیکن غیر ملکی ٹیشنٹی ہے، ان کے پاس ہے۔ پاکستان کے معاہدے کے مطابق بعض ملکوں کے ساتھ..... Dual Nationality
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں تو.....
مرزانا صراحمہ: نہیں، میں، آپ کو اصل..... Dual Natinality بعد میں..... نہیں آئی۔

I don't know about him.

Mr. Yahya Bakhtiar: I just wanted to know, because when he returned, you know.

(مرزانا صراحمہ: نہیں، وہ تو ہمارے پاس امریکن ٹیشنٹل آتے ہیں، سارے آتے ہیں)

They come to the Headquarters.

(وہ ہیڈ کوارٹر واپس آتے ہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: I am a lawyer, I use every world in the legal sense. You return home. You did not say: "When he comes here" "home". He returned to Pakistan.

I wanted to know.....

۱۔ میرا انصاف پسند قادیانیوں سے سوال ہے، کیا چوہدری شریف پاکستانی ٹیشنٹی کے حامل نہیں؟ کیا مرزانا صراحمہ جھوٹ اور سفید جھوٹ کے مرتکب نہیں ہوئے؟ اب بھی مرزانا صراحمہ کے جھوٹ بولنے کا آپ اعتراف نہ کریں تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ پوری قادیانی جماعت جھوٹ بولنے، جھوٹ پر بنیاد رکھنے، جھوٹ پر تعمیر کرنے، غرض جھوٹ ہی جھوٹ کا گھر وندہ ہے۔

۲۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(جناب یحییٰ بختیار: میں ایک وکیل ہوں۔ میں نے ہر لفظ کو قانونی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ آپ واپس گھر آئے، آپ نے یہ نہیں کہا۔ جب وہ یہاں واپس گھر آتا ہے وہ پاکستان واپس آیا)

Mirz Nasir Ahmad: One who writes articles or these reports

(مرزا ناصر احمد: یہ کوئی بھی مضمون یا رپورٹ لکھتا ہے.....)

Mr. Yahya Bakhtiar: May be

Mirza Nasir Ahmad: Doesn't use the English words in the legal terms.

(مرزا ناصر احمد: وہ انگریزی کے الفاظ قانونی اصطلاح میں استعمال نہیں کرتا)

Mr. Yahya Bakhtiar: Sir, either he could say that "he returned to the Headquarters". or he could have said that: "he came to the Headquarters". But he says: "When he returned". Chaudhry¹⁰¹² Mohammad Sharif is obviously a Pakistani person. He may have got a Nationality, as you say; that is possible.

(جناب یحییٰ بختیار: وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہیڈ کوارٹر واپس آیا یا ہیڈ کوارٹر واپس آئے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جب وہ واپس آیا۔ چوہدری محمد شریف ایک پاکستانی شخص ہے اس کے پاس کوئی اور شہریت بھی ہوگی، جیسا کہ آپ کہتے ہیں، یہ ممکن ہے)

مرزا ناصر احمد: ہمارے پاس جو اس علاقہ کے، ہندوستان کے رہنے والے، ہزاروں غیر ملکوں میں آباد ہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، وہ ہو سکتا ہے.....

مرزا ناصر احمد: یہ غیر ملکی پیشگی کی حیثیت سے وہاں جاتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، تو ٹھیک ہے انہوں نے برٹش نیشنلٹی ہو سکتی ہے، کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ کس نیشنلٹی کے پاسپورٹ پر گئے ہیں یہ؟ آپ نے کہا کہ غیر ملکی ہے۔

مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، غیر ملکی۔ پاکستان کا تو وہ جا ہی نہیں سکتا کوئی۔
جناب یحییٰ بختیار: آپ کی تو نیشنلسٹی پاکستانی ہے ناں جی؟
مرزانا صراحتاً: الحمد للہ۔

(اس نے آپ کو رپورٹ کیا کہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے یہ باتیں کیں)
جناب یحییٰ بختیار: تو جب اس نے آپ کو رپورٹ کیا کہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ
نے یہ باتیں کیں، وہ آپ نے بھی.....

مرزانا صراحتاً: نہیں، مجھے یہ رپورٹ نہیں کی۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، آپ کی جماعت کے.....
مرزانا صراحتاً: ہاں، یہاں جو دفتر ہے، اس میں آکر اس نے رپورٹ دی تھی.....

(آپ نے گورنمنٹ کو بتلایا کہ اسرائیلی کیا سوچتے ہیں؟)
جناب یحییٰ بختیار:..... کہ یہ جو اسرائیل نے جو کچھ باتیں کی ہیں، جو وہاں ریڈیو پر
بھی آیا اتنا زیادہ، اپنی گورنمنٹ کو بھی کچھ بتا دیجئے کہ اسرائیلی کیا سوچتے ہیں آپ نے کوئی
انفارمیشن دی، یا ضروری نہیں سمجھا؟

مرزانا صراحتاً: ¹⁰¹³ نہیں میرے سامنے تو..... ہاں، ہاں، میں بتا رہا ہوں۔ ویسے
یہ ہے کہ جو چیزیں اس وقت آپ نے سامنے رکھی ہیں، وہ سارے، مختلف مسلمانوں کی تنظیموں کے
ساتھ ان کی حکومت کا یہی سلوک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں *Insinuate* کر رہا
ہوں۔ اس سے لوگوں پر *Impression* پڑتا ہے کہ کتنا *Strongly* لوگ *Feel*
کر رہے ہیں، اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں۔

مرزانا صراحتاً: نہیں، وہ *Impression* دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اگر میں چلا جاؤں اسرائیل.....
مرزانا صراحتاً: میں سمجھتا ہوں.....

جناب یحییٰ بختیار: اگر میں چلا جاؤں کسی طرح اسرائیل..... صاف بات کرتا
ہوں..... دشمن کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، کسی حیثیت سے اور مجھے وہاں کا کوئی بڑا
آدمی بلائے بات کرے، میں پہلا فرض سمجھوں گا کہ حکومت میں جو بھی مجھے بڑا افسر لے سکے اس کو

۳۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.comwww.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.compopalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

بتاؤں ”بھئی! وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ اس لائن پر سوچ رہے ہیں، ان سے یہ باتیں ہونیں۔“ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے *Obligation* نہیں ہے، لائنیں ہے یہ.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، میں بتاؤں آپ کو، ذرا آگے ذرا تھوڑا سا *Digression* میں ۱۹۷۰ء میں ویسٹ افریقہ کے دورے پر گیا، خود اور دو ملکوں میں مجھے پیغام ملا، اسرائیلی سفیر کا، کہ ”میں ملنا چاہتا ہوں۔“ میں نے کہا کہ ”میں نہیں ملنا چاہتا تم سے۔“

۱۰۱۴ جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو آپ نے مجھ کی بات کی ہاں جی، اپنی اس کے مطابق نہیں، مگر فرض کریں، آپ کو اسرائیل والے لے جاتے.....

مرزا ناصر احمد: بالکل میں ملنے کے لئے تیار ہی نہ تھا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اگر کسی جگہ *Reception* تھا آپ کی آنر میں اور اس ذیل کا کوئی سفیر بیٹھ جاتا وہاں، آپ سے باتیں کرتا تو آپ سمجھ لیتے کہ یہ سیاسی لوگ ہیں، تو آپ ضرور مجھے یقین ہے بتا دیتے گورنمنٹ کو کہ ”بھئی! یہ ایسی بات اس نے مجھ سے کی ہے۔“

مرزا ناصر احمد: *Reception* وہ جہاں ہوتی تھی تو ہمارے سفیر صاحب موجود ہوتے تھے۔

جناب یحییٰ بختیار: کیوں نہ ہو؟

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، وہ تو تھا، یعنی وہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔

جناب یحییٰ بختیار: بس یہ صرف میں نے اس لئے آپ سے پوچھنا تھا۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔ بس ایک یہ سوال؟

جناب یحییٰ بختیار: یہ ایک اس کا..... اس پر.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، اس بات پر؟

جناب یحییٰ بختیار: کیسے چھوٹے چھوٹے سوال آجاتے ہیں!

مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے۔

(اکھنڈ بھارت؟)

جناب یحییٰ بختیار: ”تو اکھنڈ بھارت“.....

۱۰۱۵ مرزا ناصر احمد: یہ ایک وضاحت اور ہے۔ یہ ہمارا وہاں..... ہماری جماعت، اس علاقہ میں، جو اب اسرائیل کہلاتا ہے، اسرائیل کے وجود میں آنے سے کہیں پہلے کی بنی ہوئی ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: وہ تو ٹھیک ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا۔

مرزا ناصر احمد: اور ۱۹۲۳ء، ۱۹۲۸ء میں جماعت وہاں بنی۔ ۱۹۲۸ء میں..... کباپیر..... جو ہے جس کا نام یہاں آیا ہے۔ وہاں ایک سینٹر بنا جماعت کا۔ ۱۹۲۸ء سے وہاں کے تمام دوسرے فرقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے ساتھ نہایت برادرانہ تعلقات ہیں، اب بھی برادرانہ تعلقات ہیں۔ پوچھنا تو یہ چاہئے کہ جو وہاں دوسرے مسلمان ہیں، ۹۵ فیصد، ان کے حقوق کے لئے اگر کچھ کیا جاسکے، کسی باعث بھی ہمارے تو ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں ڈپلومیٹک۔ ان کی خبر گیری کرنی چاہئے۔ تو اس طرف ہم توجہ نہ دیں اور وہ جو پیار کے آپس میں تعلقات ہیں، ان کو جائے اعتراض بنالیں تو وہ کچھ اچھا نہیں لگتا اگر ان کو پتہ لگے، جو ہمارے احمدی نہیں، ۹۵ فیصد، وہ بھی اس کو پسند نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ بہت اچھے تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔

جناب یحییٰ بختیار: اچھے تعلقات تو ہیں جی، مگر میں تو کہتا ہوں اگر

Clarification ہو جائے تو ٹھیک ہے ناجی، وہ.....

مرزا ناصر احمد: نہیں جی، میں تو بڑا ممنون ہوں آپ کا، خواہ کوئی غلط سمجھے۔

جناب یحییٰ بختیار:..... شک رہتا ہے۔ میں تو اس واسطے پوچھتا ہوں

مرزا ناصر احمد: ہاں، میں ممنون ہوں آپ کا۔ ہر چیز جو ہے وہ سامنے آجانی چاہئے۔

(دیکھ لیجئے کہ آپ کی پہلی کیشن ہے؟)

1016 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! وہ جو کتاب تھی آپ کی، کل جو آپ پڑھ رہے تھے، وہ کاپی میرے پاس بھی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی یہ پہلی کیشن ہے؟ کیونکہ مجھے غلط نہ مل گئی ہو۔ مرزا صاحب! یہ وہی ہے۔ "Outside Outside Musalmans" Musalmans والی جو ہے نا.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، دکھا دیجئے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ دیکھ لیجئے ذرا آپ اس سے وہ نوٹسٹ آیا تھا۔ یہ ہے وہ۔

آپ کا جو ہے نا، ۱۹۱۶ء کا ایڈیشن ہے، یہ ۱۹۲۳ء کا یا ۱۹۳۱ء کا ہے، ویسے یہ بھی قادیان سے پبلش ہوا ہے۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، یہ ۱۹۲۳ء کا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔

مرزا ناصر احمد: اور یہ بھی دوسرا ایڈیشن ہے اردو کا، ”سیرت مسیح موعود“ جس میں:
 ”..... احمدی اپنے آپ کو مسلمان لکھوائیں۔ گویا اس سال آپ نے اپنی جماعت کو احمدی، کے نام
 سے مخصوص کر کے دوسرے مسلمانوں سے ممتاز کر دیا۔“ ایک ممتاز فرقہ، اسلام کے اندر۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اس سے میں نے ایک دو سوال پوچھنے تھے، اس لئے میں
 نے کہا کہ آپ.....

مرزا ناصر احمد: ہاں جی۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، یہ وہی ہے۔

مرزا ناصر احمد: اس میں نے صرف یہ عرض کی تھی کہ انہوں نے جو عنوان باندھ
 دیئے ہیں، وہ اصل کتاب کے نہیں ہیں۔
¹⁰¹⁷ جناب یحییٰ بختیار: نہیں وہ میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے جب آپ اور بجنل سے
 دیکھیں گے، اردو میں.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں (اپنے وفد کے ایک رکن سے) رکھو سامنے۔

جناب یحییٰ بختیار: پیشتر اس کے کہ مرزا صاحب! میں پھر بات بھول جاتا ہوں۔
 یہاں ایک اور چیز بھی میری نظر میں تھی کہ میں نے کہا کہ وہ عام طور پر لکھ دیتے ہیں کہ ”ہمارا آفیشل
 آرگن ہے“ یہ یہاں ایک ہے: ”خاکسار نیجر“ ”الفضل“، قادیان، ضلع گورداسپور، سلسلہ عالیہ احمدیہ
 کا آرگن“

”اخبار الفضل ہی، بفضل خدا ایک ایسا پرچہ ہے جس کو جماعت احمدیہ کا مسلمہ آرگن کہا
 جاسکتا ہے۔“ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔

مرزا ناصر احمد: ”کہا جاسکتا ہے۔“ ”کہا جاتا ہے“، نہیں۔

*Mr. Yahya Bakhtiar: Whatever it means, that
 the committee will judge.*

(جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اس کا جو بھی مطلب ہے، وہ کمیٹی دیکھ لے گی)

مرزا ناصر احمد: اگر یہ ہوتا ناں کہ ”کہا جاتا ہے بڑا وزن ہو جاتا آپ کی بات میں۔
 لیکن یہاں ”کہا جاسکتا ہے۔“

۳۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: وہ میں تو توجہ دلا رہا ہوں، باقی وہ تو کمیٹی دیکھے گی کہ کیا مطلب ہے اس کا؟

مرزا ناصر احمد: نہیں، ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: Page 58، جو میرا پرچہ ہے۔ آپ کا کچھ اور ہو۔

مرزا ناصر احمد: ہاں جی، دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں۔

1018 جناب یحییٰ بختیار: اس میں تو میں نے آپ کو ایک "Separatist tendency" کی طرف توجہ دلائی تھی کہ:

"Ahmadis form a separate community from the outside Musalamans".

آپ نے کہا ہے Heading ٹھیک نہیں ہے، اور بجٹل میں نہیں ہے۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہے ہی نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: اس کے بعد یہ تھا کہ:

"The year 1901 was the year of census. The Promised Messiah issued a notice to his followers asking them to get themselves recorded in the census pages, under the name of 'Ahmadia Musalman'. This was, therefore, the year when, for the first time, he differentiated his followers from the other Muslims by the name of Ahmadiya".

(”سیرت مسیح موعود ص ۵۳، طباعت دسمبر ۱۹۲۶ء) کی عبارت یہ ہے: ۱۹۰۱ء میں مردم

شماری ہونے والی تھی، اس لئے ۱۹۰۱ء کے اواخر میں آپ نے اپنی جماعت کے نام ایک اعلان شائع کیا کہ ہماری جماعت کے لوگ کاغذات میں اپنے آپ کو احمدی مسلمان لکھوائیں۔ گویا اس سال آپ نے اپنی جماعت کو احمدی کے نام سے مخصوص کر کے دوسرے مسلمانوں سے ممتاز کر دیا۔“)

مرزا ناصر احمد: یہ تو وہی ہے جس کی کل بات.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، آپ اس سے دو Pages پہلے آپ.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، اس سے دو Pages پہلے۔

۳۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: یہ وہ ہے، 54، 58 اس میں ہے جی۔ چونکہ Heading یہاں ہے:

"Injunctions to Ahmadis regarding Marriage".

تو یہ ہیڈنگ انگلش میں ہوگا، اردو میں تو شاید ہیڈنگ نہ ہو اس کا۔
مرزا ناصر احمد: نہیں، ہیڈنگ ہے یہ کوئی نہیں۔ لیکن نکال لیتے ہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: ہاں، انگلش میں آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلے.....
مرزا ناصر احمد: ہاں، یہ ہے: "اس سال آپ نے اپنی جماعت کے شیرازہ کو مضبوط کرنے....."

جناب یحییٰ بختیار: ہاں یہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ دیکھیں پھر ٹرانسلیشن اس کا۔

"The same year....."

That is, 1898 کیونکہ اس سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے.....

مرزا ناصر احمد: ہاں جی۔

Mr. Yahya Bakhtiar: "The same year, with a view to strengthen the bonds of the community and to preserve its distinctive features, he promulgated rules regarding marriage and social relations and forbade the Ahmadis to give their daughters in marriage to Non-Ahmadis".

ابھی اردو ترجمہ کیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں جی یہ کوئی خوش، ناخوش کی بات نہیں تھی کہ وہ تجربے کی بات ہو۔ وہ آرڈر۔
مرزا ناصر احمد: ناں، ناں رول ہے ہی کوئی نہیں۔

Mr. Yayaa Bakhtiar: Injunctions.

Mirza Nasir Ahmad: No, no. "تحریک کی"

(احمدی اپنی لڑکیاں غیر احمدیوں کو نہ دیں)

جناب یحییٰ بختیار: وہ بھی جو آپ اردو میں پڑھیں وہ سنا دیجئے۔
مرزا ناصر احمد: ہاں۔ "اس سال آپ نے اپنی جماعت کے شیرازہ کو مضبوط

کرنے اور خصوصیات کو قائم رکھنے کے لئے جماعت کے تعلقات ازدواج اور نظام معاشرت کی تحریک کی اور جماعت کو ہدایت فرمائی کہ احمدی اپنی لڑکیاں غیر احمدی لوگوں کو نہ دیا کریں۔“

(سیرۃ صبح موعود ص ۵۲)

¹⁰²⁰ ”اپنی جماعت کے شیرازہ کو مضبوط کرنے“ کا فقرہ یہ بتاتا ہے کہ یہ شرعی حکم نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ”انہوں نے ہدایت کی“ ڈائریکشن بھیجی۔

مرزانا صراحتاً: ڈائریکشن دی؟ لیکن آپ ذرا..... نہیں، میں وضاحت کر دوں۔ دوسرے فرقوں نے بھی اس قسم کی بات کی لیکن ایک فرق کے ساتھ انہوں نے کہا: ”محروم الارث“ یعنی جو بچے ہیں وہ وارث نہیں ہوں گے اور جماعت احمدیہ کی کوئی ہدایت ایسی نہیں ہے، بلکہ جو بچی باہر بیاہی جاتی ہے کسی جگہ بھی اور ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے احمدی بزرگوں کی وارث ہوتی ہے۔ تو یہ شرعی حکم نہیں ہے۔ یعنی ورثہ اس طرح..... یعنی ورثہ..... حقوق ورثہ قائم رہنا یہ بتاتا ہے کہ یہ حکم شرعی نہیں ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں مرزا صاحب! یہ بتانا چاہتا تھا.....

مرزانا صراحتاً: جیسا کہ دوسرے فرقوں کا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ایک ہدایت آئی، مرزا صاحب کی طرف سے، ڈائریکشن آئی، اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ یہ نہیں کہ آپ کا تجربہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ لڑکیوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، ناخوش رکھتے ہیں..... وہ میں Distinction لانا چاہتا تھا۔

مرزانا صراحتاً: نہیں، وہ تو ہے اس میں، جو میں نے بات کی تھی وہ..... ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ کہتے ہیں کہ ”اپنی Distinction رکھنے کے لئے، اپنی کمیونٹی کو مضبوط کرنے کے لئے“

مرزانا صراحتاً: نہ، نہ جماعت کے شیرازہ کو مضبوط کرنے.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔ اس لئے نہیں کہ وہ وہاں خوش نہیں رہتیں۔

¹⁰²¹ مرزانا صراحتاً: نہیں، جماعت کے شیرازہ کو مضبوط کرنے..... شیرازہ تبھی

مضبوط ہوتا ہے جب خوش رہے جہاں..... فساد ہوگا گھر میں شیرازہ کیسے مضبوط رہے گا؟

جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے جی، وہ پھر آپ کی Interpretation ہے۔

”ملائکہ اللہ“ میں بھی یہ آجاتا ہے جی، Page 46 پر.....

مرزاناصر احمد: یہ تو ”ملائکہ اللہ“ کا جواب دیا جا چکا ہے پہلے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اس کا نہیں دیا۔

مرزاناصر احمد: اچھا؟ وہ، شاید پھر وہ کوئی اور حوالہ ہوگا۔

جناب یحییٰ بختیار: میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں شاید دے دیا ہو۔

مرزاناصر احمد: ہم نے جو نوٹ کئے تھے نا، اس میں ”ملائکہ اللہ“ کے ایک سوال

کے متعلق نوٹ دیا ہوا ہے کہ اس کا جواب دے دیا گیا ہے۔ تو اگر نہیں، یہ کوئی دوسرا سوال ہے، تو پھر بتادیں۔

جناب یحییٰ بختیار: میں پڑھ دیتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دے چکے ہیں تو پھر

ضرورت نہیں ہے، میرے خیال میں: ”پانچویں بات جو اس زمانے میں ہماری جماعت کے لئے

نہایت ضروری ہے وہ غیر احمدی کورشتہ نہ دینا ہے۔ جو شخص غیر احمدی کورشتہ دیتا ہے، وہ یقیناً مسیح

موجود کو نہیں سمجھتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے؟ کیا ہے کوئی غیر احمدیوں میں ایسا بے دین

جو ہندو یا کسی عیسائی کو اپنی لڑکی دے دے؟ ان لوگوں کو تم کافر کہتے ہو۔ مگر اس معاملے میں وہ تم

سے اچھے رہے کہ کافر ہو کر بھی کسی کافر کو لڑکی نہیں دیتے¹⁰²²۔ مگر تم احمدی کہلا کر کافر کو لڑکی دیتے ہو۔ کیا

اس لئے دیتے ہو کہ تمہاری قوم کا ہوتا ہے؟ مگر جس دن سے تم احمدی ہوئے تمہاری قوم احمدیت

ہو گئی.....“

مرزاناصر احمد: اس کا تو جواب دے چکے ہم۔

جناب یحییٰ بختیار: بس ٹھیک ہے جی۔

مرزا صاحب! بعض دفعہ..... آج میں کچھ..... پہلے Main subject پر نہیں آرہا،

جو چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں..... آپ فرماتے ہیں کہ..... میں نے کئی حوالے پڑھے کہ ”دشمن یہ

کہتا ہے“، ”مخالف یہ کہتا ہے۔“ تو پوزیشن Clear نہیں ہوتی۔ Impression یہ ہوتا ہے

کہ ”دشمن“ سے نہ صرف عیسائی کی طرف اشارہ ہے، بلکہ ان مسلمانوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو

مرزا صاحب کے خلاف تھے یا جو ان کو نبی نہیں مانتے۔ آپ نے کہا کہ ”نہیں، یہاں جو ہے

عیسائیوں کی طرف ہے“ یہاں جو بھی حوالے میں نے پڑھے آپ نے یہی کہا۔ تو میں صرف یہ کچھ

آپ کی توجہ اس کتاب کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اس کی کچھ Clarification آپ کی طرف

سے ہو جائے کہ آپ نے جتنے حوالے پڑھے، ان کے مخاطب غیر مسلم عیسائی وغیرہ تھے۔ میں نے

۳۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

یہی کہنا تھا لیکن یہ جو ہے ناں ”دشمن“ یا ”مخالف“ یہ دونوں کو مخاطب کر کے کہا جا سکتا ہے۔
مرزا ناصر احمد: ہاں، غیر مسلم جو ہیں، ان کی دشمنی جہاں ہوگی، وہ مخاطب ہوں گے۔
ساری دنیا کے عیسائی جو ہیں، وہ مسلم نہیں، لیکن اسلام کے اوپر حملہ آور بھی نہیں۔ تو جب عیسائیوں
کے متعلق کہا جائے گا کہ ”دشمن“ تو عیسائی مذہب کے صرف وہ افراد مراد ہوں گے جو اسلام پر حملہ
آور ہوئے اور جب مسلمانوں کے متعلق کہا جائے گا ”مخالف“ تو ہر مسلمان جو ہے، جو احمدی نہیں،
وہ مخالف نہیں ہوگا، بلکہ صرف وہ چند ہوں گے شاید ایک فیصد بھی نہ ہوں، جو احمدیوں سے
برسر پیکار ہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو درست ہے، میں یہ کہتا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: اور یہ حوالہ بتائے گا کہ مخالف کون ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ دیکھئے ناں، بعض حوالے میں نے آپ کو سنائے۔
ایک تھا جو ”انجام آتھم“ کا تھا۔ اس میں آپ نے Clearly بتا دیا کہ یہ خاص وہ آتھم یا آٹھم، جو
بھی اس کا نام تھا.....
مرزا ناصر احمد: ہاں، عبداللہ آتھم۔

(جو میرا مخالف ہوگا وہ یہودی، مشرک، جہنمی ہے)

جناب یحییٰ بختیار: عبداللہ آتھم۔ اس کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مضمون سے ظاہر
تھا۔ بعض میں کوئی اس چیز کا ذکر نہیں تھا کہ کسی خاص عیسائی کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا
ہوں: ”جو میرا مخالف ہوگا وہ یہودی مشرک جہنمی ہے۔“ ایسی چیز آگئی تو اس پر.....
مرزا ناصر احمد: وہ جو مجھے یاد ہے، وہ یہ تھا، وہ کل میں نے بتایا تھا کہ یہ عربی کی
عبارت مستقبل کے متعلق ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یعنی میں ایسے کہہ رہا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں۔

(آپ کے مخالفین میں مسلمان بھی تھے؟)

جناب یحییٰ بختیار: آپ کے مخالفوں میں مسلمان بھی تو شامل تھے۔ مسلمان علماء،
مولوی تھے یا نہیں تھے؟

مرزا ناصر احمد: ہمارے مخالفوں میں مسلمانوں کے علاوہ ایک حصہ تھا۔

1024 جناب یحییٰ بختیاری: ہاں بعض علماء، میں یہ کہہ رہا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، بعض علماء تھے۔

جناب یحییٰ بختیاری: بعض علماء۔ بعض علماء.....

مرزا ناصر احمد: اور اس طرح جو دوسرے مذاہب میں، ان میں سے بھی شاید ان کا دو فیصد تین فیصد حملہ آور ہو اسلام کے اوپر لیکن جو اصل حوالہ ہے، جو مضمون ہے کسی کتاب میں آیا، وہ خود بتاتا ہے کہ ”مخالف“ جو کہا جاتا ہے، وہ کس کو کہا جاتا ہے۔

جناب یحییٰ بختیاری: ہاں، بعض دفعہ، بعض دفعہ تو Clear ہوتا ہے، مرزا صاحب! اور بعض دفعہ نہیں ہوتا۔ جیسے کل آپ نے.....

مرزا ناصر احمد: جو Clear نہ ہو، وہ مجھ سے پوچھ لیں۔

(دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے)

جناب یحییٰ بختیاری: اس واسطے کل میں نے آپ سے عرض کیا کہ: ”دشمن یہ سمجھتا ہے۔ دشمن یہ سمجھتا ہے۔ کہ ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے۔“

مرزا ناصر احمد: وہ میں نے بڑا کھول کے بتایا۔

جناب یحییٰ بختیاری: آپ نے بتا دیا، میری تسلی نہیں ہوئی، اس واسطے کمیٹی کے ممبروں کی اللہ جانے تسلی ہوئی یا نہیں۔ مگر میری ڈیوٹی تھی کہ میں آپ کو ان کی..... جو ”دشمن“ ”مخالف“ کہتے ہیں، اس کا ضروری مطلب نہیں کہ عیسائی ہو۔ مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔

مرزا ناصر احمد: وہاں تو بڑا واضح تھا۔

جناب یحییٰ بختیاری: وہاں نہ سہی، مرزا صاحب! میں Generally (عمومی طور پر) کہہ رہا ہوں کہ آپ کی مخالفت کی انہوں نے، کرتے رہے ہیں۔ اس لئے ”مخالف“ سے مطلب صرف عیسائی نہیں ہوتا۔

1025 مرزا ناصر احمد: میں نے خود کہا.....

جناب یحییٰ بختیاری: ہاں، تو یہ کہ جب وہ.....

مرزا ناصر احمد: کہ ہر فرقہ..... مسلمانوں میں سے ہر فرقے کے ایک دو فیصد ایسے ہیں کہ جو بڑی سخت معاندانہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو باقی اس کے مخاطب نہیں ہیں۔

جناب یحییٰ بختیاری: ابھی دیکھیں ناں جی، اس کتاب میں میں نے سرسری نظر ڈالی اس پر، اور میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب وہ مخالفوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کون ان کی مخالفت

کر رہا ہے۔ اب یہ مرزا صاحب گئے ہیں جی بعض جگہ لیکچر دینے، یا کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں لوگ آجاتے تھے:

"People advised the Promised Messiah not to go to the mosque as there was a likelihood of serious riots".

(”حضرت مسیح موعود کو لوگوں نے بہت روکا کہ آپ نہ جائیں مسجد میں سخت بلوہ ہو جائے گا“)

(سیرۃ مسیح موعود ص ۳۲)

یہ دہلی کا ذکر ہے، میرے خیال میں.....

مرزا ناصر احمد: اور کس سن کا؟

جناب یحییٰ بختیار: یہ اس کتاب کا ص ۳۲، دہلی میں جب پہلی دفعہ وہ گئے تھے۔

دہلی میں دو دفعہ گئے، مگر پہلی دفعہ جو گئے.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، پہلی دفعہ وہ گئے اور آپ کے ساتھ صرف بارہ تھے احمدی۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، وہ میں نہیں کہہ رہا، کہ انہوں نے پولیس کی کیوں Protection مانگی۔ Every body has a right (وہ تو ہر ایک کا حق ہے) وہ میں نہیں کہہ رہا۔

مرزا ناصر احمد: اور ہماری کتابوں میں ہے کہ پولیس سے Protection نہیں مانگی، آپ ہی انہوں نے انتظام کیا تھا۔

جناب یحییٰ بختیار: پولیس نے خود ہی کیا تھا، Police protection میں تقریر کرتے تھے وہ:

¹⁰²⁶ "The special edifice of Jamia mosque was full of men both inside and outside and even stairs were crowded with the sea of men who were mad with rage and looked at him with bloody eyes. The promised Messiah and his little band made their way to the mehrab"

(”جامع مسجد دہلی کی وسیع عمارت اندر اور باہر آدمیوں سے پر تھی۔ بلکہ سیڑھیوں پر بھی لوگ کھڑے تھے، ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں سے گزر کر جبکہ سب لوگ دیوانہ وار خون آلود

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھ رہے تھے آپ اس مختصر جماعت کے ساتھ محراب میں جا کر بیٹھ گئے“ (سیرۃ مسیح موعود، اردو ایڈیشن ص ۳۳، ۳۲)

مرزانا صراحتاً: یہ کون سا صفحہ ہے؟
جناب یحییٰ بختیار: ص ۳۳:

..... *There was a sea of men or Musalmans in the Mosque.*

یہ کن کو "Bloody eyes" کا کہہ رہے ہیں وہ؟ پھر میں آپ.....
مرزانا صراحتاً: "Bloody" گالی کے معنی ہیں.....
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، نہیں، "bloody" I know غصے میں،
مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں۔
جناب یحییٰ بختیار: غصے میں تھے۔
مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں۔

Mr. Chairman: We break for Maghrib.

(جناب چیئرمین: مغرب کے لئے وقفہ)
مرزانا صراحتاً: یہ وہی حوالہ ہے جہاں سے: "احمدی مسلمان لکھوائیں؟"
جناب یحییٰ بختیار: یہ، مرزا صاحب! جو میرا ہے، انگلش ایڈیشن.....
مرزانا صراحتاً: وہ ایک تھانا، پہلے: "احمدی مسلمان لکھوائیں" وہ ایک نکتہ بن گیا ہے ڈھونڈنے کے لئے حوالہ۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ جو اس سے پہلے آتا ہے.....
مرزانا صراحتاً: ہاں، اس سے پہلے آتا ہے۔

¹⁰²⁷ *Mr. Yahya Bakhtiar: The announcement is followed by the storm of opposition.*

(اعلان کے بعد مخالفت کا طوفان برپا ہو گیا)
یہ Heading دی گئی ہے یہاں۔ پھر کہتے ہیں ص ۳۱ میں:
Those very theologians who had formerly commanded him now stood up to denounce him.

۴۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

(وہی علماء جو پہلے اس کی تعریف کیا کرتے اس کی مذمت میں اٹھ کھڑے ہوئے)
 پھر مولوی محمد حسین بٹالوی کا ذکر ہے۔ پھر Next page پر آتا ہے ان کا.....
 مرزا ناصر احمد: ”آپ ۲۸ ستمبر ۱۸۹۱ء کی صبح کو پئے.....“
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، آپ یہ اردو کا دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ، اگر آپ انگلش
 کا دیکھیں.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہاں بھی سن دیا ہوا ہے، وہاں بھی سن دیا
 ہوا ہوگا۔ ۲۸ ستمبر ۱۸۹۱ء اور ایک ہے.....

Mr. Chairman: We are breaking for Maghrib, and then, after Maghrib we will resume the question.

The Delegation is permitted to leave.

(جناب چیئرمین: ہم مغرب کے لئے وقفہ کرتے ہیں، نماز کے بعد اسی سوال کو
 لیں گے۔ وفد کو جانے کی اجازت ہے)
 جناب یحییٰ بختیار: یہاں مولوی محمد حسین بٹالوی..... یہ جو ہے، ہاں، یہ جو ہے ناں،
 اس کے بعد پھر Next page پر.....

Mr. Chairman: Mr. Attorney General, we are breaking for Mahgrib, and then at 7:30.....

(جناب چیئرمین: اٹارنی جنرل صاحب جو ہم مغرب کے لئے وقفہ کر رہے ہیں۔
 اب ساڑھے سات بجے پھر)

Mr. Yahya Bakhtiar: After break?

(جناب یحییٰ بختیار: وقفہ کے بعد؟)

Mr. Chairman: After break, this question will continue. ¹⁰²⁸The Honourable members may keep sitting.

(جناب چیئرمین: اس سوال کو جاری رکھا جائے گا۔ معزز اراکین تشریف رکھیں۔
 اجلاس ساڑھے سات بجے تک برخواست)

(The delegation left the Chamber)

Mr. Chairman: The House is adjourned to meet at

۴۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
 کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
 اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
 یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
 گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

7:30 thank you very much.

(جناب چیئرمین: ساڑھے سات بجے تک کے لئے اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے۔
آپ کا بہت شکریہ)

*The Special Committee, adjourned for Maghrib
Prayers to meet at 7:30 pm.*

*The Special Committee, re-assembled after Maghrib
Prayers, Mr. Chairman (Sahibzada Farooq Ali) in the
Chair.*

ساڑھے سات بجے بعد از مغرب خصوصی کمیٹی کا پھر اجلاس شروع ہوا۔

TIME FOR CROSS-EXAMINATION

(جرح کے لئے وقت)

سید عباس حسین گردیزی: ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جناب! عرض یہ ہے کہ چند
ممبران کی طرف سے سن رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بحث جلدی ختم ہو، عرض یہ ہے کہ بہت اہم
ریکارڈ بن رہا ہے.....

جناب چیئرمین: (سیکرٹری ہے) ان کو بلوائیں، باہر بٹھادیں۔
سید عباس حسین گردیزی: یہ ایک قومی ریکارڈ ہے اور بین الاقوامی ریکارڈ ہے۔ ہم
چاہتے ہیں کہ اس میں پوری وضاحت ہو کہ آئندہ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس لئے اس میں
ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہئے۔

ATTENDANCE IN THE COMMITTEE

سید عباس حسین گردیزی: دوسرے ممبر صاحبان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ
ان کو بروقت یہاں آنا چاہئے۔ ساری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آج¹⁰²⁹ بھی
باہر مجھے کسی نے کہا کہ آپ لوگ کیفے ٹیریا میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس میں دلچسپی نہیں لے رہے۔
یہ ایک قومی کام ہے اور نہایت اہم کام ہے۔ یہ جو وقت ضائع ہوتا ہے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے،
ان کا وقت ضائع نہیں ہوتا۔ میں یہ آپ کی وساطت سے ممبر صاحبان کی خدمت میں عرض کروں

۴۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

گا کہ برائے مہربانی وہ وقت ضائع نہ کریں۔ جس وقت بھی، جو وقت مقرر ہو، اسی وقت پر آئیں اور اس وقت پر جائیں تاکہ یہ ریکارڈ پوری طرح سے Thrash ہو کر، یا وضاحت بنے۔

Mr. Chairman: So far as the first.....

Saiyid Abbas Hussain Gardezi: Kept standing.

جناب چیئرمین: آپ تشریف رکھیں۔
 جناب محمد افضل رندھاوا: جناب والا! ایک چٹھی غیر حاضر ممبران کو بھی لکھنی چاہئے۔
 جناب چیئرمین: اچھا۔
 شاہ صاحب! تشریف رکھیں، میں دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں۔

So far as the first point is concerned, we cannot sit for a definite period only on this ground that we are preparing record for the generations we cannot sit for one year or three months or two months.....

(جہاں تک پہلے نقطہ کا تعلق ہے۔ ہم صرف اس بنا پر غیر معینہ مدت کے لئے نہیں بیٹھ سکتے ہم سال بھر یا تین سال اس لئے بیٹھ سکتے ہیں کہ ہم آنے والی نسلوں کیلئے ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں)

سید عباس حسین گردیزی: یہ میں نہیں کہتا جو وقت جناب کی طرف سے یا قاعدے کے مطابق ہے وہ وقت تو ضائع نہ ہو۔ یہ وقت جو ضائع ہوتا ہے، ان کا ضائع نہیں ہوتا، ہمارا ضائع ہوتا ہے۔

جناب چیئرمین: یہ دوسرا کام ہے تبلیغ کا میں تو ایک سال سے اس کرسی پر بیٹھ کر یہی تبلیغ کر رہا ہوں کہ خدا کے لئے یہاں آیا کریں، وقت پر آیا کریں، میرے کہنے کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ قسمت آزمائی کر لیں، میرے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔
¹⁰³⁰ سید عباس حسین گردیزی: جناب کی وساطت سے میں ممبر صاحبان کی خدمت میں باادب گزارش.....

جناب محمد افضل رندھاوا: جناب والا! جو حاضر ہیں ان کو سنانے سے؟ جو غیر حاضر ہیں، ان کو چٹھیاں لکھیں۔

جناب چیئرمین: شاہ صاحب! ۹ بجے کے بعد ایک ایک کر کے کھلنا شروع

۴۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ہو جاتے ہیں۔ بستہ ہاتھ میں لیا اور وہاں سے کھسک گئے اور یہاں بیٹھے رہتے ہی پندرہ۔

In Budget one day we started with six members.

(بجٹ کے دوران ایک دن ہم نے چھ ارکان سے اجلاس شروع کیا)

یہ تو کوئی بات نہیں ہے ناں جی۔

پروفیسر غفور صاحب! لاء منسٹر صاحب آگئے ہیں، میرے چیئرمین ہیں، یہاں بھی آجائیں گے۔ آپ ان کے ساتھ پھر ڈسکشن کر لیں۔ میں نے کہا وہ ابھی آجاتے ہیں۔ چوہدری صاحب بیٹھے تھے، وہ کچھ باتیں کر رہے تھے اس کے متعلق سارا۔ جیسے بھی ہو ہاں تو:

Now I am going to call them.

They may be called.

(The delegation entered Chamber)

(بس انہیں بلانے لگا ہوں، انہیں بلا لیں۔ وفد ہال میں داخل ہوا)

CROSS- EXAMINATION OF THE QADIANI GROUP DELEGATION

(قادیانی وفد پر جرح)

*Mirza Nasir Ahmad: With the permission of the
Chair.*

(مرزا ناصر احمد: جناب چیئرمین صاحب کی اجازت سے)

ایک تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے۔ جو پیچھے فلسطین کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ جب ۵۶ء میں چوہدری محمد شریف واپس آئے تو اس وقت کوئی رپورٹ کی گئی۔ تو میں صرف یہ ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ میرا انتخاب ۱۹۶۵ء میں ہوا تھا اور اس وقت، مجھے یہ بھی یاد نہیں..... ہم نے سوچا.....

1031 جناب یحییٰ بختیار: وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم آپ سے نہیں اس پر کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے کہا کہ آپ انچارج نہیں تھے۔ ممکن ہے آپ خود ہی یورپ میں ہوں، آپ اس جگہ نہ ہوں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں یورپ میں تو نہیں تھا لیکن میرا تعلق کوئی نہیں تھا اس سے۔

۴۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ میں نے کہا، کیونکہ.....

مرزا ناصر احمد: ہاں ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: کیونکہ کتاب ۱۹۶۵ء کی وہ آئے ہیں ۱۹۵۶ء میں، وہ تو

سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

مرزا ناصر احمد: وہ فلسطین کے متعلق میرا نوٹ ہے، وہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، فلسطینی

مسلمانوں کے ساتھ مل کے، اسرائیل کے وجود کے قیام کے خلاف۔ وہ میں اپنے وقت کے اوپر

بتاؤں گا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو ہمیں کوئی Dispute (جھگڑا) نہیں ہے اس پر۔

میں تو صرف وہ چیز، جو لوگوں کے سوال پوچھے جاتے ہیں، وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں آپ

سے عرض کر رہا تھا کہ ”مخالف“ جب بار بار لفظ آتا ہے تو اس پر یہ کہ مسلمان بھی اس میں شامل ہیں

اور اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر جگہ جہاں مرزا صاحب جاتے رہے ہیں، دہلی میں، امرتسر

میں، لاہور میں، سیالکوٹ میں، تو بار بار ذکر آتا ہے کہ مسلمانوں نے مخالفت کی۔ باقی بھی کرتے

ہوں گے اور علماء بھی تھے ان میں سے کچھ اور تھے.....

مرزا ناصر احمد: یہ کہیں نہیں آتا کہ سارے مسلمانوں نے کی.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں.....¹⁰³²

مرزا ناصر احمد: میں نے اسی واسطے کہا تھا کہ دو، ایک فیصد تھے جنہوں نے..... جو

مخالفت کرتے رہے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: میں نے یہی کہا ناں جی کہ اس میں مسلمان بھی شامل ہوتے

ہیں، جب وہ ”مخالفت“ کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ صرف عیسائی ہوں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، یہ تو میں نے کہہ دیا تھا۔

(دہلی میں ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ سب غصے میں تھے)

جناب یحییٰ بختیار: میں اس لئے آپ کو توجہ دلا رہا تھا کہ دہلی میں ہزاروں کی تعداد

میں، وہ کہتے ہیں، وہ سب غصے میں تھے۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، Out of crores (کروڑوں میں سے)

Mr. Yahya Bakhtiar: Naturally.

مرزا ناصر احمد: ”جامع مسجد دہلی کی وسیع عمارت اندر اور باہر سے آدمیوں سے پُر

تھی بلکہ سڑھیوں پر بھی لوگ کھڑے تھے ہزاروں آدمیوں کے مجمع سے گزر کر جبکہ سب لوگ دیوانہ وار خون آلودنگاہوں سے آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، میں تو یہ کہوں گا کہ بڑے عمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئین بانجھر کہنے یا نہ کہنے پر سزا ڈیئے تھے۔“
جناب یحییٰ بختیار: اب ایک جگہ وہ آگے..... یہاں لکھا ہے جی کتاب میں:

"His cousin, Sir Ahsan, in Nineteen one hundred (1901?), and some of his relatives, who were opposed to him, put up a wall in front of...."

((اس مرزا قادیانی) کے چچا زاد بھائیوں اور چند دیگر رشتہ داروں نے جو کہ اس کے مخالف تھے سامنے دیواری کھڑی کر دی)

¹⁰³³ "مخالف" میں کہہ رہا ہوں کہ ہر قسم کے لوگ آسکتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ عیسائی ہی تھے۔
مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں یہ تو میں نے کہہ دیا، مان لی بات ہر مذہب اور اسلام کے ہر فرقے کا دو تین فیصدی ایسا ہے جو آیا ہے مخالفت میں۔

(امر تسر میں بھی مسلمان مخالفت کر رہے تھے)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جب امر تسر بھی جاتے ہیں تو اس کا بھی ذکر ہے کہ وہاں کے جو مولوی تھے وہ بہت آئے تھے وہاں۔ میں نہیں کہتا کہ سارے مولوی تھے، مگر جو ہال میں وہاں تھے وہ مخالفت کر رہے تھے، ان کو بھی "Opponent" بتایا گیا ہے

مرزا ناصر احمد: یوں تو ساری تاریخ شیعہ سنی فسادات اور ان فسادات سے بھری پڑی ہے، ہماری تاریخ۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ مرزا صاحب! لاہور وغیرہ کی جو میٹنگ تھی نا، اس پر.....
مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے ساری تاریخ بھری پڑی ہے ہماری، ان فسادات سے۔

(Interruption)

Mr. Chairman: I will request Sardar Aleem to resume his seat.

(جناب چیئرمین: میں سردار علیم سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں)

۴۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

(کیا قرآن کریم اور مرزا کے الہامات دونوں کا درجہ برابر ہے؟)

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! یہ آپ کی جماعت کی رائے ہے کہ قرآن کریم اور الہامات مسیح موعود دونوں خدائے تعالیٰ کے کلام ہیں، دونوں میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اس لئے مقدم رکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، دونوں کا Status ایک جیسا ہے؟

مرزا ناصر احمد: ¹⁰³⁴ یہ جو فقرہ ہے، اس میں دو سوال ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تجزیہ کر دوں؟ اصولی حقیقت عالمین کی، ساری خلق کی، اس ساری Universe کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو دو چیزیں صادر ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، ان میں تضاد ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک یہ دوسری یہاں یہ ہے کہ آیا کس قسم کا الہام؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے میں اپنا بتاؤں گا.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، میں وہی پوچھ رہا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: ہمارا یہ عقیدہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہر الہام تابع ہے نبی اکرم کے الہامات کے، اور تفسیری ہے، زیادتی نہیں کرتا کچھ بھی، شریعت محمدیہ ﷺ اور اسلامی جو ہدایت دی گئی ہے، اس پر ایک لفظ کی زیادتی نہیں، بلکہ تفسیر ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مگر وہ جو ان کا Status (درجہ) ہے، ایک ہی جیسا ہے؟ کیونکہ دونوں آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام ہیں۔

مرزا ناصر احمد: ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام صادق تھے، اور اس واسطے ہم نے آپ کو مانا اور آپ نے جب یہ کہا کہ: ”یہ الہام مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔“ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا.....

(مرزا کا الہام ایسے ہی ہے، جیسے قرآن؟)

جناب یحییٰ بختیار: تو وہ ایسے ہی ہوا جیسے قرآن کا ہوا؟

مرزا ناصر احمد: اور..... دیکھیں نا، وہ آپ، جو میں فقرہ کہوں، اس کا انتظار کر لیں، میرے جواب کا انتظار کر لیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں اس پر غلطی نہیں کر رہا، چونکہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ وہ امتی نبی ہیں، وہ میں نہیں کہہ رہا.....

مرزا ناصر احمد: ¹⁰³⁵ نہیں، میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک فقرہ میرا جواب کا رہتا تھا، وہ آپ سن لیں۔

جناب یحییٰ بختیار: Sorry آپ کہہ لیجئے، پھر میں پوچھتا ہوں۔
مرزا ناصر احمد: میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو واقع میں اللہ تعالیٰ کا کلام
ہو، ان کے اندر آپس میں نہ تضاد ہے، اور ان کا مقام بوجہ اپنے Source کے، منبع کے، سرچشمہ
کے، مختلف ہے ہی نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: ایک جیسا ہو گیا؟
مرزا ناصر احمد: وہ جو آگے تفسیر..... جو میں نے تفسیر کا بتایا، وہ تفسیر ہے اس کی، یہ
ہمارا ایمان ہے۔

(دونوں کو ایک لیول میں رکھتے ہیں کہ دونوں صحیح کلام ہیں؟)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں، میں، صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آپ دونوں کو ایک ہی
لیول پر رکھتے ہیں؟ یہ دونوں اللہ کے کلام ہیں، آپ کے نزدیک، اور دونوں صحیح کلام ہیں؟
مرزا ناصر احمد: دونوں کو اس لحاظ سے ایک لیول پر رکھتے ہیں کہ دونوں اللہ کے کلام ہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: یہی میں کہہ رہا ہوں۔
مرزا ناصر احمد: اس لیول سے۔ لیکن بعض اور چیزیں.....
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں اس پر نہیں کہہ رہا، اس پر میں آ رہا ہوں، ابھی۔
مرزا ناصر احمد: ہاں، وہ، وہ ٹھیک ہے۔ چونکہ ہر دو خدا کا کلام ہے۔ اس لئے ہر دو
خدا کے کلام کی عظمت اپنے اندر رکھتا ہے۔

(مرزا کا الہام احادیث سے بلند ہے؟)

جناب یحییٰ بختیار: اور حتمی بھی احادیث ہیں، وہ تو Naturally قرآن کے
لیول پہ ہونے لگتی ہیں، جو مرزا صاحب کی وحی ہیں، جو ان کے الہام ہیں، حدیثوں سے آپ ان کو
بلند سمجھتے ہیں؟
مرزا ناصر احمد: ¹⁰³⁶ وما ينطق عن الهوى، قرآن کریم کہتا ہے: ان هو الا وحی
یوحی۔ جو واقع میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے، وہ جو ارشاد ہے، وہ اپنے نطق کا نہیں بلکہ خدا
تعالیٰ کی تائید کے مطابق آپ ﷺ کا وہ ارشاد ہے۔

۱۔ محمد عربی ﷺ کی وحی یعنی قرآن مجید اور مرزا قادیانی کا الہام دونوں کا لیول ایک،
یعنی درجہ برابر ہے؟ (معاذ اللہ)

جناب یحییٰ بختیار: اور جو خدا تعالیٰ کا ارشاد مرزا صاحب کو ہوا، وہ حدیث سے بلند مرتبہ ہے اس کا یا نہیں؟

مرزا ناصر احمد: ہر.....

جناب یحییٰ بختیار: آپ دیکھیں ناں.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں سمجھ گیا، جواب دینے لگا ہوں۔ ہر حدیث صحیح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام سے اس لئے بالا ہے کہ اس کا تعلق محمد رسول اللہ ﷺ سے ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: حدیث آپ سمجھتے ہیں کہ بالا ہے؟

مرزا ناصر احمد: ہر حدیث صحیح، جو بھی صحیح حدیث ہے، اس کو ہم بہر حال حضرت مسیح موعود کی تفسیر سے، خواہ وہ الہامی ہو یا غیر الہامی، اس سے بالا سمجھتے ہیں۔

(الفضل کا حوالہ)

جناب یحییٰ بختیار: یہاں میں آپ کو ایک حوالہ پڑھ کر سنا تا ہوں، آپ چیک کر لیں، یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا ہے۔ ”الفضل“ ۲۵ اپریل ۱۹۱۵ء ہے: ”حدیث تو بیسیوں راویوں کے پھیر سے ہمیں ملی ہے اور الہام براہ راست ہے۔ اس لئے الہام مقدم ہے۔“

یہاں تو یہ Clear ہے۔ آگے فرماتے ہیں:

¹⁰³⁷ ”مسیح موعود سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں، وہ حدیث کی روایات سے معتبر ہیں۔ حدیث ہم نے آنحضرت کے منہ سے نہیں سنی۔“

(الہام) *Not, only Ilham* بلکہ باتیں جو ہیں.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ..... آپ جب بات ختم کر لیں گے، میں وضاحت کر دیتا ہوں، ابھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ امام بخاری، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل کرے، چھ لاکھ احادیث ان کے پاس مختلف روایتوں سے پہنچیں، اور ان میں سے انہوں نے پانچ لاکھ چورانوے ہزار کے قریب رد کر دیں اور صرف چھ ہزار روایات لے لیں۔ تو یہاں جو اصل گنڈی ہے، وہ راویوں کا ہے، حدیث صحیحہ کا نہیں سوال۔ مختلف راویوں سے حضرت امام بخاری کے پاس کم و بیش چھ لاکھ پہنچیں احادیث اور انہوں نے پانچ لاکھ چورانوے ہزار احادیث کے متعلق یہ فتویٰ دیا کہ یہ قابل قبول نہیں تو یہ اس لئے نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ: ”یہ کلام آنحضرت ﷺ کا ہے اور میں قبول نہیں کرتا۔“ بلکہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا کہ: ”جن مختلف راویوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچیں ان میں سے بعض ایسے کمزور ہیں کہ میں ان کی یہ بات ماننے کے لئے نہیں تیار اپنے

۵۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

آپ کو پاتا کہ آنحضرت ﷺ نے ہی یہ بات کہی ہوگی۔“
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! میں آپ کا مطلب سمجھ گیا، میں یہی.....
آپ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، کمزوری کی، کہ حدیث کیونکہ کمزور ہے اور مرزا صاحب کی باتیں کیوں
ان سے قوی ہیں، آپ نے وجہ بتائی۔ میں نے کہا یہ عقیدہ آپ کا ہے؟ تو یہ آپ Clear کریں۔
مرزا ناصر احمد: نہیں، میں..... اوہ..... اوہ! بالکل نہیں یہ عقیدہ اس واسطے میں نے
شروع میں ”حدیث صحیحہ“ کہا.....

(مرزا کا الہام حدیث پر مقدم ہے)

1038 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں اس واسطے کہتا ہوں.....
مرزا ناصر احمد: نہیں، ”صحیح حدیث“ میں نے کہا ہے، اس شرط کے ساتھ تو میں کہہ
نہیں سکتا.....

جناب یحییٰ بختیار: دیکھیں جی: ”حدیث تو بیسیوں راویوں کے پھیر سے ہمیں ملی
ہے اور الہام براہ راست ہے۔ اس لئے الہام مقدم ہے۔“
مرزا ناصر احمد: ہاں جی ہر وہ حدیث.....

جناب یحییٰ بختیار: یہ تو جزل بات ہوگئی نا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا
کہ وہ فرماتے ہیں: ”مسح موعود سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ حدیث کی روایات سے معتبر ہیں۔“
حدیث.....“

مرزا ناصر احمد: حدیث سے معتبر نہیں، حدیث کی روایات سے.....
جناب یحییٰ بختیار: دیکھیں نا، آپ تو Clarification کر رہے ہیں۔
مرزا ناصر احمد: نہیں، یہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے، میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پر
توجہ کریں۔

جناب یحییٰ بختیار: ”مسح موعود سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ حدیث کی روایات
سے معتبر ہیں۔“

مرزا ناصر احمد: حدیث کی روایات سے، حدیث سے نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے، ہاں.....

1039 مرزا ناصر احمد: حدیث سے نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: ”..... حدیث کی روایات سے معتبر ہیں۔ حدیث ہم نے

آنحضرت ﷺ کے منہ سے نہیں سنی۔“ میرا پوائنٹ یہ ہے، مرزا صاحب! کہ حدیث، خواہ وہ سوگنا بھی آپ کہیں کہ صحیح ہے، وہ مرزا صاحب کے کلام سے اوپر نہیں کیونکہ کسی نے وہ نہیں سنی، خواہ سو (۱۰۰) امام بخاری کہیں۔ اس لئے مرزا صاحب کا کلام جو ہے، ان کی باتیں جو ہیں، وہ ان پر مقدم ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کو آپ Clarify کریں۔

مرزا ناصر احمد: اس عبارت سے، اس عبارت سے ایسا مطلب آپ لے رہے ہیں جو ہمارا آٹھویں کا بچہ بھی نہیں لے سکتا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں تو بے وقوف ہوں جی، موٹے دماغ کا آدمی ہوں، یسوع کی طرح پر، مگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو ہے.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، جب ہمارے، ہمارے مذہب کا ہوسوال، تو میں ہی بتاؤں گا ناں آپ کو۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ ٹھیک ہے، جی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، مرزا صاحب! مرزا ناصر احمد: جب میں بتاتا ہوں تو آپ قبول نہیں کرتے۔ بس وہ ختم ہو گیا میرا۔ جناب یحییٰ بختیار: دیکھیں ناں، میں قبول نہیں کرتا ہوں، میں اسی واسطے Clarification لے رہا ہوں، ورنہ کمیٹی تو اس کو پڑھ کے اپنے نتیجے پر پہنچ سکتی تھی۔

مرزا ناصر احمد: ہاں وہ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی۔
1040 جناب یحییٰ بختیار: تو میں اس واسطے عرض کر رہا ہوں کہ میں بڑی مشکل ڈیوٹی Perform کر رہا ہوں کہ Clarification ہونی چاہئے، یہ چیزیں سامنے آنی چاہئیں۔

Mirza Nasit Ahmad: I quite understand.

جناب یحییٰ بختیار: ابھی سارے یہاں میرے پاس پرچے آرہے ہیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، دس پرچے آجاتے ہیں: ”یہ پوچھئے یہ پوچھئے۔“ تو اس میں عرض..... کہتا ہوں کہ جو مطلب یہاں سے نظر آتا ہے، Reasoning, ground, rationale وہ اتنا صاف ہے کہ: ”منسج موعود سے جو باتیں ہم نے سنیں وہ حدیث کی روایات سے معتبر ہیں.....“

مرزا ناصر احمد: حدیث کی روایات سے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، حدیث کی روایات سے۔

مرزا ناصر احمد: مثلاً، میں بتاتا ہوں، اس کو اور واضح کر دوں.....

۱۔ مرزا ناصر احمد یحییٰ بختیار کی اہانت پر اتر آئے؟

۵۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: مجھے یہ سوال ذرا اگر.....

مرزا ناصر احمد: ہاں جی، ہاں

جناب یحییٰ بختیار: ”..... معتبر ہیں حدیث ہم نے آنحضرت کے منہ سے نہیں سنی۔“ اب اس سے جو مطلب میں اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حدیث آپ صحیح سمجھتے ہیں، جس پر آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کے بارہ میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ: ”ہم نے آنحضرت ﷺ کے منہ سے سنی“ اور کیونکہ ہم نے ان کے منہ سے نہیں سنی، اس لئے مرزا صاحب نے جو باتیں کیں، اور ”ہم نے ان کے منہ سے سنیں، وہ ان سے مقدم ہیں، معتبر ہیں“.....
1041
مرزا ناصر احمد: ہمارا مذہب یہ نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ مطلب نہیں تو آپ Clarify کر دیں۔

مرزا ناصر احمد: ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے۔

مرزا ناصر احمد: ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مثلاً حدیث ہے کہ وہ بعض دفعہ سات راویوں کے بیچ میں سے گزر کر پہنچتی ہے امام بخاری کے پاس..... جو صاحب الکتب ہے احادیث کی کتب میں سے اور اس میں بعض دفعہ..... تقریباً ڈیڑھ، دو سو سال کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی اور بہت سے راویوں میں سے ایک سے دوسرے نے روایت کی۔ اس طرح یہ سلسلہ گیا تو روایت جو ہے، روایت کے لحاظ سے کئی راوی ایسے ہیں جن کو مسلم نے قبول کر لیا اور امام بخاری نے قبول نہیں کیا۔ کئی ایک راوی ایسے ہیں جو امام بخاری نے قبول کر لئے اور بعد میں آنے والے اولیاء اللہ نے قبول نہیں کئے۔ کئی راوی ایسے ہیں جو امام بخاری نے رد کر دیئے اور بعد میں آنے والے ہمارے اولیاء نے ان کو قبول کر لیا۔ تو یہ ہے حقیقت احادیث کی اور روایت کی وجہ سے جو جوش..... جس حدیث کو ہم، ہمارے بزرگ ہم..... اس وقت میں تو کہوں گا کہ جس کو ہمارے مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اور خلفاء نے بعد کے، اور میں نے، یہ قبول کر لیا کہ اس کی روایت درست ہے، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، نبی اکرم ﷺ کے کلام کا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام کے ساتھ۔ یعنی یہ میرا مذہب ہے۔

۱۔ قادیانی کرم فرما توجہ کریں۔ مرزا ناصر احمد صاحب اپنے ابا حضور کے کلام سے بھی انکاری ہو گئے۔

۵۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیاری: نہیں، یہ تو ٹھیک آپ فرما رہے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں انہوں نے *Distinction* کی ہے.....

مرزا ناصر احمد: وہ ”روایت“ کے اوپر زور دے کر کی ہے۔

1042 جناب یحییٰ بختیاری: روایت کی وجہ سے کیونکہ روایت ہے روایت کی وجہ سے وہ اتنی مستند نہیں ہو سکتی کہ جو کوئی آدمی ڈائریکٹ بات سنے۔ اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ ”تم نے ڈائریکٹ سنی“ تو *Naturally* وہ.....

مرزا ناصر احمد: یہ کون سا؟ اس کے اندر ہی جواب ہوگا۔

جناب یحییٰ بختیاری: میں نے بتا دیا ہے..... ۲۵ اپریل کا..... جو مجھے لکھ کر دیا گیا ہے۔

مرزا ناصر احمد: یہ اسی کتاب کا ہے؟

جناب یحییٰ بختیاری: نہیں، میں نے ”الفضل“ کا حوالہ دیا ہے۔

مرزا ناصر احمد: اچھا ”الفضل“ کا۔ تو شاید اس کے آگے پیچھے کوئی جواب ہو۔

جناب یحییٰ بختیاری: اسی واسطے، مرزا صاحب! آپ دیکھ لیں۔ میں تو ایسی ڈیوٹی

کر رہا ہوں۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں بالکل نہیں ناراض، میں تو آپ کا خادم ہوں۔

جناب یحییٰ بختیاری: خادم تو میں ہوں جی، اسمبلی کا، جیسے وہ حکم دیتے ہیں، میں اس کی

تعمیل کرتا ہوں۔

مرزا صاحب! آپ نے اپنے خطبے میں، جو ۲۱ جون کا میرے خیال میں ”مضمر نامہ“

میں بھی ہے اس میں اور فرمایا ہے..... میں یہ آپ کا ص ۱۲ پڑھ رہا ہوں:

"This constitution gives him....."

یہ آرٹیکل جو ہے نا، ۲۰ (اے)، کو *Interpret* کر رہے ہیں۔ اس میں آپ

فرماتے ہیں:

"This constitution gives him the right to announce

".....whether he is a Muslim

۱۔ دہل کی حد ہوگئی، اخبار کو کتاب بنا دیا۔ بدحواسی یا دہل؟ قادیانی فیصلہ کریں۔

۲۔ اب شاید کہہ کر تشکیک پیدا کر کے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا پر عمل پیرا ہیں۔

۵۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

میں اوپر سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ After quoting

¹⁰⁴³ "Every citizen shall have the right to profess.

practice and propagate his religion".

(جناب یحییٰ بختیار: ہر شہری کو اپنے مذہب کے اعلان، تشہیر اور تبلیغ کا حق ہوگا)
اس سے آگے آپ تفسیر کر رہے ہیں اس کی کہ:

"In other words, this constitution which is"

اس سے آگے ہے جو کہ:

"Every religions denomination and every sect thereof shall have the right to establish maintain and manage his religious institutions".

(یہ ہر مذہبی گروہ اور اس کے ذیلی فرقوں کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے اور چلانے کا

حق ہے)

Mirza Nasir Ahmad: Ok, this is clause in the Constitution.

مرزا ناصر احمد: یہ آرٹیکل کے اندر ایک شق ہے۔

(آرٹیکل نمبر ۲۰)

جناب یحییٰ بختیار: جو آرٹیکل ۲۰ ہے Constitution کا اس میں، آپ فرماتے

ہیں کہ:

"In other words, this constitution, which is a source of pride for us, guarantees to every citizen of Pakistan his religion, that is to say, the religion which he, and not Mr. Bhutto or Mufti Mahmood or Mr. Moudoodi, chooses for himself. Whatever religion a citizen chooses, that is his religion and he can announce it. This constitution gives him the right to announce that he is a Muslim or not, and if he

۵۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

announces, that he is a Muslim, then this constitution of which the People's Party is proud, and of which we are also proud because of this article, guarantees to every citizen to announce that, being a Muslim, he is Wahabi or an Ahle-Hadith or an Ahle Quran or Barailve or Ahmadi".

(”ہر شہری کا مذہب، نہ کہ مسٹر بھٹو کا یا مولانا مفتی صاحب کا یا مولانا مودودی کا مذہب جو کہ وہ اپنے لئے منتخب کرے۔ جو مذہب بھی کوئی شہری اپنے لئے منتخب کرے وہ اس کا اعلان کر سکتا ہے۔ آئین ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ وہ ہی بات کا اعلان کرے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں اور اگر وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے تو پھر یہ آئین جس پر پیپلز پارٹی فخر کرتی ہے اور جس پر ہم سب بھی فخر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسی شق ہے جو کہ ہر ایک شہری کو اپنے مسلمان کہلانے کا حق دیتی ہے خواہ وہ وہابی ہو یا احمدیٹ ہو، اہل قرآن ہو، بریلوی ہو یا احمدی“)

(آپ ایک فرقہ ہیں یا آپ ہی اصلی اسلام ہیں؟)

تو اس سے یہ Impression پڑتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، کہ آپ بھی اپنے آپ کو باقی مسلمانوں کا ایک فرقہ تصور کرتے ہیں۔ کیا یہ ہمیشہ آپ کا یہی Attitude تھا کہ آپ ایک فرقہ ہیں، یا آپ کا خیال تھا کہ آپ ہی اسلام ہیں اور آپ ہی اصلی اسلام ہیں اور باقی کوئی نہیں، فرقہ ورتہ نہیں آپ؟

1044 مرزا ناصر احمد: وہ جو ایک پرانا حوالہ دیا تھا ناں کہ Census میں یہ لکھوائیں اس میں بھی جو ہدایت تھی، مشورہ تھا، وہ یہ تھا کہ ”احمدیہ فرقہ کے مسلمان۔“
جناب یحییٰ بختیاری: ”فرقہ“ تو نہیں، اس میں لکھا ہے: "Entered as Ahmadi Muslim".

مرزا ناصر احمد: ”احمدی مسلمان“ ”فرقہ“ بھی ہے ایک جگہ، ہاں، ”فرقہ احمدیہ کے مسلمان“ یعنی دونوں ہدایتوں میں دونوں فقرے موجود ہیں۔ تو احمدی، ہم..... یہ جو آپ نے بات کہی، یہ درست ہے کہ ہم ایک حصہ، جس طرح اور بہتر تہذیب میں، اسی طرح ایک فرقہ اپنا سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ سے سمجھتے آتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیاری: یہ وہ جو مرزا صاحب نے لندن میں لیکچر دیا تھا، لیکچر تو یہ نہ ہوا،

۵۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

اپنوں کو تو انہوں نے بریف کر دیا تھا مگر یہ کتاب اس وقت مرزا بشیر الدین صاحب نے لکھی تھی.....

Mirza Nasir Ahmad: Ahmadiyyat or True Islam.

(مرزا ناصر احمد: احمدیت یا سچا اسلام)

جناب یحییٰ مختیار: ہاں جی، یہ "Ahmadiyyat or the True Islam" یہ ۱۹۳۷ء ایڈیشن ہے، قادیان سے پبلش ہوا ہے، اس کا صفحہ 34 ہے، اس پر مرزا صاحب فرماتے ہیں:

"He distilled the impure water and discovered the subterranean channel, and removed the veil from our eyes, and opened wide the door to a vast field of research and discovery, thus providing for the ever in creaming needs of mankind, with out, in the least, going outside the teaching of the Holy Quran and interfering with the form of Islam, which was established by the Holy Prophet (Peace and the blessing of God be upon him and which it the will of God to preserve till the end of days. Once this is realized, it will be easy to comprehend that ¹⁰⁴⁵ although the Ahmadyyyia Movement believes firmly in the Holy Quran and is a Movement of Muslims, it can not be ranked merely as one of the such of Islam"

I go further please:

"..... One the contrary, it claims that it alone represents to the world the real Islam that was revealed over 1300 years ago, and that its special mission is to enrich mankind with the unlimited spiritual treasures contained in the Holy Quran.

۵۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

(جناب یحییٰ بختیار: کہ اس نے ناپاک پانی کو مصفیٰ کیا اور پوشیدہ نہروں کو دریافت کیا اور ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے پردوں کو اتارا اور تحقیق اور معلومات کے وسیع میدان کے دروازے کھول دیئے اس طرح انسانیت کی روز بروز بڑھنے والی ضروریات کو قرآنی تعلیمات اور نبی کریم ﷺ کے قائم کردہ اسلامی خدوخال کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے مہیا کیا۔ اگر اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے تو پھر یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اگرچہ احمدیہ جماعت قرآن کریم پر محکم ایمان رکھتی ہے اور یہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے مگر اس (جماعت احمدیہ) کو اسلام کا ایک فرقہ نہیں کہہ سکتا۔ (میں مزید آگے بڑھتا ہوں) بلکہ اس کے برعکس احمدیہ جماعت کا موقف ہے کہ صرف یہی دنیا میں حقیقی سچا اسلام پیش کرتی ہے جو کہ تیرہ سو سال پہلے آیا تھا اور اس (جماعت احمدیہ) کا نصب العین بنی نوع انسان کو قرآن مجید میں دی ہوئی لامحدود روحانی دولت سے مالا مال کرنا ہے) یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، اس میں.....

Mr. Yahya Bakhtiar: You dont consider yourself as merely sect of Islam.

مرزا ناصر احمد: یہ آپ نے پڑھ دیا، اس پر جو سوال ہے وہ کیا ہے؟
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کہتے ہیں کہ *Your are a sect of Islam and you should be treated as Wahabis and others.* (آپ سے بھی وہابی یا دوسرے فرقوں جیسا سلوک ہونا چاہئے) میں نے کہا جی کہ یہ آپ کا سٹینڈ نہیں رہا ہے پہلے۔ پہلے آپ کا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ:

"We are not a sect of Islam. We should not be ranked as one of the sects of Islam; we are the real Islam".

(جناب یحییٰ بختیار: ہم اسلام کا ایک فرقہ نہیں ہیں۔ ہمیں اسلام کا ایک فرقہ نہ سمجھا جائے بلکہ صرف ہم ہی حقیقی اسلام ہیں)۔
 مرزا ناصر احمد: ہر فرقے کا یہی مذہب ہے۔

(حضرت مسیح علیہ السلام کو آپ تشریحی نبی سمجھتے ہیں یا امتی نبی؟)
 جناب یحییٰ بختیار: وہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں..... اب مرزا صاحب!

میں..... مرزا صاحب آپ نے، اس دن (وقفہ) آپ نے فرمایا تھا جی کہ ”مسح موعود نبی بھی تھے۔“ اسی Capacity میں، اس پر کچھ Question تھے۔ میں بعد میں پوچھ لوں گا۔ لاہور پارٹی کے۔ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مگر مجھے ایک چیز Clear نہیں ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو آپ شرعی نبی سمجھتے ہیں یا امتی نبی؟
مرزا ناصر احمد: ¹⁰⁴⁶ مسیح ناصری؟

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔

مرزا ناصر احمد: نبی اکرم ﷺ سے قبل کوئی امتی نبی نہیں آسکتا تھا نہ آیا، اس لئے کہ.....
جناب یحییٰ بختیار: یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے۔ میرا مطلب وہ ہے۔
مرزا ناصر احمد: نہیں میں بھی وہی کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں، آنحضرت ﷺ کی نسبت سے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے، یا دوسرے نبی جو تھے، جن، جن علاقوں کے تھے، ان کی نسبت سے۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔

مرزا ناصر احمد: نبی اکرم ﷺ سے پہلے نہ کوئی امتی نبی ہوا نہ آسکتا تھا، اس لئے اس وقت جو شرائع لے کر آئے تھے وہ کامل نہیں تھیں اور کامل اتباع کے نتیجے میں اور فنا فی الرسول کے نتیجے میں یہ نعت نہیں (نا قابل فہم) مل سکتی۔ ہمارا ایمان یہ ہے۔ تو امتی نبی صرف نبی اکرم ﷺ کا ہو سکتا ہے، جو اپنی عظمت اور شان میں سب سے اونچے چلے گئے اور ایک کامل، مکمل ہدایت اور شریعت قرآن پاک کی شکل میں نوع انسانی کو آپ نے دے دی۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام..... اگر آپ کہیں تو ذرا Explain (واضح) کر دوں؟

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، اس کا Status Clarify (مقام واضح) کر دیں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شرعی نبی تھے۔ ان کے بعد بنی اسرائیل میں جو انبیاء آئے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے، لیکن کچھ تھوڑا تھوڑا فرق کر رہے تھے ساتھ، کامل اتباع نہیں، ان کے اندر نظر آتی۔ حضرت محمد ﷺ کے بعد، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک شوشہ بھی قرآن پاک کا منسوخ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہ کہتی تھی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ یہ شریعت کا حکم ہے، توریث کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک گال پر کوئی تھپڑ لگاتا ہے تو دوسری بھی آگے

کردو یعنی انہوں نے انتقام پر زور دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معافی پر زور دیا۔ لیکن *On the whole* (مجموعی طور پر) شریعت موسوی کی پابندی کرنے والے تھے اور امتی نبی کے لئے ضروری ہے کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک شوشے میں اپنے متبوع نبی، صاحب شریعت نبی کی کامل اتباع کرنے والا ہو۔

(حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریحی نبی نہیں تھے؟)

جناب یحییٰ بختیار: یعنی حضرت عیسیٰ بھی شرعی نبی نہیں تھے؟
مرزا ناصر احمد: نہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ میں پوچھ رہا تھا۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، نہیں، شرعی نبی نہیں تھے ہمارے نزدیک۔

جناب یحییٰ بختیار: ”امتی“ تو میں اس *Sense* میں کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے تھے وہ، یہودی تھے وہ بھی۔

مرزا ناصر احمد: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں۔

مرزا ناصر احمد: لیکن جو ہماری اصطلاح ہے ”امتی نبی“ وہ اس کے مطابق نہیں تھے۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ ان کو ”غیر شرعی“ کہیں گے؟

مرزا ناصر احمد: ”غیر شرعی تابع نبی“ لیکن آپ کی نبوت امتی نبوت نہیں ہے، کامل اتباع کے نتیجے میں نہیں۔

1048 جناب یحییٰ بختیار: اور تابع وہ تھے حضرت موسیٰ کے؟

مرزا ناصر احمد: حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابع تھے۔

جناب یحییٰ بختیار: اور اسی کے قانون کو انہوں نے *Establish* کرنا تھا؟

Mirza Nasir Ahmad: On the whole.

(مرزا ناصر احمد: مجموعی طور پر)

Mr. Yahya Bakhtiar: On the whole.

۱ صاحب کتاب یعنی ان پر انجیل اتزی پھر بھی شرعی نبی نہ تھے۔ کیا؟ کہنا چاہتے ہیں

مرزا ناصر صاحب۔

۶۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(جناب یحییٰ بختیار: مجموعی طور پر)

اور مرزا صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ بھی غیر شرعی ہیں اور وہ بھی محمد ﷺ کا جو قانون ہے.....

مرزا ناصر احمد: لیکن *On the whole* (مجموعی طور پر) نہیں، *Absolutely* (مکمل طور پر)۔

Mr. Yahya Bhakhtiar: Absolutely, that I say. But

دونوں شرعی ہیں؟

مرزا ناصر احمد: دونوں شرعی نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ توریت کے بعد: کہ حضرت موسیٰؑ کے بعد..... یہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسے انبیاء آئے، بنی اسرائیل میں، کہ جو شریعت موسوی کے مطابق پیروی کرواتے تھے، اتباع کرواتے تھے، لوگوں کی ہدایت کا سامان پیدا کرتے تھے۔ لیکن تھوڑا سا اختلاف سارا اگر..... بہت بڑا مضمون ہے۔ وہ میں نے صاف کر دیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ شرعی اور غیر شرعی کا جو تھا، نا.....

مرزا ناصر احمد: غیر شرعی نبی؟

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، تو اس کے بعد پوزیشن یہ ہو جاتی ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام احمد کی پوزیشن مسلمانوں کے فرقوں، جو باقی فرقے ہیں، میں سے وہی تھی جو حضرت عیسیٰؑ کی یہودیوں کے فرقوں میں سے تھی؟

مرزا ناصر احمد: ¹⁰⁴⁹ نہیں، اس واسطے کہ حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مسیح موعود جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے *Status* (مقام) میں فرق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقام ہے کامل، *Absolute* (مکمل طور پر) اتباع کا۔ لیکن حضرت مسیح کا مقام نہیں۔ اس واسطے دونوں کا فرق بڑا گیا نا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں اس واسطے عرض کر رہا تھا کہ اس واسطے نہیں فرق کہ وہ بھی غیر شرعی تھے، یہ بھی غیر شرعی ہیں.....

مرزا ناصر احمد: غیر شرعی ہونے کے لحاظ سے وہ ہزاروں انبیاء جو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کے بعد آئے، بشمول حضرت عیسیٰؑ، وہ غیر شرعی تھے اور حضرت مسیح موعود بھی غیر شرعی ہیں۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

جناب یحییٰ بختیار: ان کا Relationship ان کا تعلق.....

Mirza Nasir Ahmad: Only to that point.

(مرزا ناصر احمد: صرف اسی لحاظ سے)

جناب یحییٰ بختیار: ہاں! یہ۔

Mirza Nasir Ahmad: Only to that extent.

(مرزا ناصر احمد: صرف اسی حد تک)

جناب یحییٰ بختیار: کیونکہ یہ پوائنٹ جو ہے کہ اگر.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ، ہاں.....

جناب یحییٰ بختیار: ابھی یہاں جو ہے، ایسا ہی حوالہ مجھے نظر آیا ہے۔ اس لئے

میں آپ سے وہ *"In short, Prophets are of two kinds".....* (مختصر آئیہ کہ نبی دو طرح کے ہیں)

جیسے میں نے کہا ناں، غیر شرعی طور پر Page 28 سے پڑھ رہا ہوں جی:

".....Those who are law-bearers like mooses....."

وہ جو صاحب شریعت موسیٰ علیہ السلام.....

Mirza Nasir Ahmad: Page 28?

(مرزا ناصر احمد: صفحہ 28؟)

¹⁰⁵⁰ *Mr. Yahya Bakhtair: 28*

"..... (On whom be peace), and those who only restore and re-establish the law after mankind have forsaken it; as, for instance, Elyah, Isaiah, Ezekiel Daniel and Jesus (On all of whom be peace). The prophet Messiaha (On whom be peace) also claimed to be prophet like the latter. and asserted that as Jesus was the last khalifa (Successor) of the Messiaha dispensation, he was the last khalifa of the Islamic dispensation".

Please mark the words: "He asserted".

۶۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(جناب یحییٰ بختیار: صفحہ ۲۸.....! وہ جو اس وقت شریعت کی تجدید کرتے ہیں جب بنی نوع انسان احکام خداوندی پر عمل نہیں کرتے جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے غیر اکل، دانیال، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی دوسروں کی طرح نبوت کا دعویٰ کیا اور تاکید کہا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلیفہ تھے اسی طرح وہ اسلامی شریعت کا آخری خلیفہ تھا۔ جناب والا۔ الفاظ ”تاکیداً“ کہا پر خصوصی توجہ دیں)

Mirza Nasir Ahmad: He was the Khalifa.

(مرزانا صراحتاً: وہ خلیفہ تھا)

Mr. Yahya Bakhtiar: "..... and assented that just as Jesus was the last khalifa (Successor) of the Mosaic dispensation, he was the last khalifa of the Islamic dispensation".

(جناب یحییٰ بختیار: اور تاکیداً کہا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ شریعت کے آخری خلیفہ تھے۔ اسی طرح وہ اسلامی شریعت کا آخری خلیفہ تھا)

ایک ہی Footing پر وہ Compare (موازنہ) کر رہے ہیں.....

مرزانا صراحتاً: نہ، Footing نہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں یہ جو.....

مرزانا صراحتاً: نہیں، میں ذرا وضاحت کر دوں.....

جناب یحییٰ بختیار: مجھے پورا پڑھ لینے دیں۔

مرزانا صراحتاً: نہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ:

مخلص اللہ! قرآنی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں۔ جس

میں خاموش.....

¹⁰⁵¹ *Mr. Yahya Bakhtiar: "..... Just as he was the*

last khalifa of the Mosaic dispensation he was the last khalifa of the Islamic dispensation. The Ahmadiyya Movement, therefore, occupied with respect to the other sects of Islam, the same position which Christianity

۶۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

occupied with respect to the other sects of Judaism''.

Does it not conclusively show that as Christianity is a different religion compared to Judaism, Ahmadiyyat is a different religion compared to ohter sects?

جناب یحییٰ بختیار: جس طرح وہ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) موسوی شریعت کے آخری خلیفہ تھے اسی طرح وہ (مرزا غلام احمد) اسلامی شریعت کا آخری خلیفہ تھا، اس لئے اسلامی فرقوں کے مقابلے میں احمدیہ تحریک کا وہی مقام ہے جو عیسائیت کا یہودیت کے دوسرے فرقوں کے مقابلے میں ہے۔ کیا اس سے یہ بات حتمی طور پر ظاہر نہیں ہوتی کہ عیسائی مذہب، یہودی مذہب سے بالکل مختلف ہے اور احمدیت اسلام کے دوسرے فرقوں کے مقابلے میں مختلف ہے)

Mirza Nasir Ahmad: No.

(مرزا ناصر احمد: نہیں)

Mr. Yahya Bakhtiar: This I want you to clarify.

جناب یحییٰ بختیار: میں آپ سے اس کی وضاحت کرانا چاہتا ہوں)

مرزا ناصر احمد: نہیں، اس سے یہ نہیں نکلتا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو Comparison

کر رہے ہیں.....

مرزا ناصر احمد: Comparison قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں

کر رہے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ ٹھیک ہے، میں..... اس واسطے میں نے پڑھ کر سنا دیا ہے۔

مرزا ناصر احمد: (عربی)

جناب یحییٰ بختیار: آگے جی میں اس پوائنٹ کو زیادہ Elaborate (واضح)

کرتا ہوں۔ On page 29 وہ فرماتے ہیں:

"Mohammad (on whom be peace and blessings of God) being this the like of Moses (on whom be peace), it was necessary that the Messiah of Islamic dispensation should not only be from among his followers but should come to

۶۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

re-establish and propagat the Quranic law just as Jesus came with no new law, but only confirmed the Torah"

(حضرت محمد ﷺ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کریم کی رحمتیں اور برکتیں ہوں یہ لازمی تھا کہ اسلامی شریعت کا مسیح ان (حضرت محمد ﷺ) کے ماننے والوں میں سے ہو اور وہ قرآن کے قانون کو مستحکم کرے اور اس کی تبلیغ کرے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت (انجیل) کے ساتھ آئے جو کہ تورات کی تصدیق کرتی ہے)

پھر وہ آگے Explain (وضاحت) کرتے ہیں، جو بات آپ نے کہی:

¹⁰⁵² "..... I have already indicated that one of the

functions of a Prophet, who is not the bearer of a new law, is to sift all errors and misinterpretations which may have crept into an existing religious system owing to lapse of time, and this in itself is a great task. To discover and restore that which had been lost is almost as great a task as to supply that which is new. But we believe that the promised Messiah (on whom be peace) had a much higher mission to perform. in order, however, to understand what that mission was it is necessary first to understand clearly our position with regard to the Holy Quran

(میں پہلے ہی اس بات کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ جو نئی نئی شریعت لے کر نہ آئے اس کا ایک فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی غلطیوں کی اصلاح کرے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دینی امور میں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ گمشدہ صراط مستقیم کو تلاش کر کے بحال کرنا اتنا ہی بڑا کارنامہ ہے جتنا کہ نئی شریعت کو قائم کرنا۔ ہمارا ایمان ہے کہ مسیح موعود نے اس سے بھی بڑا کام اپنے ذمہ لیا تھا۔ یہ سمجھنے کے لئے کہ اس کام کی کیوں ضرورت تھی۔ یہ ضروری ہے کہ پہلے قرآن کے متعلق ہماری پوزیشن سمجھ لی جائے)

پھر وہ آگے Describe کرتے ہیں، اس پر،

What I wanted to show you, Sir,

۶۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Is that Mriza Bashiruddin Shaib, in his book or lecture draws the parallel that Mirza Shahib has got the same position with regard to Islam or Prophet Mohammad which Jesus Christ had with regard to Moses or Judaism.

Then it is also stated and you may have read it and you may understand it better than I do that Jesus Christ had made some changes as you just.....

(..... جناب والا! میں آپ پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین صاحب نے مسیح موعود کا موازنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے اور پھر یہ کہا گیا ہے۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور اس بات کو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ تبدیلیاں بھی کی تھیں جن کا ذکر آپ نے ابھی کیا تھا)

آپ نے جو ابھی کہا، مگر Basis وہی ہیں جو Moses کے Law کے تھے۔

A Prophet without (غیر شرعی نبی) But being a Ghair Sharai Nabi.

his own Law, he founded a new Ummat to it a fact or not? He founded a new religion is it a fact or not? And if you draw the parallel, does it not amount to the fact that Ahamadiyyat is a new religion?

(..... لیکن ایک غیر شرعی نبی کی حیثیت سے اس نے نئی امت کی بنیاد رکھی۔ کیا یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں۔ اگر آپ موازنہ کریں تو یہ ایک حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ ”احمدیت“ ایک نیا مذہب ہے)

Mirza Nasir Ahmad: The author of this book drew no parallel, he referred to the Quramic Verses.

(مرزا ناصر احمد: اس کتاب کے مصنف نے کوئی نیا موازنہ نہیں کیا۔ اس نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے) اور اس واسطے میں خاموش ہوں کل آپ کو قرآن کریم کی آیات لکھ کر ترجمے کے ساتھ بتا دوں گا۔

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! میں اسمبلی کو پڑھ کر سنارہا ہوں اور اس واسطے آپ کی *Attention draw* (توجہ مبذول) کر رہا ہوں، آپ مجھ سے پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔

(اس وقت جواب نہیں دے سکتا، مرزا ناصر)

¹⁰⁵³ مرزا ناصر احمد: میں ناراض نہیں ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ اس وقت جواب نہیں دے سکتا۔

جناب یحییٰ بختیار: میں یہی کہتا ہوں جو چیز مجھے نظر آتی ہے اس سے یہ مطلب اخذ ہو سکتا ہے۔

مرزا ناصر احمد: قرآن کریم کی آیات پڑھنے کے بعد آپ یہ اخذ کریں گے۔
جناب یحییٰ بختیار: وہ بھی غیر شرعی، یہ بھی غیر شرعی۔ انہوں نے بھی پرانا قانون *Establish* (قائم) کیا، یہ بھی کر رہے ہیں مگر نتیجہ یہ اخذ کیا کہ ان کی پوزیشن وہی ہے جو یہودیوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کی تھی، مسلمانوں کے مقابلے میں ہماری یہ پوزیشن اور پھر وہ *Separation* (علیحدگی پسندی) میں یہ سب چیزیں کہ آپ کے *Rules of Conduct* اور آجاتے ہیں، آپ نے بھی نیا قانون بنایا ہے، ہدایات دی ہیں، ڈائریکشنز دی ہیں.....
مرزا ناصر احمد: *Separatism* (علیحدگی پسندی) کے متعلق تو اتنا بڑا مسئلہ ہے میرے پاس.....

جناب یحییٰ بختیار: تو اس لئے یہ بھی مسئلہ اس میں آجاتا ہے۔
مرزا ناصر احمد: ہاں، نہیں یہ جو ہے ناں، میں اسی واسطے خاموشی سے بالکل سنتا رہا ہوں کیونکہ اس عبارت کا تعلق قرآن کریم کی دو آیات سے ہے اور جب تک وہ انسان کے ذہن میں نہ ہوں، اس *Passage* (اس حصہ) کو سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ کیونکہ *One Facts* نہیں *has.....in that case, one has to theorise.* قرآن کریم کی آیات کے، ان کی روشنی میں ایک بات کی گئی ہے۔ تو میں انشاء اللہ کل صبح اس کا جواب دے دوں گا، قرآن کریم کی آیات سامنے رکھ دوں گا۔

¹⁰⁵⁴ جناب یحییٰ بختیار: پھر، مرزا صاحب! آگے وہ فرماتے ہیں، *Page 32* پر..... یہ اس سے الگ *Subject* ہے، یہ *Directly connected* نہیں ہے.....
مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔

۶۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

Mr. Yahya Bakhtiar: *"The Holy Quran contains a full and complete refutation of every doubt which is suggested by each succeeding age under the ever-changing conditions of the world and reply to every criticism which may be based on new knowledge and new discoveries".*

پھر Last para میں فرماتے ہیں:

By pointing out this miracle of the Holy Quran, the promised Messiah, (on whom be peace) has effected a revolution in spiritual matters. The Muslims certainly believe that the Holy Quran was perfect but, during the last 1300 years, nobody had imagined that not only was it perfect but that it was an inexhaustible store house in which the needs of all future ages had been provided for, and that on investigation and research it would yield far richer treasures of spiritual knowledge, than material treasures which nature is capable of yielding".

Now, Sir, first of all, this gives me an impression that Mirza Shaib discovered something which was not discovered for 1300 years, by the Muslims, in the Holy Quran. This hidden treasure, which he discovered and pointed out, was a revolution. Now I will respectfully ask you, Mirza Sahib, that, as far as interpretation of the Holy Quran is concerned, I am not aware or acquainted, as you are now. Apart from those provisions of the Holy Quran, those Ayat, which directly or indirectly deal with the status of a Nabi or Mehdi or Isa coming back, which indirectly or

۶۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

directly prove or try to prove that Mirza sahib was a Nabi or Mehdi or Isa, what other provisions of the Holy Quran has he interpreted which nobody had interpreted before and Jihad these, apart from these? Because these are the subject of.....¹⁰⁵⁵ Jihad his interpretations and on the question of Khatm-e-Nabuwat, what it means, death of Jesus.

(جناب یحییٰ بختیار: قرآن مجید بدلتے ہوئے حالات کے تحت مستقبل کے تمام ادوار کے شکوک و شبہات کی پوری اور مکمل تردید کرتا ہے اور نئے نئے علوم اور نئی نئی معلومات/ ایجادات کی بنیاد پر تنقید کا جواب دے سکتا ہے۔

قرآن مقدس کا یہ عظیم معجزہ بتاتے ہوئے مسیح موعود نے روحانی انقلاب برپا کر دیا۔ یقیناً مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مگر گذشتہ تیرہ سو سال میں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن نہ صرف مکمل (ضابطہ حیات) ہے۔ بلکہ یہ تمام آنے والے ادوار کے لئے ایک بھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے اور محنت اور تحقیق سے روحانی علم و فضل کے انمول خزانے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ جو قدرت کے فراہم کردہ مادی خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔

جناب والا! سب سے پہلی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر مرزا صاحب نے کوئی ایسی چیز تلاش کر لی تھی جسے تیرہ سو سال میں مسلمان تلاش کرنے سے قاصر رہے۔ یہ چھپا ہوا خزانہ جسے مرزا صاحب نے تلاش کیا۔ ایک انقلاب تھا۔ اب میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ مرزا صاحب کی قرآنی بصیرت کو میں اتنا نہیں سمجھتا جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ قرآن کی ان آیات کے علاوہ جن کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ نبی کے مقام، مہدی یا عیسیٰ کی واپسی سے ہے اور کون سی آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر مرزا صاحب نے کی اور جن کی تفسیر پہلے کوئی بھی نہیں کر سکا۔ پھر مرزا صاحب کی جہاد کی تفسیر ختم نبوت کی تفسیر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال.....)

جن چیزوں سے ان کی اپنی نبوت کا ثبوت ملتا ہے یا وہ یسوع ہونے کا ثبوت ملتا ہے، قرآن میں، ان کے بارے میں، اور جہاد کے بارے میں، ان کے علاوہ وہ کون سا خزانہ تھا جو 1300 سال میں مسلمانوں کو نہیں مل سکا اور مرزا صاحب نے سامنے لا کر رکھ دیا ہے؟

This is something very important, because I got so

۶۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

many questions. I want to put it very briefly.

تو اس پر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
مرزا ناصر احمد: اگر آپ تشریف رکھیں..... تھک جائیں گے۔
مرزا ناصر احمد: قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا، قرآن کریم نے: یہ آیات قرآنی ہیں جو
میں نے بھی پڑھیں۔ ایک دوسری جگہ یہ فرمایا کہ قرآن کریم کتاب مبین ہے، یعنی ایک کھلی، کھلی،
کھلی ہوئی کتاب ہے، ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے، اپنی
اپنی استطاعت کے مطابق اور یہاں یہ فرمایا کہ یہ کتاب مکون ہے اور ہر شخص امت مسلمہ کا اس کو
پڑھ نہیں سکتا بلکہ اس کے لئے یہ قید لگائی:

صرف مطہرین کا گروہ، امت مسلمہ میں سے، ان معنی کو اخذ کر سکتا ہے جو قرآن کریم
میں موجود ہیں: تنزيل من رب العالمین!

1056 ہم نے جو یہ اعلان کیا تھا کہ قیامت تک کے لئے یہ کامل اور مکمل شریعت اور
ہدایت ہے، قرآن کریم کی شکل میں، ہمارا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ قرآن کریم کے بعض
اسرار روحانی اور معارف دقیقہ ایسے نہ ہوں جو زمانہ زمانہ کی ضرورتوں کے مطابق خدا تعالیٰ کے محبوب
بندے خدا تعالیٰ سے قرآن کریم کے..... امت محمدیہ کے اندر..... خدا تعالیٰ سے قرآن کریم کے
معانی اور تفسیر سیکھ کر اس وقت کے لوگوں کو، اس جگہ کے، اس علاقے کے لوگوں کو بتائیں۔

جب تک قرآن کریم کتاب مکون نہ ہو، اس وقت تک یہ دعویٰ غلط ہوگا کہ یہ اس خدا کی
طرف سے یہ جو تمام عالمین کا *The whole Universe for all times to come.*
قیامت تک کے لئے ہے۔ اس کا یہ تو بڑا وسیع مضمون ہے، وہ تو سارا میں بیان نہیں کر سکتا، کچھ
تھوڑے سے اشارے کر دیتا ہوں۔

اگر آپ ہمارے ”مختصر نامہ“ کے..... ہمارے ”مختصر نامہ..... میں ایک رسالہ ہے، اس
کا نام ہے: ”مقربان الہی کی سرخروئی..... روح کا فرگری کے ابتلا میں“ اس میں، بطور مثال کے،
صدیوں میں سے انتخاب کر کے، مختلف ۵۵ مشہور بزرگان امت کے کچھ واقعات مختصر لکھے ہیں۔
جب ان کی سیرت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مثلاً جب سید عبدالقادر جیلانی
صاحب نے تطہیر اور تجدید کا کام شروع کیا تو اس وقت کے علماء نے ان پر یہ کہہ کر کفر کا فتویٰ لگایا
کہ: ”آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ سے پہلے سلف صالحین نے نہیں کیں۔“

۱۔ خیر خواہی میں طنز کے نشتر، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔

۷۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چھپی ہوئی کتاب، چھپا ہوا خزانہ، جس کا وہاں ذکر ہے، اس کتاب مکتون کے کچھ حصے اس زمانے کے مطابق سکھائے۔ لیکن علماء ظاہر نے پہلی کتب کو دیکھا اور ان پر الزام لگا دیا اور سو سال¹⁰⁵⁷ کے بعد جو نئے بزرگ ہماری امت میں پیدا ہوئے، سید عبدالقادر جیلانی صاحب کے بعد، ان کے اوپر یہ کہہ کر کفر کا فتویٰ دے دیا کہ: ”آپ وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو سید عبدالقادر جیلانی صاحب نہیں کیا کرتے تھے۔“ یہ مفہوم ان کی زندگیوں کا بتا رہا ہوں، یعنی کوئی صفحے کا حوالہ یا اقتباس نہیں پڑھ رہا، ان کی زندگی کے یہ حالات ہیں..... یہ تو مانی گئی بات ہے یہ تو ظاہر بات ہے، یہ تو ایسی بات ہے جس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ زمانہ ہر آن بدل رہا ہے اور کچھ عرصے بعد، اس زمانے کے بدلنے کے نتیجے میں، نئے مسائل انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسائل کے حل کرنے کے لئے قرآن کریم آئے گا یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمیشہ آتا ہے۔ مثلاً میں نئی مثال دے دیتا ہوں۔ انیسویں صدی میں *Agrarian Revolution* بھی ہوا اور انیسویں صدی میں *Industrial Revolution* بھی ہوا۔ اگرچہ وہ ابتدا ہی لیکن بہر حال *Agrarian Revolution* انگلستان کی تاریخ میرے سامنے ہے اور *Industrial Revolution* بھی اس *Revolution* کے نتیجے میں مزدور اکٹھا ہوا، اس *Revolution* کے نتیجے میں آقا اور مزدور کا آپس میں جو تعلق تھا وہ پرانے زمانے کی نسبت بدل گیا، اس *Revolution* کا نتیجہ یہ نکلا آخر کار کہ چونکہ شریعت کی ہدایت کے مطابق..... میں اس وقت جان کے ”شریعت“ کہہ رہا ہوں ”شریعت محمدیہ“ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ اور لوگ بھی تھے مثلاً عیسائی، وہ اپنی شریعت کا کہہ رہے تھے۔ تو میں نے اس واسطے جان کے کہا۔ ورنہ اصل تو اس زمانہ کے لئے ہے ہی شریعت محمدیہ۔ چونکہ خدا تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان مسائل کو حل نہیں کیا گیا، اس لئے اتنا فساد دنیا میں پڑا کہ اس وقت کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگے گئے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے نتیجے میں کہیں بالکل دنیا میں نابود نہ ہو جائیں۔

اب آپ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کتاب مکتون سے وہ کون سے خفیہ، پوشیدہ خزانے نکالے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس ایگریکچر..... ایگری رین ایوریوشن جو کہلاتا ہے، اور انڈسٹریل ایوریوشن کے نتیجے میں جو سوشلزم اور کمیونزم کی شکل میں کسی جگہ کوئی، یعنی انسان کا ایک طبقہ مانتا ہے کہ ان کو *Blessing* (برکات) انسان کا دوسرا طبقہ اس سے *Agree* (اتفاق) نہیں کرتا..... اس جھگڑے میں ہم نہیں پڑتے..... ان مسائل کو حل کرنے کے لئے قرآن کریم سے علوم نکالے، اور اس میں خود ذاتی گواہ ہوں..... گو میں

۷۱

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

اپنی ذات کے متعلق بات کرنا پسند نہیں کرتا مگر اس وقت مجبور ہوں..... کہ میں پچھلے سال ۱۹۷۳ء میں یورپ میں گیا، اور میں نے *Continent* (براعظم) پر چار جگہ کم از کم پریس کانفرنس کی، اور وہاں میں نے اس مسئلہ پر ان کو بتایا کہ کمیونزم جو مل انسان کے آج کے مسائل کا پیش کر رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر، اس سے کہیں زیادہ اچھا، اس سے کہیں زیادہ انسان کو *Satisfy* (مطمئن) کرنے والا قرآن کریم میں موجود ہے، تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ کون سے مخفی خزانے تھے جو اس *Age* (زمانہ) میں جماعت احمدیہ کے ذریعے ظاہر ہوئے، وہ ان کو میں یہ کہوں گا کہ..... میرا یہ دعویٰ نہیں کہ پہلی کتب ساری پہ میرا عبور ہے..... اگر کسی صاحب کا یہ عبور ہو کہ وہ آج کے مسائل کا حل کرنے کے لئے پہلی کتب میں سے مواد نکال دے تو ہم سمجھیں گے ٹھیک ہے، وہ سارا خزانہ پہلے آ گیا، نئے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک ہی وقت میں قرآن کا یہ دعویٰ کہ: ”میں کتاب مبین ہوں“ اور ایک ہی وقت میں اسی سانس میں، یہ دعویٰ کہ بڑا متضاد ہے کہ ”کتاب مکنون ہوں“ اس آیت کی جو تفسیر ہے:

یہ تفسیر جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، اس وسعت کے ساتھ، اس پھیلاؤ کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ پہلے آتی ہے۔ لیکن یہ علم تھا ان کو کہ ہر زمانے کے مسائل مختلف، نمبر ایک، ہر زمانے کے نئے مسائل کو حل کرنے کی قرآن کریم میں ریلیف، نمبر 2 ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ کے ایسے اولیاء امت کا پیدا ہونے جو ان نئے مسائل کو حل کرنے کے لئے قرآن کریم سے استنباط کرتے تھے اور استدلال کرتے تھے، ساری امت کا متفقہ فیصلہ ہے اور یہ جو میں نے بتایا، جو سچی دی گئی اور سچی کی گئی، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ: (عربی)

کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتے، تو مخفی خزانے تو بے شمار ہیں۔ یہاں تو میں نے پانچ سات منٹ بات کی ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو میں دو چار دن میں کچھ تھوڑا سا نمونہ بتا دوں۔

(مرزا نے کیا علوم قرآنی دیئے، وہ نہیں بتا سکتے)

جناب یحییٰ بختیار: وقت بہت کم ہے مرزا صاحب! میں نے تو کہا مرزا صاحب، وہ آیات جن کا انہوں نے خود *Interpretation* (تفسیر) کیا ہو اور کسی نے نہ کیا ہو، وہ بتا دیجئے۔ آپ نہیں بتا رہے، تو پھر.....

مرزا ناصر احمد: ابھی میں نے بتا دی ایک۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ نے اپنا بتایا ہے، میں مرزا صاحب کا پوچھ رہا تھا۔

۷۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

مرزانا صاحب احمد: اوہ ہو ہوا! یہ مرزا صاحب کا ہے، میں نے ان کی کتابوں سے لیا ہے، یعنی وہ بھی جو اس کتاب میں ہے، اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ میں نے کیا آگے۔

جناب یحییٰ بختیار: اور بھی ہے ایسی کوئی؟

مرزانا صاحب احمد: بے شمار۔

جناب یحییٰ بختیار: تو آپ یہ بتادیں گے ایک آدھ؟

مرزانا صاحب احمد: کل سارا دن بتاؤں گا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، ایک اور بتا دیجئے جو مرزا صاحب نے کیا، جو کسی نے

پہلے نہیں کیا، یہ بات کی کہ یہ خزانہ انہوں کو.....

مرزانا صاحب احمد: ¹⁰⁶⁰ مرزا صاحب نے..... میں ایک بہت موٹا، ایک لمبا مضمون بتا

دیتا ہوں..... سورۃ فاتحہ کی ایک تفسیر کی، ایک سے زائد تفسیریں، اور اس میں میرا اندازہ یہ ہے کہ

۷۰ فیصد وہ تفسیر ایسی ہے جو پہلے نہیں۔ ہم نے..... جو خود آپ نے کی، اور جو اس میں اصل شان

ہے، قرآن کریم کی، وہ یہ ہے کہ آپ، ان کو، ایک دفعہ ایک پادری نے یہ اعتراض کیا کہ جب

مسلمانوں کے نزدیک توریت خدا کا کلام اور خدا کی کتاب ہے، اتنی موٹی ایک کتاب یہ توریت اس

کے بعد آپ کو یاد دینا کو قرآن کریم کی، جو اس سے چھوٹی ہے کیا ضرورت ہے؟ یہ اعتراض کیا۔ اس

کے جواب میں بانی سلسلہ احمدیہ نے یہ ان کو لکھا..... یہ ایک تحریر میں آیا ہوا ہے جواب..... کہ:

”آپ لوگ بات کر رہے ہیں یہ کہ توریت کے بعد قرآن کریم کی کیا ضرورت تھی، اور میں تمہیں یہ

کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی پہلی سورۃ، سورۃ فاتحہ جو سات آیات پر مشتمل اور ایک چھوٹی سی سورۃ ہے،

اس کے اندر جو روحانی خزانے پائے جاتے ہیں، اگر تمہاری ستر کے قریب کتابوں میں، اتنی موٹی

توریت میں، اتنے بھی نکل آئیں، سورۃ فاتحہ جتنے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے پاس بھی کچھ

ہے۔“ اور یہ ایک چیلنج دیا اور یہ چیلنج ۱۹۶۷ء میں نے ڈنمارک میں دہرایا اور لکھ کے ان کو دیا، اور

میں نے کہا کہ ”بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ وفات پا گئے اور میں ان کا نائب ہوں۔ اب یہ میری ذمہ داری

ہے جسے میں قبول کرتا ہوں۔“ ستر (۷۰)، اسی (۸۰) سال صحیح مجھے یاد نہیں ہے تاریخ کا، جب یہ

چیلنج دیا گیا..... بہر حال ایک لمبا زمانہ گزر اس کو دہرایا گیا اور دہرایا جاتا رہا اور عیسائی لوگ جو تھے وہ

اس کی طرف نہیں آئے۔ وہ ساری تفسیر جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میں کل اگر اجازت دیں تو

آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ان میں سے ایک۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، صرف میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے جو تیرہ سو سال مسلمانوں نے.....

۷۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

1061 مرزانا صراحمہ: ہاں، اس میں ایسے مضامین ہیں جو پہلی کتب میں نہیں ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: کسی نے آج تک نہیں دیئے؟

مرزانا صراحمہ: ہاں، بہت سارا مواد۔ کچھ تھوڑا سا ہے ایسا جو پہلے آچکا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: پھر آپ نے ابھی فرمایا کہ..... یہ سوال ایک دفعہ میں پہلے بھی

پوچھ چکا ہوں مگر دوسرے حصے میں تھا..... کہ زمانہ بدل رہا ہے، نئے مسائل حل کرنے کے لئے نئی

تشریح وغیرہ کی Interpretation (تفسیر) کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرزا صاحب نے یہ

Interpretation (تفسیر) کی۔ کیا یہ Interpretation (تفسیر) سوائے ایک نبی

کے اور انسان بھی کر سکتے ہیں؟

مرزانا صراحمہ: اللہ تعالیٰ نے تمام نیک بندے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق.....

اور ”اپنی“ سے مراد ہے امت محمدیہ کے اندر، اس زمانہ اور اس مقام کی ضرورت کے مطابق.....

بے حد جو ہے یعنی ایسا سمندر خزانے کا جس کے کنارے کوئی نہیں، قرآن کریم، خدا تعالیٰ کا کلام،

خدا تعالیٰ کے فعل کی طرح اپنے اندر وسعت رکھتا ہے..... وہ اپنا اپنا حصہ اپنی استعداد کے مطابق،

اپنی ضرورت کے مطابق لیتے رہے.....

جناب یحییٰ بختیار: باقی بھی کر سکتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں.....

مرزانا صراحمہ:..... کرتے رہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ نبی ہی Interpretation

(تفسیر) کر سکتا ہے، باقی مسلمان، نیک، اولیاء.....

مرزانا صراحمہ: اولیاء اللہ تعالیٰ سے سیکھ کر، سیکڑوں، ہزاروں شاید لاکھوں کی تعداد

میں، اس وقت اس قابل رہ چکے ہیں، ہماری تاریخ میں، جنہوں نے کہ نئی Interpretation

(تفسیر) کی۔

1062 جناب یحییٰ بختیار: اور آئندہ بھی کر سکتے ہیں نا جی؟

مرزانا صراحمہ: اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔

جناب یحییٰ بختیار: آئندہ بھی کر سکتے ہیں.....

مرزانا صراحمہ: ہاں، آئندہ بھی کر سکتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: تو اس کے لئے نبی کے آنے کی ضرورت تو نہیں کہ بات نبی

کرے گا یہ؟

۷۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزانا صراحتاً: اس کے لئے اس شخص کے آنے کی ضرورت تھی جس کے آنے پر محمد ﷺ نے مہر لگائی۔
 جناب یحییٰ بختیار: وہ تو، مرزا صاحب: میں پوچھ چکا ہوں۔ آپ نے کہا کہ بس، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، مرزا صاحب.....
 مرزانا صراحتاً: میں نے یہ نہیں کہا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یعنی امکانی دنیا کی بات نہیں کر رہا، جو ہماری ہدایت ہے، قرآن شریف کی، اس کی Interpretation (تفسیر) کے مطابق۔
 مرزانا صراحتاً: ہاں، میں نے یہ کہا تھا یہ ٹھیک ہے، اب آپ نے میری طرف سے صحیح بات کی، میں نے یہ کہا تھا کہ امکانی بات کو چھوڑ دیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں نہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔
 مرزانا صراحتاً: وہ چھوڑ دی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ امت محمدیہ میں صرف وہ نبی بن سکتا ہے جس کی نبی اکرم ﷺ نے بشارت دی ہو اور ہمارے علم میں صرف ایک کی بشارت ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ان سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ مرزا صاحب سے، اور بعد میں کوئی آجائے گا۔

مرزانا صراحتاً: ہمارے علم میں صرف ایک کی بشارت ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، بشارت..... یہ کہ اور بھی نہیں آسکے گا۔
 مرزانا صراحتاً: ہمارے علم میں کسی اور کی بشارت نہیں۔

(وہ مہر صرف ایک مرتبہ استعمال ہوئی)

جناب یحییٰ بختیار: اور وہ مہر صرف ایک دفعہ استعمال ہوئی، بس؟
 مرزانا صراحتاً: اس معاملہ میں۔ لیکن میں نے بتایا کروڑوں آدمی ایسے پیدا ہوئے جو فیض محمدی سے فیضیاب ہو کر دنیا کی اصلاح کا، دنیا کی بہبود کا، فلاح کا کام کرتے رہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ ”ختم نبوت“ کی جو Interpretation (تفسیر) ہے آپ کی، اس کے مطابق کہہ رہا ہوں۔

! جو تفسیر کرے وہ مفسر تو ہو سکتا ہے نبی کیسے ہو گیا؟ کیا خلط ملط کر کے دین کو بگاڑ رہے ہیں آپ؟

۷۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: ”ختم نبوت“ کی Interpretation (تفسیر) کے مطابق ہی وہ لاکھوں پیدا ہوتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: نبی اور بھی؟

مرزا ناصر احمد: نبی نہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: نبی کی میں بات کر رہا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: نبی اکرم ﷺ کے فیض سے حصہ پانے والے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اولیاء بھی آسکتے ہیں، مگر نبی جو ہیں ناں،

میں نے آپ..... تاکہ پھر نہ Confusion ہو جائے، ایک مسئلہ بڑی مشکل سے Clear (واضح) ہو گیا تھا۔

مرزا ناصر احمد: نہیں اب یہ Clear (واضح) ہے۔ صرف یہ ہے کہ میں یہ کہتا

ہوں کہ آنحضرت ﷺ نے صرف ایک کے آنے کی خبر دی، ہمارے علم میں۔ یہ میرا جواب ہے، یہ نوٹ کر لیں۔

(مرزا قادیانی کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں؟ مرزا ناصر احمد کا جواب گریز)

1064 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، اس واسطے میں نے عرض کیا کہ مرزا صاحب کے علاوہ

اور کوئی نہیں.....

مرزا ناصر احمد: جو میں کہہ چکا ہوں وہ کافی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: اور کوئی نہیں آئیں گے۔

مرزا ناصر احمد: میں جو کہہ چکا ہوں وہ کافی ہے۔ جو میں نے جواب دیئے، میرے

نزدیک وہ کافی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، تو میں وہی جواب پوچھ رہا ہوں، مرزا صاحب!

مرزا ناصر احمد: میں یہ جواب دے چکا ہوں کہ ہمارے علم میں نبی اکرم ﷺ کے کسی

اور کے آنے کی خبر نہیں دی۔ یہ میرا جواب ہے، بس ختم ہوئی بات۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا غلام احمد صاحب کے علاوہ۔

یہاں یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں: At page 10

۱ حضور سرور کائنات ﷺ کے بعد صرف ایک نبی اور وہ مرزا قادیانی؟ چہ خوب۔

۷۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

"We hold the belief that this succession of Prophets will continue in the future as it has done in the past for reason repudiates any permanent cessation of it....."

(جناب یحییٰ بختیار: چلیں ص ملاحظہ کریں! "احمدیت اور سچا اسلام" ہمارا ایمان ہے کہ جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ مستقبل میں بھی نبیوں کی جانشینی جاری رہے گی۔ کیونکہ سلسلہ نبوت کے مستقل اختتام کو عقل رد کرتی ہے یعنی تسلیم نہیں کرتی۔")

مرزا ناصر احمد: امکانی بحث ہے یہ۔

جناب یحییٰ بختیار: بس، وہ پھر آپ.....

مرزا ناصر احمد: میں نے، ہاں، میں نے، اس کی Interpretation (تفسیر)

کرتی ہے۔

Mr. Yahya Bakhtiar: "..... If mankind is to continue to pass through ages of spiritual darkness, age in which men will wander away from their Maker....."

(جناب یحییٰ بختیار: اگر اس دنیا نے روحانی طور پر تیرگی میں ہی رہنا ہے، جس میں لوگ اپنے خالق سے غافل اور گمراہ ہی سرگردان رہیں، تو.....)

مرزا ناصر احمد: ¹⁰⁶⁵ یہ بہت لمبی بحث پہلے ہو چکی ہے۔ وہ اگر کوئی اور سوال ہوں تو ان کا زیادہ اچھا ہے۔

(ہزاروں نبی آئیں گے؟)

جناب یحییٰ بختیار: آپ نے کہا تھا، مرزا صاحب! کہ ہزاروں نبی آئیں گے اور.....

مرزا ناصر احمد: امکانی۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ نے کہا "امکانی"، یہاں تو کہتے ہیں:

"We hold the belief....." (ہمارا ایمان ہے.....)

مرزا ناصر احمد: امکانی۔

Mr. Yahya Bakhtiar: This is a question of faith, belief.

امکانی اور بات ہے، جو قرآن کے مطابق، روشنی میں، میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ یہ نہیں

۷۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

کہتے کہ..... اللہ میاں ساری دنیا کو ختم کر سکتا ہے، تو اس کے بعد تو *Interpretation* (تفسیر) کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ امکان ہو سکتا ہے کہ یہ زمین ہی ختم، اس کے بعد قرآن کی *Interpretation* (تفسیر) بھی ختم وہ رب العالمین ہے۔ کئی دنیاں اور ہیں۔ وہ بات، امکانی بات میں نہیں کر سکتا۔ اللہ میاں کے بس کی بات ہے کہ قرآن کو منسوخ کر کے نیا شرعی نبی لے آئے، وہ امکانی بات ہے۔ مگر جو اللہ میاں کا جو موجودہ قانون ہے، اس کی *Interpretation* (تفسیر) کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا ”وہی ایک کی بشارت ہے“ اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ”اور بھی آئیں گے“ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ..... یہ مطلب کچھ اور ہے ان کا:

"We hold the belief that this succession of Prophets will continue in the future as it has done in the past for reason repudiates any permanent cessation of it. If mankind is to continue to pass through ages of spiritual darkness. ages in which men will wander away from their Maker it from time to time, men are to be liable to go astray from the right path and to grope in the thick darkness of doubt and despair in their efforts to regain it; if they are to continue their search for light in all such ages and times, it is impossible to believe that divine torch-bearers and guides, should cease to appear; for it is inconsistent with. Rahmaniyyat, the mercy of God, that he should permit the ill but should not provide the remedy, that He should create the yearning but should withdraw the means of satisfying it".

Then he says how this Prophet came

”..... ہمارا ایمان ہے کہ جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ مستقبل میں بھی نبیوں کی جانشینی کا سلسلہ نبوت کے مستقل اختتام کو عقل رد کرتی ہے (یعنی تسلیم نہیں کرتی) اگر اس دنیا نے روحانی طور پر اندھیروں ہی میں رہنا ہے جس میں لوگ اپنے خالق سے غافل اور گمراہ ہی رہیں اور

۷۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

اگر اس بات کا امکان ہے کہ لوگ صراطِ مستقیم سے ہٹتے رہیں گے اور پھر اس کی تلاش میں امیدوں کے اندھرا میں سمراتے رہیں گے (ایمان) کی روشنی تلاش کرتے پھریں گے تو پھر یہ مان لینا ناممکن ہے کہ قدرت کے فرستادہ رہبروں کی آمد کا سلسلہ بند ہو جائے۔ کیونکہ یہ خداوند تعالیٰ کی صفتِ رحمانیت کی ضد ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ خداوند تعالیٰ شرکی اجازت تو دے رہا ہے مگر اس شرکاء علاج پیدا نہیں کر رہا اس کا یہ بھی مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ تو پیدا کر رہا ہے مگر ہدایت کے ذرائع کو ختم کر رہا ہے۔“

مرزا ناصر احمد: یہ تو پھر میں دیکھ کے کل بتاؤں گا، کیونکہ اس وقت تو پھر بحث شروع ہو جاتی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، جی میں نے صرف پڑھ کر سنایا ہے.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: انگریزی ہے، اور بڑی اچھی انگریزی ہے کیونکہ چوہدری

ظفر اللہ خان صاحب نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کو۔ اس پر وہ دوسری بات.....

مرزا ناصر احمد: اس کی اردو بھی موجود ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، نہیں، یعنی ٹرانسلیٹیشن کی جو ہے.....

مرزا ناصر احمد:..... ممکن ہے وہاں روشنی زیادہ ملے۔

Mr. Yahya Bakhtiar: Turned it into a very good

English اور

چوہدری صاحب نے کیا ہے، میں نے پڑھا تھا کہیں۔

(جہاد کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟)

مرزا صاحب! ایک سوال تھا، جو کہ میں اس وقت پوچھنا نہیں چاہتا، مگر وہ میرے خیال میں چونکہ وہ بہت ایک لمبا چوڑا سوال ہے..... بہت پیچیدہ سوال آئے ہیں میرے پاس..... میں چاہتا ہوں کہ اس پر بہت ہی کم وقت لگے تو بہتر ہوگا۔ وہ جہاد کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ آپ Briefly (مختصراً) بتادیں، بجائے اس کے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں کہ جی، جہاد بالسیف منسوخ ہو گیا؟

لے کل کی پیشی ڈال دی۔ ابو کے حوالہ کو؟

۷۹

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزا ناصر احمد: نہیں میں ایک فقرے میں بتا دیتا ہوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اس واسطے کہ وہاں وہ کہتے ہیں کہ جہاں تلوار کا منسوخ ہو گیا ہے، یہ ہوا۔ آپ کا جو یو پوائنٹ ہے.....
 مرزا ناصر احمد: ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاد جو ہے اپنی شرائط کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے۔ جو شرائط جہاد ہمارے لٹریچر میں پہلے آئی ہوئی ہیں، علماء نے بحث کی ہے، اگر وہ شرائط موجود ہوں تو جہاد فرض ہے اور اگر وہ شرائط موجود نہ ہوں تو جہاد جائز ہی نہیں اور یہ فقرہ میرے بتانے کے لئے کافی ہے ہم جہاد کو، جو قرآن کریم نے اپنے رنگ میں..... عظیم کتاب ہے..... اور نبی اکرم ﷺ کے جوار شادات ہیں..... کوئی دنیا کا شخص اسے منسوخ نہیں کر سکتا، التوا کر سکتا ہے، یہ کہہ کے کہ آج کے دن یا آج کے زمانے میں جہاد کی شرائط نہیں پائی جاتیں، اس لئے جہاد نہیں ہوگا اور اس وجہ سے علمائے امت نے نبی اکرم ﷺ کی حدیث جو جہاد کے متعلق آتی ہے: اس کے یہی معنی ہیں کہ مہدی کے زمانہ میں جہاد کی شرائط جو ہیں، وہ نہیں پوری ہوں گی۔
 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! یہ جو انگریز کا زمانہ تھا، اس میں آپ سمجھتے تھے کہ یہ ملتوی ہو گیا، منسوخ نہیں ہوا.....

مرزا ناصر احمد: ہاں
 جناب یحییٰ بختیار: ¹⁰⁶⁸ یہ مطلب ہونا جی؟
 مرزا ناصر احمد: ہاں، بالکل یہ مطلب ہوا، اور ”مختصر نامہ“ میں اس کا جواب.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں اس کے متعلق.....
 مرزا ناصر احمد: جواب موجود ہے۔ اگر سوال دہرائیں گے تو آپ نے خود مجھے اجازت دی تھی کہ میں جواب بھی دہرا دوں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو جو چیز ریکارڈ پر آچکی ہے، *As a statement* ایک تو ہوتی ہے ناں *Evidence*.....
 مرزا ناصر احمد: جو چیز ریکارڈ پر آچکی ہے، *As a question*.....
 جناب یحییٰ بختیار: میں نے کون سوال دہرایا ہے، مرزا صاحب؟
 مرزا ناصر احمد: یہی جہاد کا۔
 جناب یحییٰ بختیار: جہاد کا سوال تو پہلی دفعہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔

۸۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

مرزاناصر احمد: ہاں، یہ سارا آیا ہے۔
جناب بیگی بختیار: نہیں، نہیں، میں نے تو یہ سوال پہلی دفعہ پوچھا ہے اب۔ میں نے کہا کہ میں تو اس پر بعد میں آ رہا تھا۔ اس کا سوال میں نے پہلی دفعہ پوچھا ہے۔ آپ بے شک توجہ دلا دیجئے کہ فلا نے فلا نے Pages پر جواب دے چکے ہیں آپ۔

مرزاناصر احمد: ہاں ”محضر نامہ“ میں۔
جناب بیگی بختیار: ہاں، وہ آپ بے شک کہہ دیں کہ ”Page فلا نے فلا نے پر ہم جواب دے چکے ہیں۔“ That will cover it, I will read it again (یہ اس پر حاوی ہے میں اسے پھر پڑھ دیتا ہوں) اور کوئی سپلیمنٹری کی ضرورت نہیں ہے۔

مرزاناصر احمد: ہاں، ہاں، یہ جو ہے ”انکار جہاد کے الزام کی حقیقت“ یہ ”محضر نامہ“ کا عنوان ہے۔ یہ عنوان تو شروع ہو گیا ۱۱۵ صفحے پر اور یہ مضمون شروع ہوا ہے ۷۱ صفحے پر اور یہ ختم ہوا ہے ۱۳۶ صفحے پر اور اس بحث میں اس زمانہ میں جہاد کے التوا یعنی لازم نہ ہونے، شرائط کے پورے نہ ہونے کے متعلق جو حوالے ہم نے ان بزرگوں کے پڑھے تھے جو احمدی نہیں، وہ یہ ہیں..... میں نام بتا دیتا ہوں: مولانا سید حبیب صاحب مدیر ”سیاست“، چوہدری افضل حق، مفکر احرار، ”صادق الخبار“ ریواڑی میں ہے، مرزا حیرت دہلوی کا حوالہ ہے اور اخبار ”ذکیل“ امرتسر، ابوالکلام آزاد صاحب کا حوالہ ہے اور حضرت خواجہ غلام فرید کا سجاد نشین چاچا ایں شریف کا حوالہ ہے.....
جناب بیگی بختیار: نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، مرزا صاحب.....!

مرزاناصر احمد: اور انہوں نے اس زمانے کے متعلق اس رائے کا اظہار کیا ہے جس رائے کا اظہار بانی سلسلہ احمدیہ نے کیا ہے اور ہمارے جو پچھلی صدی کے مجدد تھے نا، ان پر اعتراض کیا کہ آپ وہاں جا کے سکھوں سے لڑ رہے ہیں اور ایک غیر مسلم عیسائی حکومت یہاں ہے موجود، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس حکومت سے جہاد جائز ہی نہیں ہے۔

۱۔ قادیانی کرم فرما مرزاناصر کی قلابازیاں ملاحظہ کریں۔ پہلے کیا اس سوال کا جواب ہو چکا ہے۔ اب کہتا ہے کہ محضر نامہ میں ہے۔ ارے صاحب! محضر نامہ سے ہی تو سوال پیدا ہوئے۔ بہر حال پہلے ایک مؤقف اختیار پھر مؤقف بدل لیا۔ قادیانی حضرات توجہ فرمائیں کہ مرزاناصر کی انہی پھرتیوں نے اس کو رسوا کیا تھا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ میں سمجھتا ہوں جی، وہ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک خاص حالات، ایک لڑائی ہے، جیسا کہ ۱۸۵۷ء کی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ ایک Incident کے بارے میں ہے ایک یہ ہے کہ انگریز کے دور میں.....
مرزا ناصر احمد: ہاں، انگریز کے دور کا ہی میں ذکر کر رہا ہوں۔
1070 جناب یحییٰ بختیار: کر رہا ہوں۔ جہاد جو ہے، ملتوی ہے.....
مرزا ناصر احمد: میں اس کی بات کر رہا ہوں۔

(انگریز کے دور میں جہاد ملتوی)

جناب یحییٰ بختیار: یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے انگریز کے دور میں جہاد ملتوی ہے، Past, Present and Future (ماضی، حال اور مستقبل) میں
مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، Future (مستقبل) کا جب تک اللہ تعالیٰ انہیں
نہ کہتا، وہ نہ کہہ سکتے۔

جناب یحییٰ بختیار: میں یہی Clarify (وضاحت) کر رہا ہوں کہ جب
تک وہ کہہ رہے ہیں.....

مرزا ناصر احمد: جب تک وہ حالات رہیں۔ ”دیکھیں، یہ سن لیں، حضرت سید احمد صاحب بریلوی کیا کہتے ہیں: ”سرکار انگریزی گو منکر اسلام ہے.....“ یہ سرکار انگریزی کی بات ہو رہی ہے نا: ”..... مسلمانوں پر کچھ ظلم اور تعدی نہیں کرتی، نہ ان کو فرض مذہبی اور عبادت لازمی سے روکتی ہے۔ ہم ان کے ملک میں اعلانیہ وعظ کہتے اور ترویج کرتے ہیں اور وہ کبھی مانع اور مزاحم نہیں ہوتی، بلکہ اگر ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کو تیار ہے۔ ہمارا اصل کام اشاعت توحید الہی اور احیائے سنن سید المرسلین ہے جو ہم بلا روک ٹوک اس ملک میں کرتے ہیں۔ پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں۔“

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ میں نے پڑھا ہے جی.....

مرزا ناصر احمد: تو یہ تو اور ہے نا۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، وہ سب صرف اس لئے کہ آپ پڑھ لیں.....

1071 مرزا ناصر احمد: ہاں، یہ عام ہے اور اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے..... یہ تو اس
مسئلہ کا اطلاق ہر زمانے میں ہے نا..... مسئلہ یہ ہے، متفق علیہ..... شرائط میں ممکن ہے کوئی تھوڑا

بہت فرق ہو..... کہ جب تک شرائط جہاد پوری نہ ہوں جہاد فرض نہیں اور جب جہاد کی شرائط ہوں گواس وقت جہاد سے پیچھے رہنا گناہ ہے۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے۔

[At this stage Mr. Chairman vacated the Chair which was occupied by Madam Deputy Speaker (Dr. Mrs. Ashraf Khatoon Abbasi)]

جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے، یہ ایک آپ نے Clarify کر دیا۔ اس میں ایک اور پوائنٹ ہے۔ ایک تو شرائط موجود نہیں، اس لئے جہاد جائز نہیں۔ دوسرا شرائط موجود ہیں، جہاد جائز ہے، مگر Method تلوار کا نہیں قلم کا ہو، یہ بھی آپ کا ہے کوئی؟ اس پر.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، یہ سوال یہ ہے کہ اسلامی لٹریچر میں اور نبی اکرم ﷺ کے ارشادات میں تین جہادوں کا ذکر ہے۔ ایک کو ہمارا لٹریچر کہتا ہے ”جہاد اکبر“ اور اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے: ”اپنے نفس کے خلاف جہاد، محاسبہ نفس Self Criticism (محاسبہ خود) اصلاح نفس کی خاطر“ اس کو اسلامی اصطلاح میں ”جہاد اکبر“ کہتے ہیں۔ اور ایک اسلامی اور قرآن کریم کی اصطلاح میں آتا ہے ”جہاد کبیر“ اور وہ قرآن عظیم اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا نام اور قرآن کریم میں آیا ہے: قرآن کریم کو لے کر دنیا میں اس کی اشاعت کا جو کام ہے وہ قرآنی اصطلاح میں ”جہاد کبیر“ کہلاتا ہے۔ اور ایک ”جہاد صغیر“ اور وہ تلوار کی جنگ یا اب جنگ کے حالات بدل گئے، اب بندوق اور ایٹم بم سے ہونے لگ گئی، بہر حال، مادی ذرائع سے انسانی جان کی حفاظت کے لئے یا لینے کے لئے تیار ہو جانا، یہ ہے ”جہاد صغیر“

تو جو آپ نے اب بات کی، دوسری، وہ جہاد کبیر سے تعلق رکھتی ہے، جہاد صغیر سے نہیں: قرآن کریم کی آیت ہے کہ اس قرآن کریم کو لے کے دنیا میں پھیلو اور اس ہدایت اور شریعت کو پھیلانے کا جہاد کرو، تبلیغ کا جہاد کرو۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ تلوار کی جو.....

مرزا ناصر احمد: نہ، نہ، قرآن کریم.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، میں تلوار کے جہاد کی Clarification چاہتا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: وہ جہاد صغیر کہلاتا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی وہ جو تھا، مرزا صاحب نے کہا انگریز کے دور میں وہ بھی

منسوخ ہے.....

مرزا ناصر احمد: حضرت مرزا صاحب نے، حضرت مرزا صاحب سے پہلے مجدد نے، اور اس وقت کے علمائے وقت نے یہ کہا.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں مرزا صاحب کا..... کیونکہ.....

مرزا ناصر احمد: میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر شرائط جہاد نہ ہوں، نہ پائی جائیں، تو جہاد نہیں ہوگا.....

جناب یحییٰ بختیار: یہ تو ایک بات ہوگئی.....

¹⁰⁷³ مرزا ناصر احمد: اور حضرت مرزا صاحب نے یہ کہا..... باقیوں کی طرح..... کہ اس وقت شرائط جہاد نہیں پائی جاتیں، ہمیں مذہبی آزادی ہے، اور.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں یہ تو Clear (واضح) ہوگئی، آپ نے جو بات کی۔

دوسری بات۔ اس کی اگر شرائط موجود ہوں تو پھر وہ Method (طریقہ) جو ہے۔ وہ تلوار کا نہیں قلم کا؟

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں.....

جناب یحییٰ بختیار: یہ کہاں آتا ہے؟

مرزا ناصر احمد: اوہو! میں نے اس کو تو Explain (واضح) کیا۔ جب جہاد کی شرائط موجود ہوں، جہاد صغیر کی، تو جہاد صغیر کیا جائے گا، یعنی تلوار کا جہاد اور جس وقت جہاد صغیر کی

شرائط موجود نہ ہوں تو جہاد صغیر نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو یہاں ختم ہو گیا.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی۔

مرزا ناصر احمد: باب بند۔ دوسرا باب شروع ہوا ہے جہاد کبیر کا، اور وہ ہے قلم کا جہاد، وہ قرآن کریم کے معانی اور اشاعت کا جہاد۔ اس کا تعلق جہاد صغیر سے نہیں ہے۔ اس کو

”جہاد کبیر“ کہتا ہے قرآن کریم، اور جب جہاد صغیر..... مسئلہ یہ ہے کہ اگر جہاد صغیر..... تلوار کا جہاد..... ملتا ہی ہو، بوجہ شرائط کے پوری نہ ہونے کے، تب بھی جو جہاد کبیر ہے، اس سے بڑا جہاد

ہے، قلم کا جہاد، قرآن کریم کو لے کے دنیا میں اس کی اشاعت کرنے کا جہاد یہ نہیں کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے کہہ دے کہ ”تلوار کا جہاد نہیں ہے، اس لئے ہم تبلیغ کا جہاد بھی نہیں کریں گے“ یہ غلط

ہوگا..... شرائط جہاد صغیر نہ ہوں موجود، تب بھی جہاد کبیر، قلم کا جہاد جو ہے، وہ ضروری ہے۔

۸۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: انگریز کے زمانے میں جہاد کبیر کے حالات موجود تھے مگر جہاد
صغیر کے نہیں تھے؟

1074 مرزا ناصر احمد: انگریز کے زمانہ میں اس وقت کے تمام کی رائے کے مطابق
جہاد صغیر کے حالات نہیں تھے، مگر ہر زمانے میں جہاد کبیر کے حالات رہتے ہیں۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی اگر مسلمانوں کا ملک ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو..... یہ تو
انگریز کی حکومت تھی..... ادھر بھی جہاد کبیر چلتا رہتا ہے؟

مرزا ناصر احمد: قرآن کریم کو، سنت کو قائم کرنا، اور اصلاح امت، جو اس ملک میں
رہ رہی ہو، اس کی کوشش کرتے رہنا اور بیدار رہنا، کوئی وسوسہ، کوئی بدعت بیچ میں نہ آجائے، یہ
جہاد کبیر ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ میرا Impression
(تأثر) ہے کہ مرزا صاحب نے تلوار کو قلم سے Substitute (تبدیل) کیا۔

Mirza Nasir Ahmad: No, no.....

(مرزا ناصر احمد: نہیں۔ نہیں.....)

جناب یحییٰ بختیار: یہ جوناں.....

مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں یہ نہیں ہے۔ یہ کیا کہ قلم کے جہاد کی نہیں ہیں وہ شرائط
یہاں موجود، لیکن جہاد کبیر کی اس زمانہ میں خاص کر ضرورت ہے، کیونکہ غیر مذہب حملہ آور ہو
رہے تھے.....

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، نہیں، وہ تو میں سمجھ گیا ہوں.....

مرزا ناصر احمد: یعنی یہ بڑی وضاحت سے ہے کہ اگر شرائط پوری ہوں گی تو احمدی
لڑیں گے جا کر، باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کے۔

جناب یحییٰ بختیار: اس پر بہت سارے سوال ہیں جی، میرے پاس۔ پھر میں ان
میں سے ایک دو ذرا دیکھ کے، تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو.....

مرزا ناصر احمد: ہاں جی، مجھے تو آپ ریسٹ دے دیتے ہیں، شکریہ۔

1075 جناب یحییٰ بختیار: ہیں جی؟

مرزا ناصر احمد: میں نے کہا مجھے آپ ذرا آرام پہنچا دیتے ہیں، شکریہ ۱۔

۱۔ طنز کے نشتر۔ شکریہ کی آڑ میں۔ چلمن میں چھپی طوائف کا کردار سامنے آرہا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: توہم پانچ دس منٹ کی بریک کر لیتے ہیں؟
 مرزا ناصر احمد: نہیں، میرا مطلب تھا کہ یہ بھی ایک ہو جاتا ہے نا۔
 جناب یحییٰ بختیار: پھر پانچ دس منٹ کی بریک کر دیتے ہیں۔
 مرزا ناصر احمد: ایک ہونی تو ہے کسی وقت۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں، انہوں نے کہا کہ ابھی کر دیتے ہیں، تاکہ اس کے بعد
 آدھا گھنٹہ اور بیٹھ لیتے ہیں۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے۔

*Mr. Yahya Bakhtiar: Mr. Chairman Shall we
 have a fresh for five or ten minutes)*
 (جناب یحییٰ بختیار: جناب چیئرمین! کیا ہمیں پانچ یا دس منٹ کے وقفہ کی
 اجازت ہے؟)

(Interruption)

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، انہوں نے نکل کہا ہے اور مجھ پر بہت پریشر ہے کہ یہ سوال
 آپ پوچھیں پہلے۔ ایک طرف ممبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوال سب پوچھیں، دوسری
 طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی فیصلہ ہو۔
 محترمہ قائم مقام چیئرمین (ڈاکٹر مسز اشرف خاتون عباسی): نہیں، آج تو دس
 بجے تک چلیں گے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، تو ابھی بریک کر لیتے ہیں نا جی، ابھی بریک کر لیتے ہیں۔
 مرزا ناصر احمد: دس ساڑھے دس بجے تک چلائیں پیشک۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں جی، پیشک اب صرف پھر دس پندرہ منٹ.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، پندرہ منٹ کی بریک کر لیتے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار:..... ایک پیالی چائے کی پی لیں گے، ذرا پھر اس کے بعد.....
 مرزا ناصر احمد: کیوں جی، اجازت ہے، چیئرمین سر؟
 جناب یحییٰ بختیار: اجازت ہے؟ Break for five or fifteen

minutes

۸۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

محترمہ قائم مقام چیئر مین: دس منٹ کے لئے۔

Mr. Yahya Bakhtiar: Fifteen minutes. Then we will come back at 9:30

(جناب یحییٰ بختیار: پندرہ منٹ، اس کے بعد ہم واپس آجائیں گے گے ساڑھے نو بجے)

Mirza Nasir Ahmad: 9:30?

(مرزا ناصر احمد: ساڑھے نو بجے؟)

Mr. Yahya Bakhtiar: 9:30

(جناب یحییٰ بختیار: ساڑھے نو بجے)
محترمہ قائم مقام چیئر مین: اچھا۔

The Delegation is allowed to leave, and come back at 9:30

(وفد کو جانے کی اجازت ہے۔ وفد 9:30 بجے واپس آجائے)

(The Delegation left the Chamber)

(وفد ہال سے باہر چلا گیا)

Madam Chairman: I think the members may keep sitting. Otherwise, if you leave the Hall, we will not be able to come back and form the quorum.

(محترمہ چیئر مین: اراکین تشریف رکھیں۔ اگر آپ (اراکین) ہال سے باہر چلے گئے تو پھر کورم پورا رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا)

The Special Committee adjourned for tea break to meet at 9:30 p.m.

(کمیٹی کا اجلاس چائے کے وقفہ کے لئے 9:30 تک ملتوی ہوا)

۸۷

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایس دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایس قصہء پارینہ را.....

(The Special committee re-assembled after tea break,
Mr. Chairman (Sahibzada Farooq Ali) in the Chair)
(چائے کے وقفہ کے بعد خصوصی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ شروع ہوا۔ جناب چیئرمین
(صاحبزادہ فاروق علی) اپنی سیٹ پر)

Mr. Chairman: The Delegation may be called. Up
to 10:15. We will sit up to 10:15

(جناب چیئرمین: وفد کو بلا لیں، ہم 10:15 تک کارروائی کریں گے)

¹⁰⁷⁷
(The Delegation entered the Chamber)

(وفد ہال میں داخل ہوا)

Mr. Chairman: Yes, Mr. Attorney General.

(جناب چیئرمین: جی اٹارنی جنرل صاحب)
جناب یحییٰ بختیار: یہ مرزا صاحب! یہ جہاد کے متعلق مجھے کچھ خیال ہے کہ مجھے کچھ
Pages معلوم نہیں تھے۔ میں نے کتاب نکلوائی ہے۔ یہ ”تبلیغ رسالت“ سے، حصہ دوم، یہاں لکھا
ہوا ہے Page (صفحہ) جلد ہفتم Page 17 پر ہے۔

”میرے اصولوں، اعتقادوں اور ہدایتوں میں کوئی عمل جنگجویی و فساد کا نہیں.....“
یہاں تک تو بالکل Clear ہے، کہ جنگجویی، فساد تو ٹھیک بات نہیں: ”..... اور میں یقین
رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے ہی مسئلہ جہاد کے معتمد کم ہوتے جائیں
گے۔ کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی زمان مان لینا ہی مسئلہ جہاد سے انکار کرنا ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۱۹)

اس کی Clarification کی ضرورت ہوگی کیونکہ ایک طرف تو وہ فرماتے ہیں کہ
”جنگجویی“ وہ تو ٹھیک ہے اور بعد میں وہ فرماتے ہیں کہ: ”میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے
مرید بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہی مسئلہ جہاد کے معتمد کم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ مجھے مسیح
اور مہدی زمان مان لینا ہی مسئلہ جہاد سے انکار کرنا ہے۔“

تو ایک طرف تو آپ نے کہا کہ کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ وہ ملتوی ہے اور یہاں سے

۸۸

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسیح آ گیا ہے اور مہدی زمان آ گیا ہے، اس لئے جہاد کی ضرورت نہیں، اگر میں اس کو صحیح سمجھا ہوں۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے جو صرف ایک حوالہ، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ناں ہوتا اور حوالے بھی دیکھنے پڑیں گے۔

1078 جناب بیچی بختیار: نہیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ، یہ جو ہے ناں، اس کا آپ اگر تھوڑا سا Explain (واضح) کر دیں۔

مرزا ناصر احمد: جی اس کے Explanation (وضاحت) کئی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہاں ”جہاد“ سے شرعی اسلامی جہاد مراد نہیں، بلکہ جہاد کی وہ غلط Conception (تصور) ہے جو اس زمانہ میں پائی جاتی تھی اور یہاں یہ فرمایا ہے کہ: ”جوں جوں میں اس مسئلے کو واضح کرتا چلا جاؤں گا کہ اسلام کے نزدیک یہ جہاد ہے اور تمہارا موجودہ تصور جہاد درست نہیں ہے، تو جو موجودہ غلط تصور ہے اس کے معتقدین کی تعداد بڑھنے سے وہ دوسروں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی۔“ اور دوسرے وہ جو ہے شرائط کے متعلق، وہ بھی اس کے ساتھ آئے گا کہ اگر یقین لوگوں کے نزدیک شرائط جہاد ہیں..... یہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے..... حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بڑی وضاحت سے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جب بھی جہاد کی شرائط موجود ہوں، لڑنا پڑے گا۔ یہ فرض ہے مسلمان احمدی کا۔ سارے فرقوں کا یہ Common (مشترک) مسئلہ ہے، کوئی علیحدہ تو نہیں۔

مثلاً ایک میں چھوٹا سا حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کے مقابلے میں، ان دونوں کو ملا کر..... یہ ”نور الحق“ حصہ دوم میں ہے: ”..... بلکہ صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم فرماتا ہے جو خدا تعالیٰ کے بندوں کو ایمان لانے سے روکیں اور اس بات سے روکیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر کار بند ہوں اور اس کی عبادت کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لئے حکم فرماتا ہے جو مسلمانوں سے بے وجہ لڑتے ہیں اور مومنوں کو ان کے گھروں اور وطنوں سے نکالتے ہیں اور خلق اللہ کو جبراً اپنے دین میں داخل کرتے ہیں اور دین اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا غضب ہے اور مومنوں پر واجب ہے جو ان سے لڑیں اگر وہ باز نہ آویں۔“

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

تو یہاں جہاد کی ان شرائط کے پورا ہونے کے ساتھ جہاد کے وجوب کا فتویٰ دے دیا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! میں جو پوزیشن Clarify (واضح) کرانا
 چاہتا تھا، ایک تو آپ نے فرمایا کہ جہاد کی بعض شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ شرائط موجود ہوں تو جہاد
 فرض ہو جاتا ہے، ورنہ جائز نہیں۔ پھر دوسرا ساتھ یہ سوال آ جاتا ہے کہ چونکہ وہ مسیح موعود ہیں،
 مہدی آخر الزمان ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے جہاد بالکل ہی ختم ہے۔ اب یہ کوئی سوال ہی پیدا
 نہیں ہوتا کہ حالات ہوں یا نہ ہوں یہ میں اس وقت پوزیشن.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: یہ پوزیشن نہیں ہے؟
 مرزا ناصر احمد: نہیں، یہ پوزیشن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ”..... جیسا کہ حدیثوں میں پہلے لکھا گیا تھا کہ جب مسیح آئے گا
 تو دین کے لئے لڑنا حرام کیا جائے گا.....“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۸۴)
 مرزا ناصر احمد: کوئی شرائط پوری نہیں ہوں گی اور.....
 جناب یحییٰ بختیار: ”..... سو آج سے دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا۔“ (ایضاً) تو یہ
 تو ملتوی نہیں ہوا۔

مرزا ناصر احمد: وہ دوسری جگہ ملتوی کرنے کا لکھا ہوا ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے لئے.....
¹⁰⁸⁰ مرزا ناصر احمد: دین کے لئے وہ کر دیا گیا التوا۔ وہ اردو کے شعروں میں ہے کہ
 وہ دینی جنگوں کا التوا کر دے گا، میرا طلب صرف ایک ہے، اصولی، کہ تمام اقتباسات سامنے رکھ کر
 پھر ہم صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! میں اسی لئے تو آپ سے درخواست کر رہا ہوں
 کہ آپ کا اپنا جو Concept (تصور) ہے.....
 مرزا ناصر احمد: میرا تصور یہ ہے کہ شرائط پوری ہوں تو ہر مومن کے لئے جہاد کرنا
 تلوار کے ساتھ.....
 جناب یحییٰ بختیار: وہ میں سمجھ گیا۔ کیونکہ میرے پاس حوالے تھے لیکن کتاب نہیں
 تھی، اس لئے میں نے ان سے کہا کہ مجھے دے دیجئے.....

مرزا ناصر احمد: اس روشنی میں اس کی Interpretation (تعبیر) ہوگی۔
جناب یحییٰ بختیار: ”..... کیونکہ یہاں اتنے Clear (واضح) الفاظ میں وہ کہتے
ہیں کہ کیونکہ مسیح موعود آگئے ہیں، جہاد تو وہی ہے دین کے لئے لڑنا، یہ تو یعنی Clear (واضح)
ہے، جہاد اور جنگ ونگ تو اور بات ہوتی ہے۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، ”دین کی جنگوں کا التوا کر دے گا۔“ دوسری جگہ یہ ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ہاں، جہاد تو ہم اسی کو کہتے ہیں جو دین کے لئے لڑے۔
مرزا ناصر احمد: ہاں، دین کی لڑائی۔
جناب یحییٰ بختیار: وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ: ”آج سے دین کے لئے لڑنا حرام
کیا گیا ہے۔“

مرزا ناصر احمد: شرائط پوری نہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ یہ.....
مرزا ناصر احمد: ¹⁰⁸¹ نہیں، وہ دوسری جگہ لکھا ہے۔
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہاں کا میں کہہ رہا ہوں۔
مرزا ناصر احمد: نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ دوسری جگہ یہ التواء میں کر دیا۔
جناب یحییٰ بختیار: یہاں Reasons ہیں، وہاں حالات اور شرائط کی موجودگی
میں نہ ہوگا۔

مرزا ناصر احمد: یہاں Reasons اچھا، اگر مجھے اجازت دیں، جب آپ کا
سوال ختم ہو جائے تو میں بتا دوں گا۔

جناب یحییٰ بختیار: یہ میں پڑھ لیتا ہوں پورا اس کو۔ پورا پورا یہاں سے شروع ہوتا
ہے، جس کی مجھے ٹھیک سمجھ نہیں آتی: ”..... تیسرے وہ گھنٹہ جو مینارہ کے کسی حصہ دیوار میں نصب
کرایا جائے گا۔ اس کے نیچے یہ حقیقت مخفی ہے تاکہ لوگ اپنے وقت کو پہچان لیں، یعنی سمجھ لیں کہ
آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا وقت آگیا۔ اب سے زمینی جہاد بند ہو گیا اور لڑائیوں کا خاتمہ
ہو گیا، جیسا کہ حدیثوں میں پہلے لکھا گیا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو دین کے لئے لڑنا حرام کیا جائے
گا۔ تو آج سے دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دین کے لئے تلوار اٹھاتا ہے،
غازی نام رکھا کر کافروں کو قتل کرتا ہے، وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ صحیح بخاری کو کھولو

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا اس دن

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

اور اس حدیث کو پڑھو جو مسیحی موجود کے حق میں ہے۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۸۴، ۲۸۵) تو یہاں مرزا صاحب جو فرما رہے ہیں، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، کیونکہ وہ مسیح ہیں، مسیح موعود ہیں، وہ آچکے ہیں، اس لئے یہ کتابوں میں، حدیثوں کی یہی اتھارٹی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو دین کے لئے لڑنا حرام ہو جائے گا۔ تو یہ حالات کے لئے Postpone (ملتی) نہیں ہوتا۔ اس کے لئے آپ کہیں۔

مرزا ناصر احمد: ہاں، آپ کا سوال ختم ہو گیا؟ میری باری؟ پھر تشریف رکھیں، شاید لہبا کر دوں۔ اس میں یہ جو عبارت آپ نے ابھی پڑھی، اس سے، آخری جو اس کے فقرے تھے، سے عیاں ہے کہ جو بھی مضمون بیان ہوا ہے وہ احادیث کی شرح ہے۔ تو احادیث کو سامنے رکھیں، پھر پتہ لگے گا کہ شرح درست ہوئی ہے یا نہیں۔ تو آپ اجازت دیں تو کل میں حدیثیں آپ کے سامنے یہاں بیان کر کے.....

جناب یحییٰ بختیار: وہ توجی میں کہہ رہا ہوں کہ حدیثوں میں تو یہی ہے کہ مسیح آئے گا تو اس کے بعد جہاد حرام ہو جائے گا۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، وہ نہیں نا۔ اچھا، میں پھر ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ ہاں، میں ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث میں یہ ہے کہ مہدی اور مسیح کے آنے کے وقت شرائط جہاد نہیں ہوں گی اور اس وقت اسلام کی جنگیں جو ہیں وہ جہاد کبیر کی شکل میں لڑی جائیں گی۔ جہاد صغیر کی شکل میں نہیں لڑی جائیں گی، امن کا زمانہ ہوگا، وہ تمام شرائط کہ دینی لحاظ سے جبر کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے ان کو، وہ زمانہ نہیں ہوگا اور اس کا جو پہلا اطلاق ہے وہ صرف مہدی موعود کی زندگی کے ساتھ ہے اور آپ کی زندگی میں اور بھی یہاں ہندوستان کسی نے جہاد کی شرائط کے پورا ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ وہ حدیثوں میں آتا ہے اس کی جو شرح ہم کرتے ہیں، میرا خیال ہے اور میرے ذہن میں نہیں، پہلے بزرگ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ احادیث جن میں یہ ذکر ہے کہ مہدی اور مسیح کے آنے کے وقت: صاف ہیں الفاظ کہ: ”وہ حرب کو رکھ دے گا، منسوخ کر دے گا۔“ نہیں ہے۔ یعنی ”ملتی کر دے گا۔“ یہ عربی کا محاورہ ہے۔ ایک تو مہدی کی زندگی میں جہاد کی شرائط پوری نہیں، اس لئے..... یعنی ہمارے اپنے ایمان کے مطابق، میں اپنی بات کر رہا ہوں..... اور مہدی کی زندگی میں، یہ Clash (تصادم) ہی نہیں ہوا کہ فتویٰ دیا ہو، ملت نے، کہ جہاد کی شرائط پوری ہو گئیں، اور بزرگان دین جہاد کے لئے میدان میں چلے گئے، اور جماعت احمدیہ پیچھے رہ گئی۔ اب

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایں دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

یہ تو تاریخ بن گئی ناں۔ ۱۹۰۸ء میں بانی سلسلہ احمدیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے دعویٰ سے لے کر آپ کے وصال تک احادیث کے مطابق امن کا زمانہ تھا، نہ کہ جنگ کا، اور جہاد کبیر کا زمانہ تھا، نہ کہ جہاد صغیر کا اور اس کی طرف میں نے ابھی ایک حوالہ پڑھا۔ دس پندرہ حوالے ہوں گے جو روشنی ڈالتے ہیں اور اس عرصے میں..... ایک پوائنٹ ہے میرا۔ محدود کردیا ناں میں نے زمانہ..... دعویٰ سے لے کر آپ کے وصال تک ہندوستان کے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہی نہیں کہ جہاد کا زمانہ ہے، اور نہ ہندوستان میں علماء کے گروہ دوسروں کے ساتھ مل کر جہاد کے میدان میں نکلے، بلکہ سب نے امن کا زمانہ کہا، امن کا زمانہ کہا۔ اور جہاں تک انگلستان کی سلطنت کا سوال ہے، آپ کو الہام بتایا گیا کہ ۸ سال کے بعد..... ۸ سال تک ان کا رعب ہے اس کے بعد یہ سلطنت برطانیہ پر زوال آجائے گا، زوال شروع ہو جائے گا اور اس زوال کی ابتدا ملکہ وکٹوریا کے مرنے کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی وہ آٹھ سال پورے ہو گئے ہیں، الہام کے مطابق اور اس کے بعد سے آج تک وہ کہاں ہے، وہ برٹش ایمپائر جس کے اوپر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا؟ آج وہ برٹش ایمپائر ہے جو سورج کی کرنوں کو ڈھونڈنے کے لئے دنیا میں پھر رہے ہیں۔

تو میرا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ سے لے کر آپ کی وفات تک علماء نے کہا بھی ہندوستان میں جہاد کا فتویٰ نہیں دیا، نہ علماء صاحبان..... جس طرح ہمارے پرانے بزرگ میدان جہاد میں جایا کرتے تھے..... لڑنے کے لئے اکٹھے ہو کر لڑائی کے لئے گئے۔ اس کے بعد کا زمانہ ایک آتا ہے..... میں آگے چلتا ہوں..... کیونکہ وہ بھی شاید ممکن ہے، پرانے سوال ہیں ہمارے اوپر ہوئے ہوئے کوئی پچاس سال سے چلا آرہا ہے، کوئی تیس سال سے۔ بہر حال جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو، ہمارے نزدیک، یہ جو جنگ لڑی گئی، یہ دنیا کی جنگ تھی، مسلمانوں کی حکومتوں کی جنگ نہیں تھی، لیکن مسلمان کروڑوں کی تعداد میں اس سے متاثر ہو گئے۔ اس وقت ایک چیز ہمارے سامنے آئی اور وہ یہ تھی کہ ہمارے خلیفہ المسلمین..... یعنی یہ درست ہے، آج میں مانتا ہوں کہ چونکہ، ہمارے نزدیک، مہدی آگئے تھے، اس واسطے ”خلیفۃ المسلمین“ ہم ان کو نہیں سمجھتے لیکن جماعت احمدیہ، جس کی تعداد اس وقت بڑی تھوڑی تھی، اس کے علاوہ تمام دنیا کے مسلمان خلافت عثمانیہ ترکیہ کو ”خلیفۃ المسلمین“ ان کو کہتے تھے، اور وہ خلافت کے تھے..... اور ہمارے خود ہندوستان میں خلافت مومنٹ چلی اس جنگ میں وہ ملوث ہو گئے۔ اس لئے انہوں نے Allies (اتحادیوں) کے خلاف جو محاذ تھا، اس کا ساتھ دیا۔

۹۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

اس وقت ساری دنیا کا پریشر شریف مکہ پر پڑا کہ خلیفۃ المسلمین انگریزوں سے برسر پیکار ہے اور اس کو تم جہاد "Holy War" (مقدس جنگ) اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، پتہ نہیں درست یا غلط..... بہر حال مجھے جہاد سے تعلق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو جہاد قرار دو، Holy War (مقدس جنگ) قرار دو۔ شریف مکہ..... اس وقت First World War (پہلی عالمی جنگ) کی میں بات کرتا ہوں..... وہ ان کے لئے Dilemma (معمہ) تھا۔ اگر وہ اسے جہاد قرار دے، Holy war (مقدس جنگ) قرار دے، تو انگریز جس سے وہ پیسے بھی لے رہے تھے اور بندوقیں اور ایمنیشن بھی لے رہے تھے اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لئے، وہ ناراض ہوتا تھا اور ان کے پیسے بھی بند ہوتے تھے اور وظیفہ بھی بند ہوتا تھا اور بندوقوں کی سپلائی بھی بند ہوتی تھی اور اگر وہ اسے جہاد قرار نہ دیں تو سارے دنیا کے مسلمان ناراض ہوتے تھے۔ بڑا پریشر پڑا ہوا تھا۔ میں نے بتایا کہ یہاں بھی ایک خلافت موومنٹ چلی، چنانچہ انہوں نے اس وقت یہ Dilemma (معمہ) دیکھ کے ابن سعود کے پاس اپنا ایک معتمد بھیجا..... یہ تاریخ کا ایک ورق ہے، ثبوت کتابیں ہیں ہمارے پاس..... اور ابن سعود، جو بھی ان کے خاندان کے تھے اس وقت نجد کے حاکم..... یہ تو جہاد کے ہیں، وہ نجد کے تھے..... ان کو، معتمد کو کہا: ”صاف بات کرو جا کے۔ اگر میں اسے جہاد قرار دیتا ہوں خلیفۃ المسلمین کی جنگ ہے، درست ہے..... تو میرے جیسے بھی مارے جاتے ہیں اور میری سپلائی آرمز کی جو ہے وہ بھی بند ہوتی ہے اور اگر میں جہاد قرار نہیں دیتا تو مسلمان میرے پیچھے پڑ جائیں گے، حج کے اوپر میرے تگے بوٹی کریں گے، وغیرہ وغیرہ میں بڑی پریشانی میں ہوں۔ تم بتاؤ کیا مشورہ ہے؟“

ابن سعود کا خاندان اس وقت انگریز کے پیسے بھی لے رہا تھا اور بندوق بھی لے رہا تھا۔ جس Dilemma (معمہ) اور مصیبت میں یہ تھے اسی Dilemma (معمہ) اور مصیبت میں ابن سعود کا خاندان نجد میں تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس معتمد سے مشورہ کر کے شریف مکہ کو پیغام بھیجا کہ: ”تم اسے جہاد بالکل قرار نہ دینا اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔“ اور اس وقت انہوں نے یہ فتویٰ جہاد کے خلاف اس جنگ میں اس وجہ سے دیا کہ..... تاریخ یہ ریکارڈ کرتی ہے..... کہ نجد کی، ابن سعود کے خاندان کی ٹوٹل اکم، کل آمدن حکومت کی ایک لاکھ پونڈ سٹرلنگ تھا، اور انگریز نے ان کو ماہانہ دیا، پانچ ہزار اور ساٹھ ہزار پونڈ سٹرلنگ، In Gold coin یہ ان کو دیا، جس کا مطلب ہے کہ ان کی ٹوٹل آمدن کا ساٹھ فیصد، اور تین برین گنیں..... چھوٹی سی ان کی فوج تھی..... اور تین

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ہزار ہندو قیس۔ ایک وقت وہ کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ جنگ چونکہ تھی نہیں، میرا مطلب ہے کہ دنیا کی جنگ تھی، کئی ہم پر یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اسے جہاد کیوں نہیں قرار دیا؟ حالانکہ بعض مسلمان کے سے انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے۔

وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ دنیا کی ایک جنگ تھی، مسلمانوں کا ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک حصہ انگریز کے ساتھ مل کر دوسروں کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور ایک حصہ دوسروں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ یہ ہمارے ہندوستان سے ہزاروں کی تعداد میں تو باہر نہیں ہوں، شاید لاکھوں کی تعداد میں فوج گئی ہو وہاں اور اس کے اوپر یہ ایک چھوٹا سا..... یہ جو میں نے باتیں کی ہیں، ان کے حوالے میرے پاس ہیں اور جوان کا ایک افسر..... نجد کا تعلق تھا، وائسرائے انڈیا کے ساتھ اس وقت..... ایس اے ہالکن، یہ ان کا ایک خط ہے، اس کی فوٹو سٹیٹ کا پی ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہاد نہیں تھا وہ لڑائی تھی، یا وہ جہاد تھا اور انہوں نے رشوت لی اور کہہ دیا کہ جہاد نہیں ہے؟

مرزا ناصر احمد: ہمارے نزدیک تو جہاد نہیں تھا۔

جناب یحییٰ بختیار: آپ کے نزدیک نہیں تھا تو پھر سوال ہی نہیں آتا ان چیزوں کا۔

مرزا ناصر احمد: اچھا جی، ٹھیک ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: دیکھیں نا جی، کیونکہ دو پوائنٹس آف ویو ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ

جہاد نہیں.....

مرزا ناصر احمد: ہم پر یہ اعتراض کر دیتے ہیں، اس لئے میں سمجھتا تھا کہ شاید ہے۔ لیکن اگر نہیں تو ٹھیک پھر میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ میں نے وقت ضائع کیا ہے ہاؤس کا۔

1087 جناب یحییٰ بختیار: نہیں وہ آپ..... میں تو صرف یہ سوال جو میرے سامنے ہیں کہ جہاد۔ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ شرائط موجود ہوں تو فرض، ورنہ وہ جائز نہیں تو دوسرا یہ مسئلہ سامنے آجاتا ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں، جب وہ واپس آئیں گے تو یہ: ”حدیثوں میں لکھا گیا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو دین کی وجہ سے لڑنا حرام کیا جائے گا.....“

۱۔ اس طرح معافی مانگ رہے ہیں جس طرح ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گورداسپور سے مرزا قادیانی نے معافی مانگی تھی کہ آئندہ میں کوئی موت کا الہام شائع نہیں کروں گا۔ یہ نبوت کا گھرانہ ہے یا معافی خواستگاروں کا ٹولہ؟

مرزانا صراحمہ: (عربی)

(آج سے دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا؟)

جناب یحییٰ بختیار: ”..... آج سے دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا۔“ اس کا شرائط سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کیونکہ مسیح آچکا ہے.....!

مرزانا صراحمہ: دیکھیں نا، حدیث چونکہ نبی اکرم ﷺ کا قول ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں جی، وہی میں کہہ رہا ہوں ناں جی۔

مرزانا صراحمہ: نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے سوائے یہ معنی، کے اور

کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے کہ مسیح کے زمانے میں ایک عرصے تک جہاد کی شرائط پوری نہیں ہوں گی۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی وہ حرام ہو گیا، اس وجہ سے.....

مرزانا صراحمہ: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: کہ مسیح آگئے۔

¹⁰⁸⁸مرزانا صراحمہ: نہیں، حدیث میں ہے کہ مسیح کے آنے پر، یعنی اس زمانے میں،

شرائط جہاد پوری نہیں ہوں گی اور جو شرائط جہاد پوری نہ ہونے باوجود ”جہاد“ کہہ کے لڑنا وہ غلط ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: دیکھیں ناں جی، یہاں مرزا صاحب جو مہدی اپنے آپ کو کہتے

تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ آگیا ہے۔ اسی زمانے میں، اسی وقت ایک مہدی سوڈان میں بھی آیا اور اس نے

کہا کہ جہاد ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کسی نے نہیں کیا۔ ہندوستان میں نہیں کیا ہوگا.....

مرزانا صراحمہ: کیا چیز؟

جناب یحییٰ بختیار: ہندوستان میں بھی، آپ کہتے ہیں.....

مرزانا صراحمہ: کہاں آئے مہدی؟ سوڈان میں؟

جناب یحییٰ بختیار: سوڈان میں۔

مرزانا صراحمہ: سوڈان میں۔ مہدی سوڈانی کا زمانہ اور مسیح موعود کا زمانہ بالکل

مختلف ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: وہ ان کی جو Actual (حقیقی) لڑائی تھی وہ کچھ بعد ہوتی

ہے، مگر جو زمانہ ہے وہ Contemporary (ہم عصر) ہے۔

مرزانا صراحمہ: کچھ حصہ، بالکل اوپر کا۔

۹۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

جناب یحییٰ بختیار: یعنی تھوڑا سا سہی۔
مرزا ناصر احمد: نہیں، بات یہ ہے کہ یہاں بات بانی سلسلہ کی یا مہدی سوڈانی کی نہیں.....

1089 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا.....
مرزا ناصر احمد: یہاں بات ہے حدیث شریف کی.....
جناب یحییٰ بختیار: نہیں، حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ مہدی آئیں گے، مسیح موعود آئیں گے، تو اس کے بعد حرام ہے۔ کوئی Conditions (شرائط) کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ شرائط ہیں کہ نہیں۔ اس سے میں یہ مطلب سمجھا ہوں۔
مرزا ناصر احمد: نہیں، حدیث میں یہ ہے کہ شریعت محمدیہ کا ایک حکم اس وقت سے قیامت تک منسوخ رہے گا؟ میں نہیں سمجھتا۔

جناب یحییٰ بختیار: یہاں جو میں سمجھا ہوں اس سے کہ..... اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جب تک زندگی تھی، اس میں، کے لئے حرام ہو گیا، تب تو میں اس پر سمجھ سکتا ہوں کہ وہ آگئے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اس واسطے پھر جاری ہو گیا۔ یا یہ کہ جب وہ آگئے، اس کے بعد ہمیشہ کے لئے.....

مرزا ناصر احمد: ہاں، ”ہمیشہ کے لئے“ نہیں کہتے بالکل۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے حوالے ہیں۔ ابھی میں نے ایک حوالہ پڑھا ہے۔ میں نے تو Explain (واضح) کر دیا پورا۔ میں نے اپنی طرف سے جواب دے دیا ہے، بس۔
جناب یحییٰ بختیار: یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ: ”جب مسیح آئے گا تو جہادی لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو مسیح آچکا اور یہ ہے جو تم سے بول رہا ہے“
ایک سوال مجھ سے یہاں پوچھا گیا کہ: کیا مرزا صاحب کے آتے ہی شرائط جہاد ختم ہو گئی ہیں؟

مرزا ناصر احمد: Dead Line (حتمی زمانہ) تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کے زمانے میں شرائط نہیں تھیں۔
1090 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ، میں، کہتا ہوں، تھیں۔

مرزا ناصر احمد: ویسے، یہ دیکھیں ناں ایک اور حوالہ بھی ہے کہ جب تک یہ شرائط

رہیں اس وقت تک بند رہے گا، اور جب تک خدا تعالیٰ کوئی دوسری صورت دنیا میں ظاہر کر دے اور پھر جہاد جو ہے وہ ہو جائے گا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ آپ نے فرمایا میں نے وہ، وہ ”محضر نامہ“ میں ہے.....
مرزانا صراحمہ: جی۔

جناب یحییٰ بختیار: ہاں، نہیں، میں کہتا ہوں، وہ ”محضر نامہ“ میں یہ نہیں ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا تھا، اس لئے کیونکہ اس کی Clarification (وضاحت) ضروری ہو جاتی ہے۔

مرزانا صراحمہ: اس لئے کہ وہ سارے ہم نے حوالے دیئے تو.....

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ جو ہے، مجھے بتا گیا ہے کہ یہ پوچھوں آپ سے۔

مرزانا صراحمہ: ہاں، ہاں، وہ ٹھیک ہے، پوچھیں آپ۔

(کیا شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ہندوستان کو دارالحرب نہیں قرار دیا تھا؟)

جناب یحییٰ بختیار: پھر مجھ سے جی، دو سوال اور پوچھے گئے ہیں کہ: کیا شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ہندوستان کو دارالحرب نہیں قرار دیا تھا؟

ایک اور سوال ہے، ساتھ ہی: جس جہاد کو انگریزوں نے Wahabi Revolt

(دہابی بغاوت) کہا ہے، اس میں علماء شریک تھے یا نہیں؟

مرزانا صراحمہ: یہ کیا ہے؟ یہ تاریخی ہے؟ بڑا دلچسپ سوال: جس جہاد کو.....

جناب یحییٰ بختیار: انگریزوں نے Wahabi Revolt (دہابی بغاوت).....

مرزانا صراحمہ: کس زمانے کے متعلق بات ہے یہ؟

¹⁰⁹¹ Wahabis were fighting against Turks all the time

with money and.....

(دہابی ہمیشہ ترکوں سے برسر پیکار رہے، مال سے اور.....)

جناب یحییٰ بختیار: کہتے ہیں کہ ۱۸۶۳ء

مرزانا صراحمہ: ہیں؟

جناب یحییٰ بختیار: ۱۸۶۳ء کہتے ہیں کہ اس زمانے کی بات ہے، آخر تک چلتا رہا

ہے یہ.....

مرزا ناصر احمد: یعنی اس کے بعد سے لے کر؟
 جناب یحییٰ بختیار: وہی جو آپ کہتے ہیں ناں کہ انہوں نے رشوت لی تھی۔
 مرزا ناصر احمد: وہ یہ پڑے ہیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، وہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاد نہیں تھا، وہ رشوت
 لے لی تھی۔

مرزا ناصر احمد: نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کے متعلق حضرت مسیح موعود
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد بعض دفعہ ہم یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے، یہ سعودی
 خاندان جو ہے، وہ ان کی جو سیاست تھی، وہ مختلف ادوار میں سے گزر رہی تھی۔ ان پر میں اعتراض
 نہیں کر رہا۔ ہمارے نزدیک تو وہ جہاد ہی نہیں تھا۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی جنگ کو انگریزوں نے
 Wahabi Revolt (دہائی بغاوت) کہا تھا۔ وہ میں ان سے Clarify (واضح) کر کے
 پھر آپ سے پوچھوں گا۔ جب تک پوزیشن Clear نہ ہو.....
 مرزا ناصر احمد: No, no, انڈیا کی جنگ میں تو ابن سعود ان کا ساتھ دے رہا تھا،
 یعنی یہ آخری جو فرسٹ ورلڈ وار میں.....
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اس سے پہلے کی بات کریں جی، فرسٹ ورلڈ وار کی بات
 نہیں کر رہے۔
 مرزا ناصر احمد: ¹⁰⁹² اچھا! فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کی بات ہے۔ کس زمانے کی
 بات ہے؟ میں نے یہی کہا تھا کہ پیریڈ.....
 جناب یحییٰ بختیار: وہ میں Verify (تصدیق) کروں گا ڈیٹس وغیرہ، تاکہ اس
 میں پھر بعد میں ڈرائنگ پیدا نہ ہو۔

Mr. Chairman: There were two questions: one has been answered, the other has been deferred. And first reply has come. The Attorney General put two supplementaries what was, the other?

(جناب چیئرمین: دو سوال تھے۔ ایک پر بحث ہو چکی ہے، پہلا جواب ابھی نہیں

ملا۔ اٹارنی جنرل سے دو ضمنی سوال کئے تھے دوسرا کیا سوال تھا؟)

Mr. Yahya Bakhtiar: The other question was:

(جناب یحییٰ بختیار: دیگر سوال کئے تھے)

شاہ عبدالعزیز دہلوی صاحب نے ہندوستان کو دارالحرب نہیں قرار دیا تھا؟

مرزا ناصر احمد: نہیں یہ تو کوئی حوالہ ہوتا ہے نا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہا تھا یا آپ کو نہیں معلوم.....

مرزا ناصر احمد: تو پھر وہ مبہم رہ جائے گا۔ ہمیں بتایا جائے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب

نے اس کو قرار دیا تھا یا نہیں دیا تھا، تو تب پھر میں جواب دے سکتا ہوں۔ لیکن یہ کہ: ”کیا فلاں شخص

نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟“ یہ سوال تو نہیں نا۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں ایسے سمجھ لیجئے کہ: ”شاہ عبدالعزیز صاحب نے ہندوستان

کو دارالحرب قرار دیا تھا یا نہیں؟“

مرزا ناصر احمد: اس کا حوالہ کیا ہے؟

جناب یحییٰ بختیار: کوئی بھی نہیں۔ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کے

حوالے بند کر دیئے ہیں۔

مرزا ناصر احمد: بس ٹھیک ہے.....

جناب یحییٰ بختیار: آپ سے سوال پوچھتے ہیں، آپ کہیں کہ ”مجھے علم نہیں ہے

اس کا“ یا ”کہا تھا“ یا ”نہیں تھا کہا“

¹⁰⁹³مرزا ناصر احمد: میں کہتا ہوں کہ یہ اس قسم کا سوال ہے جس کا جواب دینے کی

ضرورت نہیں ہے۔

یہ کس وقت، جناب چیئر مین صاحب ختم ہوگا؟

جناب چیئر مین: سوا دس کر دیں گے۔

مرزا ناصر احمد: سوا دس بجے؟

Mr. Chairman: Only about 7 minutes.

مرزا ناصر احمد: ہاں، اچھا۔

۱۰۰

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

(جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا؟)

جناب یحییٰ بختیاری: ایک اور سوال ہے جی، حوالہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں آپ کو، کہ: ”جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچا نہیں سکتا تھا اور شیر خوار بچے بھی قتل کئے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نبی ﷺ کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا۔ پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کے مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھر مسیح موعود کے وقت میں قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔“

(اربعین نمبر ۲۷ ص ۱۳ حاشیہ، خزائن ج ۷ ص ۲۳۳)

مرزا ناصر احمد: یعنی اس کا جواب میں دے دوں ابھی؟

جناب یحییٰ بختیاری: ہاں جی۔

مرزا ناصر احمد: یہاں ”منسوخ“ معنی ”التوا“ کے ہے، جیسا کہ دوسرے حوالوں

سے ثابت ہے۔

1094 جناب یحییٰ بختیاری: ٹھیک ہے، بس وہ کافی ہے..... ”قطعاً موقوف“ کا مطلب

ہے ”ملتوی“

مرزا ناصر احمد: ”موقوف“ کا مطلب ہی ”ملتوی“ ہے۔ میں سمجھا تھا ”منسوخ“ ہے۔

جناب یحییٰ بختیاری: نہیں، نہیں.....

مرزا ناصر احمد: ”موقوف“..... ایک وقفے تک کے لئے پیچھے ڈال دیا گیا۔

مرزا ناصر احمد: جی، میں پڑھتا ہوں، تا کہ پھر نہ ہو وہ:

”مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔“

مرزا ناصر احمد: ہاں، ”موقوف کر دیا گیا“..... ”موقوف کے معنی ہی التوا کے ہیں،

وقفہ ڈالنے کے۔

جناب یحییٰ بختیاری: ابھی آگے ہے جی: ”آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا

ہے خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۹۵) ”موقوف“ نہیں، لفظ ”بند“

ہے..... ”بند کیا گیا“ ہے۔

مرزا ناصر احمد: شاید شرائط نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، سنا دیجئے، سنا دیجئے۔
 جناب یحییٰ بختیار: مرزا صاحب! یہ تو آپ..... میں جانتا ہوں جو وہ کہیں گے
 جواب میں (ہنسی) ”آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا ہے خدا کے حکم سے بند کیا گیا۔“
 مرزا ناصر احمد: یہ فقرہ میں نے سنا نہیں ”آج سے انسانی جہاد؟“
 جناب یحییٰ بختیار: انسانی جہاد۔
 1095 مرزا ناصر احمد: ”انسانی؟“
 جناب یحییٰ بختیار: ممکن ہے کوئی غلطی ہو پرنٹ کی۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، وہ دیکھ لیں گے۔
 جناب یحییٰ بختیار: ”آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا ہے.....“
 (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۹۵)

وہ پرنٹ آپ دیکھ لیں جی، شاید یہ ٹھیک نہ ہو۔
 مرزا ناصر احمد: ہاں، وہ دیکھ لیں گے، شاید یہی ہوگا۔ ویسے ”بند کیا گیا“ اصل لفظ
 ہے نا؟

جناب یحییٰ بختیار: ”.....خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص
 کافر پر تلوار اٹھاتا اور اپنا نام غازی رکھتا ہے وہ خدا اور رسول ﷺ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جس نے
 آج سے تیرہ سو برس پہلے فرمایا ہے کہ مسیح موعود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔ تو
 اب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ ہماری طرف سے امن اور صلح کاری کا سفید
 جھنڈا بلند کیا گیا ہے۔“
 (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۹۵)
 مرزا ناصر احمد: ”میرا حکم نہیں، میری نافرمانی نہیں، آنحضرت صلعم کی ہے“..... یہ
 وہی ملتوی کا ہے جی۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں، یہ نہیں، یہاں ”بند کیا گیا“ ہے، اس واسطے میں کہہ رہا ہوں.....
 مرزا ناصر احمد: نہیں، نہیں، اس کو، میرا مطلب یہی ہے، کہ نبی اکرم ﷺ کے قول
 کے مطابق.....

۱۔ یہ جناب من مرزا قادیانی کا ارشاد عالی ہے۔ خدا کرے نہ سمجھے کوئی۔ جیسے آپ انہیں

سمجھے۔

۱۰۲

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

1096 جناب یحییٰ بختیار: یہ جب مسیح آئیں گے تو بالکل ختم ہو جائے گا جہاد؟
 مرزا ناصر احمد: جب مسیح آئیں گے تو جہاد کی شرائط نہیں ہوں گی موجود اور جب شرائط
 ہو جائیں گے تو وہی مہدی کہے گا کہ جب شرائط پوری ہو جائیں، جہاد کرو، ہر مومن کا فرض ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: پھر وہاں ”تختہ گولڈویہ“ میں بھی یہی صفحہ..... ۳۰: کہ ”بس آج
 سے دین کے لئے لڑنا مسلمانوں کے لئے حرام ہے۔“ (ضمیمہ تختہ گولڈویہ ص ۲۶، نثر انجیل ص ۷۷)
 مرزا ناصر احمد: ”آج سے۔“
 جناب یحییٰ بختیار: میں اس واسطے درجہ بدرجہ.....
 مرزا ناصر احمد: ہاں، ٹھیک ہے۔
 جناب یحییٰ بختیار: یہ ”ملتوی ہو گیا“ پھر ”قطعاً موقوف ہو گیا“ پھر ”بند ہو گیا“ پھر
 ”حرام ہو گیا“ اور آپ کہتے ہیں کہ سب کا مطلب ”ملتوی“ ہے.....
 مرزا ناصر احمد: جو جہاد کی شرائط..... جب جہاد کی شرائط نہ ہوں.....
 جناب یحییٰ بختیار: یہاں ”آج سے“ کہہ رہے ہیں!
 مرزا ناصر احمد: نہیں، ہاں، ہاں، جہاد کی شرائط کے فقدان کے وقت جہاد حرام ہے،
 ہمیشہ کے لئے نہیں ہمیشہ کے لئے جہاد کی شرائط کے فقدان کے وقت جہاد حرام ہے ہمیشہ کے لئے۔
 جناب یحییٰ بختیار: نہیں، مرزا صاحب! وہ تو ایسی Established (تسلیم
 شدہ) پوزیشن ہے.....

مرزا ناصر احمد: وہی ہے ہماری پوزیشن۔
 جناب یحییٰ بختیار: کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں بھی اگر شرائط نہ ہوں تو
 نہیں.....

1097 مرزا ناصر احمد: بالکل، اس واسطے کہ حدیث نے یہ کہا.....
 جناب یحییٰ بختیار: مگر مسیح موعود کی وجہ سے تو کچھ اور Change (تبدل)
 بھی آ گیا ہے ناں، کہ وہ آ گیا تو جیسے وہ ہو گیا، یہ.....
 مرزا ناصر احمد: نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں ابھی میں وضاحت کر دیتا ہوں.....
 نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں حکم یہی تھا کہ جہاد کی شرائط ہوں تو جہاد کیا جائے اور آنحضرت ﷺ
 کے زمانے میں جہاد کی شرائط تھیں اور جہاد کیا گیا اور مہدی کے زمانے میں بھی وہی حکم ہے کہ جہاد

۱۰۳

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

کی شرائط ہوں تو جہاد کیا جائے۔ جہاد کی شرائط نہیں تھیں اس لئے جہاد جو تھا وہ اس وقت تک کہ جہاد کی شرائط پوری ہوں، حرام ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی کمی زندگی میں، جو مدنی زندگی سے زیادہ لمبی ہے، جہاد کی شرائط نہیں تھیں اور جہاد نہیں کیا گیا..... ۱۳ سال تک۔

جناب یحییٰ بختیار: پھر تو پوائنٹ بڑا Clear (واضح) ہو جاتا ہے ناں جی.....
مرزانا صراحت: ہاں۔

جناب یحییٰ بختیار: کہ جہاد شرائط سے ہے، مسیح کے آنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
مرزانا صراحت: مسیح کے آنے سے صرف اتنا تعلق ہے کہ پیش گوئی کی گئی تھی، احادیث میں، کہ اس کے زمانے میں شرائط جہاد نہیں ہوں گی۔ صرف اتنا تعلق ہے، اور نہیں جہاں تک کہ نبی ذاتہ جہاد کا مسئلہ ہے، اس کا مسیح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: یعنی جب ان کی زندگی ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا سلسلہ؟

مرزانا صراحت: 1098 نہیں، فوراً نہیں۔
جناب یحییٰ بختیار: ہاں؟

مرزانا صراحت: یہ کہا گیا تھا..... نہیں، ابھی سمجھ جائیں گے آپ..... یہ کہا گیا تھا کہ مسیح کی زندگی میں، مہدی کی زندگی میں جہاد کی شرائط پوری نہیں ہوں گی اور یہ نہیں کہا گیا کہ مسیح کی وفات کے ساتھ ہی جہاد کی شرائط پوری ہو جائیں گی۔ ایک معین وقت کے لئے ایک معین خبر دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دس سال کے بعد یا پچاس سال کے بعد، جب بھی جہاد کی شرائط پوری ہوں، ہر مومن کے لئے جہاد فرض ہے۔

جناب یحییٰ بختیار: مسیح کے آنے کے بعد تو مرزا صاحب! اس کے بعد تو پھر یہ جہاد کی شرائط نہیں ہوں گی، یا جہاد ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اس کے بعد تو پھر جھگڑوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر تو قیامت اور جو بھی ہوگا، کہ زندگی پھر جاری رہے گی؟

مرزانا صراحت: مسیح کی زندگی کے ساتھ قیامت نہیں آئی، مسیح کی زندگی ختم ہونے پر قیامت نہیں آئی، بلکہ اس پر اس وقت گزر چکے ہیں ۶۶ سال۔

جناب یحییٰ بختیار: نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مسیح موعود کا آنا ہے، مہدی

۱۰۴

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ملکی حالات تا ایس دم

کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایس دم

اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات

یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایس دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

آخرالزمان جس کو کہتے ہیں، مطلب تو آخری زمانہ ہے؟
 مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، آخری زمانہ۔
 جناب یحییٰ بختیار: تو آخری زمانے میں سے ہم گزر رہے ہیں؟
 مرزانا صراحتاً: ہاں جی۔
 جناب یحییٰ بختیار: اس کے بعد تو پھر جنگ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نہ
 جھگڑا ہوگا.....

1099 مرزانا صراحتاً: کیوں؟
 جناب یحییٰ بختیار: امن آگیا، شرط ہی کوئی نہیں ہوگی جہاد کی۔
 مرزانا صراحتاً: نہیں، نہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ شرائط پوری ہو جائیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں، ان کی وفات کے بعد پھر ہو سکتا ہے؟
 مرزانا صراحتاً: وفات کے بعد ہو سکتا ہے شرائط پوری ہو جائیں۔
 جناب یحییٰ بختیار: ہاں میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔
 مرزانا صراحتاً: ہاں، ہاں، پھر یہ ابھی حوالہ میں نے پڑھا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ
 ہر مومن کا فرض ہوگا کہ جہاد کرے۔

Mr. Chairman: Now we take it to tomorrow or now.

(جناب چیئرمین: یہ ہم اب کل جاری رکھیں گے)

Mr. Yahya Bakhtiar: Alright, Sir. There are three, four more questions.

(جناب یحییٰ بختیار: ٹھیک ہے! جناب والا۔ ابھی تین چار سوال اور ہیں)

Mr. Chairman: Yes, tomorrow.

(جناب چیئرمین: جی، کل)

The Delegation is permitted to leave; tomorrow at 10:00 am.

(دفد کوکل دس بجے تک جانے کی اجازت ہے)

۱۰۵

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان

ملکی حالات تا ایں دم
 کاروان ختم نبوت کی سرگرمیاں تا ایں دم
 اکابر رحمہم اللہ کے نایاب مقالات، مضامین، خطبات و خدمات
 یاد رفتگاں، بکھرے موتی، اور بہت کچھ بالکل مفت
 گاہے گاہے باز خواں ایں قصہء پارینہ را.....

The Honourable Members may please keep sitting.

(معزز اراکین تشریف رکھیں)

(The Delegation left the Chamber.)

(وفد ہال سے باہر چلا گیا)

Mr. Chairman: Any member who would like to say some thing?

(جناب چیئرمین: کیا کوئی معزز رکن کچھ کہنا چاہتے ہیں؟)

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: Yes، ”التوا“ ہو جائے۔

جناب چیئرمین: جی؟

¹¹⁰⁰ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی: اب ”التوا“ ہو جائے۔

جناب چیئرمین: ”التوا“؟ *On one condition only* (صرف

ایک شرط پر.....)

پروفیسر غفور احمد: صاحب! دس کا مطلب کیا ہوا؟

Mr. Chairman: On one condition

(جی، کل صبح ساڑھے نو پہلی Bell شروع ہو جائے گی اور دس بجے آپ تشریف

لے آئیں)

On one condition, otherwise..... آدھا گھنٹہ تقریر کر لیں تو.....

Tomorrow, sharp at 10:00 am.

Thank you very much.

(آپ کا بہت بہت شکریہ)

[The Specil Committee adjourned to meet at ten of the clock, in the morning on Thursday, the 22nd August, 1974.]

(خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل بروز جمعرات صبح دس بجے ۲۲ اگست ۱۹۷۴ء تک ملتوی

کیا گیا)

۱۰۶

مرکزی ویب سائٹ

www.khatm-e-nubuwwat.com

www.amtkn.com

فیس بک

www.facebook.com/amtkn313

رابطہ

ameer@khatm-e-nubuwwat.com

popalzai@amtkn.com

ماہنامہ لولاک

1997ء بمطابق ۱۴۱۸ھ تا ماہ رواں

www.laulak.info

ہفت روزہ ختم نبوت

www.khatm-e-nubuwwat.info

2008ء بمطابق ۱۴۲۹ھ تا ایں دم

خط و کتابت کورس

پوسٹ بکس 1347، اسلام آباد پاکستان